

فقہ حنفی کی عالم بینا زوالی کتاب

تخریج شدہ

بہارِ شریعت

جلد سوم (3)
حصہ 14 (16)
(الف)



صدر الشریعہ بدرالطریقہ
حضرت علامہ مولانا مفتی
محمد امجد علی اعظمی
علیہ رحمۃ
اللہ تعالیٰ



الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على احسانه -

مجلس المدینة العلمیة کی کاروشوں سے حفصہ مذب کی
فقہی مسائل پر اردو و زبان میں عظیم ترین کتاب **بہار شریعت**
کی تکمیل ہوئی ہے اس کی تیسری گہر آخری جلد **بکلی طبع**
یکمربیع الفوت ۱۴۳۲ھ کو

ہو کر آئی۔ یہ مجلس المدینة العلمیة کے جملہ اراکین
کو تھلپ کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کی مبارکباد پیش کرتا
ہو کہ **تیسری جلد** کا پہلا نسخہ **المدینة العلمیة کے ناظم**
محمد آصف خان مدنی سلمہ الغنی کی نذر کرنا ہوا۔



اربع الفوت ۱۴۳۲ھ

عطار کا پیغام عاشقانِ رسول کے نام

مُحَسِّنِ اہلسنت، پیرِ طریقت، خلیفہِ اعلیٰ حضرت، صدرِ شریعت، بدرِ طریقت، ولیِ کامل، عاشقِ رسول، مفتیِ اسلام، حضرت علامہ مولانا ابوالاعلیٰ محمد امجد علی عظیمی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پُر بہار تصنیف **بہارِ شریعت** کی تخریج و تسہیل اور خوشی کے تاریخی کام کی تکمیل کی صبرِ فرحت اترنے دلِ باغِ باغِ بلکہ باغِ مدینہ بنا دیا۔ بہارِ شریعت کے اس عظیم علمی ذخیرے کو مفید سے مفید تر بنانے کے لئے تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، **دعوتِ اسلامی** کی میری محسن اور جانِ عزیز مجلس، **المدينة العلمية** کے جن جن مدنی علماء و عاشقانِ رسول نے سہمی کی اُن کو میری طرف سے میرے آقا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کی پچیسویں شریف کی نسبت سے 25 کروڑ مرحبہ سلام و مبارک ہو۔ مگر یاد رہے کہ صرف چھاپ لینا ہی ہماری منزل نہیں بلکہ تمام عاشقانِ رسول کو چاہئے کہ 3 جلدوں پر مشتمل بہارِ شریعت کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترفیہ دیں۔ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ایک **وَلِیُّ اللّٰہِ** کی اس عظیم الشان تصنیف کو حصولِ برکت کیلئے اپنے گھر میں احترام سے رکھیں، **اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ** گھر کے کسی نہ کسی فرد کو پڑھنے کی توفیق مل ہی جائے گی اور اللہ نے چاہا تو وہ گھرانہ فیضانِ بہارِ شریعت سے مالا مال و خوشحال ہوگا۔ اپنے عزیزوں کے ایصالِ ثواب کیلئے اپنی مسجد کے امام صاحب اور دیگر علمائے اہلسنت کو تحفہ پیش بھی کیجئے اور اسی نیت سے مدارسِ اہلسنت کیلئے وقف بھی فرمائیے۔ **اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ** ثواب جاریہ کا اہمول خزانہ ہاتھ آئے گا۔ **اللّٰہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی** کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور جس جس نے اس مدنی کام میں خلوصِ دل سے حصہ لیا اُس کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس کا نفع عام فرمائے۔

امین بِجَاوِ التَّوْبَةِ الْاٰمِنِ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



طالب نمبر ۱۵
شعبیہ منتظر
بیتِ شبابِ جنت
انارکلی، ممبئی
کراچی
۲۵ صفر المظفر ۱۴۳۲ھ

بہارِ شریعت

جلد سوم (3) الف

(..... تسہیل و تخریج شدہ.....)

صدر الشریعہ بدرالطریقہ
حضرت علامہ مولانا مفتی
محمد امجد علی اعظمی
علیہ رحمۃ
اللہ تعالیٰ

پیشکش
مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی)
شعبہ تخریج

ناشر
مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

- ① اجمالی فہرست ۳
- ② بہار شریعت کو پڑھنے کی سترہ نیتیں ۶
- ③ تعارف المدینۃ العلمیۃ ۷
- ④ پہلے اسے پڑھ لیجئے (پیش لفظ) ۸
- ⑤ ایک نظر ادھر بھی (قدیم جدید الفاظ) ۱۱
- ⑥ اصطلاحات و اعلام ۱۳
- ⑦ حل لغات ۵۱
- ⑧ تفصیلی فہرست ۶۷
- ⑨ مآخذ و مراجع ۱۱۸۳

اجمالی فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
155	ضمان اجیر کا بیان	حصہ چہارم (14)	
163	دو شرطوں میں سے ایک پر اجارہ	1	مضاربت کا بیان اور اس کے شرائط
164	خدمت کے لیے اجارہ اور نابالغ کو نوکر رکھنا	30	ودیعت کا بیان
166	موجر اور مستاجر کے اختلافات	54	عاریت کا بیان
168	اجارہ فسخ کرنے کا بیان	65	ہبہ کا بیان
184	ولا کا بیان	83	ہبہ واپس لینے کا بیان
حصہ پانزدہم (15)		104	اجارہ کا بیان
187	اکراہ کا بیان	136	دایہ کے اجارہ کا بیان
198	حجر کا بیان	140	اجارہ فاسدہ کا بیان

358	کھانے کا بیان	203	بلوغ کا بیان
382	پانی پینے کا بیان	204	ماذون کا بیان
388	ولیمہ اور ضیافت کا بیان	206	غصب کا بیان
395	ظروف کا بیان	216	مغضوب چیز میں تغیر
398	خبر کہاں معتبر ہے	221	تلف کرنے سے کہاں ضمان واجب ہوتا ہے
400	لباس کا بیان	232	شفعہ کا بیان
418	عمامہ کا بیان	240	طلب شفیعہ کا بیان
420	جو تاپہنے کا بیان	254	کس میں شفیعہ ہو سکتا ہے اور کس میں نہیں
422	انگوٹھی اور زیور کا بیان	256	شفیعہ باطل ہونے کے وجوہ
428	برتن چھپانے اور سونے کے وقت کے آداب	261	تقسیم کا بیان
430	بیٹھنے اور سونے اور چلنے کے آداب	266	کیا چیز تقسیم کی جائے گی اور کیا نہیں
437	دیکھنے اور چھونے کا بیان	269	طریقہ تقسیم
449	مکان میں جانے کے لیے اجازت لینا	280	مہایاۃ کا بیان اس کے معنی اور احکام
453	سلام کا بیان	286	مزارعت کا بیان
465	مصافحہ و معانقہ و بوسہ و قیام کا بیان	302	معاملہ یا مساقاۃ کا بیان اور اس کے شرائط
474	چھینک اور جمائی کا بیان	308	ذبح کا بیان
478	خرید و فروخت کا بیان	320	حلال و حرام جانوروں کا بیان
483	قرآن مجید پڑھنے کے فضائل	327	قربانی کا بیان
494	قرآن مجید اور کتابوں کے آداب	339	قربانی کے جانوروں کا بیان
497	آداب مسجد و قبلہ	353	عقیقہ کا بیان
500	عیادت و علاج کا بیان	حصہ شانزدہم (16)	

576	اللہ (عزوجل) کے لیے دوستی و دشمنی کا بیان	508	لہو و لعب کا بیان
579	حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا	513	اشعار کا بیان
589	ختمہ کا بیان	515	جھوٹ کا بیان
591	زینت کا بیان	519	زبان کور و کنا اور گالی گلوچ، چغلی سے پرہیز کرنا
597	نام رکھنے کا بیان	539	بغض و حسد کا بیان
605	مسابقت کا بیان	543	ظلم کی مذمت
609	کسب کا بیان	544	غصہ اور تکبر کا بیان
611	امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان	547	ہجران و قطع تعلق کا بیان
618	علم و تعلیم کا بیان	548	سلوک کرنے کا بیان
629	ریا و سمعہ کا بیان	560	اولاد پر شفقت اور یتیمی پر رحمت
639	زیارت قبور کا بیان	564	پڑوسیوں کے حقوق
642	ایصال ثواب	568	مخلوق خدا پر مہربانی کرنا
648	آداب سفر کا بیان	571	نرمی و حیا و خوبی اخلاق کا بیان

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”عالم بنانے والی کتاب“ کے 17 حروف کی نسبت سے ”بہارِ شریعت“ کو پڑھنے کی 17 نیتیں

از: شیخ طریقت امیرِ اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ
فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم: نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ. ترجمہ: ”مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔“
(المعجم الکبیر للطبرانی، الحدیث: ۵۹۴۲، ج ۶، ص ۱۸۵)

دومنی پھول: (۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ (۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

- ۱. اخلاص کے ساتھ مسائل سیکھ کر رضائے الہیٰ عزوجل کا حقدار بنوں گا۔
- ۲. حقی الوسع اس کا باؤ شو اور
- ۳. قبلہ رُو مطالعہ کروں گا۔
- ۴. اس کے مطالعے کے ذریعے فرض علوم سیکھوں گا۔
- ۵. اپنا وضو، غسل، نماز وغیرہ دُرست کروں گا۔
- ۶. جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لیے آیت کریمہ **فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** (النحل: ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: ”تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں“ پر عمل کرتے ہوئے علماء سے رجوع کروں گا۔
- ۷. (اپنے ذاتی نفع پر) عند الضرورت خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا۔
- ۸. (ذاتی نفع کے) یادداشت والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔
- ۹. جس مسئلے میں دشواری ہوگی اُس کو بار بار پڑھوں گا۔
- ۱۰. زندگی بھر عمل کرتا رہوں گا۔
- ۱۱. جو نہیں جانتے انہیں سکھاؤں گا۔
- ۱۲. جو علم میں برابر ہوگا اس سے مسائل میں تکرار کروں گا۔
- ۱۳. یہ پڑھ کر علمائے حق سے نہیں الجھوں گا۔
- ۱۴. دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔
- ۱۵. (کم از کم ۱۲ عدد یا حسب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔
- ۱۶. اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری امت کو ایصال کروں گا۔
- ۱۷. کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو مطلع کروں گا۔



غالب نم مینڈو
تبع و مقترت و
بے حساب
بیت الفردوس
میں آکا پڑوس

۶ ربیع الغوث ۱۴۲۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المدینۃ العلمیۃ

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ
 الحمد لله على احسانه وفضل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تبليغ قرآن وسنته في عالم غير سياسي
 تحريك "دعوتِ اسلامي" نيكي كي دعوت، احيائے سنت اور اشاعتِ علم شريعت كو دنيا بھر ميں عام كرنے كا عزم مصمم ركھتي ہے،
 ان تمام امور كو حسن خوبی سر انجام دينے كے لئے متعدد مجالس كا قيام عمل ميں لایا گیا ہے جن ميں سے ايک مجلس
 "المدینة العلمیة" بھی ہے جو دعوتِ اسلامی كے علماء و مفتیان كرام كثر لهم اللہ تعالیٰ پر مشتمل ہے، جس
 نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی كام كا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس كے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ كُتبِ اعلیٰ حضرت (۲) شعبہ تراجم كتب (۳) شعبہ درسی كُتب
 (۴) شعبہ اصلاحی كُتب (۵) شعبہ تفتیش كُتب (۶) شعبہ تخریج

"المدینة العلمیة" كی اولین تریج سرکارِ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت، عظیم البركت، عظیم المرتبت، پروانہ
 شمع رسالت، مجذوب دین و ملت، حامی سنت، مائی پدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج
 الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ زخمة الرحمن كی گراں مایہ تصانیف كو عصر حاضر كے تقاضوں كے مطابق حتیٰ الوسع
 سہل اسلوب ميں پیش كرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی كام ميں ہر ممكن تعاون
 فرمائیں اور مجلس كی طرف سے شائع ہونے والی كُتب كا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں كو بھی اس كی ترغیب دلائیں۔

اللہ عزوجل "دعوتِ اسلامي" كی تمام مجالس بشمول "المدینة العلمیة" كو دن گیارہویں اور رات بارہویں
 ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر كو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما كر دونوں جہاں كی بھلائی كا سبب بنائے۔ ہمیں زیر گنبد
 خضر اشہادت، جنت البقیع ميں مدفن اور جنت الفردوس ميں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم



رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

پہلے سے پڑھ لیجئے

الحمد لله عز وجل! صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تارخ ساز کارنامے اور فقہ حنفی کے عظیم علمی خزانے ”بہارِ شریعت“ کی تخریج جمیل و تسہیل قلیل اور حواشی کا آغاز ۱۴۲۵ھ میں دعوتِ اسلامی کی علمی و تحقیقی مجلس المدینۃ العلمیۃ کے علمائے کرام نے شیخ طریقت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظلہ العالی کی خواہش پر کیا تھا۔ یہ کام عظیم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل ترین بھی تھا مگر ”مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں“ کے مصداق بہارِ شریعت کے مکمل 20 حصے 3 جلدوں کی صورت میں اللہ عزوجل کی رحمت سے تقریباً 7 سال میں بحسن و ثوابی مکمل ہوئے۔ 1360 صفحات پر مشتمل جلد اول اور 1304 صفحات پر مشتمل جلد دوم زیور طبع سے آراستہ ہو کر اہل محبت کی آنکھوں کی شندک کا سامان کر چکی ہیں۔ پاک و ہند کے بہت سے مفتیانِ عظام و علمائے کرام رحمۃہم و انصار نے حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ بعض نے تو تحریری تاثرات سے بھی نوازا جن میں سے کچھ جلد اول اور جلد دوم کے پیش لفظ میں شائع بھی ہو چکے ہیں، مزید تاثرات کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ

﴿1﴾ تلمیذ شارح بخاری، اُستاز العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا افتخار احمد قادری مصباحی، دامت برکاتہم العالیہ (شیخ الحدیث دارالعلوم قادریہ فریب نواز، لیڈی اسمتھ سائتھ فریقہ) لکھتے ہیں: عظیم عالمی تحریک دعوتِ اسلامی کے لیے یہ بڑا شرف ہے کہ ذمہ دارانہ تصحیح کے بعد اس نے اس (یعنی بہارِ شریعت) کی اشاعت کا حق ادا کیا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہارِ شریعت کے اب تک جتنے ایڈیشن طبع ہوئے ہیں ان میں سب سے عمدہ، وقع اور ممتاز دعوتِ اسلامی کا شائع کردہ یہ ایڈیشن ہے۔ رب تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو مزید فروغ و استحکام عطا فرمائے اور اس کی خدمات کو عام سے عام تر فرمائے، اس کے بانی و امیر (یعنی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظلہ العالی) اور دیگر ارکان اور رُعاۃ و مبلغین کو مزید جہاد کی توفیق ارزانی فرمائے اور ان کی مساعی و جہود کو مقبول فرمائے اور سعادت دارین سے بہرہ ور فرمائے۔ ﴿2﴾ شہید اہلسنت حضرت علامہ ابو طفیل عبد العظیم خان قادری ندس سرہ (جامعہ بنیاد یہ غفور یہ پشاور خیر بختون خواہ) لکھتے ہیں: بلا مبالغہ و تردید مجھے بہارِ شریعت کے نسخوں کی ورق گردانی سے دلی سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا، اراکین دعوتِ اسلامی بڑے ہی مخلص اور دیانتدار ہیں، مجلس المدینۃ العلمیۃ کا قیام ایک نہایت ہی مفید اقدام ہے جس سے علماء کرام کو بھی احسن طریقے سے اپنے ساتھ لے کر چلنا سہل ہو جائے گا۔ ﴿3﴾ یادگار اسلاف مفتی فتح محمد بارو زئی، دامت برکاتہم العالیہ (مہتمم مدرسہ جامعہ فیض العلوم نقشبندی سی، بوچستان) لکھتے ہیں: بہارِ شریعت کا حاشیہ انتہائی نفع بخش اور مفید ہے، بہر حال سب کچھ امید دعوتِ اسلامی (حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری) مدظلہ العالی کے مسلکِ حقہ اہل سنت سے صادق و ابستگی اور دینِ متین کی ترقی کے جذبے کی بناء پر کیا جا رہا ہے۔ ﴿4﴾ استاذ العلماء حضرت مولانا ابوالعباس محمد صابر امجدی، دامت برکاتہم العالیہ (مدرس دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ باب المدینہ کراچی) لکھتے ہیں: میں نے چیدہ چیدہ مقامات سے (بہارِ شریعت کا) ضرور مطالعہ کیا، ماشاء اللہ بہت خوب پایا۔ ﴿5﴾ تلمیذ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد رفیق قادری، دامت برکاتہم العالیہ (خطیب مرکزی جامع مسجد عالمگیری مٹھیاں، کھاریاں ضلع گجرات) لکھتے ہیں: ”مجلس المدینۃ العلمیۃ“ کا بہارِ شریعت کی تخریج و تسہیل، جد الممناز علی رد المحتار کی از سر نو تدوین، تخریج، تحقیق وغیرہ کا کام قابلِ صد تحسین ہے۔ دعوتِ اسلامی نے بہت قلیل عرصے میں اتنا عظیم کام کر دکھایا ہے۔ یہ سب مجلس المدینۃ العلمیۃ کے خلوص، انتھک محنت، دین سے لگن اور اتفاق و اتحاد کا نتیجہ اور امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری، دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے۔ ﴿6﴾ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد ولایت اقبال نقشبندی، دامت برکاتہم العالیہ (مہتمم جامعہ حنفیہ، خطیب مرکزی جامع مسجد مدینہ ساہیوال، پنجاب) لکھتے ہیں: از حد خوشی ہوئی ہے کہ ہماری عالمگیر مذہبی تحریک دعوتِ اسلامی نے تبلیغ کے محاذ کے علاوہ تحقیقی و تدقیق، تخریج و استنباط کا کام بھی بڑے منظم و مربوط انداز میں شروع کر رکھا ہے۔ ﴿7﴾ مفتی محمد وزیر القادری، دامت برکاتہم العالیہ (مہتمم اعلیٰ

مدرسہ عربیہ اسلامیہ فونیہ سلطانیہ ڈھاڑر، سی، بلوچستان) لکھتے ہیں: دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ اور تحقیقی و علمی شعبہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے ”بہار شریعت“ کی اشاعت بمع تخریج و تسہیل عظیم کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری اور ان کے تحت چلنے والی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کو ہر لمحہ ترقی عطا فرمائے اور اسکے اشاعتی ادارے المدینہ العلمیہ کو دن گنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ﴿8﴾ مؤلف کتب کثیرہ حضرت مولانا سید صابر حسین شاہ بخاری قادری دامت برکاتہم العالیہ (ادارہ فروغ افکار رضا، امام اہل سنت لائبریری برہان شریف ضلع انک) لکھتے ہیں: بہار شریعت کی تخریج وقت کی اہم ضرورت تھی جس کو المدینہ العلمیہ پورا کر رہی ہے۔ ﴿9﴾ شہزادہ خلیفہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد محمود احمد دامت برکاتہم العالیہ (مہتمم جامعہ اسلامیہ جی ٹی روڈ تحصیلہ کھاریاں گجرات پاکستان) لکھتے ہیں: دعوت اسلامی کے ذیلی ادارہ مکتبہ المدینہ کی طرف سے دو جلدوں میں شائع شدہ، صدر الشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ الہاری کی گرانقدر علمی تالیف، فقہ اسلامی کے انسائیکلو پیڈیا ”بہار شریعت“ کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ مجلس ”المدینہ العلمیہ“ کے باصلاحیت اور ذی استعداد قابل عزت و تکریم علمائے کرام شکر اللہ عنہم نے جس محنت و جانفشانی سے یہ علمی کارنامہ سرانجام دیا ہے اس پر وہ جملہ عوام و خواص اہلسنت کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ بہار شریعت کی تسہیل و تخریج کر کے انہوں نے عوام اہلسنت پر احسان عظیم فرمایا ہے، جزاھم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء فی الدین والدنیا والاخرۃ۔ اللہ تعالیٰ تمام اہلسنت بالخصوص فخر ملت پیر طریقت حضرت مولانا محمد الیاس قادری رضوی حفظہ اللہ اور ان کے خدام کو مسلك اہلسنت کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ﴿10﴾ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مظہر فرید شاہ دامت برکاتہم العالیہ (نائب مہتمم جامعہ فریڈیہ سائیبوال پنجاب) لکھتے ہیں: ”بہار شریعت“ کی کامل تخریج دعوت اسلامی کا نمایاں کارنامہ ہے، تخریج کے بعد بہار شریعت کو حوالہ کے لیے بھی پیش کیا جاسکے گا۔ رب قدوس اس مؤثر تنظیم دعوت اسلامی کو مزید فروغ عطا فرمائے۔ ﴿11﴾ محسن اہلسنت مولانا حافظ محمد عطاء الرحمن قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ (مرکز الاولیاء لاہور) لکھتے ہیں: دعوت اسلامی کی مجلس ”المدینہ العلمیہ“ نے بہار شریعت کی تخریج و تسہیل کے ساتھ درست طباعت کا ذمہ لیا اور حق یہ ہے کہ حق ادا کر دیا۔ دُعا گو ہوں، احباب بھی دعا کریں مولائے کریم اراکین المدینہ العلمیہ کے علم و عمل اور جذبہ خدمت دین میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور مسلك اہل سنت کی خوب اشاعت کرنے کی توفیق دے۔ ﴿12﴾ حضرت مولانا عبدالغفور نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ (مہتمم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ بمقام ذریعہ الہیار بلوچستان) لکھتے ہیں: بہار شریعت جیسی ضخیم زرین کتاب کی تالیف و ترتیب پر تمام حضرات زیدنا منجھم (شعبہ تخریج کتب والمدینہ العلمیہ و مکتبہ المدینہ دعوت اسلامی) ہدیہ تبریک و تحسین کے مستحق ہیں۔

الحمد للہ غزوغز اب سات حصوں (20۱4) پر مشتمل تیسری جلد پیش خدمت ہے جس میں مضاربت، ودیعت، ہبہ، اجارہ، اکراہ، قربانی، عقیقہ، حظر و اباحت، قصاص، دیت، وصیت، میراث وغیرہ کے مسائل کا تفصیلی بیان ہے۔ اس جلد میں تقریباً 193 آیات، 1144 احادیث اور 3666 مسائل کا ذکر ہے، جبکہ مکمل بہار شریعت میں تقریباً 541 آیات قرآنی، 2628 احادیث مبارکہ اور 11613 مسائل ہیں، جو مسائل ضمناً مذکور ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ حسب سابق اس جلد پر بھی دعوت اسلامی کی مجلس ”المدینہ العلمیہ“ کے ”شعبہ تخریج“ کے مدنی علماء نے اسٹیک کوششیں کی ہیں، جس کا اندازہ کام کی اس تفصیل سے لگایا جاسکتا ہے، چنانچہ ﴿احادیث اور مسائل فقہیہ کے حوالہ جات کی اصل عربی کتب سے مقدمہ و تخریج کی گئی ہے﴾۔ آیات قرآنیہ کو منقش بریکٹ ﴿﴾، کتابوں کے نام اور دیگر اہم عبارات کو ”Inverted Commas“ سے واضح کیا گیا ہے۔ ﴿مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسم الخط کو شی الامکان برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، صفحہ نمبر 13، 14 پر بہار شریعت جلد سوم (3) میں آنے والے مختلف الفاظ کے قدیم و جدید رسم الخط کو آمنے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ ﴿جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی

کے ساتھ "صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم" اور اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ "عزوجل" لکھا ہوا نہیں تھا وہاں بریکٹ میں اس انداز میں (عزوجل)، (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر حدیث و مسئلہ نئی سطر سے شروع کرنے کا التزام کیا گیا ہے اور عوام و خواص کی سہولت کے لئے ہر مسئلے پر نمبر لگانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے اسی جلد کے شروع میں حروف تہجی کے اعتبار سے حلقہ لغت کی ایک فہرست کا اہتمام کیا گیا ہے جسے تیار کرنے کے لئے لغت کی مختلف کتب کا سہارا لیا گیا ہے اور اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اگر لفظ کا تعلق براہ راست قرآن پاک سے تھا تو اس کو مختلف تقاسیر کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی گئی، براہ راست حدیث پاک کے ساتھ تعلق ہونے کی صورت میں حنفی لامکان احادیث کی شروحات کو مد نظر رکھا گیا اور فقہ کے ساتھ تعلق کی بنا پر حنفی المقتدور فقہ کی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ چند مقامات پر عبارت کی تسہیل (یعنی آسانی) کے لئے مشکل الفاظ کے معانی حاشیے میں بھی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ صحیح مسئلہ ذہن نشین ہو جائے اور کسی قسم کی الجھن باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام دامت قلوبہم سے رابطہ کیجئے۔ جہاں جہاں فقہی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے ایک جگہ اکٹھا بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حنفی المقتدور کوشش کی گئی ہے کہ اگر اس اصطلاح کی وضاحت مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ہی جگہ یا بہار شریعت کے کسی دوسرے مقام پر کی ہو تو اسی کو آسان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اور اگر کسی اصطلاح کی تعریف بہار شریعت میں نہیں ملی تو دوسری معتبر کتابوں سے عام فہم اور باحوالہ اصطلاحات کی وضاحتیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں اس حصہ میں جو مشکل اُعلام (مختلف چیزوں کے نام) مذکور ہیں لغت کی مختلف کتب سے تلاش کر کے ان کو بھی آسان انداز میں اصطلاحات کے آخر میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ علمائے کرام سے مشورے کے بعد صفحہ نمبر:

599,590,583,563,543,528,504,471,438,359,356,349,341,311,310,308,241,65,47

912,908,831,777,775,771,752,750,747,746,686,685,679,678,671,666,654,651,603,

1082,1079,1078,1073,1069,1064,1062,1061,1060,1047,1044,1043,1030,971,928,

1145,1144,1114,108,1104,1103,1101,1099,1098,1096,1095,1093,1087,1086,

پر مسائل کی تصحیح، توجیح، توضیح اور تطبیق کی غرض سے حاشیہ بھی دیا گیا ہے اور اس کے آخر میں **علمیہ** لکھ دیا گیا ہے۔ مصنف کے حواشی وغیرہ کو اسی صفحہ پر نقل کر دیا اور حسب سابق ۱۲ منہ بھی لکھ دیا ہے۔ مکرر پروف ریڈنگ کی گئی ہے، مکتبہ رضویہ آرام باغ، باب المدینہ کراچی کے مطبوعہ نسخہ کو معیار بنا کر مذکورہ خدمات سرانجام دی گئی ہیں، جو درحقیقت ہندوستان سے طبع شدہ قدیم نسخہ کا ٹکس ہے لیکن صرف اسی پر انحصار نہیں کیا گیا بلکہ دیگر شائع کردہ نسخوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔ آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست، مصنفین و مؤلفین کے ناموں، ان کی سن و وفات اور مطابع کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ اس کتاب پر شعبہ تخریج (المدینۃ العلمیہ) کے ۱۶ اسلامی بھائیوں نے کام کرنے کی سعادت حاصل کی بالخصوص **محمد آصف خان عطاری مدنی**، ابوحنیفہ فضل الرحمن خان عطاری مدنی، ابن حبیب محمد عنایت اللہ گولڑوی عطاری، ابن داؤد محمد گلزار عطاری مدنی نے خوب کوشش کی۔

عرضِ حال

بہار شریعت پر اس طرز سے کام کرنے میں جہاں ان مدنی علماء دامت برکاتہم العالیہ کی توانائیاں خرچ ہوئیں وہیں کتب، کمپیوٹرز اور تنخواہوں اور دیگر اخراجات کی مد میں دعوت اسلامی کا زور کثیر بھی خرچ ہوا۔ ان تمام ترکوششوں کے باوجود ہمیں دعویٰ کمال نہیں لہذا ہمارے کام میں جو خوبی نظر آئے وہ اللہ ورسول عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے اور جو خامیاں نظر آئیں وہاں ہماری غیر ارادی کوتاہی کو دخل ہے۔ مدنی التجا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت محسوس کریں بذریعہ مکتوب یا ای میل ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس **"المدینۃ العلمیہ"** کو دن بچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مجلس المدینۃ العلمیہ (دعوت اسلامی) شعبہ تخریج

25 صفر المظفر 1432ھ، بمطابق 30 جنوری 2011ء

ایک نظر ادھر بھی

قدیم الفاظ	مستعملہ جدید الفاظ	قدیم الفاظ	مستعملہ جدید الفاظ
ادھر	ادھر	ادھر	ادھر
اوتار	اوتارا	اوتار	اوتارا
اوتارنا	اوتارتا	اوتارنا	اوتارتا
اوتارنا	اوتاریں	اوتارنا	اوتاریں
اوتتا	اوتتی	اوتتا	اوتتی
اوتنے	اوتھ	اوتنے	اوتھ
اوتھا	اوتھانا	اوتھا	اوتھانا
اوتھائی	اوتھائے	اوتھائی	اوتھائے
اوتھایا	اوتھلا	اوتھایا	اوتھلا
اوتھلنے	اوتھر	اوتھلنے	اوتھر
اوڑ	اوڑا	اوڑ	اوڑا
اوڑنا	اوڑائیں	اوڑنا	اوڑائیں
اوڑی	اوس	اوڑی	اوس
اوسکا	اوسکی	اوسکا	اوسکی
اوسی	اوسے	اوسی	اوسے
اوگ	اوگا	اوگ	اوگا
اوگنے	اوگی	اوگنے	اوگی
اوگے	اولٹ	اوگے	اولٹ
اولٹی	اون	اولٹی	اون
اونتیس	اونہی	اونتیس	اونہی

آدھا	آدھ	اُنہیں	اُوٹھیں
بارے	بارہ	آنگن	آگن
بڑھا	بڑھا	بھرد	بہ
بند	بندا	بڑھے	بڑھے
پابندی	پابندی	پیہیاں	بی بیاں
پانچ سو	پانسو	پانچ پانچ سو	پان پانسو
پڑوس	پڑوس	پرندہ	پرند
پودا	پودہ	پڑوسی	پڑوسی
ٹھونیاں	ٹھنیاں	تربوز	تربز
ٹھہرے	ٹھیرے	ٹھہرا	ٹھیرا
چھڑانا	چھوڑانا	جدھر	جدھر
چرا	چورا	چھڑانے	چھوڑانے
خر بوزہ	خر بزه	چرانا	چورانا
سفید	سپید	دائمی	دہنی
سُنا	سونار	بکھدار	بکھوال
تیاری	طیاری	تیار	طیار
کھاد	کھات	کلف	کلپ
کنواری	کوآری	کنواں	کوآں
کوٹھری	کوٹھری	کنویں	کوئیں
گچھا	گچھا	گالی گلوچ	گالی گلوچ
لمبی	لمبی	لسبا	لنبا
منہ	مونھ	منہ	منھ
مُنہال	مونھ نال	یونہی	یوہیں
		نوکرانی	نوکرنی

جلد سوم (3) کی اصطلاحات باعتبار حروف تہجی

الف

1	إبضاع	تجارت مضاربت میں اگر کل نفع رب المال (مال دینے والے) ہی کے لیے دینا قرار پایا ہو تو اس کو ابضاع کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۱)
2	إجارہ	کسی شے کے نفع کا عوض کے مقابل کسی شخص کو مالک کر دینا اجارہ ہے۔ (ایضاً، ص ۱۰۷)
3	إجارۃ فاسد	عقد فاسد (اجارہ فاسد) وہ ہے جو اپنی اصل کے لحاظ سے موافق شرع (شریعت کے مطابق) ہے مگر اس میں کوئی وصف ایسا ہے جس کی وجہ سے نامشروع ہے۔ (ایضاً، ص ۱۴۰)
4	إجارۃ باطل	وہ اجارہ جو اپنی اصل ہی کے لحاظ سے خلاف شرع ہو۔ (ایضاً)
5	أجرت مثل	کسی شخص کو کسی کام کی وہ اجرت (مزدوری) دینا جو اس کام کے کرنے والے کو عام طور پر دی جاتی ہے۔ (ردالمحتار، ج ۹، ص ۷۵)
6	أجیر	اجرت پر کام کرنے والے کو اجیر کہتے ہیں، ملازم، مزدور، نوکر۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۱۰۷)
7	أجور مشترک	وہ اجیر جو ایک سے زائد لوگوں کا کام کرتا ہو، مثلاً دھوبی۔
8	إحتکار	کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا (اسٹاک کرنا) کہ گراں (یعنی مہنگی) ہونے پر فروخت کرے گا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۲۸۲)
9	أخیافی	ماں شریک، بہن بھائی یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔
10	أدلة أربعہ	وہ چار اصول جن پر علم فقہ کی بنیاد ہے یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔
11	أرش	وہ مال جو مادون النفس (قتل کے علاوہ) میں لازم ہوتا ہے اور کبھی آرش اور دیت کو بطور مترادف بھی بولتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۳۰)
12	إستحسان	ایک دلیل کا نام ہے جو قیاس کے مخالف ہوتا ہے۔ جب یہ قیاس سے اقوی ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کو استحسان اسی لیے کہتے ہیں کہ عموماً یہ قیاس سے اقوی ہوتا ہے۔ (التعریفات، باب الالف، ص ۱۷)

13	استدانہ	کوئی چیز اُدھار خریدی اور مال مضاربت میں اس ثمن کی جنس سے (جو رب المال نے دیا ہے) کچھ باقی نہیں ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۷)
14	استصناع	کارگر کو فرمائش دے کر چیز بنوانا، آرڈر پر چیز بنوانا۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۸۰۷)
15	اصحاب فرائض	اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حصہ میراث میں قرآن وحدیث اور اجماع امت کی رو سے معین کر دیا گیا ہے۔ انھیں ذوی الفروض بھی کہتے ہیں۔ (الشریفة شرح السراجی، ص ۸)
16	اضحیہ	مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بہ نیت تقرب (ثواب کی نیت سے) ذبح کرنا قربانی ہے اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۳۲۷)
17	اعتکاف	مسجد میں اللہ عزوجل کے لیے (اعتکاف کی) نیت کے ساتھ ٹھہرنا۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۵، ص ۱۰۲۰)
18	اقالہ	دو شخصوں کے مابین جو عقد ہوا اس کے اٹھانے (ختم کر دینے) کو اقالہ کہتے ہیں، اقالہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے تنہا ایک شخص اقالہ نہیں کر سکتا ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۳۴)
19	اکراہ شرعی	کسی کے ساتھ ناحق ایسا فعل کرنا کہ وہ شخص ایسا کام کرے جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا اور کبھی مکروہ (مجبور کرنے والے) کی جانب سے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے مکروہ (مجبور کیا ہوا) اپنی مرضی کے خلاف کرے مگر مکروہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے اگر میں نے نہ کیا تو جو کچھ کہتا ہے کر گزرے گا اس صورت میں بھی اکراہ ہے اسے لوگ جبر کرنا بھی کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۱۸۸)
20	اکراہ تام	مار ڈالنے یا عضو کاٹنے یا ضرب شدید (جس سے جان یا عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو) کی دھمکی دی جائے مثلاً کوئی کسی سے کہتا ہے کہ یہ کام کر، ورنہ تجھے مارتے مارتے بیکار کر دوں گا۔ اس کو اکراہ ملجی بھی کہتے ہیں۔ (ایضاً، ص ۱۸۹)
21	اکراہ ناقص	جس میں اس (مار ڈالنے یا عضو کاٹنے یا ضرب شدید) سے کم کی دھمکی ہو مثلاً پانچ جوتے ماروں گا یا پانچ کوڑے ماروں گا یا مکان میں بند کر دوں گا یا ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دوں گا اس کو اکراہ غیر ملجی بھی کہتے ہیں۔ (ایضاً)
22	ام ولد	وہ لونڈی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور مولیٰ (مالک) نے اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۲۹۴)
23	امانت	(۱) دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو ایداع کہتے ہیں اور اُس مال کو ودیعت کہتے ہیں جس کو عام طور پر امانت کہا جاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۳۱) (۲) امانت اُسے کہتے ہیں جس میں تلف پر (ضائع ہونے پر) ضمان نہیں ہوتا ہے عاریت اور کرایہ کی چیز کو بھی امانت کہتے ہیں مگر ودیعت خاص اُس کا نام ہے جو حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ (حاشیہ ایضاً)

24	اَمْرَد	(خوبصورت لڑکا) وہ جس کی داڑھی نہ لگی ہو اور نہ ہی اس عمر کو پہنچا ہو جس میں عموماً داڑھی اگتی ہے۔ (الموسوعة الفقهية، ج ۶، ص ۲۵۲) جن کی داڑھی نکل کر جب تک پورے چہرے پر خوب نمایاں نہیں ہو جاتی وہ (اکثر 22 سال کی عمر تک) عموماً اَمْرَد ہوتے ہیں، بعضوں کے پورے چہرے پر داڑھی نہیں آتی تو وہ 25 سال یا اس سے بھی زائد عمر تک اَمْرَد رہتے ہیں۔ اَمْرَد کے علاوہ ہر وہ مرد بھی امرد ہی کے حکم میں ہے جسے دیکھ کر شہوت آتی ہو اور لذت کے ساتھ بار بار اُس کی طرف نظر اٹھتی ہو، لہذا شہوت آنے کی صورت میں وہ مرد چاہے بڑھا ہو اُسے قصداً دیکھنا حرام ہے۔ (امر دپندی کی تباہ کاریاں مع برباد جوانی، ص ۱۰، از امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ)
25	اَیام تَشْرِیق	دس ذوالحجہ کے بعد کے تین دن (۱۱، ۱۲، ۱۳) کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ (ردالمحتار، ج ۳، ص ۷۱)
26	اَیام مَنہیہ	عید الفطر، عید الاضحیٰ اور گیارہ، بارہ، تیرہ ذی الحجہ کے دن کہ ان میں روزہ رکھنا منع ہے اسی وجہ سے انہیں ایام منہیہ کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۵، ص ۹۶۷)
27	اَیام نَحْر	قربانی کا وقت دسویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے یعنی تین دن دوراتیں اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۳۳۶)
28	ایجاب وقبول	نکاح (عقد) کرنے والوں میں سے پہلے کا کلام ایجاب اور دوسرے کا قبول کہلاتا ہے۔ (ردالمحتار، ج ۴، ص ۷۸)
29	ایداع	دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کردینے کو ایداع کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۳۱)
30	ایلا	شوہر کا یہ قسم کھانا کہ بیوی سے جماع نہ کرے گا یا چار مہینے جماع نہ کرے گا۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۱۸۲)
31	ایلائے مؤبد	ایسا ایلا جس میں چار مہینے کی قید نہ ہو۔ (ایضاً، ص ۱۸۳، ماخوذاً)
32	ایلائے مؤقت	ایسا ایلا جس میں چار مہینے کی قید ہو۔ (ایضاً، ماخوذاً)

آ

33	آجر	(عقد اجارہ میں) مالک کو آجر کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۱۰۷)
34	امد	وہ زخم جو دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)

ب

35	باضعہ	وہ زخم جس میں سر کی جلد کٹ جائے۔ (ایضاً)
----	-------	--

36	باع	چیز بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں۔
37	بدعت	وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہوں بعد میں ایجاد ہوئے۔ (جاہ الحق، ص ۲۲۱)
38	بدعت سیئہ	جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو وہ بدعت سیئہ ہے، اسے بدعت مذمومہ بھی کہتے ہیں۔ (ایضاً، ص ۲۲۶)
39	بدعت مکروہہ	وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جاوے اگر سنت غیر مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہہ تنزیہی ہے اور اگر سنت مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہہ تحریمی ہے۔ (ایضاً، ص ۲۲۸)
40	بدعت حرام	وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جاوے، یعنی واجب کو مٹانے والی ہو۔ (ایضاً)
41	بدعت مُسْتَحَبَّہ	وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کا رُثُوب جانتے ہوں یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے، جیسے محفل میلاد وغیرہ۔ (ایضاً، ص ۲۲۶)
42	بدعت جائز	ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جاوے جیسے مختلف قسم کے کھانے کھانا وغیرہ، اسے بدعت مباح بھی کہتے ہیں۔ (ایضاً)
43	بدعت واجب	وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسے کہ قرآن کے اعراب اور دینی مدارس اور علمِ نحو وغیرہ پڑھنا۔ (ایضاً، ص ۲۲۸)
44	بضاعت	وہ تجارتِ مضاربت جس میں کل نفع رب المال (مال دینے والے) کے لیے ہو۔
45	بِکْر، بَاکِرہ	کنواری، بکڑی عورت ہے جس سے نکاح کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہو اگرچہ زنا سے یا کسی اور وجہ سے بکارت زائل ہو گئی ہو تب بھی کنواری ہی کہلائے گی۔ (ماخوذ از بہارِ شریعت، ج ۲، حصہ ۷، ص ۵۰)
46	بوہرا	معتوہ، جس کی عقل ٹھیک نہ ہو۔ دیکھئے معتوہ۔
47	بیت المال	اسلامی حکومت کا خزانہ جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کیا جاتا ہے۔ (ماخوذ من الموسوعة الفقهية، ج ۸، ص ۲۴۲)

48	بیع	دو شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۶۱۵)
49	بیع باطل	جس صورت میں بیع کا کوئی رکن نہ پایا جائے یا وہ چیز خرید و فروخت کے قابل ہی نہ ہو وہ بیع باطل ہے۔ (ایضاً، ص ۶۹۶)
50	بیع سلم	وہ بیع جس میں ثمن (قیمت) فوراً ادا کرنا ضروری ہو اور بیع (فروخت شدہ چیز) کو بعد میں خریدار کے حوالے کرنا بیچنے والے پر لازم ہو۔ (ایضاً، ص ۷۹۵)
51	بیع صرف	ثمن کو ثمن کے عوض بیچنا، ثمن سے مراد عام ہے چاہے ثمن خلقی ہو جیسے سونا چاندی یا غیر خلقی جیسے پیسہ، نوٹ وغیرہ۔ (الدر المختار، ج ۷، ص ۵۵۲) و (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۹۳، ۸۲۰)

ت

52	تاویل	لفظ کو اپنے ظاہری معنی سے اُس کے احتمالی معنی کی طرف پھیرنا جبکہ یہ احتمال قرآن و سنت کے موافق ہو۔ (التعریفات، باب التاء، ص ۳۸)
53	تحریری	جب کسی موقع پر حقیقت معلوم کرنا دشوار ہو جائے تو سوچے اور جس جانب گمان غالب ہو عمل کرے اس سوچنے کا نام تحریری ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۶۱)
54	تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ	کسی شخص کا مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو یا چار رکعت نماز پڑھنا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۴، ص ۶۷۴)
55	تَحِيَّةُ الْوُضوءِ	وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا۔ (ایضاً، ص ۶۷۵)
56	تَخَارُج	(۱) ایک وارث بالقطع (یعنی کل حصہ کے بدلے) اپنا کچھ حصہ لے کر ترکہ (میراث) سے نکل جاتا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں لے گا اس کو تخارج کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۳، ص ۱۱۵۰) (۲) وارثوں میں کوئی یا قرض خواہوں میں سے کوئی تقسیم ترکہ سے پہلے میت کے مال میں سے کسی معین چیز کو لینا چاہے اور اس کے عوض اپنے حق سے دستبردار ہو جائے خواہ وہ حق اس چیز سے زائد ہو یا کم اور اس پر تمام ورثہ یا قرض خواہ متفق ہو جائیں تو اس کا نام فقہ کی اصطلاح میں "تخارج" یا "تصالح" ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۵۱)
57	ترکہ	وہ مال و جائداد جو مرنے والا دوسرے کے حق سے خالی چھوڑ کر مر جائے۔ (الموسوعة الفقهية، ج ۱۱، ص ۲۰۶)
58	تَرْكِيه	گواہوں کا عادل اور معتبر ہونا۔ (المرجع السابق، ص ۲۳۹)

59	تعریض	ایسا کلام جس کی مراد سننے والا بغیر صراحت کے نہ سمجھ سکے۔ (التعریضات، باب التاء، ص ۴۵)
60	تغزیر	وہ سزا جو کسی گناہ پر بغرض تادیب دی جاتی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۴۰۳)
61	تکیرات تشریح	عرفہ یعنی نویں ذوالحجہ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ ایک بار اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ پڑھنا۔ (تنویر الأبصار والدر المختار، ج ۳، ص ۷۱ و تبیین الحقائق، ج ۱، ص ۵۴۴)
62	توریہ	ایسا لفظ یا فعل جس کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا جائے جو صحیح ہے۔ مثلاً کسی کو کھانے کے لیے بلایا وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھالیا۔ اس کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ اس وقت کا کھانا کھالیا ہے مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۵۱۸)
63	تولیہ	چیز جتنی قیمت میں پڑی اتنی ہی قیمت کی بیچ دینا نفع کچھ نہ لینا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۳۹)

ث

64	ثمن	خریدار اور بیچنے والا آپس میں شے کی جو قیمت مقرر کریں اُسے ثمن کہتے ہیں۔ (ردالمحتار، ج ۷، ص ۱۱۷) و (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۱۸۴)
----	-----	--

ج

65	جارح	زخمی کرنے والا۔
66	جارِ ملاحظ	وہ پڑوسی جس کے مکان کا پچھلا حصہ دوسرے کے مکان میں ہو۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۳۵)
67	جانی	جنایت کرنے والا یعنی جان یا اعضاء کو نقصان پہنچانے والا۔
68	جائفہ	وہ زخم جو جوف تک پہنچے اور یہ زخم پیٹھ، پیٹ اور سینے میں ہوتا ہے۔ اور اگر گلے کا زخم غذائی نالی تک پہنچ جائے تو وہ بھی جائفہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)
69	جدِّ صحیح	اس دادا کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت میں مونث کا واسطہ بیچ میں نہ آئے۔ جیسے باپ کا باپ اور دادا کا باپ۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۱۵)

70	جد فاسد	اس دادا کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت میں مونث کا واسطہ آئے جیسے ماں کا باپ۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۱۵)
71	جَدَّةٌ صحیحہ	وہ دادی جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے جیسے باپ کی ماں اور ماں کی ماں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۱۵)
72	جَدَّةٌ فاسدہ	وہ دادی یا نانی جس کی میت کی طرف نسبت میں جد فاسد آ جائے۔ جیسے نانا کی ماں اور دادی کے باپ کی ماں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۱۵)
73	جریب	جریب کی مقدار انگریزی گز سے ۳۵ گز طول (لمبائی) اور ۳۵ گز عرض (چوڑائی) ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۲۳۹)
74	جزیہ	وہ شرعی محصول جو اسلامی حکومت کفار سے ان کی جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں وصول کرے۔ (ماخوذ من الموسوعة الفقهية، ج ۱۵، ص ۱۵۰)
75	جِنَايَتٍ	(۱) اس سے مراد وہ فعل (کام کرنا) ہے جو حرم یا اِثْرَام کی وجہ سے منع ہو۔ جیسے احرام کی حالت میں شکار کرنا، حرم میں کسی جانور کو قتل کرنا۔ (ماخوذ من الدر المختار، ج ۳، ص ۶۵۰) (۲) اس سے مراد وہ فعل ہے جس سے جان یا اعضاء کو نقصان پہنچایا جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۷۵۱)
76	جنون	عقل میں ایسے خلل کا ہونا جس کی وجہ سے آدمی کے اقوال و افعال معمول کے مطابق نہ رہیں، چاہے یہ خلل پیدائشی و فطری طور پر ہو یا بعد میں کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہو جائے۔ (التعريفات، ص ۵۸ و رد المحتار، ج ۴، ص ۴۳۷)
77	جنون مُطْبِقٍ	وہ جنون (پاگل پن) جو کم از کم ایک ماہ تک مسلسل رہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۹۹۶)
78	جنین	وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو۔ (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۱۱۷)

ح

79	حاجب	وہ شخص ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے کسی وارث (میت کی میراث پانے والے) کا حصہ کم ہو جائے یا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۳)
----	------	--

جلد کے اس زخم کو کہتے ہیں جس میں جلد پر خراش پڑ جائے مگر خون نہ چھنکے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)	80	حارِصہ
احرام باندھ کر نویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا نام حج ہے اور اس کے لئے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کئے جائیں تو حج ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۶، ص ۱۰۳۵)	81	حج
نیابتہ (نائب بن کر) دوسرے کی طرف سے حج فرض ادا کرنا کہ اس پر سے فرض کو ساقط کرے۔ (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۶۵۹)	82	حج بدل
وارث کا حصہ کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے یا تو کم ہو جائے یا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۳)	83	حُجُب
وارث کے حصہ کا کسی دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو جانا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۳)	84	حُجُبِ نَقْصَان
کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے میراث پانے سے محروم ہو جانا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۳)	85	حُجُبِ جِرْمَان
کسی شخص کے تصرفات قولیہ (زبانی کلامی معاملات) روک دینے کو حجر کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۱۹۹)	86	حَجْر
وہ کافر جس نے مسلمانوں سے جزیہ کے عوض عقد ذمہ (یعنی اپنی جان و مال کی حفاظت کا عہد) نہ کیا ہو۔ (الموسوعة الفقهية، ج ۷، ص ۱۰۴)	87	حَرْبِي
کسی شخص میں خوبی دیکھی اس کو اچھی حالت میں پایا اس کے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۵۴۲)	88	حَسَد
جنايات مادون النفس (یعنی قتل کے علاوہ) میں سے جن میں قصاص نہیں اور شارع نے کوئی آرش بھی معین نہیں کیا ہے ان میں جو تاوان لازم آتا ہے اس کو حکومت عدل کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۳۰)	89	حکومت عدل
دین (قرض) کو اپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ کی طرف منتقل کر دینے کو حوالہ کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۲، ص ۸۷۳)	90	حوالہ

91	حیض	بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۶۷۱)
----	-----	--

خ

92	خَوَاج	(غیر مسلم) پیداوار کا کوئی آدھا حصہ یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ جو مقرر ہو (وہ اسلامی ملک کو ادا کریں)۔ (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۲۳۷)
93	خَمْر	خمر انگور کی شراب یعنی انگور کا کچا پانی جس میں جوش آجائے اور شدت پیدا ہو جائے، کبھی ہر شراب کو مجازاً خمر کہہ دیتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱، ص ۶۷۱)
94	خُنْثَى مشکل	جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۷، ص ۴)
95	خِيارِ بَلوغ	وہ اختیار جو نابالغ کو بالغ ہونے پر حاصل ہوتا ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے کئے ہوئے نکاح کو فسخ کرے یا قائم رکھے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۷، ص ۸۷)
96	خِيارِ رُویت	بغیر دیکھے کوئی چیز خریدنا اور دیکھنے کے بعد اس چیز کے پسند نہ آنے پر چاہے تو خریداری کو فسخ (ختم) کر دے اس اختیار کو خیار رویت کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۶۶۱)
97	خِيارِ شرط	بائع اور مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ عقد میں یہ شرط کر دیں کہ اگر منظور نہ ہو تو بیع باقی نہ رہے گی اسے خیار شرط کہتے ہیں مگر یہ اختیار تین دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۶۳۷، ۶۳۸)
98	خِيارِ عیب	بائع کا بیع کو عیب بیان کئے بغیر بیچنا یا مشتری کا ثمن میں عیب بیان کیے بغیر چیز خریدنا اور عیب پر مطلع ہونے کے بعد اس چیز کے واپس کر دینے کے اختیار کو خیار عیب کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۶۷۳)

د

99	دَارُ الْإِسْلَام	وہ ملک ہے کہ فی الحال اس میں اسلامی سلطنت ہو یا اب نہیں تو پہلے تھی اور غیر مسلم بادشاہ نے اس میں شعائر اسلام مثل جمعہ و عیدین و اذان و اقامت و جماعت باقی رکھے (تو بھی دارالاسلام ہے)۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۷، ص ۳۶۷)
----	-------------------	--

100	دَارُ الْحَرْبِ	وہ دار (ملک) جہاں کبھی سلطنت اسلامی نہ ہوئی یا ہوئی اور پھر ایسی غیر قوم کا تسلط ہو گیا جس نے شعائر اسلام مثل جمعہ وعیدین واذان و اقامت وجماعت یک نکت اٹھادیئے اور شعائر کفر جاری کردیئے اور کوئی شخص امان اول پر باقی نہ رہا اور وہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام میں گھری ہوئی نہیں تو وہ دارالحرب ہے۔ (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۱۷، ص ۳۶۷)
101	دَامِعَةٌ	سر کی جلد کے اس زخم کو کہتے ہیں جس میں خون چھنک آئے مگر بہے نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)
102	دَامِيَةٌ	سر کی جلد کے اس زخم کو کہتے ہیں جس میں خون بہہ جائے۔ (ایضاً)
103	دَائِنٌ	وہ شخص جس کا کسی پر دین ہو، قرض، ادھار دینے والا۔
104	دِيَانَاتٌ	اس سے مراد وہی چیزیں ہیں جن کا تعلق بندہ اور رب کے مابین ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۴۰۰)
105	دِيَةٌ	دیت اس مال کو کہتے ہیں جو نفس (جان) کے بدلے میں لازم ہوتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۰)
106	دَيْنٌ	جو چیز واجب فی الذمہ ہو کسی عقد مثلاً بیع یا اجارہ کی وجہ سے یا کسی چیز کے ہلاک کرنے سے اسکے ذمہ تاوان ہو یا قرض کی وجہ سے واجب ہو، ان سب کو دین کہتے ہیں۔ (حاشیہ بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۵۲)
107	دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ	وہ دین جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۷، ص ۷۵)
108	دَيْنٌ مِيعَادِيٌّ	وہ دین جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو۔ (ایضاً)

ذ

109	ذِمِّيٌّ	ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزیہ کے بدلے ذمہ لیا ہو۔ (ماخوذ من الموسوعة الفقهية، ج ۷، ص ۱۰۴) و (فتاویٰ فیض الرسول، ج ۱، ص ۵۰۱)
110	ذَوِي الْأَرْحَامِ	قریبی رشتہ دار، علم فرائض کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی عصبات میں سے ہیں انھیں ذی رحم محرم بھی کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۶۰)

ر

111	رَاهِنٌ	جو شخص اپنی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے اسے راہن کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۹۶)
112	رَافِضِيٌّ	تفصیل دیکھئے بہار شریعت، جلد اول، حصہ اول، صفحہ ۲۰۵۔

113	رَبُّ السَّلْمِ	بیع سلم میں خریدار کو رب المسلم کہتے ہیں۔ (ردالمحتار، ج ۷، ص ۴۷۹)
114	رَبُّ الْمَالِ	مضاربت (تجارت کی ایک خاص قسم) میں (تجارت کے لیے) مال دینے والے کو رب المال کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۱)
115	رَجْعَت	جس عورت کو رجعی طلاق دی ہو عدت کے اندر سے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۱۷۰)
116	رَضَاعَت	وہ بچہ جس کی عمر ڈھائی سال سے کم ہو اس کا کسی عورت کا دودھ پینا رضاعت کہلاتا ہے۔ (ماخوذ من الدر المختار، ج ۴، ص ۳۸۶)
117	رَقْبِي	کسی کو اس شرط پر چیز دینا کہ اگر میں تجھ سے پہلے مر گیا تو یہ تیری۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۹۹)
118	رُكْن	وہ چیز جس کے ساتھ شے کا قائم ہونا درست ہو جیسے نماز میں رکوع وغیرہ۔ (ماخوذ من التعريفات، ص ۸۲)
119	رَهْنٌ	دوسرے کے مال کو اپنے حق میں اپنے پاس اس لیے روک رکھنا کہ اس کے ذریعے سے اپنے حق کو کھلایا جائے حاصل کرنا ممکن ہو، کبھی اس چیز کو بھی رہن کہتے ہیں جو رکھی گئی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۹۶)
120	رِيَا وَسَمْعَه	ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا اور سمعہ یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۶۲۹)
121	رَأْسُ الْمَالِ	وہ مال جو رب المال (سرمایہ دار) نے تجارت کے لیے دیا ہو۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۱)

س

122	سَجْدَةٌ	یعنی ملاقات کے وقت بطور اکرام کسی کو سجدہ کرنا، یہ حرام ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۴۷۳)
123	سَدَلٌ	کپڑے کو کندھے یا سر کے اوپر سے اس طرح لٹکانا کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے رہیں۔ (بحر الرائق، ج ۲، ص ۴۳، ۴۲)
124	سِمْحَاقٌ	وہ زخم جو سر کی ہڈی کے اوپر کی جھلی (باریک کھال) تک پہنچ جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)
125	سَوْتٌ	ایک خاوند کی دو یادوں سے زیادہ بیویاں آپس میں سوت (سوکن) کہلاتی ہیں۔
126	سَوِّغٌ	عورت کا ایام عدت میں زیب و زینت کو ترک کر دینا۔ (الدر المختار و رد المحتار، ج ۵، ص ۲۲۰)

ش

127	شِجَاج	سراور چہرے کے زخموں کو شجاج کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۳۲)
128	شَرَاب	لغت میں پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں اور اصطلاح فقہاء میں شراب اُسے کہتے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۷۱)
129	شِرْب	کھیت کی آبپاشی یا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو باری مقرر کر لی جاتی ہے اُس کو شرب کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۶۶)
130	شَرَط	وہ شے جو حقیقت شے میں داخل نہ ہو لیکن اس کے بغیر شے موجود نہ ہو، جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ۔ (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۷۸۶)
131	شِرْكَ	اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ (وقار الفتاویٰ، ج ۱، ص ۲۷۰)
132	شِكَار	شکار اُس وحشی جانور کو کہتے ہیں جو آدمیوں سے بھاگتا ہو اور بغیر حیلہ نہ پکڑا جاسکتا ہو اور کبھی فعل یعنی اس جانور کے پکڑنے کو بھی شکار کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۷۹)
133	شَرِكَت	شرکت ایسے معاملہ کا نام ہے جس میں دو افراد سرمایہ اور نفع میں شریک رہنا طے کریں۔ (الدر المختار، ج ۶، ص ۷۵۹)
134	شَرِكَتِ عَقْد	دو شخص باہم کسی چیز میں شرکت کا عقد کریں مثلاً ایک کہے میں تیرا شریک ہوں دوسرا کہے مجھے منظور ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۳۸۹)
135	شَرِكَتِ عِان	دو شخص کسی خاص نوع کی تجارت، یا ہر قسم کی تجارت میں شرکت کریں مگر ہر ایک، دوسرے کا ضامن نہ ہو، صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۳۹۸)
136	شَرِكَتِ مَفَاوِضَہ	جس شرکت میں ہر ایک شخص دوسرے کا وکیل و کفیل ہو یعنی ہر ایک کا مطالبہ دوسرا وصول کر سکتا ہے اور ہر ایک پر جو مطالبہ ہوگا دوسرا اُسکی طرف سے ضامن ہے اور شرکتِ مفاوضہ میں یہ ضرور ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و دین میں بھی مساوات ہو، لہذا آزاد و غلام میں اور نابالغ و بالغ میں اور مسلمان و کافر میں اور عاقل و مجنون میں اور دونوں بالغوں میں اور دونوں غلاموں میں شرکتِ مفاوضہ نہیں ہو سکتی۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۳۹۱)

137	شُفَعہ	غیر منقول جائیداد کو کسی شخص نے جتنے میں خریدا اتنے ہی میں اس جائیداد کے مالک ہونے کا حق جو دوسرے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو شفیعہ کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۳۳)
138	شَفِيع	وہ شخص (پڑوسی) جسے شفیعہ کا حق حاصل ہو۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۳۳)
139	شَہَادت	کسی حق کے ثابت کرنے کے لیے مجلس قاضی میں (یعنی قاضی کے سامنے) لفظ شہادت کے ساتھ سچی خبر دینے کو شہادت یا گواہی کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۲، ص ۹۳۰)
140	شَيْخَيْن	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں شیخین سے مراد امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ہیں۔ اصطلاح فقہاء میں اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ہیں۔

ص

141	صَاحِبَيْن	اصطلاح فقہاء میں اس سے مراد امام ابو یوسف و امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ہیں۔
142	صَهْرِيح	بعض جگہ مکانوں میں حوض بنا رکھتے ہیں برساتی پانی اُس میں جمع کر لیتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں عربی میں ایسے حوض کو صہریح کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۶۸)
143	صَحِيحَيْن	حدیث کی دو مشہور کتابیں صحیح بخاری و صحیح مسلم۔
144	صُلح	نزاع دور کرنے کے لیے جو عقد کیا جائے اُس کو صلح کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۳، ص ۱۱۳۲)

ط

145	طَرَفَيْن	(کسی بھی معاملے کے دو فریق) خرید و فروخت میں طرفین سے مراد بائع اور مشتری ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۶۱۶)
146	طَرَفَيْن	اصطلاح فقہاء میں اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ہیں۔
147	طَلاَق	نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اس پابندی کے اٹھادینے کو طلاق کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۱۱۰)
148	طَلاَق بَائِن	وہ طلاق جس کی وجہ سے عورت، مرد کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۱۱۰)

149	طلاق	وہ طلاق جس میں عورت عدت کے گزرنے پر نکاح سے باہر ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۱۱۰)
150	طلاق مُغْلَظہ	مرد کا اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دینا۔ (ماخوذ من الموسوعة الفقهية، ج ۲۹، ص ۳۰)
151	طلب مُؤَاثِبہ	جو شخص شفعہ کرنا چاہتا ہے جیسے ہی اس کو اُس جائیداد کے فروخت ہونے کا علم ہو فوراً اُسی وقت یہ ظاہر کر دے کہ میں طالبِ شفعہ ہوں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۳۰)
152	طلبِ تقریر طلب اِشہاد	شفیع (شفعہ کرنے والا) بائع یا مشتری یا جائیداد مبیعہ (فروخت شدہ جائیداد) کے پاس جا کر گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ جائیداد خریدی ہے اور میں اس کا شفیع ہوں اور اس سے پہلے میں طلبِ شفعہ کر چکا ہوں اور اب پھر طلب کرتا ہوں تم لوگ اس کے گواہ رہو۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۳۲-۲۳۳)
153	طلب تملیک	شفعہ کرنے والا قاضی کے پاس جا کر یہ کہے کہ فلاں شخص نے فلاں جائیداد خریدی ہے اور فلاں جائیداد کے ذریعہ سے میں اُس کا شفیع ہوں وہ جائیداد مجھے دلادی جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۳۳)

ظ

154	ظہار	اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو گل سے تعبیر کیا جاتا ہو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو مثلاً کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۲۰۵)
-----	------	---

ع

155	عاریت	دوسرے شخص کو کسی چیز کی منفعت کا بغیر عوض مالک کر دینا عاریت ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۲، ص ۵۲)
156	عاقِدہ	عقد کرنے والا۔
157	عاقِلہ	عاقِلہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو قتلِ خطا یا (قتل) شہِ عمد میں ایسے قاتل کی طرف سے دیت ادا کرتے ہیں جو ان کے متعلقین میں سے ہے اور یہ دیتِ اصالتہ واجب ہوئی ہو۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۹۱۳)

158	عَبْدِ مَادُون	وہ غلام جس کے آقائے اسے خرید و فروخت کی اجازت دے دی ہو۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۳۷)
159	عِدَّت	نکاح زائل ہونے یا شہ نکاح کے بعد عورت کا نکاح سے ممنوع ہونا اور ایک زمانہ تک انتظار کرنا عدت ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۲۳۲)
160	عُشْر	زرعی زمین کی پیداوار سے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے (یعنی پیداوار کا دسواں حصہ) اسے عشر کہتے ہیں (اگر بیسواں حصہ ادا کرنا لازم ہو تو اسے نصف عشر کہتے ہیں)۔ (الموسوعة الفقهية، ج ۳۰، ص ۱۰۱)
161	عُشْرِي زمین	وہ زمین جس کی پیداوار سے عشر ادا کیا جاتا ہے۔
162	عَصَبَات	عصبہ کی جمع یعنی وہ لوگ جن کے حصے (میراث میں) مقرر شدہ نہیں البتہ اصحاب فرائض سے جو چاہتا ہے انھیں ملتا ہے اور اگر اصحاب فرائض نہ ہوں تو تمام مال (ترکہ) انہی میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
163	عَصَبَه نسبی	وہ رشتہ دار ہیں جن کے مقررہ حصے نہیں ہیں بلکہ اصحاب فرائض سے اگر کچھ بچتا ہے تو انہیں ملتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
164	عَصَبَه سببی	اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے کوئی غلام آزاد کیا ہو اور وہ غلام مر گیا ہو اور غلام کا کوئی رشتہ دار نہ ہو صرف اس کو آزاد کرنے والا شخص ہو اب اس کا آقا اس کو آزاد کرنے کے سبب اس کی میراث کا مستحق ہوگا۔ ان کو مولی العتاقہ بھی کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۲-۱۱۳۳)
165	عَصَبَه بنفسہ	اس سے مراد وہ مرد ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، مثلاً بھتیجا وغیرہ۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
166	عَصَبَه بغیرہ	عصبہ بغیرہ یہ وہ چار عورتیں ہیں جن کا مقررہ حصہ نصف یا دو تہائی ہے یہ عورتیں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں عصبہ بن جائیں گی۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۱)
167	عَصَبَه مَع غیرہ	عصبہ مع غیرہ سے مراد وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہے جیسے حقیقی بہن یا باپ شریک بہن، بیٹی کے ہوتے ہوئے عصبہ بن جاتی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۲)

168	عَقْد	عاقدين (نکاح اور خرید و فروخت وغیرہ کرنے والوں) میں سے ایک کا کلام دوسرے کے ساتھ از روئے شرع کے اس طرح متعلق ہونا کہ اس کا اثر محل (معتود علیہ) میں ظاہر ہو۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ، ج ۴، ص ۲۹۱۸)
169	عَقِيقَه	بچہ پیدا ہونے کے شکر یہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۳۵۵)
170	عَلَاتِی	باپ شریک بہن، بھائی یعنی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔
171	علم الفرائض	وہ علم جس کے ذریعے میراث کے مسائل معلوم کیے جاتے ہیں۔
172	عُمْرَى	عمر بھر کے لیے کسی کو کوئی چیز دے دینا کہ وہ مر گیا تو واپس لے لوں گا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۹۹)
173	عَيْنِیْن	عینین اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس کا عضو مخصوص تو ہو مگر اپنی بیوی سے آگے کے مقام میں دخول نہ کر سکے، نامرد۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۲۲۸)
174	عَوْل	عول سے مراد اصطلاح فرائض میں یہ ہے کہ مخرج مسئلہ جب ورثاء کے حصوں پر پورا نہ ہوتا ہو یعنی حصے زائد ہوں اور مخرج کا عدد حصوں کے مجموعی اعداد سے کم ہو تو مخرج مسئلہ کے عدد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۸)
175	عیب	عیب وہ ہے جس سے تاجروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہو جائے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۶۷۳)

غ

176	غاصِب	غصب کرنے والا یعنی ناجائز قبضہ کرنے والا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۰۹)
177	غِبْطَه	کسی شخص میں خوبی دیکھی اس کو اچھی حالت میں پایا اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں بھی ویسا ہو جاؤں مجھے بھی وہ نعمت مل جائے یہ حسد نہیں اس کو غبطہ کہتے ہیں جس کو لوگ رشک کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۵۳۲)
178	عَبْنِ فَاِحِش	سخت قسم کی خیانت، مراد ایسی قیمت سے خرید و فروخت کرنا جو قیمت لگانے والوں کے اندازہ سے باہر ہو مثلاً کوئی چیز دس روپے میں خریدی لیکن اس کی قیمت چھ، سات روپے لگائی جاتی ہے، کوئی شخص اس کی قیمت دس روپے نہیں لگاتا تو یہ عبْنِ فاحش ہے۔ (ماخوذ من الدر المختار وورد المختار، ج ۷، ص ۳۷۶)

179	عَبْنِ يَسِير	ایسی قیمت سے خرید و فروخت کرنا جو قیمت لگانے والوں کے اندازہ سے باہر نہ ہو مثلاً کوئی چیز دس روپے میں خریدی، کوئی شخص اس کی قیمت آٹھ بتاتا ہے کوئی نو تو کوئی دس تو یہ عبن یسیر ہے۔ (ماخوذ من الدر المختار و رد المحتار، ج ۷، ص ۳۷۶)
180	عَوْرَه	حمل کی دیت کو عورہ کہتے ہیں اور یہ پانچ سو درہم ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۳۶)
181	غَضَبٌ	مال متقوم، محترم، منقول یعنی ایسا مال جو شرعی لحاظ سے قابل قیمت اور اس کا لینا حرام ہو نیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکے اس سے جائز قبضہ کو ہٹا کر ناجائز قبضہ کرنا غضب کہلاتا ہے جبکہ یہ قبضہ خفیہ نہ ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۳)
182	غلام ماذون	وہ غلام جس کے آقائے اسے خرید و فروخت کی اجازت دے دی ہو۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۳۷)
183	غَنِيْمَت	وہ مال جو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے بزور قوت (حربی) کافروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ (التعريفات، ص ۱۱۶)
184	غَيْبٌ	کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو (جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو) اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۵۳۲)
185	غَيْرُ مُسْتَأْمِنٍ	وہ شخص ہے جو دوسرے ملک میں (جس میں غیر قوم کی سلطنت ہو) امان لیے بغیر گیا ہو یعنی حربی دارالاسلام میں یا مسلمان دارالکفر میں امان لیے بغیر گیا ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۳۳۳)

ف

186	فَرْضٍ كُفَايَه	فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے (یعنی سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں) اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔ (ماخوذ از وقار الفتاویٰ، ج ۲، ص ۵۷)
187	فَقِير	وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی مقدار ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۵، ص ۹۲۲)

ق

188	قَادِيَانِي	مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار کو قادیانی کہتے ہیں تفصیل کیلئے دیکھئے بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۱، ص ۱۹۰
-----	-------------	--

189	قتل عمد	کسی دھاردار آلے سے قصداً قتل کرنا قتل عمد کہلاتا ہے مثلاً چھری، خنجر، تیر، نیزہ وغیرہ سے کسی کو قصداً قتل کرنا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۷۷۶)
190	قتل شبہ عمد	کسی کو قصداً قتل کرے مگر اسلحہ یا جو چیزیں اسلحہ کے قائم مقام ہیں ان سے قتل نہ کرے مثلاً لاشی سے مار ڈالے۔ (ایضاً، ص ۷۷۸)
191	قتل خطا	ایسا قتل جو خطا سرزد ہو جائے، خطا چاہے فعل میں ہو یا گمان میں جیسے شکار کو گولی ماری اور کسی انسان کو جا لگی یا مرد سمجھ کر قتل کیا لیکن وہ مسلمان تھا۔ (ایضاً، ماخوذاً)
192	قتل قائم مقام خطا (شبہ خطا)	(ایسا قتل جس میں قاتل کے فعل اختیاری کو دخل نہ ہو) جیسے کوئی شخص سوتے میں کسی پر گر پڑا اور وہ مر گیا یا چھت سے کسی انسان پر گر اور وہ مر گیا۔ (ایضاً، ص ۷۷۹)
193	قتل بالسبب	(ایسا قتل جس کا سبب قاتل کا فعل ہو مثلاً) کسی شخص نے دوسرے کی ملک میں کنواں کھودا یا پتھر رکھ دیا یا راستہ میں لکڑی رکھ دی اور کوئی شخص کنویں میں گر کر یا پتھر اور لکڑی سے ٹھوکر کھا کر مر گیا۔ (ایضاً، ص ۷۷۹-۷۸۰)
194	قرض	دین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے، جس کو لوگ دستگیر داں کہتے ہیں۔ (حاشیہ بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۵۲)
195	قسامت	قسامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ ہو اور اولیائے مقتول اہل محلہ پر قتل عمد یا قتل خطا کا دعویٰ کریں اور اہل محلہ انکار کریں تو اس محلے کے پچاس آدمی قسم کھائیں کہ نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۹۹)
196	قصاص	فاعل (یعنی ظالم) کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسا اس نے (دوسرے کے ساتھ) کیا مثلاً ہاتھ کاٹنا تو اس کا بھی ہاتھ ہی کاٹا جائے۔ (التعریفات، ص ۱۲۴)
197	قیراط	قیراط اصل میں نصف دانق (یعنی درہم کا بارہواں حصہ) ہے۔ (عمدۃ القاری، ج ۱۴، ص ۴۸۳)
198	قیمت	کسی چیز کے دام جو اس کے معیار کے مطابق ہوں اور ان میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ (ردالمحتار، ج ۷، ص ۱۱۷)
199	قییمی	ہر وہ چیز جس کی مثل بازار میں نہ پائی جائے۔ (الدر المختار، ج ۹، ص ۳۱۱)

ک

200 کفارہ وہ سزا جو کسی گناہ کی تلافی کے لیے شرعاً مقرر ہوتی ہے۔ جیسے روزوں کا کفارہ۔

201	کفارہ یمن	وہ سزا جو قسم توڑنے پر شرعاً مقرر ہوتی ہے۔
202	کفارہ قتل خطا	خطا سے کسی کو قتل کرنے سے جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس کو کفارہ قتل خطا کہتے ہیں۔
203	کفالت	ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے یعنی دوسرے کے مطالبے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۲، ص ۸۳۶)
204	کفیل	(ضامن) وہ شخص جو دوسرے کے مطالبے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۲، ص ۸۳۶)
205	کلالہ	وہ شخص جس کے مرنے کے وقت کوئی اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہوں۔ (ماخوذ از تفسیر نعیمی، ج ۶، ص ۱۵۲)
206	کنایہ	ایسا کلام جس کا مرادی معنی چاہے حقیقی ہو یا مجازی ظاہر نہ ہو اگرچہ لغوی معنی ظاہر ہو۔ (التعریفات، ص ۱۳۱)

گ

207	گواہی	شہادت کو گواہی بھی کہتے ہیں۔
-----	-------	------------------------------

ل

208	لحن	اصطلاح قرآن میں لحن سے مراد تجوید کے خلاف پڑھنا ہے۔ (نصاب التجوید، ص ۶۲)
209	لقطہ	اُس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۴۷۳)
210	لقیط	لقیط اُس بچے کو کہتے ہیں جس کو اُس کے گھر والے نے اپنی تنگدستی یا بدنامی کے خوف سے پھینک دیا ہو۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۴۶۷)

م

211	مالِ مُتَقَوِّم	وہ مال جو جمع کیا جاسکتا ہو اور شرعاً اس سے نفع اٹھانا مباح ہو۔ (ردالمحتار، ج ۷، ص ۸)
212	مباح	اصطلاح شرع میں مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۳۵۸، ج ۱، حصہ ۲، ص ۲۸۳)

213	مَبِيع	فروخت شدہ چیز، وہ چیز جو بیچی جا رہی ہو۔
214	مُتَرَدِّبَہ	وہ جانور جو کنویں میں یا پہاڑ سے گر کر مرے ہو۔ (ردالمحتار، ج ۱۰، ص ۶۷)
215	مُتَلَحِّمَہ	وہ زخم جس میں سر کا گوشت بھی پھٹ جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)
216	مُفَلَّت	انگور کا شیرہ جو اس قدر پکا یا جائے کہ دو تہائی خشک ہو جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے۔ (الدر المختار، ج ۱۰، ص ۴۰)
217	مِثْلِي	ہر وہ چیز جس کی مثل بازار میں قابل شمار تفاوت کے بغیر پائی جائے۔ (الدر المختار، ج ۹، ص ۳۱۰)
218	مَجْنُون	جس کی عقل زائل ہو گئی ہو بلا وجہ لوگوں کو مارے گا لیاں دے شریعت نے اس میں کوئی اپنی اصطلاح جدید مقرر نہیں فرمائی (مجنون) وہی ہے جسے فارسی میں دیوانہ، اردو میں پاگل کہتے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۹، ص ۶۳۵) و (ردالمحتار، ج ۴، ص ۴۳۷)
219	مُحْجُوب	ایسا وارث جس کا حصہ کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے تو اسے محجوب کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۳)
220	مُحْرِم	وہ شخص جس نے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہو۔
221	مَحْرَم	وہ رشتہ دار جس سے قرابت، رضاعت، یا سسرالی رشتہ کی وجہ سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہو۔ (الموسوعة الفقهية، ج ۳۶، ص ۲۰۰)
222	مَحْرُوم	اس سے مراد وہ وارث ہے جو میراث سے کسی سبب کی وجہ سے شرعاً محروم ہو جاتا ہے مثلاً غلام ہونے کی وجہ سے یا مورث کا قاتل ہونے کی وجہ سے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۱۲)
223	مَخْرَج	اصطلاح فرائض میں مخرج سے مراد وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس میں سے تمام ورثہ کو بلا کسر ان کے حصے تقسیم کئے جاسکیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۵)
224	مُدْبِر	وہ غلام جس کی نسبت مولیٰ (مالک) نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے یا ایسے الفاظ کہے ہوں جن سے مولیٰ کے مرنے کے بعد اس کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۲۹۰)
225	مُدْبِرَہ	ایسی لونڈی جسے مالک نے یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یا ایسے الفاظ کہے ہوں جن سے مولیٰ کے مرنے کے بعد اس کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۲۹۰)

226	مُدْعٰی	دعویٰ کرنے والا۔
227	مُدْعٰی عَلَیْہِ	جس پر دعویٰ کیا جائے۔
228	مَدِیُون	جس کے ذمے کسی کا واجب الادا حق (دین) ہو، مقروض۔
229	مُرَابَحَہ	کوئی چیز خریدی اور اس پر کچھ اخراجات کیے پھر قیمت اور اخراجات کو ظاہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر اس کو فروخت کر دینا سے مراد سمجھتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۳۹)
230	مُرَاهِق	وہ لڑکا کہ ہنوز بالغ نہ ہوا، مگر اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے ہوں، اس کی مقدار بارہ برس کی عمر ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۷، ص ۲۵)
231	مُرْتَد	وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو یعنی زبان سے کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یونہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن کے کرنے سے کافر ہو جاتا ہے مثلاً بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا، (نعوذ باللہ)۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۳۵۵)
232	مُرْتَهِن	جس شخص کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے وہ مرتہن کہلاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۹۶)
233	مَرَضُ الْمَوْتِ	کسی مرض کے مرض الموت ہونے کے لیے دو باتیں شرط ہیں۔ ایک یہ کہ اس مرض میں خوفِ ہلاک و اندیشہ موت قوت و غلبہ کے ساتھ ہو، دوم یہ کہ اس غلبہ خوف کی حالت میں اس کے ساتھ موت متصل ہو اگرچہ اس مرض سے نہ مرے، موت کا سبب کوئی اور ہو جائے۔ (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۲۵، ص ۳۵۷)
234	مَرهُون	اس چیز کو کہتے ہیں جو گروی رکھی گئی۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۹۶)
235	مُزَارَعَت	کسی کو اپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلاً نصف نصف یا ایک تہائی دو تہائیاں تقسیم ہو جائے گی اس کو مزارعت کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۸۷)
236	مُسَابَقَت	چند شخص آپس میں یہ طے کریں کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے جو سبقت لے جائے اس کو یہ دیا جائے گا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۶۰۷)

237	مَسَافَاة	باغ یا درخت کسی کو اس لیے دینا کہ اس کی خدمت کرے اور جو کچھ اس سے پیداوار ہوگی اس کا ایک حصہ کام کرنے والے کو اور ایک حصہ مالک کو دیا جائے گا اس کا دوسرا نام معاملہ بھی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳ حصہ ۱۵، ص ۳۰۲)
238	مُسْتَأْجِر	کرایہ دار کو مستاجر کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۱۰۷)
239	مُسْتَأْمِن	وہ شخص ہے جو دوسرے ملک میں (جس میں غیر قوم کی سلطنت ہو) امان لیکر گیا یعنی حربی دارالاسلام میں یا مسلمان دارالکفر میں امان لیکر گیا تو مستامن ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۴۴۳)
240	مُسْتَعَار	(عاریت دی ہوئی) چیز کو مستعار کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳ حصہ ۱۴، ص ۵۴)
241	مُسْتَعِير	جس کو چیز دی گئی وہ مستعیر ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۵۴)
242	مَسْتُوْر الْحَال	وہ شخص جس کی عدالت اور فسق (یعنی نیک بد ہونا) لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ (التعريفات، ص ۱۴۸)
243	مِسْكِين	وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۵، ص ۹۲۳)
244	مُسْلَمٌ اِلَيْهِ	بیع مسلم میں چیز بیچنے والے کو مسلم ایہ کہتے ہیں۔ (ماخوذ من الدر المختار، ج ۷، ص ۴۷۹)
245	مُسْلَمٌ فِيهِ	جس چیز پر عقد مسلم ہو اس کو مسلم فیہ کہتے ہیں، بیع۔ (ماخوذ من الدر المختار، ج ۷، ص ۴۷۹)
246	مُشَاع	اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ایک جزو غیر معین کا یہ مالک ہو اور دوسرا بھی اس میں شریک ہو اور دونوں کے حصوں میں امتیاز نہ ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۵۳۸)
247	مُشْتَرِي	خریدار کو مشتری کہتے ہیں۔
248	مُشْتَهَاة	قابل شہوت لڑکی جو نو برس سے کم عمر کی نہ ہو۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۷، ص ۲۳)
249	مُضَارِب	مضاربت میں کام کرنے والا۔
250	مُضَارِبَت	یہ تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۱)

251	مضاربت مُطْلَقَه	ایسی مضاربت جس میں زمان و مکان اور قسم تجارت کی تعیین نہیں ہوتی۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۶)
252	مُطْلَقَه رَجْعِيَه	وہ عورت جسے رجعی طلاق دی گئی ہو۔
253	مَعْتَوَه	(بوہرہ، بوہرا) جس کی عقل ٹھیک نہ ہو تدبیر محتلم (یعنی ہوش و حواس میں خرابی) ہو کبھی عاقلوں کی سی بات کرے کبھی پاگلوں کی (سی) مگر مجنوں کی طرح لوگوں کو محض بے وجہ مارتا گالیاں دیتا اینٹیں پھینکتا نہ ہو۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲، ص ۵۲۹) و (رد المحتار، ج ۴، ص ۴۳۸)
254	مُعِير	جس کی چیز ہے اسے معیر کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۵۴)
255	مَغْصُوب	جس چیز پر ناجائز قبضہ ہوا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۰۹)
256	مَغْصُوبِ مَنَه	(غصب شدہ چیز کا) مالک۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۲۰۹)
257	مَفْقُودُ الْخَبْرِ	وہ شخص جس کا کوئی پتا نہ ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۲۸۵)
258	مُفْلِس	مفلس وہ ہے کہ نہ اس کے پاس روپیہ ہے نہ متاع (سامان وغیرہ)۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۵۴۴)
259	مَكْرُوَه تَحْرِيْمِي	جس کی ممانعت دلیل ظنی سے لڑو ثابت ہو، یہ واجب کا مقابل ہے۔ (رکن دین، ص ۴، و بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۲۸۳)
260	مَكْرُوَه تَنْزِيْهِی	وہ عمل جسے شریعت ناپسند رکھے مگر اس عمل پر شریعت کی طرف سے عذاب کی وعید نہ ہو، یہ سنتِ غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۲۸۳)
261	مُكْرِه	مجبور کرنے والا۔
262	مُكْرِه	جسے مجبور کیا جائے۔
263	مَكْفُؤْلٌ بِه	جس چیز کی کفالت کی، وہ مکفول بہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۴، ص ۸۳۶)
264	مَكْفُؤْلٌ عَنْه	جس پر مطالبہ ہے (یعنی مقروض) وہ اصیل و مکفول عنہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۴، ص ۸۳۶)
265	مَكْفُؤْلٌ لَه	جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب و مکفول لہ (دائن) کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۴، ص ۸۳۶)

266	مکیل	ناپ سے بکنے والی اشیاء۔
267	مَلْتَقِط	گری پڑی چیز یا لقیط کے اٹھانے والے کو ملتقط کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۳۶۹)
268	مُنَاسَخَہ	علم فرائض کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ میت کے ترکہ کی تقسیم سے قبل ہی اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۵۷)
269	مندوب	ایسا فعل جس کا کرنا باعث ثواب ہو اور ترک کرنا (یعنی چھوڑنا) اساءت (برا) نہ ہو۔ (ردالمحتار، ج ۱، ص ۲۳۰)
270	مُنْقَلَّہ	وہ زخم جس میں سر کی ہڈی ٹوٹ کر ہٹ جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)
271	مَنِبَحَہ	اُس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اُس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۳۳۰)
272	مَوَات	وہ زمین جو آبادی سے فاصلہ پر ہو، نہ کسی کی ملک ہو اور نہ کسی کی حق خاص ہو۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۷، ص ۶۶۴)
273	موجر	آجر کو موجر بھی کہتے ہیں۔
274	مودع	جس شخص نے حفاظت کے لئے کوئی چیز کسی کے پاس رکھ دی جس کی چیز ہے اسے مودع کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۳۱)
275	مودع	جس کی حفاظت میں (ودیعت شدہ چیز) دی گئی اسے مودع کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۳۱)
276	موزون	وزن سے بکنے والی اشیاء۔
277	موصی	وصیت کرنے والا یعنی جو کسی شخص کو اپنی وصیت پوری کرنے کے لئے مقرر کرے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۶۹۳)
278	موصی بہ	جس چیز کی وصیت کی جائے وہ موصی بہ کہلاتی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۶۹۳)
279	موصی لہ	جس کے لئے مال وغیرہ دینے کی وصیت کی جائے اُس کو موصی لہ کہتے ہیں۔
280	موضحہ	وہ زخم جس میں سر کی ہڈی نظر آ جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)
281	مَوْقُوذَہ	وہ جانور جو چوٹ کھانے سے مرا ہو۔ (ردالمحتار، ج ۱، ص ۶۷)

282	مُوْتَجَل	وکیل کرنے والا۔
283	مَوْلَى الموالاته	ایک شخص عاقل بالغ کسی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو اس نو مسلم نے اُس سے یا کسی دوسرے سے موالاتہ کی یعنی یہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا وارث تُو ہے اور مجھ سے کوئی جنایت ہو تو دیت تجھے دینی ہوگی اُس نے قبول کر لیا یہ موالاتہ صحیح ہے اسکا نام مَوْلَى المواتہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۳۸۵)
284	مَوْلَى العتاقه	اسے عصبہ سبھی بھی کہتے ہیں۔
285	مَوْهُوب	وہ چیز جو ہبہ (تحفہ) میں دی جائے۔
286	مَوْهُوب لَه	جس کو ہبہ دیا جائے اسے مَوْهُوب لہ کہتے ہیں۔

ن

287	نَجَش	کوئی شخص بیع (بیچی جانے والی چیز) کی قیمت بڑھائے اور خود خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گاہک کو رغبت پیدا ہو اور قیمت سے زیادہ دے کر خرید لے اور یہ حقیقت خریدار کو دھوکا دینا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱، ص ۷۲۳)
288	نَحْر	(اونٹ کے) حلق کے آخری حصہ میں نیزہ وغیرہ بھونک کر (داخل کر کے) رگیں کاٹ دینا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۵، ص ۳۱۲)
289	نَذْر	نذر اصطلاح شرع میں وہ عبادت مقصودہ ہے جو جنس واجب سے ہو اور وہ خود بندہ پر واجب نہ ہو، مگر بندہ نے اپنے قول سے اسے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہو مثلاً یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو دس رکعت نفل ادا کروں گا اسے نذر شرعی کہتے ہیں۔ (ماخوذ از فتاویٰ امجدیہ، حصہ ۲، ص ۳۱۲)
290	نَذْر عرفی	اولیاء اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے اسے نذر (عرفی اور) لغوی کہتے ہیں اس کا معنی نذرانہ ہے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ یہ آپ کی نذر ہے یہ بالکل جائز ہے یہ بندوں کی ہو سکتی ہے مگر اس کا پورا کرنا شرعاً واجب نہیں مثلاً گیارہویں شریف کی نذر اور فاتحہ بزرگان دین وغیرہ۔ (ماخوذ از جاء الحق، ص ۳۱۳)
291	نَذْر لغوی	نذر عرفی کو نذر لغوی بھی کہتے ہیں۔

292	نسبت	اگر دو مختلف عدد اس قسم کے ہوں کہ نہ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں (تقسیم کریں) اور نہ ہی کوئی تیسرا ان کو کاٹے تو ان میں نسبت تباہ ہے جیسے ۱۰ اور ۱۔	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
293	نسبت	دو مختلف عددوں میں چھوٹا عدد اگر بڑے کو کاٹ دے یعنی بڑا چھوٹے پر پورا پورا تقسیم ہو جائے تو ان	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
294	نسبت	دووں میں نسبت متداخل ہے جیسے ۱۶، ۱ اور ۴۔	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
294	نسبت	اگر دو عدد آپس میں برابر ہیں تو ان میں نسبت تماثل ہے جیسے ۴=۴۔	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
295	نسبت	تماثل	
295	نسبت	دو مختلف عددوں میں سے اگر چھوٹا بڑے کو نہ کاٹے بلکہ ایک تیسرا عدد دونوں کو کاٹے تو ان دونوں میں	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۲۰، ص ۱۱۳۰)
296	نسبت	توافق	نسبت توافق ہوگی جیسے ۸، ۲۰ اور ۲۰ کہ انہیں ۴ کاٹتا ہے۔
296	نَطِيحَة	وہ جانور جو کسی جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔	(ردالمحتار، ج ۱۰، ص ۶۷)
297	نِفاَس	وہ خون جو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے۔	(بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۳۷۱)
298	نَفَقَة	نفقہ سے مراد کھانا، کپڑا اور رہنے کا مکان ہے۔	(بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۲۶۰)

و

299	ودیعت	جو مال کسی کے پاس حفاظت کے لیے رکھا جائے اس مال کو ”ودیعت“ اور ”امانت“ کہتے ہیں۔	(ماخوذ از حاشیہ بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۳، ص ۳۱)
300	وصی	وصی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو وصیت کرنے والا (موصی) اپنی وصیت پوری کرنے کے لئے مقرر کرے۔	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۹۹۳)
301	وصیت	بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بنا دینا۔	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۹۳۶)
302	وصیت	زکوٰۃ کی وصیت اور کفارات واجبہ کی وصیت اور صدقہ، صیام و صلوة کی وصیت کو وصیت واجبہ کہتے ہیں۔	(بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۹۳۷)
	واجبہ		

303	وصیت مُكْرُوْهَةٌ	جیسے اہل فسق و معصیت کے لیے وصیت جب یہ گمان غالب ہو کہ وہ مال وصیت گناہ میں صرف کریں گے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۹۳۷)
304	وصیت مباحہ	جیسے اغنیاء یعنی مالداروں کے لیے وصیت کرنا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۹۳۷)
305	وصیت مُسْتَحَبَّةٌ	وصیت واجبہ، مکروہہ اور مباحہ کے علاوہ کوئی اور وصیت کرنا وصیت مستحبہ کہلاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۹، ص ۹۳۷)
306	وطی بالشبهہ	شہ کے ساتھ وطی کرنا، یعنی عورت سے وطی حلال نہ ہو مگر اسے کسی وجہ سے حلال سمجھ کر وطی کرنا جیسے عورت طلاق مغلظہ کی عدت میں ہو اور حلال سمجھ کر اس سے وطی کر لے یہ وطی بالشہہ ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۸، ص ۲۳۷)
307	وَقْفٌ	کسی شے (چیز) کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عزوجل کی ملک کر دینا اس طرح کہ اس کا نفع بندگانِ خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۰، ص ۵۲۳)
308	ولی	ولی وہ ہے جس کا حکم دوسرے پر چلتا ہو دوسرا چاہے یا نہ چاہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۷، ص ۴۲)



309	ہاشمہ	وہ زخم جس میں سر کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۸، ص ۸۴۲)
310	ہبہ	تحفہ دینا، کسی شخص کو عوض کے بغیر کسی چیز کا مالک بنا دینا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۴، ص ۶۴)



311	یَمین	قسم، ایسا عقد جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ (الدر المختار، ج ۵، ص ۴۸۸)
-----	-------	--

اعلام

الف

1	آبری	کتاب کی جلد پر چڑھانے کا رنگین منقش کاغذ۔
2	آچکن	ایک قسم کا مردانہ لباس، شيروانی۔
3	آروی	ایک قسم کی ترکاری۔
4	آسوج	یکرمی سال کا مہینہ جو 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک ہوتا ہے۔
5	آفیون	افیم، ایک نشہ آور چیز جو پوست کے رس کو منجمد کر کے بنائی جاتی ہے، خشکاش کے ڈوڈے کا جما ہوا رس۔
6	آسی	چھوٹی چھوٹی نازک پتیوں والا ایک پودا اور اس کے بیج جن سے تیل نکالا جاتا ہے۔
7	آمرتی	ایک مٹھائی جو ماش کے آٹے کی بنائی جاتی ہے اور شکل میں جلیبی کی طرح ہوتی ہے۔
8	آندرائن	خر بوزے کی شکل کا ایک پھل جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بہت کڑوا ہوتا ہے۔
9	آنگرکھا	ایک قسم کا لمبا مردانہ لباس جس کے دو حصے ہوتے ہیں چولی اور دامن۔
10	آیلوا	ایک درخت کا جما ہوا انتہائی کڑوا نچوڑ، مضمّر
11	آیلیاء	بیت المقدس۔

آ

12	آبنوس	ایک درخت کا نام جس کی لکڑی سخت، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔
13	آتش کدہ	مجموعیوں کا عبادت خانہ جس میں وہ آگ کو پوجتے ہیں۔
14	آرسی	ایک زیور جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہیں اس میں نگینے کے بجائے شیشہ جڑا ہوتا ہے۔
15	آریا	ایک قدیم قوم جس کی نسل کے لوگ پاک و ہند، ایران اور یورپ میں آباد ہیں، ہندوؤں کا ایک مذہبی فرقہ۔
16	آکلہ	ایک قسم کی بیماری جو متاثرہ عضو (جسم کے حصے) کو کھاتی اور گھاتی ہے۔

ب

17	بافتہ	ایک قسم کا ریشمی کپڑا جس کا شمار اعلیٰ درجے کے کپڑوں میں ہوتا ہے۔
----	-------	---

18	بجھو	بلی سے ذرا چھوٹا مردار کھانے والا ایک جانور جو عموماً قبرستانوں میں رہتا ہے۔
19	برج اسد	آسمانی دائرے کے بارہ حصوں میں سے وہ حصہ جس میں چند ستارے مل کر شیر کی شکل میں رہتے ہیں۔
20	برجھی	چھوٹا نیزہ۔
21	برص	ایک مرض کا نام جس میں فسادِ خون کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔
22	بریلی	انڈیا کے صوبے اتر پردیش میں ایک ضلع کا صدر مقام ہے۔
23	بطحان	مدینہ منورہ کی ایک وادی۔
24	بلخ	خراسان کا ایک مشہور شہر۔
25	بہری	ایک شکاری پرندہ۔
26	بید	ایک قسم کا درخت جس کی شاخیں نہایت لچکدار ہوتی ہیں، اس کی لکڑی سے ٹوکریاں اور فرنیچر بنایا جاتا ہے
27	بیس	چنے کا آٹا۔
28	بیل گاڑی	وہ گاڑی جس کے آگے بیل جوتے جاتے ہیں۔
29	بیلا	ایک قسم کا سفید خوشبودار پھول جو چنبیلی کے پھول سے بڑا اور موتیا کے پھول سے ملتا جلتا ہوتا ہے نیز اس کا پودا۔

بھ

30	بھاگپور	ہندوستان (انڈیا) میں ایک علاقے کا نام ہے۔
31	بھنگ	ایک قسم کا نشہ آور پتوں والا پودا، نیز اس کے پتوں کو گھوٹ کر تیار کیا ہوا نشہ آور مشروب۔
32	بھینسا	بھینس کا نر۔

پ

33	پنجیسی	چوسر کے ایک کھیل کا نام جو پانسوں کی جگہ سات کوڑیوں سے کھیلا جاتا ہے۔
34	پرٹلا	وہ پیٹی یا چوڑا تسمہ جس میں تلوار لٹکی رہتی ہے۔
35	پن چکی	پانی سے چلنے والی چکی جو آٹا وغیرہ پیستی ہے۔
36	پوت	شیشے کا سوراخ دار چھوٹا دانہ جو موتی کی مانند ہوتا ہے۔
37	پوتین	کھال کا کوٹ، چمڑے کا پٹھہ۔

پھ

38 پھنا تاگے یاریشم کا پھول یا گچھا جو تسبیح، ٹوپی، کپڑے وغیرہ میں زینت کے لئے لگایا جاتا ہے، جھالر۔

ت

39 تاگہ، تاگہ گھوڑا گاڑی جس میں آگے پیچھے چھ سواریاں بیٹھ سکتی ہیں۔

40 تپ وق ایک بیماری جو بدن میں سرایت کر کے بدن کی رطوبت کو سکھا دیتی ہے۔

41 تکلا چرنے کی وہ آہنی سلاح جس پر کاتے وقت ٹھکڑی (کچے سوت کی لچھی) بنتی جاتی ہے۔

42 توتبا اندر سے خالی اور خشک کیا ہوا کدو۔

تھ

43 تھنیاں وہ لکڑی جو چھپر کے نیچے سہارا دینے کے لیے لگاتے ہیں۔

ٹ

44 ٹو چھوٹے قد کا گھوڑا۔

45 ٹنیاں ٹٹی کی جمع، بانس یا سرکنڈوں کا بنا ہوا چھپر جو دروازوں یا کھڑکیوں پر لگاتے ہیں۔

46 ٹر ایک قسم کا ادنی درجے کا ریشم۔

47 ٹری ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

ج

48 جب الحزن یہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز چار سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔

49 جذام کوڑھ، فساد خون کی ایک موذی بیماری۔

50 جراح سرجن، زخموں کا Operation کرنے والا، زخم وغیرہ کا علاج کرنے والا۔

51 جت ایک مرکب دھات جو تانبے اور سیسے کو ملا کر تیار کی جاتی ہے۔

52 جو سا ایک خاردار خوردو (خودا گا ہوا) پودا جو خشک اور ریتلی زمین میں ہوتا ہے۔ لوگ موسم گرما میں لوسے

بچنے کے لیے اس کے سائبان، ٹنیاں بناتے ہیں۔

53	جَوَزُ الطَّيِّبِ	ایک قسم کا خوشبودار پھل۔
54	جوبی	چنبیلی جیسے خوشبودار پھول جو اُس سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں نیز ان کا پودا۔
55	جَبْحُونُ	ایران میں ایک دریا کا نام جو ماوراء النہر اور خراسان کے درمیان اور بلخ کے نزدیک ہے، دریائے آمو۔

ج

56	چائڈو	افیون کا ایک نشہ جس میں افیون کو پانی میں پکا کر حقے کی طرح پیا جاتا ہے۔
57	چرس	ایک نشہ جو بھنگ کے پتوں سے تیار کیا جاتا ہے اسے تمباکو کی طرح پیتے ہیں۔
58	چرسا	کنویں سے پانی نکالنے کا چمڑے کا بڑا ڈول۔
59	چکندر	ایک ترکاری جو شام سے مشابہ اور نہایت سرخ ہوتی ہے۔
60	چکن	وہ کپڑا جس پر کشیدہ کاری کے ساتھ نیل بوٹے کاڑھے ہوتے ہیں۔
61	چمیلی، چنبیلی	چنبیلی کا پودا، ایک مشہور خوشبودار پھول جو سفید اور زرد رنگ کا ہوتا ہے
62	چوسر	ایک قسم کا کھیل جس کی بساط سولی کی طرح ہوتی ہے، اس کے ہر حصے میں مربع شکل کے ۲۴ خانے بنے ہوتے ہیں اور اس کا درمیانی حصہ ملا کر ۲۵ ہو جاتے ہیں، چمچی۔ بساط سے مراد کپڑا یا تختہ ہے۔
63	چیناسک	چین کا بنا ہوا ریشمی کپڑا۔

ح

64	حبرہ	ایک قسم کی دھاری دار یمنی چادر۔
65	حَضْرَمَوْت	ملک یمن میں ایک علاقے کا نام ہے۔
66	حفیا	یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔
67	حلقوم	وہ نلی جس میں سے سانس آتی جاتی ہے۔

خ

88	خس	ایک قسم کی خوشبودار گھاس کی جڑ جو گرمی کے موسم میں ٹھیاں بنانے کے کام آتی ہے۔
69	خلوق	ایک خوشبو جو عنبر، مشک اور کافور کی آمیزش (ملاوٹ) سے بنتی ہے۔

د

70	دجلہ	عراق میں ایک دریا کا نام جو بغداد کے قریب ہے۔
71	دُریا	کانوں کی لو میں پہننے کا چھوٹا سا زیور جس میں عام طور پر صرف ایک موتی ہوتی ہے۔
72	دُپچی	وہ تسمہ جو زین کے پچھلے حصے سے جڑا ہوتا ہے، دُم کے نیچے سے گزرتا اور زین کو آگے کی طرف جانے سے روکتا ہے۔
73	دوتارا	ایک قسم کی چھوٹی سارنگی جس میں دو تار ہوتے ہیں۔

ر

74	رام بانس	ایک قیمتی کپڑا۔
75	رامپور	یہ مسلمانوں کی ایک قدیم ریاست تھی جسے انگریزوں کی حکومت کے بعد انڈیا کے صوبے اتر پردیش میں ضم (شامل) کر دیا گیا جو بریلی سے مغرب کی سمت واقع ہے۔
76	رہٹ	وہ چرخ جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔

ز

77	زبرجد	ایک سبز رنگ کا زردی مائل قیمتی پتھر، زُمُرُد کی ایک قسم۔
78	زرہ	فولاد کا جالی دار لباس جو جنگ کے دوران پہنتے تھے۔
79	زعفران	ایک قسم کا نہایت خوشبودار زرد رنگ کا پھول، ایک پودا جس کے پھول زرد اور جڑ پیاز کی مانند ہوتی ہے۔
80	زُمُرُد	سبز رنگ کا قیمتی پتھر جو زیورات میں استعمال ہوتا ہے۔
81	زنبیل	کھجوروں کے پتوں سے بنی ٹوکری۔

س

82	سارنگی	ایک قسم کا ساز جس میں تار لگے ہوتے ہیں اسے چھاتی سے لگا کر گز سے بجایا جاتا ہے۔
83	سانچا	اینٹیں بنانے کا آلہ، قالب۔
84	سانڈ	بیل یا گھوڑا جسے نسل کی افزائش کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔
85	سائبان	بارش اور دھوپ سے بچانے کے لئے آہنی چادروں کا چھجہ، چھپر۔
86	سِتار	ایک قسم کا ساز جسے گز سے بجایا جاتا ہے اس میں پہلے تین تار ہوتے تھے پانچ سے سات تک ہوتے ہیں۔
87	سِقہ	پانی بھر کر لانے کا کام کرنے والا۔
88	سِلَع	مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔
89	سلیم شاہی	ایک قسم کی نازک خوبصورت انی دار جوتیاں جو دلی میں بنائی جاتی تھیں۔
90	سُمور	ایک نہایت نرم اور باریک پشم (بالوں) والا برفانی جانور، نیز اس کی کھال۔
91	سُن	ایک مشہور پودا جس کے ریشوں سے رسی اور بوریاں وغیرہ بناتے ہیں۔
92	سَنجاب	ترکستان کا ایک جانور جو چوہے سے بڑا ہوتا ہے جس کی ملائم پشم دار کھال سے پوستین بناتے ہیں۔
93	سَنکھ	ایک قسم کا باجا جو قدیم زمانے سے مندروں میں پوجا پاٹ کے وقت یا اس کے اعلان کے لئے بجایا جاتا ہے۔
94	سویا	ایک خوشبودار ساگ۔
95	سَيْحُون	وسطی ایشیا کا ایک بڑا دریا۔
96	سینٹھا	نرکل (ایک قسم کی گھاس) جس سے قلم وغیرہ بناتے ہیں، سرکنڈا۔

ش

97	شام	لکڑی یا چھڑی وغیرہ کے سروں پر چڑھایا جانے والا کسی دھات کا چھلے کی طرح کا خول۔
----	-----	--

98	شاہجہانپور	ہندوستان (انڈیا) میں ایک علاقے کا نام ہے۔
99	شطنج	ایک قسم کا کھیل جو ۶۴ چکور خانوں کی بساط پر دو رنگ کے ۳۲ مہروں (گوٹوں) سے کھیلا جاتا ہے۔
100	شقٹالو	ایک قسم کا بڑا آڑو جسے چکیا آڑو بھی کہتے ہیں۔
101	شکرا	ایک شکاری پرندہ۔

ص

102	صدری	واسکٹ۔
103	صلیب	عیسائیوں کا ایک مقدس نشان جو کراس (+) کی شکل کا ہوتا ہے۔

ط

104	طاعون	ایک مہلک اور متعدی وبائی بیماری جس میں چھاتی، بغل یا نہیے کے نیچے گلٹیاں (رسولیاں) نکلتی ہیں اور تیز بخار ہوتا ہے۔
105	ظنورہ	ستار کی طرح کا ایک ساز جس میں تین یا چار تار لگے ہوتے ہیں۔

ع

106	عُزج	ایک گاؤں کا نام جو مدینہ سے کئی منزل کے فاصلے پر ہے۔
107	عقرب	آسمان کے بارہ برجوں میں سے ایک برج کا نام، آٹھواں بُرج۔
108	عقیق	ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر یہ سیاہ، زرد، نیلا اور سفید بھی ہوتا ہے۔
109	عقیق	ایک مشہور وادی جو مدینہ منورہ کے عین مغرب کی جانب واقع ہے۔
110	علم	شہدائے کربلا کے نام کا جھنڈا جس پر نیچے کی شکل بنی ہوتی ہے۔
111	علوی	حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے نہ ہو۔

غ

112	غابہ	مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔
-----	------	--

ف

113	فالج	ایک بیماری جو جسم کے جس حصے کو لگ جائے اسے بیکار کر دیتی ہے۔
114	فُرات	عراق میں ایک دریا ہے جو کوفہ کے قریب بہتا ہے اسی کے کنارے کربلا واقع ہے۔
115	فیروزہ	ایک مشہور قیمتی پتھر جو سبز، آسمانی، نیلگوں رنگ کا ہوتا ہے۔

ق

116	قلعی	سفید رنگ کی ملائم دھات جو چاندی سے مشابہت رکھتی ہے۔
117	قندیل	ایک قسم کا فانوس جس میں چراغ جلا کر لٹکاتے ہیں۔

ک

118	کسم	ایک قسم کی گھاس جس کو مہندی میں ملا کر وسہ اور اس کی جڑ پکا کر سیاہ روشنائی بناتے ہیں۔
119	کسٹم	ایک پھول جس کو بھگونے سے گہرا سرخ رنگ نکلتا ہے اور کپڑے رنگے جاتے ہیں۔
120	کھلی	چھڑی، چھوٹا سا خون پینے والا ایک کیڑا جو عموماً کتے بکری وغیرہ کی کھال سے چپٹا رہتا ہے۔
121	کنواب	ایک قسم کا قیمتی ریشمی کپڑا۔
122	کنڈیا	پھل وغیرہ رکھنے کی ٹوکری۔
123	کنوتی	گھوڑے اور ہرن وغیرہ کے کان۔
124	کوبہ	ایک قسم کا مشہور باجا۔
125	کولو	تیل یارس بنینے (نکالنے) کا آلہ۔

126	کوٹڑا	مٹی وغیرہ کا بنا ہوا ایک برتن جو تھاں نما ہوتا ہے، مٹی کی پرات۔
-----	-------	---

کھ

127	کھپچی	بانس کا چرا ہوا کھڑا۔
128	گھیزیل	مٹی کے ٹھیکروں سے بنی ہوئی چھت۔

گ

129	گانجا	بھنگ کی قسم کا ایک پودا جس کے پتے اور بیج نشہ آور ہوتے ہیں، چلم میں رکھ کر پیئے جاتے ہیں۔
130	گج	چونایا سینٹ کا نمسالا جو اینٹوں کو جوڑنے یا پلستر کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔
131	گرجا	عیسائیوں کا عبادت خانہ۔
132	گزی	ایک ادنیٰ (گھٹیا) قسم کا سوتی دیسی کپڑا۔
133	گنچھ	ایک کھیل کا نام جو تاش کی طرح کھیلا جاتا ہے، اس میں 96 پتے اور آٹھ رنگ ہوتے ہیں اور تین کھلاڑی کھیلتے ہیں، اس کا پتا گول گتے کی شکل کا ہوتا ہے۔
134	گنگا	ہندوستان (انڈیا) کا ایک مشہور دریا۔
135	گورخر	جنگلی گدھا جو عام گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے۔
136	گونہ	سونے، چاندی اور ریشم کے تاروں سے بنا ہوا فیتا یا زری کی تیار کی ہوئی گوٹ، یا کنارے جو عموماً عورتوں کے لباس پر زینت کے لیے ٹانگی جاتی ہے۔
137	گوہ	چھکلی کی شکل کا ایک ریگنے والا جانور جو اس سے بہت بڑا ہوتا ہے اس کی دوزبانیں ہوتی ہیں۔

گھ

138	گھاگرا	ہندوستان (انڈیا) کا ایک دریا۔
139	گھنٹہ	کسی دھات کا بنا ہوا تو اچھے موگرے (لکڑی کی ہتھوڑی) سے بجاتے ہیں، بڑی گھنٹی۔

چوہے کی طرح کا ایک جانور جو چوہے سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔	گھونس	140
ایک قسم کا بجنے والا زیور۔	گھنگھرو	141
پتلا سباز مینی کیڑا۔	گھینسا	142

ل

ایک قسم کا سوتی کپڑا عموماً اس سے مردے کو کفن دیا جاتا ہے۔	لٹھا	143
زری کی تیار کی ہوئی گوٹ جو دو انگل سے چار انگل تک چوڑی ہوتی ہے۔	لچکا	144
گھلا ہوا آٹا جو لیس دار ہوتا ہے اور کاغذ وغیرہ جوڑنے کے کام آتا ہے۔	لئی	145

م

امریکہ کا بنا ہوا ایسا موٹا کپڑا جس کا عرض بڑا ہوتا ہے۔	مارکین	146
جودھ پور (بھارت کا ایک علاقہ)	مارواڑ	147
ایک نہایت نرم، ملائم، روئیں دار ریشمی کپڑا۔	مخمل	148
مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔	مر الظہران	149
یہ وہ تلی ہے جس سے کھانا پانی اُترتا ہے۔	مڑی	150
ایک قسم کا باریک سوتی کپڑا۔	ملل	151
بال اُکھیرنے کا آلہ، اوزار۔	موچنا	152
ایک درخت جس کے پتے سرخ، زردی مائل اور پھول خوشبودار کھانے میں لذیذ ہوتے ہیں اس کا پھل گول چھوہارے کی مانند ہوتا ہے اور اس کے پھولوں سے شراب بھی بناتے ہیں۔	مہوا	153
کوے سے ملتا جلتا کتھی رنگ کا ایک پرندہ۔	مہوکا	154

ن

155	ناقوس	سنگھ (ایک قسم کا باجا) جو ہندو یا دوسرے غیر مسلم پوجا کے وقت بجاتے ہیں۔
156	نرد	شطرنج کے کھیل کا پیادہ جو صرف آگے چلتا ہے پیچھے نہیں چلتا۔
157	نقبع	مدینہ منورہ سے دور ایک علاقہ۔
158	نوبت	نقارہ، ڈھول۔
159	نوروز، نیروز	ایرانی شمسی سال کا پہلا دن، یہ ایرانیوں کی عید کا دن ہے۔
160	نہائی	سندان، لوہار جس پر لوہا کوٹتے ہیں۔
161	نیل	مصر میں ایک دریا کا نام، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو اسی دریا میں غرق کیا تھا۔
162	نیم	ایک چھتاور (گھنا) درخت جس کے پتے، چھال اور پھل بہت کڑوے ہوتے ہیں اور طبی خواص رکھتے ہیں۔

و

163	وَدَجِّین	حلقوم اور مری کے آس پاس کی دو رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے۔
-----	-----------	---

ہ

164	ہارمونیم	ایک قسم کا صندوق نما انگریزی باجا۔
-----	----------	------------------------------------

ی،ے

165	یاقوت	ایک قیمتی پتھر جو سرخ، نیلا، زرد یا سفید ہوتا ہے۔
166	یشب	ایک قیمتی پتھر کا نام جو مائل بہ بنبری ہوتا ہے۔
167	یکتارا	ایک قسم کا ساز جس میں ایک تار لگا ہوتا ہے۔
168	یکہ	ایک قسم کی گھوڑا گاڑی۔

حل لغات باعتبار حروف تہجی

الف

معانی	الفاظ	معانی	الفاظ
مدت کے اندر	اندرونِ مدت	خوشی، کشادگی	إِنْبِسَاط
شک، شبہ	إِحْتِمَال	قریبی رشتے دار	أَقْرَبَاءُ، أَقَارِب
مدد	إِعَاْنَت	اجازت	إِذْن
نسبت	إِضَافَت	اجرت پر کام کرنے والا، ملازم، مزدور	أَجِير
پورا کرنا، پورا ہونا	إِسْتِيفَا	دوست	أَحْبَاب
امیر لوگ، مالدار لوگ	أَغْنِيَا	بچنا، پرہیز کرنا	إِحْتِرَاز
روک تھام	إِنْسِدَاد	آخرت سے متعلق	أُخْرَوِي
مذاق اڑانا	إِسْتِهْزَا	بات، حکم، معاملہ	أَمْر
کسی معاملے کو ختم کرنے کا اختیار	إِخْتِيَارِ فِسْخ	شرعی یا قانونی سرپرست	أَوْلِيَاء
کم درجہ، گھٹیا	أَدْنَى دَرَجَه	گھوڑے باندھنے کی جگہ	أَصْطَبَل
نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا	إِنْتِفَاع	کنارہ کشی کرنا، پرہیز کرنا	إِجْتِنَاب
زیادہ صحیح	أَصَح	بری کر دینا، اپنا حق چھوڑ دینا	إِبْرَا
ساقط کرنا، ساقط ہونا، حق معاف کر دینا	إِسْقَاط	فرق، شناخت	إِمْتِيَاز
سونے کا سکہ	أَشْرَفِي	اکٹھا ہونا، جمع ہونا	إِجْتِمَاع
منت سماجت کرنا	إِلْحَاح	مشغول ہونا، مصروف ہونا	إِسْتِغْال
بے جانے بوجھے، اوٹ پٹانگ	أَنْكَلِ پِجْو	امانت دار	أَمِين
گواہ بنانا	إِشْهَاد	بادل	أَبْر
قانونی یا اخلاقی حق حاصل ہونا مستحق ہونا	إِسْتِحْقَاق	قبول کرنا، رفع حاجت	إِجَابَت

انازی	نا تجربہ کار، ان جان، نا واقف	اُچْگا	اُچک لینے والا، چور
اِسْتِعْدَاد	قابلیت، قدرتی صلاحیت	اِسْرَاف	فضول خرچی
اَبْرَا، اَبْرَه	دوہرے کپڑے کی اوپری تہ	اَسْتَر	دوہرے کپڑے کی نچلی تہ
اِفْرَاط و تَفْرِيط	کمی بیشی، غیر معتدل حالت	اُدْهِيْزَا	کھولنا
اَفْلَاس	تنگ دستی	اِخْتِرَاع	من گھڑت، نو ایجاد
اِزَالَه	زائل کرنا، دور کرنا، مٹانا	اَوْرَام	ورم کی جمع، سوجن
اَعْرَج	لنگڑا	اَعْمَى	اندھا
اَعْمَش	کمزور نگاہ والا، جس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہو	اِحْرَام	عزت و احترام
اَحْوَل	بھینگا، ٹیڑھی آنکھ والا	اَعَاْجِم	عجمی لوگ، غیر عربی لوگ
اُلْفَت	محبت	اِسْتِغَاثَه	فریاد
اِبْهَام	پوشیدہ معنی، وضاحت نہ ہونا	اِكْهَازَا	گشتی کامیدان
اِنْهَادَم	گرانہ، مسمار کرنا	اِزْدَهَام	ہجوم، بھیر
اَنْدِيْشَه	گمان، شک، خطرہ	اَيَاج	لولہ لنگڑا، ہاتھ پاؤں سے معذور
اِيْصَا	وصیت کرنا	اَبْعَد	زیادہ دور، بعید تر
اَقْرَب	قریبی رشتہ دار	اَنْ گِنْت	بے شمار
اِرْتِدَاد	مرتد ہونا، اسلام چھوڑ دینا	اَكْهَرَى	یکطرفہ
اِسْتِقْرَاء	تلاش، جستجو، غور و فکر		

آ

آفت	مصیبت	آڑھتی	کمیشن لیکر مال بیچنے والا
آلام	الم کی جمع، رنج، غم، دکھ	آب پاشی	زمین کو پانی دینا، سیراب کرنا
آفتاب	سورج	آفتِ سماویہ	قدرتی آفت
آمِيْزِش	ملاوٹ	آبرو	عصمت، عزت

آثارِ جُوْلِیْت	مرد ہونے کی نشانیاں	آسودہ	جس کی بھوک مٹ چکی ہو، سیر شدہ
-----------------	---------------------	-------	-------------------------------

ب

بلا ضرورت	بغیر کسی ضرورت کے	بَّیْعٌ وَشِرَاءٌ	خرید و فروخت
بشرط العوض	عوض (بدلے) کی شرط کے ساتھ	بَانِعٌ	فروخت کرنے والا
بُلُوْغٌ	بالغ ہونا	بِدْخُلُقٍ	بُرے اخلاق والا
بِلا قَصْدٍ	ارادہ کے بغیر، بلا ارادہ	بِلا مُعَاوَضَةٍ	معاوضے کے بغیر، بلا اجرت
بدونِ دعویٰ	دعویٰ کے بغیر	بیت مُعین	مخصوص کمرہ
بدائِرات	برے اثرات	بَدِیْہِیْ بَاتٍ	واضح بات
بَاعِثِ ذَلَّتْ	رسوائی کا سبب	بُھنائی	اناج بھوننے کی اجرت
بے وقعتی	بے قدری	بَاعِثِ نِزَاعٍ	جھگڑے کا سبب
بار برداری	بوجھ اٹھا کر لے جانا، بوجھ اٹھانے کی اجرت	بَاہِمٌ	آپس میں
بِلا مِعَادٍ	مدت کے بغیر، مدت مقرر نہ کرنا	بے جا	بے موقع، فضول، نامناسب
بَثْوَارًا	تقسیم	بَبِیَّاکٍ	بے پروا، آوارہ، بے خوف، اوباش
بھونکنا	گھونپنا	بَنَاوْتُ	کارگیری، ساخت
بَبِیَّاقٍ	ادا کر دینا، چکا دینا	بے محل	بے موقع
بقدرِ حاجت	ضرورت کے مطابق	بَبَخُوْرٍ کَرِنًا	دھونی لینا، خوشبودار چیزیں سلگانا
بُھٹیس	وضع قطع، طور طریقہ، روپ	بُھئید	راز، پوشیدہ بات
بَاوْلًا	پاگل	بے دَسْتِ وَپَا	ہاتھ پاؤں سے معذور
بَبِیْشِ قِیْمَتٍ	مہنگا، قیمتی	بِلا تَقْدِیْمٍ وَتَاخِیْرٍ	آگے پیچھے کے بغیر، مقدم و موخر کے بغیر

پ

پَبِیْشْتَرٍ	پہلے	پَبِجْہِیْتٍ	مکان کی پچھلی دیوار
پَبِیْشُوْخِی	کنارہ گشی، احتراز	پَبِیْزٍ	درخت

پارسانی	پاکدامنی	پچھاڑنا	زمین پر شیخ دینا، زمین پر دے مارنا
پلاؤ	پالا ہوا، گھریلو جانور		

ت

تردید	کسی بات کو رد کرنا	تَمْلِیک	مالک بنانا
تَبَعًا	تابع ہو کر، ضمناً	تَلْف	ضائع
تَصْرُفٌ	عمل دخل، استعمال کرنا، خرچ کرنا	تَكْذِیب	جھٹلانا
تَصَدَّقَ	صدقہ دینا	تُرْشٌ رُوْنِی	بدمزاجی، چڑچڑاپن
تَمَامِیَّت	مکمل ہونا، تمام ہونا	تَعْمِیم	عام کرنا، ہر ایک کو شامل کرنا، عام ہونا
تَبْرُعٌ	احسان، بخشش، اپنے طور پر کام کرنا	تَصْرِیح	واضح کرنا، صاف طور پر بیان کرنا
تُجَّارٌ	تاجر لوگ	تَغْیِرٌ	تبدیلی
تَعَدَّى	زیادتی، بے جا تصرف	تَرَاضِی	باہمی رضامندی
تَرْدُدٌ	شک و شبہ	تَهَائِی	تیسرا حصہ
تَعْفَنٌ	بدبو	تَسْلِیم	سپرد کرنا، حوالے کرنا
تَفَاوُتٌ	فرق	تَغْیِیرٌ	بدل دینا
تَقْرُبٌ	نزدیکی، قرب، بذریعہ عبادت اللہ کا قرب، ہونڈنا	تَقْسِیمٌ کُنِندِ گان	تقسیم کرنے والے
تَسْکِین	اطمینان، تسلی	تَكْلُفَات	نمائش، ظاہر داری
تَرْکِیب	مختلف اجزاء کو جوڑ کر ایک کر دینا، تدبیر	تَشْبِہ	یعنی مشابہت اختیار کرنا
تَحْرِی	غور و فکر	تَهْرَکِنَا	اعضا کو حرکت دینا
تَغَاوُلٌ	بے توجہی، بے پرواہی	تَادِیْب	ادب سکھانا، اخلاقی تربیت
تَمْکُنٌ	قدرت، قبضہ، ممکن ہونا	تَام	مکمل

ٹ

ٹھگنا	دھوکے سے کچھ لے لینا، دھوکا دینا		
-------	----------------------------------	--	--

ث

ثُلث	تیسرا حصہ	ثانی	دوسرا
ثبوتِ ملک	ملکیت کا ثبوت	ثالث	بیچ، فیصلہ کرنے والا

ج

جہالت	بے علمی	جملہ مَصَارِف	تمام اخراجات
جنس	قسم	جَبْرًا	زبردستی، مجبور کر کے
جازا	سردی	جاندا امبیعہ	بیچی ہوئی جائداد
جار	پڑوسی	جَسَارَت	جرات
جَبْر	زبردستی	جَوْتَنَا	ہل چلانا، زمین کو کاشت کے قابل بنانا
جارج	زخمی کرنے والا	جُزْدَان	وہ بستہ جس میں قرآن مجید رکھتے ہیں
جُسْتَجُو	تلاش	جِنْسِ اَرْض	زمین کی قسم
جہلی	باریک کھال		

چ

چلن	رانج، رواج	چاند ماری	نشانہ بازی
چت	پیٹھ کے بل	چھلا	دھات کا بنا ہوا حلقہ، ایک قسم کی انگھوٹی
چھاتی	پستان	چشکائے	چٹائے
چُغہ، چُغَا	جبہ، کھال کا کوٹ	چرسا	چمڑے کا بڑا ڈول
چاہ	کنواں	چندلا	گنجا، جس کے کہیں کہیں پیدائشی بال نہ ہوں
چھٹپن	بچپن		

ح

حق تلفی	کسی کا حق مار لینا، نا انصافی	حَلْف	قسم
حُرْمَت	حرام ہونا، عزت	حَمَال	بوجھ لادنے والا، بوجھ اٹھانے والا

حَفَظَ	حفظت، محافظت، نگہبانی	غسل خانہ، نہانے کی جگہ	حَمَام
حَقِ فُسْح	منسوخ کرنے کا حق	طویل قید، لمبی مدت کی قید	حَبْسٌ مَدِيد
حِلَّتْ	حلال ہونا، مباح ہونا	زندگی	حَيَات
حُسَام	تیز تلوار	بوجھ	حَمُولَه
حَقِ قِرَابَت	رشتہ داری کا حق	ہمسائیگی کا حق	حَقِ جَوَار
حَائِل	آڑ، رکاوٹ	بردباری	حِلْم
حَالِق	بال مونڈنے والا	گلا، مونڈنا، مونڈوانا	حَلَق
حِرْمَان	محرومی	آزاد	حُر

خ

اختیار	خسارہ	نقصان	خِيار
باہر نکلنا، برآمد ہونا	خُفِيَةٌ	چھپا کر، پوشیدہ طور پر	خُرُوج
امانت میں ناجائز تصرف	خُصُومَت	جھگڑا، مقدمہ	خِيَانَت
آپس میں ملا دینا، کس کر دینا	خَائِبٌ وَخَاسِر	محروم اور نقصان اٹھانے والا	خَلَطَ كَرْنَا
موسم خزاں	خَوْدَرُو	قدرتی پیدا ہونے والا، قدرتی اگنے والا	خَرِيف
اناج کا ڈھیر لگانے کی جگہ	خَلُوق	ایک خوشبو جو عنبر، مشک، کافور کی ملاوٹ سے بنتی ہے	خِرْمَن
جسے خارش کی بیماری ہو	خَارِشِي	جسے خارش کی بیماری ہو	خَارِشْتِي
اپنی تعریف آپ کرنا	خِلْقَت	بناوٹ، پیدائش	خَوْدِسْتَانِي
قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر			خِلْقَةٌ

د

جان بوجھ کر	دام	روپے پیسے، نقدی، قیمت	دَانِسْتَه
قرض، ادھار	دَيْن مِيعَادِي	وہ دین جس کی ادائیگی کا وقت معین ہو	دَيْن
کمیشن لیکر مال بیچنے والا، آڑھتی	دَفِينَه	دفن کیا ہوا مال، خزانہ	دَلَال

دست گرداں	ایسا قرض جو کم مدت کے لئے دیا جائے	دعویٰ	مطالبہ، درخواست، مقدمہ
دَلّٰی	کمیشن کے پیسے، اجرت	دواوین	دیوان کی جمع، شاعری کی کتابیں
دستاویز	کسی معاملہ کا تحریری ثبوت	ذیندار	مقروض
دائیں چلانا	کھلیان پر بیلوں کو چلانا	دقت	دشواری، مشکل
دوچند	دگنا	دعوات ماثورہ	قرآن و حدیث سے منقول دُعائیں
دِنَانَت	کمینگی، کم ظرفی، کمینہ پن	دائین	قرض دینے والا، قرض خواہ
دُونا	دُگنا	دَم ساز	رازدار، ہمدرد
درِ دِزہ	بچہ پیدا ہونے کا درد	دوہری	دو طرفہ

ذ

ڈھیلا	مٹی کا ٹکڑا، پتھر کا ٹکڑا، اینٹ کا ٹکڑا		
-------	---	--	--

ذ

ذی عزت	معزز، محترم	ذی الٰہد	قابض، قبضہ والا
ذی وَجَہت	صاحب مرتبہ، معزز، محترم	ذابِح	ذبح کرنے والا
ذَکَر	آلہ تناسل	ذہابِ بَصْر	نظر کا ختم ہو جانا
ذوقِ علمی	علم حاصل کرنے کا شوق		

ر

رَہن	گروی	رَہن	گروی رکھوانے والا
رَبَوٰی	سودی	رَبِيع	موسم بہار
رُشد	ہوشمندی	ریا	دکھاوا
رائج	لاگو، دستور کے مطابق، نافذ، جاری، چلتا	رُوحِ الْقُدُس	جبریل امین علیہ السلام
رائیگاں	ضائع	رُفقا	رفیق کی جمع، دوست

ز

میاں بیوی	زَوْجِیْن	ختم ہونا	زائل ہونا
بناؤ سنگار	زینت	ملکیت کا ختم ہونا	زوالِ ملک
بیوی	زَوْجہ	خاوند	زَوْج
زیارت کرنے والا	زائر	بمجزے، عورتوں کی چال ڈھال والے	زَنْحُونُ
زخمی	زَعْمُ خُوْرَدَه	مارپیٹ	زدوکوب

س

جلانے کے قابل	سَوْخْتِنِی	اثر کرنا، جذب ہونا	سرایت
حصے	سِہام	رہائش، اقامت گاہ	سکونت
خلال، وہ تیلی جس سے خلال کرتے ہیں	سِیْنِک	احتمق، بے وقوف	سَفِیہ
مناسب، مستحق، لائق	سزاوار	خاموشی	سُكُوت
ایسی باتوں کو روکنا جن کے ذریعے برائی کا خطرہ ہو	سَدِّذِرَاع	روٹی یا اون سے کاتا ہوا دھاگا	سُوت
آب پاشی	سِیْنِج	سونے کا چوڑا ٹکڑا	سونے کا پتر
آسان	سَهْل	آگے بڑھنے والا	سابق
پانی کی سبیل	سِقَایَہ	عمر	سین

ش

ٹوٹ پھوٹ، نقصان	شِگْسْت و رِیْحْت	اوٹ	شُتْر
طور طریقہ، عادت	شِیَوَہ	پیٹ	شِگْم
انسان کے پیشاب و پاخانہ کا مقام	شِرم گاہ	کھاری زمین	شُوْرْزَمِیْن
مچھلی پکڑنے کا کائنا	شِصْ	عام راستہ	شَارِعْ عام
سوگھنے کی قوت	شَم	دلچسپی، ذوق، لگاؤ	شَغْف
بڑی کڑی	شَهْتِیْر	دوگواہ	شَاهِدِیْن
خاص راستہ	شَارِعْ خاص	دودھ پینے والا چھوٹا بچہ	شِیْرْ خَوَار

ص

صِرَاحَةٌ	صاف، واضح طور پر	صَرَفَهُ	خرچہ
صُجْبَتٌ	ہم بستری، جماع	صَرَفَ	خرچ
صَرَافٌ	سار، سونے کا کاروبار کرنے والا	صَبِي	بچہ
صَرِيحٌ	واضح	صَوَابٌ	درست
صَارِفٌ	خرچ کرنے والا	صُدُّورٌ	واقع ہونا، عمل میں لانا
صَوْتٌ	آواز	صَادِرٌ هَوْنًا	وقوع پذیر ہونا، نافذ ہونا
صَحِيحُ الْجِسْمِ	صحیح بدن والا		

ض

ضُرٌّ	نقصان، ایذا	ضَامِنٌ	ذمہ دار، ضمانت دینے والا
ضِيَافَةٌ	مہمانی، دعوت	ضَارِبٌ	مارنے والا
ضَرْبٌ	مارنا	ضُعْفٌ	کمزوری

ط

طَبْلٌ	بڑا ڈھول	طَشْتٌ	بڑا برتن، بڑا تھاں
طَبِيرَةٌ	بدقالی	طُغْرَانِيٌّ اِمْتِيَاظٌ	بڑائی کی علامت
طَوْلٌ	لمبائی		

ظ

ظَنِيٌّ غَالِبٌ	غالب گمان	ظَرْفٌ	برتن
-----------------	-----------	--------	------

ع

عَاقِدٌ	عقد کرنے والا، معاملہ طے کرنے والا	عَزِيْزٌ	رشتہ دار
عَاجِزٌ	کمزور، بے بس	عُقُوْدٌ	عقد کی جمع، قول و قرار
عَوْدٌ	لوٹنا	عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ	اسی پر قیاس کرتے ہوئے

عدم موجودگی	غیر موجودگی	عُقُوبَات	سزائیں
عَمْدًا	جان بوجھ کر	عُشْر	دسواں حصہ
عَرَضٌ	چوڑائی	عِبْث	فضول، بے فائدہ
عَارِيَةٌ	عارضی طور پر	عَفْوٌ	معافی، درگزر
غُيُوبٌ	عیب کی جمع، نقائص	عَالَمٌ	دنیا، جہان
عَفِيفَةٌ	پارسا عورت، پاکدامن عورت	عِتْقٌ	آزادی
عُلُوٌّ هِمَّتٌ	بلند ہمتی، بہادری	عِدَاوَةٌ	دشمنی
عَقَارٌ	غیر منقولہ جائیداد	عَبْدٌ مَأْذُونٌ	وہ
عُصُوبٌ	عصبہ ہونا	عَقْدٌ	قول و قرار کرنا، کوئی معاملہ طے کرنا

غ

غاصب	نا جائز قبضہ کرنے والا	غیر قابل قسمت	جو تقسیم کے قابل نہ ہو
غرما	قرض خواہ	غیر اموال ربویہ	غیر سودی اموال
غلیظ	ناپاک، گندہ	غیر منقولہ	جو دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکے

ف

فُصْدٌ	پچھنے لگانا، رگ سے خون نکالنا	فَسْحٌ	ختم
فُتُورٌ	خرابی، نقص	فَرَبَةٌ	موٹا، صحت مند
فَلَاحٌ	کامیابی	فِسْقٌ	اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
فُسَّاقٌ	فاسق لوگ۔ گناہ کرنے والے	فُجَّارٌ	فاجر لوگ یعنی بدچلن لوگ
فَهْمٌ	سمجھ	فَرَسٌ	گھوڑا

ق

قضا	شرعی فیصلہ	قَبْلُ الْقَبْضِ	قبضہ سے پہلے
قُرْبٌ	وطی، ہم بستری، تقرب	قُقُلٌ	تالا

قاصد	پیغام پہنچانے والا، ڈاکیا	قَصْد	ارادہ
قابض	اپنے قبضہ میں لینے والا، قبضہ دار	قَابِلُ اِنْتِفَاع	نفع اٹھانے کے قابل
قَصْدًا	ارادہ، جان بوجھ کر	قَضَاءِ قَاضِي	قاضی کا شرعی فیصلہ
قابل قسمت	تقسیم کے قابل	قُصُور	کوٹاہی، کمی، غلطی
قِبَال	تسے	قَاطِع	کاٹنے والا، تعلق توڑنے والا
قَبْضِ ثَمَنِ	ثمن پر قبضہ کر لینا، قیمت وصول کر لینا	قَرِيْبَه	گاؤں، بستی
قدر کفایت	اتنی مقدار جو اس کے لیے کفایت کرے	قَسَاوَتِ قَلْب	دل کی سختی
قوة قرابت	رشتہ کی مضبوطی	قَتِيْل	مقتول
قَبِيْح	بُرا	قَوْت	طاقت
قُبَّه	گنبد	قِيَم	نگران، انتظام کرنے والا، متولی

ک

كَالْعَدَم	گویا کہ ہے ہی نہیں، نہ ہونے کی مثل	كَنِيز مَشْرَك	ایسی لونڈی جس کے مالک دو یا زیادہ ہوں
كَانْهِي	لکڑی کی بنائی ہوئی نشست جو زین کے مشابہ لیکن اس سے قدرے بڑی ہوتی ہے	كَاذِب	جھوٹا
كَزِي	شہتیر، لوہے کا بنا ہوا چھوٹا حلقہ	كَاتِب	لکھنے والا
كَهَانِب	نکڑا، قاش	كَمْ فَهْمِي	سمجھ کی کمی، بیوقوفی
كَهْنُكَل	پلستر	كُوْجَهٗ سَرْبِسْتَه	بندگی
كَهْرَبَجِي	بانس کا چراہوا نکڑا	كُوْجَهٗ نَافِذَه	عام راستے والی گلی
كَفَالَت	ضمانت	كَفِيْل	ضامن
كُوْجَه	گلی	كَنْف	پناہ، حفاظت
كَئِيْرِي	آم کی شکل کے پھول، چھوٹا کچا آم	كَف	ہتھیلی، آستین
كَسْرِ شَان	خلاف شان	كَسْل	ستی

کوئل	سچا ہوا گھوڑا، بغیر سوار گھوڑا	کلاوہ، کلابہ	تکے پر لگا ہوا کچا سوت
کُنڈا	مٹی کا برتن، پرات	کُشادہ	وسیع
کھیلے	جانوروں کے نوکیلے دانت	کوسج	چھدری داڑھی والا
کانا	ایک آنکھ والا، ایک آنکھ سے اندھا	کُوْبہ	ایک قسم کا باجا

گ

گرسنگی	بھوک	گلانا	پگھلانا
گلہ	چوپایوں کا ریوڑ	گیہوں	گندم
گوپا	گانے والا	گران	مہنگا، مشکل، تکلیف دہ
گھرس دینا	گھسیڑنا، کسی چیز میں اٹکا دینا	گھنگھرو	ایک قسم کا بجنے والا زیور
گھمنڈ	غرور	گج	چونا
گپھا	گچھا	گابھن	حاملہ جانور
گہات	تاک، چال، موقع	گھائل	زخمی
گھیر گھار کر	گھیرا ڈال کر، محاصرہ کر کے	گھونسہ	مکا
گھنڈی	پستان کا سر	گڈی	گردن کا پچھلا حصہ
گلفام لب	گلابی ہونٹ	گرجا	عیسائیوں کا عبادت خانہ

ل

لُئس	پہننا	لگان	زمین کا خراج
لاغر	کمزور، دبلا پتلا	لُنجھا	ہاتھ پاؤں سے معذور
لُغو	فضول، بے فائدہ	لُغویات	بیکار اور فضول باتیں یا کام
لُئیم	کمینہ، گھٹیا	لُغزِش	سہو، خطا، بھول چوک

م

مُتبرِع	بھلائی کرنیوالا، بلا معاوضہ کام کرنیوالا	منگنی	عاریۃ لی ہوئی چیز۔ عاریۃ چیز لینا
---------	--	-------	-----------------------------------

ممانعت	روک، منع	مولیٰ	مالک، آقا
مَزْرُوعہ زمین	کاشت کی ہوئی زمین	مُجَاهِدہ	ریاضت کرنا، نہایت لگن سے عبادت کرنا
مُظْهِر	ظاہر کرنے والا	مَضْمَر	پوشیدہ
مَوْلِد	جائے پیدائش، وطن	مَعِيشَت	روزگار، روزی
مُسْتَحْكَم	مضبوط	مُشْرَفٌ بِاسْلَامٍ ہونا	مسلمان ہونا
مُعَالِج	ڈاکٹر، علاج کرنے والا	مَعْيُوب	عیب والا
مُتَمَيِّز	عیان، ممتاز، الگ تھلگ	مَابَقِي	جو باقی ہو، بچا ہوا
مِلْك	ملکیت، قبضہ	مَدْخُولہ	ایسی عورت جس سے صحبت کی گئی ہو
مَوَكَّل	وکیل بنانے والا	مَجْلِسِ عَقْد	وہ مجلس جس میں عقد ہو
مُتَعَيِّن	معین کیا ہوا، مقرر کیا ہوا	مَجْهُول	نامعلوم
مُنْكَر	انکار کرنے والا	مُنْكَر	خلافِ شرع چیز، بُرائی
مِيعَاد	مدت	مَذْيُونہ	وہ عورت جو مقروض ہو
مَحْسُوب	شمار کیا ہوا، حساب میں لایا ہوا	مَنْفَعَت	فائدہ، نفع
مُعَاوَضہ	بدلہ، عوض	مَعْرُوف	مشہور، معلوم، ظاہر
مُتَفَرِّق	جدا جدا، علیحدہ علیحدہ	مَسَافَت	دوری، فاصلہ
مَصَارِف	اخراجات، خرچ کرنے کی جگہیں	مَآہ بَمَآہ	ماہوار، ماہانہ، ہر مہینے
مِیْكَآ	عورت کے والدین کا گھر	مُضِر	نقصان دہ، نقصان دینے والا
مُقِر	اقرار کرنے والا، تسلیم کرنے والا	مُشْتَرِي	خریدار
مَبِيع	فروخت شدہ چیز	مُورِث	میراث چھوڑ کر مرنے والا شخص
مَوْطُونہ	جس عورت کے ساتھ وطن کی گئی ہو	مَقْدُور	قدرت، طاقت
مَكْتُوب إِلَيْہ	جس کی طرف خط لکھا	مُجْرآ	کٹوتی
مُعَلِّمِينَ	سکھانے والے، راہنمائی کرنے والے	مُضْرَت	نقصان، جسمانی تکلیف

مَجْهُولُ النَّسَبِ	جس کا باپ معلوم نہ ہو	مذاهبِ باطلہ	اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب
مَعْدوم	غیر موجود، ناپید	مانعِ صحت	صحیح ہونے میں رکاوٹ
مُزَارِع	کاشتکار	مُہْرَكَن	انگوٹھی بنانے والا، مہر بنانے والا
مُنْكَرِين	انکار کرنے والے	مانع	منع کرنے والا، رکاوٹ
مُتَوَسِّط	درمیانہ، درمیانی	مباشرت	بیوی سے ہمبستری کرنا
مَعْرُوفُ النَّسَبِ	جس کا باپ معلوم ہو	مؤاخذہ	گرفت، پکڑ، باز پرس
مُنْقَطِع	ختم	متاع	ساز و سامان، مال اسباب
مُسْتَفْرَق	ڈوبا ہوا، گھرا ہوا	موافق	مطابق
منہدم ہو گیا	گر گیا	موضح	وضاحت کرنے والا
مَصْرَف	خرچ کرنے کی جگہ	مخلوط	ملا ہوا، ملایا ہوا
مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ	چیز دوسرے کے سپرد کرنے پر قادر ہونا	مُبادِلہ	کسی چیز کا باہمی تبادلہ
مُصَحَّف شریف	قرآن مجید	مُقَيَّد	قید کیا ہوا، مشروط
مُقْرِض	قرض دینے والا	مُتَوَلَّى	انتظام کرنے والا
مُتَنَازِع فِيهَا	جس معاملہ میں جھگڑا ہو، اختلافی بات	مِلْكِ غَيْر	دوسرے کی ملکیت
مکتوب	لکھا ہوا، خط	مَغْضُوب	غضب کی ہوئی چیز
مَرهُون	گروی رکھی ہوئی چیز	مُفِيد	فائدہ مند
مَلَّاح	کشتی چلانے والا	مُنَازَعَت	جھگڑا
مَدْيُون	مقروض	مُخْبِر	خبر دینے والا
مَذْبُوح	ذبح شدہ	مَذْبَح	ذبح کرنے کی جگہ
مُساوات	برابری	مَرغوب فِيه	جو پسند ہو، جس میں دلچسپی ہو
مَشْفُوعَه	شفعہ کی ہوئی جائیداد	مختص	معین، مقرر، مخصوص
مِنهَا	کٹوتی	مَطَب	کلینک، ہسپتال

مینگ	سینگ کی جڑ	میندھ	کھیت کی منڈیر
مُتَّهَمٌ	جس پر تہمت لگائی گئی ہو	مُصْرَحٌ	صراحت کیا گیا، تصریح شدہ
مُفْلِسٌ	دیوالیا، محتاج	مَمْلُوكٌ	جو ملکیت میں ہو، لونڈی، غلام
منیحہ	ٹے، حقے کی نلی	مُغْرَقٌ	سونے چاندی میں لپا ہوا، سونے چاندی سے لدا ہوا
مُزْنِيهٌ	وہ عورت جس سے زنا کیا گیا ہو	مُضْطَرٌّ	مجبور
مُتَكَبِّرِينَ	تکبر کرنے والے	مُتَجَبِّرِينَ	جبر کرنے والے
مُنَجِيهٌ	عذابِ الہی سے نجات دلانے والی	مَوْضِعٌ اِحْتِيَاظٌ	احتیاط کی جگہ، مقام احتیاط
مُعْتَكِفٌ	اعتکاف بیٹھنے والا، اعتکاف کرنے والا	مُتَصَوِّفٌ	بناوٹی صوفی
مَجْرُوحٌ	زخمی	مَالٌ	انجام
مُبَهَّمٌ	ایسی بات جس کا مطلب واضح نہ ہو	مَوْبَافٌ	کپڑے کی پٹی جو عورتیں بالوں کی چوٹی پر لگاتی ہیں، پونی
مُتَحَارِبِينَ	باہم لڑنے والے، جنگ کر نیوالے	مُتَنَفِعٌ بَهَا	جس سے نفع حاصل کیا جائے، فائدہ مند چیز
مَفْرُوضَةٌ	فرض کی ہوئی بات	مُمَاثَلَةٌ	برابری
مَجْذُومٌ	کوڑھی، برص والا	مَضْرُوبٌ	مارا ہوا، ضرب کھایا ہوا
مَقْطُوعُ الْأَنْفِ	جس کی ناک کٹی ہو	مَوْضِعُ زَحْمٍ	زخم کی جگہ
مَقْطُوعُ الْيَدِ	جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو	مُصَالِحَةٌ	صلح
مَادُونَ النَّفْسِ	قتل سے کم	مُسْقِطٌ عَلَيْهِ	جس پر گرا ہے
مَحْجُورٌ	معاملات سے روکا ہوا	مَحْزُونٌ	غمگین ورنجیدہ
سُكَّانٌ	رہائشی، رہنے والے	مُحِيطٌ	احاطہ کیے ہوئے
مَغْمُومٌ	رنجیدہ، غم زدہ	مُجِيزٌ	اجازت دینے والا
مَقَابِرُ مُسْلِمِينَ	مسلمانوں کا قبرستان	مَحَاصِلٌ	آمدنی
مَنْدُورِبَةٌ	جس کی منت مانی گئی		

ن

نَسَبٌ	نسل، سلسلہ خاندان	نِجْهَاوَرٌ	لٹانا، سر کے اوپر سے بکھیرنا
نَگ	نگینہ، انگلی وغیرہ پر لگا ہوا پتھر	نَادَارٌ	غریب، محتاج، کنگال

نَاسْمُوع	نا قابلِ سماعت، نامقبول	نُكُول	قسم سے انکار
نَمُود	نمائش، دکھاوا	نَفَقَةُ عِدَّت	عدت گزارنے کا نفعہ
نُقُود	نقدی، سونا، چاندی، روپے وغیرہ	نَافِذ	لاگو، موثر
نَقِيه	کمزور، ضعیف	نَاقِص	ناکمل
نَوْبَت	نقارہ	نِفاق	منافقت، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ
نَنگ	شرم، رسوائی، ذلت	نَفَر	چند آدمیوں کا گروہ
نَوَع	قسم	نُقَبَا	قوم کے سردار
نَقْض	توڑنا	نَصْبُ كَرْنَا	لگانا
نَكِيل	اونٹ کی مہار	نَب	نوکِ قلم

و

وِلَايَت	سرپرستی	وَلِي	سرپرست
وَطِي	ہم بستری، جماع، مباشرت	وَزَنَه	وارثین میت
وَدِيْعَت	امانت	وِيْرَانَه	غیر آباد جگہ، جنگل
وَحْشِي	جنگلی جانور	وَسْمَه	نیل کے پتے جن سے خضاب تیار کیا جاتا ہے
وُسْعَت	کشادگی	وَاضِع	رکھنے والا
وُجُود وَعَدَم	کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا		

ہ

هَلَاكُ كُنْبُدَه	ہلاک کرنے والا	هَدِيَّة	بطور تحفہ
هَنُوز	ابھی تک	هَزَل	مذاق
هِيْت نَاك	خوف ناک	هَبَه	تحفہ
هَلْجَل	گھبراہٹ، بے قراری	هَتَك	بے عزتی، توہین

ی

يَوْمِيَه	روزانہ	يَكْسَا	برابر، ایک جیسا
يَوْمُ الْقَبْض	قبضہ کے دن	يَمِيْن	قسم
يَوْمُ اَضْحٰى	قربانی کا دن	يَوْم	دن

تفصیلی فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
16	کسی کو دینا شرط ہو اس کی صورتیں	چودھواں حصہ (14)	
16	موت یا جنون سے مضاربت باطل ہو جاتی ہے	1	مضاربت کا بیان اور اس کے شرائط
16	مضارب مرگیا اور مال مضاربت کا پتا نہیں ہے	4	مضاربت کا حکم
17	مضارب یا رب المال مرتد ہو جائے تو کب مضاربت باطل ہوگی	4	نقصان جو کچھ ہوگا وہ رب المال کا ہوگا اور اس سے بچنے کی ایک صورت
17	مضارب کو معزول کر دیا تو کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں		مضاربت فاسد ہو جائے تو مضارب کو اجرت مثل ملے گی مگر وصی نے نابالغ کا مال مضاربت فاسدہ پر لیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا
18	مضارب کو ختم کر دیں تو بقایا کون وصول کرے گا نفع ہوا ہو تو مالک بقایا وصول کرنے سے مضارب کو منع نہیں کر سکتا	4	مضاربت اور ابضاع میں کام کرنے والے کے پاس مال امانت ہے
19	مال مضاربت سے جو خرید اس میں عیب نکلا تو مضارب ہی دعویٰ کرے گا اور اسی پر دعویٰ ہوگا	5	رب المال یا عاقد کے کام کرنے کی شرط اور اس کی صورتیں
19	خیار رویت مضارب کو حاصل ہوتا ہے رب المال کو نہیں	6	مضارب و رب المال میں صحت و فساد کے متعلق اختلاف
19	نفع کی تقسیم	6	مضاربت مطلقہ و مقیدہ کے فرق اور ان کے احکام
20	رب المال مالک کو دے دینے کے بعد تقسیم صحیح ہوگی اس کے بغیر صحیح نہیں	7	مضارب کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں
20	نفع تقسیم کر لیا مگر مضاربت بدستور باقی رکھی یہ تقسیم نامعتبر ہے اور مضاربت توڑ دی پھر جدید مضاربت کی تو تقسیم صحیح ہے	13	مضارب نے بغیر اجازت مالک دوسرے شخص کو بطور مضاربت مال دے دیا اس کی صورتیں
21	نفع کے متعلق جو طے ہو چکا ہے اس میں کمی و بیشی کی جا سکتی ہے	14	اجازت مالک سے مضارب نے مضاربت کے طور پر مال دیا اس کی صورتیں
21	مالک نے کہا اس مال دے دو باقی جو کچھ ہے وہ تمہارا	15	مضارب یا رب المال کے غلام کی نفع میں ایک تہائی شرط کی
		15	غلام ماذون نے اپنے مولیٰ کے کام کرنے کی شرط کی
			نفع کی ایک مقدار مساکین کو دینا یا حج میں صرف کرنا یا

29	یا چھڑا خرید کر جوتے موزے بنوائے یہ جائز ہے	21	مالک نے مضارب سے بضاعت یا مضاربت پر مال لیا
	ایک ماہ کے لیے روپیہ دیا اور کہہ دیا کہ مہینہ گزر گیا اور	22	مضارب کے مصارف کس کے ذمہ ہیں
29	ادانہ کیا تو قرض ہے		مالک مر گیا اور اُس پر دین ہے جو کل مال کو مستغرق
29	مضارب کو پیسے دیے اور ان کا چلن بند ہو گیا		ہے تو مضارب نفع کا حصہ پہلے لے گا اُس کے بعد کچھ
29	باپ نے بیٹے کے لیے مضاربت کی	23	بچے وہ قرض خواہوں پر تقسیم ہوگا
30	رب المال نے مال مضاربت بیچ ڈالا اُس کے احکام	23	خریدنے اور بیچنے پر اجیر نہیں کر سکتا اور اُس کے جواز کا طریقہ
	مضارب اپنے ہمراہی کے پاس مال چھوڑ کر چلا گیا	23	حاجت سے زیادہ خرچ کیا
	اور ہمراہی بھی وہاں سے مال چھوڑ کر چلا گیا اور تلف	24	ایک شہر کا رہنے والا دوسرے شہر میں مال لینے گیا
30	ہو گیا اس صورت میں کون تاوان دے		مضارب نے کسی کو مضارب کیا اس کے مصارف بھی
	مضارب سے کہا کہ فلاں صورت میں مضاربت ہے	24	مال مضاربت سے ملیں گے
30	اور اس صورت میں قرض اور اس میں بضاعت		مضارب اپنا مال یا دوسرے کا مال سفر میں لے گیا تو خرچہ
30	ودیعت کا بیان	24	دونوں پر ڈالا جائے
31	ودیعت کی تعریف اور اس میں ایجاب و قبول کی صورتیں	25	خرچ کے بعد جو چیزیں بچیں انہیں واپس کرے
	جس کے پاس ودیعت رکھی اُس نے حفاظت کرنے		مضارب نے اپنے پاس سے خرچ کیا اور قصد یہ ہے کہ
32	سے انکار کر دیا	25	وصول کر لے گا تو وصول کر سکتا ہے
32	ودیعت کی شرائط اور احکام		نفع سے مصارف کو منہا کریں اس کے بعد کچھ بچے تو
	مودع کس کی حفاظت میں چیز دے سکتا ہے اور کس	25	تقسیم کریں
33	کی حفاظت میں نہیں	25	مرا بھہ و تولیہ میں کن مصارف کو ٹمن پر اضافہ کیا جائے
33	عیال سے کون لوگ مراد ہیں؟	26	مال مضاربت ضائع ہو جائے اس کے احکام
	مکان میں آگ لگ گئی یا کشتی ڈوب رہی ہو تو ودیعت	27	رب المال اور مضارب کے مابین اختلافات
34	کو کیا کرے؟	29	مضاربت کے متفرق مسائل
35	طلب کرنے پر مودع کو ودیعت روکنے کا اختیار نہیں		روپے دیے کہ کپڑا خریدے اور سلوا کر بیع کرے

42	مالک کی اجازت سے خلط کیا یا بغیر ملائے دونوں چیزیں خود مل گئیں	35	بعض صورتوں میں ودیعت دینے سے انکار کر سکتا ہے
42	دوسرے نے مخلوط کی تو وہ ضامن ہے	36	دھوبی کے پاس کپڑا بھیجا پھر کہلا بھیجا کہ اُس کو نہ دینا جو تجھے کپڑا دے گیا ہے
42	ودیعت میں سے کچھ خرچ کر ڈالا پھر اتنا ہی ملا دیا	36	مالک نے چیز مانگی مودع نے کہا اس وقت نہیں دے سکتا
43	ملا دینے والا غائب ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے	37	ودیعت سے انکار کر دیا اس کی صورتیں
43	ودیعت میں تعدی کی تو ضامن ہے اور باز آ گیا تو بری ہو گیا	37	ودیعت واپس کرنے کی صورتیں
43	مستعیر و مستاجر نے تعدی کی تو ضامن ہیں اگرچہ باز آ جائیں	38	مالک کا پتہ نہیں تو ودیعت کو کیا کرے
44	دش اقسام کے اشخاص تعدی سے باز آ جائیں تو ضامن نہیں	38	مالک مر گیا تو ودیعت کس کو دے
44	ودیعت کو کب سفر میں لے جا سکتا ہے	38	مودع کہتا ہے میں نے ودیعت بھیج دی اور مالک انکار کرتا ہے
45	دو شخصوں نے ودیعت رکھی تو تنہا ایک کو واپس نہ کرے	39	ودیعت کی تجہیل
45	دو نے ودیعت رکھی ان میں ایک نے مودع سے کہا کہ اتنا دوسرے کو دے دو	39	بعض امانتوں میں تجہیل سے ضمان واجب نہیں
45	دو شخصوں نے ودیعت رکھی اور مودع مر گیا ایک نے کہا کہ مودع کے لڑکے نے خرچ کر ڈالی دوسرا کہتا ہے معلوم نہیں کیا ہوئی	40	مودع مجنوں ہو گیا اور ودیعت کا پتہ نہیں چلتا
45	مودع نے ودیعت رکھنے سے انکار کر دیا	40	مودع نے ودیعت اپنی عورت کو دے دی اور مر گیا
45	مودع نے ودیعت رکھنے سے انکار کر دیا	40	مضارب یہ کہہ کر مر گیا کہ مال مضارب بت فلاں کے پاس میں نے ودیعت رکھ دیا ہے
46	مودع کہتا ہے ودیعت واپس کر دی چند روز کے بعد کہتا ہے ضائع ہو گئی	41	کسی کے پاس ہزار روپے امانت کے ہیں اور ان کے دعوی دار دو شخص ہیں
46	مودع کہتا ہے ودیعت واپس کر دی چند روز کے بعد کہتا ہے ضائع ہو گئی	41	ودیعت کو اپنے یا دوسرے کے مال میں مخلوط کرنا جائز نہیں
46	مودع کہتا ہے ودیعت واپس کر دی چند روز کے بعد کہتا ہے ضائع ہو گئی	42	ایک ہی شخص کے بچے اور گھوڑوں دونوں تھے اُس نے ملا دیے ضامن ہے

48	اسکے سوا دوسرے میں رکھی		موذع کہتا ہے ودیعت ہلاک ہوگئی اور مالک تکذیب کرتا ہے
48	مالک نے بے کار شرطیں کیں یا ایسی شرط جس پر عمل ناممکن ہے	46	ودیعت رکھ کر پردیس چلا گیا آ کر مطالبہ کرتا ہے مودع کہتا ہے تمہارے حکم کے مطابق میں نے تمہارے بچوں پر خرچ کر دی یا مساکین پر صدقہ کر دی یا فلاں کو ہبہ کر دی مالک اس سے انکار کرتا ہے
49	مودع نے دوسرے کے پاس ودیعت رکھ دی ضامن ہے	46	مالک کہتا ہے میں نے فلاں کو دینے کے لیے کہا تھا اسے مت دینا مودع نے کہا وہ لے گیا
49	کسی کو روپے دیے کہ فلاں شخص کو دے دینا، اُس نے دوسرے کے ہاتھ اُس کے پاس بھیجے	46	مودع نے ودیعت سے یا مدیون نے دین سے انکار کر دیا پھر اسی جنس کی چیز اس کے پاس ودیعت رکھی یہ روک سکتا ہے
49	دھوبی نے غلطی سے ایک کاپڑا دوسرے کو دے دیا اور اُس نے قطع کر لیا	46	پچاس روپے مانگے اُس نے غلطی سے ساٹھ دے دیے دس واپس کرنے جا رہا تھا راستہ میں ضائع ہو گئے
49	جانور ودیعت رکھا تھا وہ بیمار ہوا علاج کرایا علاج سے مر گیا	47	لٹانے کے لیے روپے پیسے جس کو دیے یہ نہ اپنے لیے بچا سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے
49	غاصب نے ودیعت رکھی اور ضائع ہوگئی	47	مسافر کسی کے مکان پر مر گیا اور کچھ مال چھوڑا اور اس کے وارث کا پتہ نہیں
50	کسی کو روپے دیے کہ فلاں کو آج ہی دے دینا یا ودیعت تم خود پہنچا جانا	47	دو شخصوں کے پاس امانت رکھی تو کس طرح حفاظت کریں
50	یہ کہتا ہے میں نے فلاں کو دے دی وہ انکار کرتا ہے	47	مودع نے کہہ دیا تھا کہ ودیعت کو دکان میں نہ رکھنا اور اُس نے رکھ دی
50	مودع کہتا ہے معلوم نہیں ودیعت کیونکر ضائع ہوئی یا میں نے کہیں رکھ دی معلوم نہیں کہاں رکھی	48	مالک نے کہہ دیا تھا کہ اپنے عیال کے پاس نہ رکھنا اور اُس نے رکھ دی یا جس کمرہ میں رکھنے کو کہا تھا
50	دلال کے پاس سے چیز ضائع ہوگئی	50	حفاظت میں دے دیا
50	مودع ودیعت کو بھول کر چلا گیا	51	ودیعت زمین میں دفن کر دی اور پتہ نہیں کہاں دفن کی

55	دوسرے کی چیز عاریت پر دے دی مالک کو اختیار ہے جس سے چاہے ضمان لے	51	موذع یا وصی سے کوئی زبردستی مال لینا چاہتا ہے اُس نے کچھ دے دیا
56	تعذی کی بعض صورتیں	51	ودیعت کے متعلق اندیشہ ہے کہ خراب ہو جائے گی کیا کرے
56	عاریت کو اجرت پر نہیں دے سکتا نہ رہن رکھ سکتا ہے	52	ودیعت کے متعلق کچھ خرچ کیا مستمرع ہے
56	عاریت پر دے سکتا ہے وودیعت رکھ سکتا ہے	52	مصحف شریف یا کتاب وودیعت رکھی
56	مُستاجر یا مرتہن کے پاس عاریت ہلاک ہو گئی تو مالک جس سے چاہے تاوان لے	52	ایک شخص کو دس روپے دیے کہ پانچ وودیعت ہیں اور پانچ ہبہ اس کا کیا حکم ہے
57	عاریت لینے کے لیے جس کو بھیجا تھا وہ بغیر مانگے خود ہی اٹھالایا	53	ودیعت میں کیڑے پڑ گئے تاوان واجب نہیں
57	نابالغ کا مال عاریت نہیں دیا جاسکتا	53	ودیعت کو چوہوں نے کاٹ دیا
57	منفعت اور وقت کے متعلق کوئی قید ہے یا نہیں اس کی چار صورتیں ہیں اور ہر ایک کے احکام	53	جانور وودیعت رکھا مودع نے دودھ دوہا اُسے کیا کرے
57	کلیل و موزون و عددی متقارب میں عاریت بمعنی قرض ہے	53	انگوٹھی وودیعت رکھی مودع نے اُنکلی میں ڈال لی
58	پیوند مانگا یا اینٹ یا کڑی عاریت لی	53	تھیلی میں روپے وودیعت رکھے مالک کہتا ہے کہ کم ہیں
59	ایک پیالہ سالن مانگا، یہ قرض ہے یا اباحت	53	کوئٹہ وودیعت رکھا تھا مودع نے تنور پر رکھ دیا اینٹ گرمی وہ ٹوٹ گیا یو ہیں طباق یا رکابی مکھے پر رکھ دی
59	عاریت دینے والا جب چاہے چیز واپس لے سکتا ہے مگر جب کہ مستعیر کا کھلا ہوا نقصان ہو تو مالک کو اجرت دے دی جائے	54	بکری وودیعت تھی چرنے کو بھیجی وہ چوری گئی
59	مکان بنانے یا پیڑ لگانے کے لیے زمین عاریت لی، یہ عاریت صحیح ہے اور مالک زمین اپنی زمین واپس لے سکتا ہے	54	عاریت کا بیان
60		54	عاریت کی تعریف اور اُس کا حکم و شرائط
		55	عاریت کے بعض الفاظ
		55	دو شخصوں نے عاریت مانگی اُس نے دونوں سے ہاں کہہ دیا
		55	عاریت ہلاک ہو گئی اگر تعذی نہیں کی ہے ضمان نہیں

64	لڑکی کو جہیز دیا اور کہتا ہے کہ عاریت کے طور پر دیا ہے		زمین زراعت کے لیے عاریت دی جب تک فصل طیار نہ ہو زمین واپس نہیں لے سکتا اتنے دنوں کی اجرت لے سکتا ہے
64	کہیں جانے کے لیے جانور عاریت لیا تو آمد و رفت دونوں داخل ہیں اور وہاں نہیں گیا گھر میں باندھ رکھا تو ضامن ہے	60	
64	تو ضامن ہے		عاریت والے مکان میں مستعیر نے کچی دیوار بنائی نہ اس کا معاوضہ لے سکتا ہے نہ دیوار گرا سکتا ہے اور زمین یوں عاریت لی ہے کہ مکان بنائے گا اور جب چلا جائے گا تو یہ مکان مالک زمین کا ہوگا، یہ اجارہ فاسدہ ہے
65	کتاب عاریت لی اوس میں کتابت کی غلطیاں ہیں درست کرے یا نہ کرے	61	کسی سے کہا میری زمین میں مکان بناؤ کبھی خالی نہ کراؤں گا یا اتنے دنوں تک خالی نہیں کراؤں گا
65	انگوٹھی رہن رکھی اور مرتہن سے کہا پہن لو تو عاریت ہے	61	عاریت کے مصارف مستعیر کے ذمہ ہیں
65	ہبہ کا بیان		مستعیر سے کسی نے کہا فلاں کی چیز تمہارے پاس ہے اُس نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ لے لو مستعیر نے دے دی اور مالک انکار کرتا ہے
65	ہبہ کے فضائل	61	عاریت کی واپسی مستعیر کے ذمہ ہے
68	ہبہ کی تعریف و شرائط و احکام	61	وصیت و غصب و رہن و اجارہ و شرکت و مضاربت و ہبہ میں مصارف کس کے ذمہ ہیں
69	ہبہ کی صورتیں	61	مستعیر کس کے ہاتھ چیز واپس کر سکتا ہے
70	ہبہ کے الفاظ	62	سونے کا ہار عاریت لایا اور بچہ کو پہنا دیا وہ ضائع ہو گیا
70	ہبہ میں ایجاب و قبول	62	نابالغ کی چیز کو کوئی عاریت نہیں دے سکتا
71	ہبہ کی تمامیت قبضہ سے ہوتی ہے	64	بیل مانگا مالک نے کہا کل دوں گا یہ دوسرے دن بغیر مانگے لے گیا ضامن ہے
72	قبضہ میں شاغل و مشغول کا فرق	63	
72	ہبہ میں یہ ضرور ہے کہ موہوب شے غیر سے جدا ہو اور مشاع کا ہبہ صحیح نہیں	64	
73	مشاع کی بیع و اجارہ و عاریت و رہن و وقف وغیرہا	64	
74	شریک نے دوسرے شریک کو نفع کا حصہ ہبہ کیا	64	
74	غیر منقسم میں مشاع کا ہبہ کیا، موہوب لہ مالک ہو گیا	64	
74	غیر منقسم میں مشاع کا ہبہ اوس وقت صحیح ہے جبکہ	64	

	اُس کی مقدار معلوم ہو	74	لڑکا فاسق ہو تو ضرورت سے زیادہ اُسے نہ دے اور
	عقد کے بعد جو شیوع پیدا ہو گا وہ مانعِ صحت نہیں	75	اگر اندیشہ ہو کہ میرے بعد بدکاری میں مال کو خرچ
80	بعض وہ چیزیں جو شیوع کے حکم میں ہیں	75	کرے گا تو نیک کام میں مال خرچ کر ڈالے
	معدوم کا ہبہ باطل ہے	76	نا بالغ کا مال نہ باپ ہبہ کر سکتا ہے اور نہ خود وہ بچہ ہبہ
81	موہوب لہ نے قبضہ نہیں کیا اور واہب نے دوسرے		کر سکتا ہے
81	کو ہبہ کر دیا	76	بچہ نے ہدیہ دیا اور یہ کہا کہ والد نے بھیجا ہے لینا جائز ہے
81	چیز خرید کر بغیر قبضہ کیے ہبہ کر دی	76	بچے کے لیے گدا وغیرہ بنایا گیا اس کا حکم
	اس ڈھیری میں سے اتنا غلہ تم کو ہبہ کیا	76	نا بالغ لڑکی رخصت ہو کر گئی اور اس کو ہبہ کیا گیا تو
82	موہوب چیز پہلے ہی سے موہوب لہ کے قبضہ میں ہے		شوہر قبضہ کر سکتا ہے
	تو تجدید قبضہ کی ضرورت نہیں	76	دو کپڑے ہبہ کیے اور کہہ دیا ایک تمہارا ہے اور ایک
82	مرہون کو مرہن کے لیے ہبہ کیا	77	تمہارے لڑکے کا
82	نا بالغ کو ہبہ کرنے کے مسائل	77	دو نے ایک کو ہبہ کیا یا ایک نے دو کو یا دو نے دو کو
	نا بالغ کو کوئی چیز دی جائے تو اس میں سے والدین کھا		دو فقیروں کو ہدیہ کیا یا صدقہ جائز ہے اور دو غنی کو کیا
82	سکتے ہیں یا نہیں	78	نا جائز ہے
83	ختمہ یا دیگر تقریبات میں رشتہ داروں کے یہاں سے		دیوار مشترک پڑوسی کو ہبہ کر دی
	چیزیں آتی ہیں، یہ کس کی ملک ہیں	79	مریض صرف ثلث مال کو ہبہ کر سکتا ہے اور قبل قبضہ
83	تقریبات میں نیوٹا دیا جاتا ہے یہ ہبہ ہے یا قرض	79	مر گیا تو ہبہ باطل ہے
83	ایک شخص نے تحائف دیے اور گھر والوں کو تقسیم کرنے		ہبہ واپس لینے کا بیان
	کو کہا کیا چیز کس کو دی جائے	80	رجوع کے لیے موہوب لہ کی رضا مندی یا قضاء قاضی
84	بعض اولاد کے ساتھ محبت زیادہ ہو، بعض سے کم اس		کی ضرورت ہے
84	میں حرج نہیں مگر ہبہ میں مساوات کرے اور بعض		یہ کہہ دیا ہے کہ رجوع نہیں کروں گا جب بھی کر سکتا ہے
	صورتوں میں مساوات نہ کرنے میں بھی حرج نہیں	80	ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلاں کو ہبہ کر دو اُس

87	کی کوئی چیز بنائی، سوت کا کپڑا بنوایا	84	نے کر دیا تو کون واپس لے سکتا ہے
88	واہب و موہوب لہ میں زیادت کے متعلق اختلافات	84	صدقہ دے کر واپس نہیں لے سکتا
88	دونوں میں سے ایک کا مرجان مانع رجوع ہے	84	دین ہبہ کر کے واپس نہیں لے سکتا
89	واہب کا عوض لے لینا مانع رجوع ہے	85	واپس لینے کے لیے الفاظ رجوع بولنے ہوں گے
	اگر لفظوں میں عوض کا ذکر ہو تو مانع رجوع ہے ورنہ	85	واہب موہوب کو موہوب لہ سے نہ خریدے
89	دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے سکتے ہیں	85	موانع رجوع سات ہیں
89	ہبہ کا عوض بھی ہبہ ہے	85	زیادت متصلہ مانع رجوع ہے
	ہبہ کا عوض کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس جنس سے بھی	85	زمین میں مکان بنایا یا درخت لگایا یا چرخ نصب کیا
89	ہو سکتا ہے اور دوسری جنس سے بھی	86	مکان میں نئی تعمیر کی واپس نہیں لے سکتا
89	بچہ کو ہبہ کیا گیا، باپ اس کے مال سے عوض نہیں دے سکتا	86	حمام کو مکان کر لیا یا مکان کو حمام کر دیا
90	نصرانی یا کافر کو ہبہ کے عوض میں مسلمان خریدتا نہیں دے سکتا	86	موہوب میں نقصان مانع رجوع نہیں
90	عوض کس چیز سے دے سکتا ہے	86	زیادت منفصلہ مانع رجوع نہیں
90	اجنبی نے واہب کو ہبہ کا عوض دیا	86	زیادت سے کیا مراد ہے؟
	عوض دینے کے بعد ہبہ میں عیب پایا یا واہب نے		زمین میں مکان بنایا یا درخت لگائے اگر یہ پوری
91	عوض میں عیب پایا		زمین میں زیادتی شمار ہو تو پوری کو واپس نہیں لے
91	مریض نے عوض لے لیا اور مر گیا		سکتا اور اگر ایک قطعہ میں زیادتی شمار ہو تو صرف اس
91	ہبہ یا عوض میں استحقاق	87	کو واپس نہیں لے سکتا
92	نصف ہبہ کا عوض دیا تو دوسرے نصف میں واپسی ہو سکتی ہے	87	زمین میں تنور گاڑا، درخت کو کاٹا، چیرا جانور کو ذبح کر دیا
92	پورے ہبہ یا پورے عوض کو کسی نے اپنا ثابت کر دیا		کپڑے کو دو ٹکڑے کر دیا ایک کی اچکن سلوائی دوسرے
92	عوض میں استحقاق ہو اور ہبہ میں زیادتی ہو گئی تو کیا کرے	87	کو واپس لے سکتا ہے
92	ہبہ کا ملک موہوب لہ سے خارج ہونا مانع رجوع ہے		چھلے پر نگ لگوایا کاغذ پر کتاب لکھی، سادی بیاض تھی
92	ہبہ کا ملک موہوب لہ سے خارج ہو کر پھر ملک میں واپس آیا		اس میں کچھ لکھا قرآن مجید میں اعراب لگائے لوہے

97	وصول کیا یہ واہب سے رجوع نہیں کر سکتا	93	جانور کو ذبح کر ڈالا تو واپسی ہو سکتی ہے
97	ہبہ بشرط العوض کی صورتیں اور احکام	93	آدھا ہبہ بیع کیا اور آدھا باقی ہے
98	واہب نے بغیر اجازت موہوب لہ چیز کو ہلاک کیا	93	زوجیت مانع رجوع ہے
98	ہبہ میں شرط یا استثناء	93	زوجیت سے مراد وہ ہے جو وقت ہبہ ہو
98	معلمین کو عیدی دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے	94	قربت مانع رجوع ہے اور اس سے کیا مراد ہے
99	عمر لے جائز ہے اور رقبے نا جائز ہے	94	بھائی اور اجنبی دونوں کو ہبہ کیا اجنبی سے واپس لے سکتا ہے
99	دین کی معافی کو شرط پر معلق کرنا	94	چیز کا ہلاک ہونا مانع رجوع ہے
99	دین معاف کرنے کی صورتیں	94	موہوب لہ کہتا ہے ہلاک ہو گئی اور واہب منکر ہے تو
100	کسی سے کہا میری جو چیز کھا لو تمہارے لیے معاف ہے یہ کھا سکتا ہے	94	کس کا قول معتبر ہے
100	مدیون کے مرنے کی خبر ملی اس نے دین معاف کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ زندہ ہے	95	موہوب میں تغیر مانع رجوع ہے
100	کسی سے کہا جو کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں معاف کر دو اس نے معاف کر دیے	95	روپیہ ہبہ کیا تھا پھر وہی روپیہ قرض لیا یا موہوب لہ نے اسے تصدق کر دیا
100	میرے مال میں سے کھا لو یا لے لو یا دید و حلال ہے اس کا کیا حکم ہے	95	رجوع کے مسائل
100	اس وقت میں نے معاف کیا یا دنیا میں معاف کیا ہمیشہ کو معاف ہو گیا	95	واپسی سے ملک سابق عود کرتی ہے یہ نہیں کہ ملک جدید حاصل ہو
101	عین کی معافی صحیح نہیں	95	موہوب لہ جب تندرست تھا اس کو ہبہ کیا اور جب بیمار ہوا واپس لے لیا
101	دین وصول ہونے کی امید نہ ہو تو معاف کر دینا بہتر ہے	96	چیز خرید کر ہبہ کر دی پھر واپس لی اور عیب کا پتہ چلا
101	بیمار جانور کو چھوڑ دیا یا پرند چھوڑ دیا	96	رجوع کرنے سے زمانہ مستقبل میں ہبہ کا اثر نہیں رہتا
101	دین کی تملیک غیر مدیون کو نہیں ہو سکتی مگر تین صورتوں میں	96	زمانہ ماضی میں اثر ہو سکتا ہے
101		97	ہبہ کر کے واہب نے چیز کو ہلاک کر دیا تاوان واجب ہے
101			موہوب چیز ہلاک ہو گئی اور مستحق نے اس سے تاوان

109	اُجرت کا کب مستحق ہوگا	102	دائن نے اقرار کیا کہ میرا نام فرضی ہے، یہ دین فلاں کا ہے
	اجارہ کا زمانہ کچھ گزر گیا جب بھی چیز کو دینا اور لینا	102	جس کا نام درج رجسٹر ہو عطا اسی کو ملے گی
110	ضروری ہے مگر جبکہ جو زمانہ گزر گیا وہی اصل مقصود ہو	102	واہب و موهوب لہ میں اختلاف کہ ہبہ ہے یا صدقہ
111	پیشگی اُجرت شرط ہو تو مطالبہ اُس وقت ہوگا جبکہ اجارہ منجز ہو	102	مرد کو عورت نے کچھ دیا قرض خواہ مرد سے لے سکتے ہیں یا نہیں
111	منفعت پر قادر ہونے کا مطلب	103	برتن میں کوئی چیز بھیجی تو اس برتن میں کھا سکتا ہے یا نہیں
111	غصب کی وجہ سے منفعت پر قدرت نہیں اس کا مطلب	103	دعوت میں ایک دسترخوان پر کھانے والے اس پر سے
111	منفعت پر قدرت نہ ہونے سے اُجرت واجب نہ ہوگی	103	کوئی چیز دوسروں کو نہیں دے سکتے نہ سائل کو دے سکتے ہیں نہ کسی جانور کو
112	پورا مکان کرایہ پر دیا مگر ایک کوٹھری میں اپنا سامان رکھا ہے تو اس کی اُجرت کم کی جائے گی	103	بائع نے مشتری سے شمن معاف کر دیا معاف ہو گیا اور کچھ لے چکا ہے تو اسے واپس کر دے
112	کپڑا پہننے کے لیے لیا اور زمانہ دراز تک نہیں پہنا	104	خط لکھ کر بھیجا وہ کاتب کا ہے یا مکتوب الیہ کا
112	شامیانہ یا گیس کا ہنڈا کرایہ پر لایا اور اس کے یہاں کئی روز رہ گیا	104	کفن کے لیے کپڑا دیا تو وارث اس کپڑے کو رکھ سکتا ہے یا نہیں
112	جس روز سوار ہونے کے لیے جانور کرایہ پر لیا تھا اُس روز سوار نہ ہو اور دوسرے دن سوار ہوا اُجرت واجب نہیں	104	اجارہ کا بیان
112	اجارہ فاسدہ میں منفعت حاصل کرنے پر اُجرت واجب ہوتی ہے محض قدرت کافی نہیں	105	اُجرت نہ دینے پر وعید
112	چیز کو کسی نے غصب کر لیا ہے مگر یہ اس سے لے سکتا ہے	105	قرآن مجید پڑھ کر جھاڑنے کی اُجرت جائز ہے
113	موجر و مستاجر میں غصب کے بارے میں اختلاف	106	حدیث غار
113	مالک مکان نے کنجی دے دی تو قبضہ ہوا یا نہیں	107	اجارہ کی تعریف اور ایجاب و قبول اور شرائط
113	کرایہ اور مزدوری کا کب مستحق ہوگا	109	اجارہ کبھی تعاطی سے بھی ہوتا ہے
		109	اجارہ کی مدت قلیل بھی ہو سکتی ہے اور طویل بھی
		109	عمل کی معرفت کبھی نام لینے سے ہوتی ہے

119	نہیں ہوئی اور اس نے روکی بھی نہیں تو اُجرت دی جائے گی یا نہیں	114	دھوبی نے کپڑے سے انکار کر دیا پھر اقرار کیا تو دھلائی ملے گی یا نہیں یوہیں رنگریز نے کپڑے سے انکار کیا اور بننے والے نے سوت سے انکار کیا پھر اقرار کیا
119	کام کرنے والے سے شرط کر دی کہ تم کو خود کرنا ہو گا یا شرط نہیں کی، دونوں کا حکم	115	درزی نے مالک کے مکان پر کپڑا سیا تو سیتے ہی اُجرت کا مستحق ہو گیا
120	کسی کو اپنے بچوں کے لانے کے لیے بھیجا وہ سب کو نہیں لایا پوری اُجرت کا مستحق ہو گا یا نہیں	115	مزدور نے کچھ دیوار بنائی وہ گر گئی یا درزی نے کپڑا سیا اور کسی نے سلوائی تو زدی
120	مزدور سے کہا خط لے جاؤ اور جواب لاؤ یہ گیا مگر خط نہیں لے گیا یا خط لے گیا مگر مکتوب الیہ مر گیا ہے یا کہیں چلا گیا ان صورتوں کے احکام	115	کپڑا قطع کرنے کی اُجرت ہے یا نہیں
121	وقف یا یتیم کی جائداد اُجرتِ مثل سے کم کرایہ پردے دی، اُجرتِ مثل واجب ہوگی	115	دھوبی سے اُجرت کا ذکر نہیں ہوا جب بھی دھلائی دینی ہوگی
121	مکان خرید بعد میں معلوم ہوا کہ وقف ہے یا یتیم کا ہے اُجرتِ مثل واجب ہے	115	نانبائی اُجرت کا مستحق کب ہوگا؟
121	مکان کا کرایہ پیشگی دے دیا مالک مکان مر گیا مکان کو نہیں روک سکتا اور ادائے دین کے لیے یہ مکان بیچا گیا تو یہ دوسروں پر مقدم ہے	116	باورچی نے کھانا خراب کر دیا یا جلا دیا یا اُس کے آگ جلانے سے مکان میں آگ لگ گئی
121	کرایہ دار نے کرایہ کی مقدار زیادہ کر دی یا مالک نے چیز میں اضافہ کر دیا جائز ہے	117	لینٹ تھا پنے والا اُجرت کا کب حقدار ہے
121	درخت خریدا اور کئی برس کے بعد کاٹا مالک زمین کرایہ نہیں لے سکتا	117	لینٹ تھا پنے کا سانچا پھیرے کے ذمہ ہے مٹی اور ریتا مستاجر کے ذمہ
122	مالک مکان پر دین ہے اس کے عوض میں مکان کرایہ کیا جائز ہے	117	حمال اور ٹھیلے یا گاڑی والے سامان کہاں تک پہنچائیں گے
122	اجارہ کی چیز میں کیا افعال جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں	118	سیاہی و قلم کاتب کے ذمے ہے کاغذ اس کے ذمہ نہیں
		118	مزدوری وصول کرنے کے لیے چیز کو روکنے کا حق کب ہے اور کب نہیں اور مزدور سے چیز میں نقصان پہنچے تو تاوان ہے یا نہیں
		118	کام کا اثر ہونے نہ ہونے کا مطلب
			اجیر کے پاس چیز ہلاک ہوئی مگر اس کے فعل سے

126	دی اس کے احکام	دکان یا مکان کے کرایہ لینے میں یہ ذکر کرنا ضرور نہیں کہ اس میں کیا کرے گا
126	زمین وقف کو اجرت پر لے کر اُس میں مکان بنایا یا درخت لگائے	دکان یا مکان میں کیا کیا کر سکتا ہے
127	سبزی کے درختوں کا کیا حکم ہے	مالک اور کرایہ دار میں اختلاف کہ یہ چیزیں اجارہ میں مشروط نہیں
127	زراعت طیار ہونے سے قبل مواجریا مستاجر مر گیا یا مدت اجارہ ختم ہوگئی اور فصل تیار نہیں ہوئی ان کے احکام	مستاجر نے جو کام معین کیا تھا اس کی مثل یا اوس سے کم درجہ کا کام کر سکتا ہے
127	بطور غصب کھیت بویا ہے اُس کو فوراً خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا	جس کام کی اجازت نہ تھی وہ کیا اور عمارت گر گئی تاوان واجب ہے
128	بعض وہ چیزیں جن کو کرایہ پر دینا جائز ہے یا ناجائز سواری کرایہ پردی یا کپڑا پہننے کو دیا تو استعمال کرنے والے کا تعین ہونا چاہیے یا تعیم کی جائے	مستاجر نے دوسرے کو کرایہ پر دے دیا یہ ہو سکتا ہے زمین اجارہ پردی تو یہ بیان کرنا ہوگا کہ اس میں کون سی زراعت بوئے گا
128	جس کا سوار ہونا قرار پایا اس کے سوا دوسرا سوار ہوا اس کا کیا حکم ہے	کھیت اجارہ پر لیا تو راستہ اور پانی اور اس کا راستہ بغیر شرط داخل ہیں
128	جن چیزوں میں استعمال کرنے والوں کے اختلاف سے اختلاف ہوتا ہے اُن کا حکم	ایک سال کے لیے کھیت لیا تو دونوں فصلیں داخل ہیں اور اس وقت نہ ہو سکتا ہو تو کیا حکم ہے
129	خیمہ اور چھولداری کے اجارہ کے احکام	زراعت کو آفت پہنچی تو لوگان واجب ہے یا نہیں
129	جو منفعت طے ہوئی وہ یا اُس کی مثل یا اوس سے کم درجہ کی جائز ہے اور زیادہ کا حاصل کرنا ناجائز	بوئے ہوئے کھیت کو اجارہ پر دیا، اوس کی صورتیں مکان کرایہ پر دیا، اس میں کچھ حصہ خالی ہے اور کچھ نہیں
130	جانور پر خود سوار ہوا اور دوسرے کو بھی سوار کر لیا یا بوجھ لاد لیا اور وہ ہلاک ہوا تاوان واجب ہے	جس مکان میں کوئی رہتا ہے اُس کو کرایہ پر دینا زمین سے جو منافع حاصل کیے جاسکتے ہیں، سب کے لیے اجارہ پر دے سکتے ہیں
131	بوجھ لادنے کے لیے جانور لیا اور زیادہ لاداکہ ہلاک ہوا تاوان واجب ہے	مکان بنانے یا درخت لگانے کے لیے زمین اجارہ پر
	سواری کے اونٹ پر اتنا ہی سامان لاداجائے جو	

135	جانور بیمار ہو گیا اس نے کام کم لیا مزدوری پوری دے	131	متعارف ہے، اور اس کو بھی جمال کو دکھا دینا بہتر ہے
135	کرایہ کا مکان گل یا اوس کا کچھ حصہ گر گیا		مالک جانور مستاجر کے ساتھ اپنا سامان نہیں لاد سکتا اور
135	اجارہ فسخ کرنے سے قبل مالک نے مکان کو بنوادیا	131	لا دیا جب بھی پورا کرایہ لے گا
135	کرایہ کی چیز کچھ دنوں بیکار رہے گی ان دنوں کی		ہل جوتنے یا چکی چلانے کے لیے بیل کرایہ پر لیا اور
135	اُجرت نہ دینے کی شرط	131	زیادہ جوتا یا زیادہ پیسا کہ جانور ہلاک ہو گیا
136	دایہ کے اجارہ کا بیان	132	جانور کو مارنے کی ممانعت
136	دایہ کو کھانے کپڑے پر رکھا	132	گھوڑے پر بغیر زین سوار ہوایا اوس کی پیٹھ پر لیٹ گیا
	دودھ پینے کے لیے جانور کو یا پھل کھانے کے لیے	132	راستہ معین کر دیا ہے اور مستاجر یا اجیر نے اس کے خلاف کیا
136	درخت کو اجارہ پر لینا ناجائز ہے	132	زمین ایک چیز ہونے کے لیے لی اور دوسری چیز ہوئی
136	دایہ بچہ کو کہاں دودھ پلائے	133	درزی سے اچکن سینے کو کہا تھا اوس نے کرتہ سی دیا
136	دایہ کا کھانا کپڑا بغیر شرط مستاجر کے ذمہ نہیں	133	جتنا لمبا چوڑا کپڑا سینے کو کہا تھا اُس سے کم کر دیا
136	زمانہ رضاع میں اوس کا شوہر وطی کر سکتا ہے	133	کپڑا قطع کرایا اور کپڑا کم ہو گیا اس میں تاوان ہے یا نہیں
137	دایہ کا شوہر اجارہ فسخ کر سکتا ہے	133	رنگ ریز نے دوسرا رنگ رنگ دیا
137	اس اجارہ کو کن وجوہ سے فسخ کیا جاسکتا ہے	134	مہر کن نے دوسرا نام کھو دیا
137	دایہ کیا کیا کام کرے گی	134	بڑھئی نے دروازہ میں دوسری قسم کا نقش کیا
138	دایہ نے بکری یا دوسری عورت کا دودھ پلویا	134	سواری کا جانور بھاگ گیا اور اس نے نماز نہیں توڑی
138	دو جگہ دودھ پلانے کی نوکری کی	134	اُس راستہ سے گیا جس کی نسبت خبر ہے کہ اس پر چوڑا کو ہیں
138	دو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے نوکر رکھا اور ایک مر گیا	134	جہاں تک جانا ٹھہرا ہے اس سے آگے سوار ہو کر گیا
138	بچہ کے والدین کا کام کرنا اس کے ذمہ نہیں		جس کو کام کرنے کے لیے یا چیز بیچنے کے لیے مقرر کیا
	دایہ کے عزیز ملنے کو آئیں تو صاحب خانہ انہیں ٹھہرنے	134	وہ مزدوری مانگتا ہے
138	سے منع کر سکتا ہے	134	لڑکے کو کام سیکھنے کے لیے استاد کے سپرد کیا اس کی صورتیں
139	وقت حاجت دایہ یہاں سے جاسکتی ہے	135	خطرہ کی خبر سن کر مزدور راستہ سے واپس آیا

144	جائز و ناجائز اجارے	139	بچہ کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے نوکر رکھنا جائز ہے یا نہیں
144	حمام کی اجرت جائز ہے	139	حمام میں سے کسی کو مقرر کیا
144	کچھنے کی اجرت جائز ہے	139	یتیم اور تقیط کے مصارف کس کے ذمہ ہیں
144	جانور گابھن کرنے کی اجرت ناجائز ہے		یہ شرط کہ بچہ مر جائے جب بھی پوری اجرت دی
144	گناہ کے کام پر اجارہ ناجائز ہے		جائے گی یا نکل اجرت پہلے مہینہ کی ہے باقی مفت یہ
145	طبل غازی اور شادیوں میں جائز دف کی اجرت جائز ہے	139	ناجائز ہے
145	پیسہ دے کر تماشا کرانا دو گناہ ہیں	140	بدکار اور کافر کو دودھ پلانے کے لیے نوکر رکھنا
	کافر کو مسلمان نے کرایہ پر مکان دیا جائز ہے مگر اُسے	140	بچہ کو دودھ پلانے کے لیے بکری اجارہ پر لی یہ ناجائز ہے
145	سکھ و ناقوس بجانے یا علانیہ شراب بیچنے سے روکا جائے گا	140	اجارہ فاسدہ کا بیان
	کسی عورتوں کو اغراضِ فاسدہ کے لیے کرایہ پر مکان	140	اجارہ فاسدہ و باطلہ کا فرق
145	دینا ناجائز ہے	141	اجارہ باطل میں اجرت واجب نہیں
	طاعت و عبادت کے کاموں پر اجارہ ناجائز ہے اور	141	اجارہ فاسدہ میں کیا اجرت دی جائے گی
145	ان میں سے بعض چیزوں کا متاخرین نے استثنا کیا	141	اجارہ فاسدہ میں محض قبضہ سے منفعت کا مالک نہیں ہوتا
	تلاوت قرآن مجید کی اجرت جیسا کہ بعض جگہ سوم	141	اجارہ فاسد ہونے کے وجوہ
146	میں لیتے ہیں ناجائز ہے	142	اجارہ کے اوقات
147	کلمہ طیبہ و آیہ کریمہ یا ختم خواجگان کی اجرت ناجائز ہے		ہر مہینہ کا ایک روپیہ کرایہ اور یہ بیان نہیں کیا گیا کتنے
147	سانپ یا بچھو کے جھاڑنے کی اجرت جائز ہے	143	ماہ کے لیے ہے
147	تعویذ کا معاوضہ جائز ہے		ایک سال کے لیے کرایہ پر لیا تو پورے سال کا کرایہ
	تعلیم کی جو اجرت مقرر ہوئی دینی ہوگی سورتوں کے ختم	143	بیان کیا یا ہر ماہ کا دونوں جائز ہیں
148	یا شروع پر مٹھائی دینے کا عرف ہو وہ بھی دینی ہوگی	143	مزدور کب سے کب تک کام کرے گا
	صرف و نحو لغت وغیرہ علوم جن کا تعلق زبان سے	143	دو چار دن کے لیے مزدور کیا تو کون سے ایام مراد ہیں

152	اُجرت نہیں پائے گا	148	ہے اُن کی تعلیم پر اجارہ جائز ہے
	راہن نے مرہن سے مرہون کو اجرت پر لیا اس کی اُجرت نہیں ملے گی جس طرح آج کل بعض لوگ مکان رہن رکھ کر خود کرایہ پر لیتے ہیں	148	علم طب، ریاضی، حساب، کتابت، خوشنویسی، منطق کی تعلیم پر اجارہ، فلسفہ اور کفارہ کے اُصول و فروع سیکھنا
152	مکان رہن رکھ کر خود کرایہ پر لیتے ہیں	148	معلم کو یہ نہیں بتایا کہ کتنے بچے پڑھیں گے جائز ہے
152	مالک حمام حمام میں نہایا، اس کی کچھ اجرت نہیں		مصحف شریف اور تفسیر و حدیث و فقہ کی کتابوں کا پڑھنے کے لیے اجرت پر لینا
	زمین اجارہ پردی تو بیان کرنا ہوگا کہ متاجر اس میں کیا بوئے گا یا کیا کام کرے گا	149	جنازہ اٹھانے اور میت نہلانے کی اُجرت
152	شکار کرنے یا جنگل کی لکڑیاں کاٹنے کے لیے اجیر کیا	149	قفیز طمان کا مسئلہ یعنی جو کام کرایا گیا اُسی میں سے اُجرت دینا قرار پایا مثلاً کپڑے کی بُوائی اُسی میں کپڑا، آٹا پوایا اور اُسی میں کا آٹا اُجرت قرار پایا
153	بی بی کو گھر کے کام کے لیے اجیر نہیں کر سکتا	149	کھیت کی کٹوائی، کپاس کی چنوائی اور تیل پینے کی اُجرت جانور کی ذبح کرائی
	عورت نے اپنا مکان شوہر کو کرایہ پر دیا اور اس میں خود بھی رہی اُجرت کی مستحق ہے	150	دوسرے کی زمین میں درخت لگائے اس کی اُجرت اسی درخت میں کا ایک حصہ دینا قرار پایا
153	استہلاک عین پر اجارہ نا جائز ہے، تالاب اور چراگاہ اور بازار و جنگل کا ٹھیکہ نا جائز ہے	150	دوسرے کو اپنا جانور دیا کہ اسے اُجرت پر چلاؤ
	مکان کے کرایہ میں یہ شرط کہ رمضان کا کرایہ نہیں لوں گا یا ہبہ کر دوں گا نا جائز ہے	150	گائے دوسرے کو دی اور یہ طے پایا کہ دودھ نصف نصف مرغی یا بکری کو بنائی پر دینا نا جائز ہے
154	دکان جل گئی ہے متاجر نے شرط کی کہ میں بناؤں گا اور کرایہ میں مجرا لوں گا	151	وقت پر اجارہ ہوتا ہے یا کام پر، دونوں پر نا جائز ہے
154	متاجر کے ذمہ واپسی کی شرط کرنا	151	کاشتکار سے کھات ڈالنے کی شرط کی یا یہ کہ زمین جوت کرواپس کرے
	جس چیز کے اجارہ کی مدت مقرر تھی مدت پوری ہونے پر مالک نہیں لے گیا تو بعد کی اجرت نہیں لے سکتا اور قبل مدت چیز خالی ہوئی جب بھی پورا کرایہ واجب ہے	151	کھیت کے بدلے میں کھیت لیا
154	واجب ہے		مشترک چیز میں کام کرنے کے لیے شریک کو اجیر کیا

158	دھوبی نے دوسرے کا کپڑا دے دیا اس کی صورتیں	154	اجارہ کو دوسرے اجارہ کے فتح پر معلق کرنا ناجائز ہے
159	چرواہے کے بال بچے یا اجیر جانور چرا سکتے ہیں	155	ضمان اجیر کا بیان
159	اجنبی کو سپرد کرے گا ضامن ہے	155	اجیر خاص و اجیر مشترک کے فرق و احکام
159	چرواہا کہاں جانوروں کو پہنچائے		جو کام اختلاف محل سے مختلف ہوتا ہے اوس میں اجیر
159	جنگل میں سب جانور چرواہے کی پیش نظر نہ ہوں تو	155	مشترک کو خیار رویت ہے
159	ضامن نہیں		اجیر مشترک امین ہے چیز ضائع ہونے سے اس پر تاوان
159	جانور نے کھیت چر لیا تو چرواہا ضامن ہے یا نہیں	156	نہیں اوس کے فعل سے جو نقصان ہوگا اس کا تاوان ہے
160	فصد کھینے پھوڑا چیرنے میں کب ضامن ہے اور کب نہیں	156	حمال گر پڑا اور سامان ضائع ہو گیا تاوان واجب ہے
160	اجیر خاص کے احکام کہ یہ اجرت کا کب مستحق ہے اور	156	کشتی ڈوب گئی تو ضمان ہے یا نہیں
160	اس پر تاوان واجب ہے یا نہیں		چرواہے کے ہانکنے سے جانوروں نے آپس میں دھکا
161	اجیر خاص اوقات مقررہ میں اپنا ذاتی کام بھی نہیں کر	157	دیا اور کوئی جانور پل سے گرایا پانی میں ڈوب کر مر تاوان
161	سکتا، فرائض اور سنت مؤکدہ پڑھے گا	157	واجب ہے یوہیں اُس کے مارنے سے عضو ٹوٹ گیا
161	چرواہا اجیر خاص ہو اور بکریوں میں کمی بیشی ہو تو اجرت	157	حمال سے چیز ضائع ہوئی تو کیا ضمان لیا جائے
161	میں کمی بیشی نہیں ہوگی	157	آدمیوں کا دھکا لگا اور چیز ضائع ہوئی
162	گھوڑا راستہ سے بھاگ گیا یا ریوڑ سے کوئی بکری	157	مزدور کے سر سے چیز او تروار ہا تھا دونوں کے ہاتھ سے
162	بھاگ گئی تو ضمان ہے یا نہیں	157	چھوٹ کر گر گئی
162	کرایہ دار نے مکان میں چولہا یا تنور جلایا وہ مکان یا	157	باد مخالف کی وجہ سے کشتی جہاں سے آئی تھی وہیں یا
162	پروسی کا مکان جل گیا تاوان واجب ہے	157	کہیں اور چلی گئی
162	دکاندار کے نوکر یا شاگرد سے کسی کی چیز میں نقصان	158	کشتی میں آگ لگ گئی
162	ہو اس کا ذمہ دار دکاندار ہے		ملاح نے دوسرے کا سامان کشتی میں رکھ دیا اور کشتی
	سرا میں یا اُس مکان میں جو کرایہ کے لیے ہے کوئی	158	ڈوب گئی

168	مکان کا کتنا حصہ کرایہ پر لیا یا اجرت کیا چیز ہے اس کی جنس و صفت میں اختلاف	162	شخص رہا وہ کہتا ہے میں بطورِ غصب اس میں رہا، کرایہ دینا ہوگا
168	اجارہ فسخ کرنے کا بیان	163	دو شرطوں میں سے ایک پر اجارہ
168	اجارہ میں خیار شرط و خیار رویت ہو سکتا ہے	163	اچکن سی تو ایک روپیہ، شیروانی سی تو دو روپے مزدوری ملے گی اسی طرح دوسرے کاموں میں دو چیزوں کا ذکر کرنا جائز ہے
169	روئی دھکنے میں خیار رویت نہیں مگر وقت عقد اگر روئی موجود نہ ہو تو اجارہ منعقد نہ ہوا۔ یوہیں کپڑا موجود نہ ہو تو دھوبی سے اجارہ نہ ہوا	163	آج سیا تو یہ اجرت ہے اور کل سیا تو یہ اور خود سیو گے تو یہ اور شاگرد سے سلواؤ گے تو یہ
169	مستاجر کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے، اور تہا مستاجر عقد فسخ کر سکتا ہے	164	خدمت کے لیے اجارہ اور نابالغ کو نوکر رکھنا
169	مکان میں عیب ہے یا پیدا ہو گیا مستاجر عقد کو فسخ کر سکتا ہے مگر مستاجر نے نفع حاصل کیا تو پوری اجرت واجب ہے	164	مرد اپنی خدمت کے لیے اجنبیہ عورت کو نوکر رکھے منع ہے
170	بیل جتنا کام کرنے کے لیے لیا وہ نہیں کر سکتا اجارہ فسخ کر سکتا ہے	164	بال بچے والے گھر میں عورت نے ملازمت کی جائز ہے
170	چند قطعات زمین اجارہ پر لیے بعض کو دیکھ کر ناپسند کیا کل کا اجارہ فسخ کر سکتا ہے	164	اپنی عورت کو خدمت کے لیے نوکر نہیں رکھ سکتا
170	جس اجارہ میں مستاجر کو اپنی چیز بغیر عوض ہلاک کرنی پڑے اس کو بغیر عذر بھی فسخ کر سکتا ہے	164	اپنے اصول اور رشتہ داروں کو ملازم رکھنا
170	جس غرض کے لیے اجارہ کیا وہی نہ رہی یا شرعاً اس پر عمل نہ کر سکے تو بغیر فسخ کیے اجارہ فسخ ہو گیا	164	کافر کی خدمتگاری کی نوکری مسلم کے لیے منع ہے
171	جس اجارہ پر عمل کرنے سے کچھ نقصان پہنچے گا اس میں فسخ کی ضرورت ہے	164	نابالغ کو کون کون نوکر کر سکتا ہے اور اس کے احکام
		166	موجر اور مستاجر کے اختلافات
		166	پن چکی میں پانی تھا یا نہ تھا اس کا کیا حکم ہے
		166	یہ اختلاف کہ قیص سینے کو کہا تھا یا اچکن یا سرخ رنگنے کو کہا تھا یا زرد
		166	یہ اختلاف کہ مفت سینے یا رنگنے کو کہا تھا یا اجرت پر
		167	تصرف کرنے سے پہلے مالک و مستاجر میں اختلاف ہو گیا
		167	مدت یا مسافت میں یا مدت و اجرت دونوں میں اختلاف

173	منتقل ہونا چاہتا ہے یہ عذر ہے یا نہیں		عیب کی وجہ سے اس وقت فسخ کیا جاسکتا ہے کہ منفعت فوت ہو
174	کرایہ دار دوسرے شہر کو جانا چاہتا ہے یہ فسخ اجارہ کے لیے عذر ہے	171	کل کھیتوں کی آب پاشی نہیں ہو سکتی پانی کم ہے تو مزارع کیا کرے
174	دونوں میں سے ایک کی موت سے اجارہ فسخ ہو گیا	171	پن پچلی کا پانی بند ہے مگر وہ مکان قابل سکونت بھی ہے
174	راستہ میں جانور کا مالک مر گیا تو مستاجر کیا کرے؟	171	مکان کی مرمت مالک کے ذمہ ہے نہ کرائے تو اجارہ فسخ ہو سکتا ہے
174	عاقدین میں سے ایک کے مجنوں یا مرتد ہونے سے اجارہ فسخ نہیں ہوگا	172	کرایہ کے مکان میں کو آں ہے اس کی مٹی نکلوانی مالک کے ذمہ ہے
174	اجارہ کی چیز کا مستاجر مالک ہو گیا، اجارہ فسخ ہو گیا	172	کرایہ دار نے مکان خالی کیا اور مکان میں خاک دھول راکھ پڑی ہے اس کی صفائی کرایہ دار کے ذمے ہے
175	مالک کے مرنے کے بعد نہ وارث نے مکان خالی کرنے کو کہا نہ دوسری اجرت کا مطالبہ کیا تو وہی پہلا کرایہ دینا ہوگا اور کہا تو اجرت مثل	172	دو مکان کرایہ پر لیے ایک گر گیا دوسرے کا اجارہ بھی فسخ کر سکتا ہے
175	مالک زمین مر گیا اور فصل طیار نہیں ہوئی یا مدت اجارہ ختم ہو گئی اور فصل طیار نہ ہو دونوں کے حکم	172	مالک مکان کے ذمے دین ہو یا وہ مفلس ہو گیا تو اجارہ فسخ کر کے مکان بیچا جاسکتا ہے
175	وارث و مستاجر اجارہ سابقہ پر راضی ہوں تو وہی اجرت واجب ہے	172	مکان کا کرایہ پیشگی لے چکا ہے جو مکان کی قیمت سے زائد ہے تو دوسروں کے دین کے لیے مکان فروخت نہیں کیا جائے گا
175	دو موجر یا دو مستاجر ہیں ایک مر گیا اس کے حصہ کا اجارہ فسخ ہو گیا	173	دکاندار مفلس ہو گیا کہ تجارت نہیں کر سکتا، دکان کا اجارہ فسخ کرنے کے لیے یہ عذر ہے
175	دوامی اجارہ ناجائز ہے اور کاشتکاری زمین خلاف شرع ہے	173	بازار بند ہو گیا یا دکاندار تجارت چھوڑنا چاہتا ہے دکان چھوڑنے کے لیے یہ عذر ہے اور دوسری دکان میں
176	اجارہ کے بعد دوسرا شخص زیادہ اجرت دینے کو کہتا ہے یا دوسرا مزدور کم اجرت پر کام کرنے کو کہتا ہے یہ عذر نہیں	173	

178	اس پر اور رکھ سکتا ہے	176	سواری کا جانور کرایہ کیا اسکے بعد جانور خرید لیا یہ عذر ہے
	غاصب سے کہہ دیا کہ مکان خالی کر دو ورنہ اتنا کرایہ دینا ہوگا	176	کام چھوڑنا چاہتا ہے، یہ عذر ہے یا نہیں؟
178			موچی کو جوتے یا موزے بنانے کے لیے چمڑا دیا اور
	کاشتکار سے کہا کہ زمین چھوڑ دو ورنہ اتنا لگان دینا ہوگا		یہ کہا کہ استرا اپنے پاس سے لگا دینا درزی کو ابرا دیا اور
179	اس صورت میں یہ اضافہ جائز ہے	176	کہہ دیا استر وغیرہ اپنے پاس سے لگا دینا
	مزدور نے کہا میں اتنے سے کم میں کام نہیں کروں گا		مزدور سے کہا دوسرے لوگ جو اجرت بتادیں گے یا
179	دوسرا خاموش رہا وہ اجرت دینی ہوگی جو مزدور نے بتائی	176	فلاں جگہ جو ملی ہے میں دوں گا یہ اجارہ فاسد ہے
179	مستاجر کرایہ کی چیز دوسرے کو کرایہ پر دے سکتا ہے		سینٹھے کی جڑوں میں آگ دیدی اس سے کسی کا نقصان
	مستاجر نے مالک کو وہی چیز کرایہ پر دی یہ ناجائز ہے	177	ہوا تاوان واجب ہے یا نہیں
179	مگر اجارہ فسخ نہیں ہوا	177	آتش بازی سے کسی کا مکان جل گیا ضمان دے
	وکیل نے عقد اجارہ کیا اور مالک نے وکیل کو مکان	177	آگ اڑ کر دور پہنچی تو تاوان نہیں ہے
	سپر د کر دیا۔ مگر وکیل نے موکل کو قبضہ نہیں دیا کرایہ		راستہ میں آگ رکھ دی یا ایسی جگہ جہاں اسے رکھنے کا
	وکیل سے وصول کرے، اور وکیل موکل سے لے سکتا	177	حق نہ تھا
179	ہے یا نہیں اس میں دو صورتیں ہیں		لوہار نے بھٹی سے لوہا نکال کر کوٹا، اور چنگاری اڑی
	فتویٰ دینے کی اجرت نہیں ہو سکتی تحریر کی اجرت	177	جس سے کسی کا کپڑا جلایا یا آنکھ پھوٹ گئی
180	ہو سکتی ہے اور اس سے بھی بچنا بہتر		کھیت میں پانی زیادہ دیا وہ دوسرے کے کھیت میں
180	اجرت پر خط لکھوانا جائز ہے	178	پہنچا اور نقصان ہوا
	مستاجر پر اس چیز کا دعویٰ نہیں ہو سکتا جو اس کے پاس		دکاندار نے اپنی دکان پر کسی کو کام کے لیے بٹھالیا کہ یہاں
180	اجرت پر ہے	178	جو کام آئے تم کرو اور اجرت نصف نصف یہ جائز ہے
	اجارہ یا فسخ اجارہ کی اضافت زمانہ مستقبل کی طرف		شتر بان سے محمل رکھنا طے ہوا تو ایسا محمل رکھا جائے جو
180	ہو سکتی ہے	178	متعارف ہو، اور شتر بان کے ذمہ کیا کیا کام ہیں
	کرایہ پیشگی دیا اور اجارہ فسخ کیا گیا مستاجر اپنی رقم		سامان کے لیے اونٹ کیا تو جتنا سامان خرچ ہوا اتنا ہی

183	چند مزدور گڑھا کھودنے کے لیے مقرر کیے بعض نے کام کم کیا بعض نے زیادہ، اجرت کس طرح تقسیم ہوگی	181	وصول کرنے کے لیے چیز کو روک سکتا ہے جس کی چیز گم ہوگئی اُس نے کہا جو مجھے بتا دے اسے اتنا دوں گا اس کی صورتیں
184	کرایہ دار کے ساتھ مالک بھی مکان میں رہا اس کے حصہ کی قدر کرایہ کم کر دیا جائے	181	مدت پوری ہونے پر چیز کا واپس لانا مالک کے ذمہ ہے اگرچہ مستاجر بیرون شہر چیز کو لے گیا ہو
184	مزدور سے کہا فلاں جگہ سے جا کر غلہ کی بوری اٹھالا مزدور گیا مگر غلہ وہاں تھا ہی نہیں کتنی مزدوری پائے گا	181	گھوڑے کی واپسی مالک کے ذمہ ہے اور آمدورفت کے لیے لیا ہے تو مستاجر کے ذمہ
184	کسی کو بلانے کے لیے مزدور بھیجا یہ گیا وہ شخص نہیں ملا پوری مزدوری پائے گا	182	چیز کا واپس کر جانا اجیر مشترک کا کام ہے
184	ولا کا بیان		جانور کا دانہ گھاس مالک کے ذمہ ہے، مستاجر نے کھلایا تو مُتَبَرِّع ہے کھیت کی مینڈہ درست کرنا مالک کے ذمہ ہے
185	موالاة کس طرح ہوتی ہے		کرایہ کا جانور دوسرے کو سپرد کر دیا اور کہہ دیا کہ اسے کھلاؤ یا اسکو معاوضہ ملے گا یا نہیں
185	نابالغ کا موالاة کرنا یا نابالغ سے موالاة	182	کام کے توابع مثلاً کپڑا سینے میں سوئی تاگا کس کے ذمہ ہیں
185	موالاة فسخ کرنے کی صورتیں		یکہ تا نگہ والے کو گھر تک پہنچانا ہوگا، موٹر لاری کو کہاں تک پہنچانا ہے
186	نابالغ بچے یا جو بچے بعد موالاة پیدا ہوئے یہ بھی اس میں داخل ہیں	182	کلپ اور نیل دھوبی کے ذمہ ہے، چمڑا، پٹھا، ابری جلد ساز کے ذمہ
186	مولی العتاقہ دوسرے سے موالاة نہیں کر سکتا	182	دو مزدور کیے ایک ہی نے کام کیا دوسرا مزدوری کا مستحق ہے یا نہیں
186	موالاة کا کیا حکم ہے	183	
186	عورت نے موالاة کی اس کا مجہول النسب بچہ موالاة میں داخل ہے	183	
186	مرد نے ایک سے موالاة کی عورت نے دوسرے سے ان سے جو بچہ پیدا ہو اس کا تعلق باپ کے مولے سے ہوگا	183	

		پندرہواں حصہ (15)	
192	گیا توڑ دے		
192	اکراہ میں روزہ توڑنے سے قضا واجب ہے کفارہ نہیں	187	اکراہ کا بیان
193	غیر ملجی میں کفر کی اجازت نہیں	188	اکراہ کی تعریف
193	مسلم یا ذمی کے مال تلف کرنے پر اکراہ	189	اس کی شرائط اور قسمیں
193	کسی کو قتل کرنے یا اوس کا عضو کاٹنے پر مجبور کیا گیا	190	اکراہ کے احکام
193	اپنا عضو کاٹنے پر مجبور کیا گیا		بیع شرا، اجارہ، اقرار، اکراہ کی وجہ سے کیے تو فسخ کا اختیار ہے
193	اپنے کو تلوار سے قتل کرورنہ میں بُری طرح تجھے قتل کروں گا	190	
193	زنا یا لواطت پر اکراہ	190	دو ایک کوڑا مارنا ضربِ شدید نہیں، مگر بعض صورتوں میں مال قلیل و کثیر کا اکراہ میں فرق
194	طلاق دینے پر زوجہ نے اکراہ کیا یا کسی اور نے		مکڑہ کی بیع نافذ ہے مگر لازم نہیں اور ہبہ میں اکراہ ہوا تو ہوا ہی نہیں
195	مرد مریض نے عورت کو طلاق پر مجبور کیا	190	
195	عورت کو مجبور کیا کہ ایک ہزار کے عوض طلاق قبول کرے	190	اکراہ کے ساتھ شمن پر قبضہ کیا تو واپس کر سکتا ہے
195	دس ہزار مہر کے عوض نکاح کرنے پر مجبور کیا گیا	191	جو بیع اکراہ سے ہوئی اس میں اور دیگر بیوع فاسدہ میں فرق
195	ایک ہزار کے عوض خلع کرنے پر مجبور کیا گیا اور عورت کا مہر زائد ہے	191	بیع ہلاک ہو گئی ہے تو بائع قیمت لے گا
195	اکراہ کے ساتھ کیا چیزیں صحیح ہیں	191	بادشاہ کا کہہ دینا ہی اکراہ ہے اسی طرح بعض شوہروں کا شراب پینے یا خون یا مردار گوشت یا سوز کا گوشت کھانے پر اکراہ
195	ظہار یا قسم کے کفارہ پر مجبور کیا گیا	191	
196	اکراہ کے ساتھ اسلام صحیح ہے اس کا مطلب	192	کفر کرنے پر اکراہ
196	اکراہ کے ساتھ دین معاف کرایا، کفیل کو بری کرایا، شفعہ سے روکا	192	کفر نہیں کیا اور قتل کیا گیا ثواب پائے گا اسی طرح نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا گیا
196	چوری یا قتل عمد کا زبردستی اقرار کرایا		مسافر یا مریض روزہ نہ رکھنے یا توڑنے پر مجبور کیا

201	فعل میں حجر نہیں ہوتا		شوہر نے عورت سے دھمکی دے کر مہر معاف کرایا یا
	نابالغ کو قرض دینا یا اوس کے پاس امانت رکھنا یا بیع کرنا	197	ہبہ کرایا
201	اگر بغیر اجازت ولی ہو تو ہلاک ہونے پر تاوان نہیں		ایک شخص کے لیے ہبہ کرنے کی دھمکی دی اوس نے دو
201	آزاد عاقل بالغ پر حجر ہوتا ہے کہ نہیں	197	شخصوں کو ہبہ کیا
202	سفیہ کے کن تصرفات میں حجر ہو سکتا ہے	197	کھانا کھانے پر اکراہ
202	نابالغ جب بالغ ہو تو اوسکے اموال کب اوسے دیے جائیں		ہزار قیدی چھوڑنے کے لیے لوٹڈی زنا کے لیے مانگتا
202	مال دینے کے بعد چال چلن خراب ہو گئے	197	ہے دینا جائز نہیں
	جس پر بکثرت دین ہیں، دائن کی درخواست پر قاضی	198	چوروں نے مال بتانے کو کہا اوس نے نہیں بتایا اور قتل ہو گیا
202	اوسے مجبور کر دے گا	198	مرد و عورت نے اتفاق کیا کہ بظاہر ایک ہزار پر طلاق دیں گے
203	مفلس نے چیز خریدی تو اس چیز کا حقدار تہا بالغ ہے یا نہیں	198	حجر کا بیان
203	دین کس مال سے ادا کیا جائے	199	حجر کی تعریف اور یہ کہ اس کے اسباب کیا کیا ہیں
203	بلوغ کا بیان		طیبیب جاہل جس کو علاج میں مہارت نہ ہو اُس کو
203	لڑکے اور لڑکی کے بلوغ کی کیا کیا صورت ہے		علاج کرنے سے روک دیا جائے اسی طرح جاہل مفتی
204	جب بالغ ہونا مسلم ہو چکا تو اپنے کو نابالغ نہیں کہہ سکتے	199	کو فتویٰ دینے سے روکا جائے
	لڑکے کی عمر بارہ سال کی ہو اور اس کی عورت کو حمل	200	آج کل کے مولویوں کو خیر خواہانہ نصیحت
204	ہو جائے تو بچہ ثابت النسب مانا جائے گا		جنون حجر کے لیے سبب ہے اور معتوہ تمیز دار بچہ کے
204	ماذون کا بیان	200	حکم میں ہے
204	نابالغ کے تصرفات تین قسم کے ہیں اور ان کے احکام		مجنون اور نابالغ نہ طلاق دے سکتے ہیں نہ اقرار
204	نابالغ کی بیع اجازت پر موقوف ہے مگر جبکہ ماذون ہو	200	کر سکتے ہیں
205	نابالغ کا ولی کون ہے	200	غلام طلاق بھی دے سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے
205	ولی کا خاموش رہنا بھی اذن ہے		نابالغ کا وہ عقد جس میں نفع و ضرر دونوں ہوتے ہیں
205	ولی نہ ہو یا اجازت نہ دے تو قاضی اجازت دے سکتا ہے	200	اجازت ولی پر موقوف ہے

212	مالک کی گود میں چیز رکھ دی مگر اسے علم نہ ہوا	206	نابالغ و معتوہ کے بعض اقرار صحیح ہیں
212	مغصوب چیز ہلاک ہوگئی تو کیا تاوان دے	206	مسلمان کا ولی کا فر نہیں ہو سکتا
212	ذواتِ اقیم اور ذواتِ الامثال کی قدرے تفصیل	206	بچہ پر دعویٰ ہوا تو انکار کی صورت میں اس پر حلف ہے
	غاصب کہتا ہے کہ چیز ہلاک ہوگئی تو قید کریں جب	206	غصب کا بیان
213	تک اس کا سچا ہونا ظاہر نہ ہو	206	غصب کے متعلق احادیث
	غاصب کہتا ہے میں نے چیز واپس کر دی مالک کے	209	غصب کی تعریف
213	یہاں ہلاک ہوئی		بعض صورتوں میں اگرچہ غصب نہیں مگر اس کا حکم پایا جاتا ہے یعنی ضمان لازم ہے
214	جائداد غیر منقولہ چھین لی اس کا کیا حکم ہے؟	209	
214	زمین غصب کر کے اس میں کاشت کی	210	مٹی کا ڈھیلا یا ایک قطرہ پانی بغیر اجازت لینا جائز نہیں
	جائداد موقوفہ اور نابالغ کی زمین غصب کی اس کا	210	چوری کی صورت کو غصب نہیں کہیں گے
214	کیا حکم ہے	210	دوسرے کے جانوروں پر بوجھ لادنا ناجائز ہے
214	چیز میں نقصان کی چار صورتیں ہیں	210	غصب کا حکم
215	مغصوب چیز کی اجرت حاصل کی	210	غاصب سے ضمان لے یا غاصب الغاصب سے اختیار ہے
215	مغصوب یا ودیعت کو بیچ کر نفع حاصل کیا اس کے احکام		شے موقوف غصب کر لی اور اس کی قیمت بڑھ گئی پھر
216	مغصوب چیز میں تغیر	210	کسی دوسرے نے غصب کر لی
	ایسی تبدیل کی کہ دوسری چیز ہوگئی یا دوسری چیز میں	211	پرانی دیوار گرا دی اس کا نقصان لینے کی صورتیں
216	ملا دی کہ تمیز نہ ہو سکے یا دشوار ہو	211	جہاں سے غصب کیا ہے چیز کو وہیں واپس کرنا ہوگا
216	روپیہ غصب کر کے گلا دیا		یہ ضرور نہیں کہ اس طرح واپس کرے کہ مالک کو علم ہو جائے
	غاصب واپس کرنا چاہتا ہے مگر مالک پر دلیس چلا گیا	211	
216	ہے کیا کرے؟	211	گیہوں غصب کر کے مالک کو پینے کے لیے دے آیا
216	بغیر تاوان دیے چیز کو کام میں لانا حرام ہے	212	سوتے میں ٹوپی یا انگٹھی وغیرہ اتار لی

219	زیور یا برتن غصب کر کے توڑ پھوڑ ڈالے		بکری کو ذبح کر کے گوشت پکا لیا یا گیہوں کا آٹا پسوایا،
219	چاندی کی چیز پر سونے کا ملمع تھا، ملمع دور کر دیا		لوہے کی تلوار چھری بنا لی تانبے کے برتن بنا لیے اس کا
	تانبے لوہے پیتل کی چیزیں وزن سے بکسیں یا حد وزن	216	کیا حکم ہے؟
219	سے خارج ہو گئی ہوں دونوں کے احکام		بکری ذبح کر ڈالی بلکہ اس کا گوشت بنا لیا اب بھی
	جانور غصب کیا تھا وہ بڑھ گیا کھیت میں زراعت	217	مالک ہی کی ہے
	بڑھ گئی درخت میں پھل آگئے ان سب میں غاصب		جانور کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے یا آنکھ پھوڑ دی یا
220	کو معاوضہ نہیں ملے گا	217	گدھے کو ذبح کر دیا
220	روٹی کتوالی یا سوت کا کپڑا بنوایا		مغصوب چیز موجود ہے مگر اس کے لینے میں غاصب
220	زمین میں عمارت بنوائی یا پیڑ لگائے	217	کا نقصان ہوگا
220	لکڑی چیر ڈالی، لکڑی کے لیے آ رہ عاریت لیا وہ ٹوٹ گیا		بغیر قصد ایک کی چیز دوسرے کی چیز میں چلی گئی اور
221	مردار کا چمرا غصب کر کے پکا لیا	217	بغیر نقصان چیز کو نہ نکالا جاسکے
221	دروازہ کا ایک بازو یا موزہ، جوتے میں کا ایک تلف کر دیا	217	سونا چاندی غصب کر کے روپیہ اشرفی برتن بنا لیا
221	تلف کرنے سے کہاں ضمان		غاصب نے کپڑا غصب کر کے پھاڑ ڈالا اس کی تین
	واجب ہوتا ہے کہاں نہیں	218	صورتیں ہیں
221	دوسرے کا انڈا توڑ دیا گندہ نکلا یا اخروٹ توڑا وہ خالی نکلا	218	کپڑا غصب کر کے رنگ ڈالا
221	کسی چیز کی ترکیب اور بناوٹ بگاڑ دی	218	کپڑا کسی کے رنگ میں گر گیا اور اس پر رنگ آ گیا
221	دیوار گردی پھر ویسی ہی بنا دی	218	رنگ غصب کر کے اپنا کپڑا رنگ لیا
221	دوسرے کی زمین میں سے مٹی اٹھا لیا		ایک کا رنگ غصب کیا دوسرے کا کپڑا غصب کیا اور
	کسی کا گوشت پکا ڈالا ضمان دینا ہوگا، مگر ایک صورت	218	اُس میں رنگ دیا
222	میں نہیں دینا ہوگا اور اسی طرح کی اور کئی صورتیں ہیں	219	کپڑے کو دھویا یا اس میں پھنسنے بٹے
	کوئی اپنی دیوار گرانا ہی چاہتا تھا اُس نے بغیر اجازت	219	ستون غصب کر کے گھی میں مل دیا

	وہ دیوار گرا دی اس میں تاوان نہیں	222	غاصب سے مغصوب کو مالک کو دینے کے لیے لیا ہے
225	قصاب کی بکری بغیر اجازت ذبح کر دی تاوان ہے یا نہیں	222	تو جب تک دے نہ دے بری الذمہ نہ ہوگا
	دوسرے کا مال بغیر اجازت چند جگہوں میں خرچ کرنا جائز ہے	222	گھوڑا غصب کیا اس سے دوسرا چھین لے گیا دوسرے کے یہاں سے مالک چور لے گیا مالک سے دوسرا زبردستی چھین لایا
225	جانور نے کھیت چر لیا یا بلی نے کبوتر کھا لیا تاوان نہیں	223	
225	مسلم کے پاس شراب تھی کسی نے تلف کر دی تاوان نہیں	223	مالک نے غاصب کی بیع کو جائز کر دیا بیع صحیح ہوگئی
225	مسلم نے کافر سے شراب خرید کر کے پی ڈالی	223	بیع کرنے کے بعد غاصب خود ہی چیز کا مالک ہو گیا
225	مسلم کی شراب کا سرکہ بنا لیا تو سرکہ کس کا ہے	223	آگ لگی تھی بجھانے کے لیے کسی کی دیوار پر چڑھنے سے دیوار گر گئی تاوان واجب نہیں
	دوسرے کی چیز تلف کر دی مالک نے جائز کر دیا	223	دوسرے کے مکان میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں مگر بضرورت
225	غاصب سے دوسرے نے غصب کر لی یا غاصب نے ودیعت رکھی مالک جس سے چاہے ضمان لے	223	ایک نے قبر کھدوائی دوسرے نے اپنی میت اس میں دفن کر دی
	غاصب دوم نے غاصب اول کو چیز واپس کر دی یا تاوان دے دیا بری ہو گیا	224	غاصب نے چیز غاصب کر دی پتا نہیں کہ کہاں ہے مالک کیا کرے
226	غاصب نے عاریت دے دی تو مالک اس غاصب یا مستعیر جس سے چاہے ضمان لے	224	غاصب کہتا ہے مجھے چیز کی قیمت معلوم نہیں اس کا کیا حکم ہے
226	غاصب نے چیز بیچ دی اگر مالک نے غاصب سے ضمان لیا تو بیع صحیح ہوگئی اور مشتری سے لیا تو باطل ہوگئی	224	ضمان لینے کے بعد چیز ظاہر ہوگئی تو مالک کو اختیار ہے
227	چیز رہن رکھ دی یا اجرت پر دی مالک نے مرہن یا مستاجر سے ضمان لیا تو رجوع کریں گے	224	زیادت منصفہ غاصب کے پاس امانت ہے لہو و لعب کی چیزیں توڑ ڈالیں تو تاوان نہیں
227	مالک کچھ ضمان غاصب سے اور کچھ غاصب الغاصب سے لے سکتا ہے	225	طبل غازی یا جودف شادیوں میں بجانا جائز ہے یا بچوں کے تاشے باجے توڑے تو تاوان ہے

230	تنور سے شعلہ نکلا اور یہ مکان جلا پھر کسی اور مکان جلا	228	بولنے والے کبوتر اور اڑنے والے کے تاوان میں فرق
231	کسی کا دامن دوسرے کے نیچے دبا اور اٹھنے میں پھٹ گیا		سینگ والا مینڈھا جس کو لڑاتے ہیں اور اصیل مرغ اور تیز شیر کے تاوان
231	دلال کو چیز دی تھی اسے معلوم ہوا کہ چوری کی ہے واپس کر دی یہ بری ہے	228	درخت کے چھوٹے چھوٹے پھل جو کارآمد نہیں ہیں توڑ ڈالے یا کلیاں توڑ ڈالیں ان کا بھی تاوان دینا ہوگا
231	مدیون کی پگڑی دائن نے اُتار لی اور کہا کہ میرا روپیہ لاؤ تب دوں گا، پھر وہ پگڑی اس کے پاس ضائع ہو گئی	229	خاص اور عام کوئیں میں نجاست ڈالنے کا فرق
231	جانور کسی کے گھر میں گھس گیا یا پرند کنوئیں میں گر گیا تو کس کے ذمہ نکالنا ہے	229	علی ابن عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکایت اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا زبردست استدلال
231	کسی کے مکان میں بہت لوگ جمع تھے اور صاحب خانہ کا آئینہ دیکھنے لگے وہ ٹوٹ گیا تو تاوان نہیں	229	ایک نے دوسرے سے کہا یہ بکری ذبح کر دو اور بکری اوس کی نہ تھی ذبح کو تاوان دینا ہوگا اسے معلوم ہو یا نہ ہو
231	ایک نے دوسرے کی ٹوپی اُتار کر تیسرے کے سر پر رکھی اور اُس نے چوتھے کے سر پر علیٰ ہذا القیاس پھر وہ ٹوپی ضائع ہو گئی	230	کسی نے کہا میرا کپڑا پھاڑ کر پانی میں ڈال دو اوس نے ایسا ہی کیا اس میں تاوان نہیں مگر گنہگار ہے
231			زمین غصب کر کے اوس میں کچھ بویا مالک نے کھیت جوت کر اور چیز بودی اس پر تاوان نہیں
232	شفعہ کا بیان	230	
233	شفعہ کی تعریف اور اُس کے شرائط		کسی کی زمین میں بغیر اجازت کاشت کی مالک نے جب کہا تو اس نے کہا بیچ مجھے دے دو اور میں اجرت پر کام کروں گا
234	مکان موقوف کے ذریعہ سے شفیعہ نہیں ہو سکتا		
235	شفعہ کے مراتب	230	
236	کوچہ سربستہ میں شفیعہ کی صورتیں		درخت کی شاخ دوسرے کی دیوار پر آگئی مالکِ درخت سے کہہ دے شاخیں کاٹ دو ورنہ میں کاٹ ڈالوں گا
236	شرکت کی دو صورتیں ہیں		
237	جار ملاصق کب شفیعہ کر سکتا ہے	230	
237	دو منزلہ مکان کی ایک منزل فروخت ہوئی کون شفیعہ کرے	230	انڈے غصب کیے اوس سے بچے نکلے

246	ذمہ داری کبھی مشتری پر ہوتی ہے اور کبھی بائع پر	238	مکان بیچا اور راستہ نہیں بیچا
246	شفعہ میں خیار		مکان کے دو دروازے دو گلیوں میں ہیں یا دو گلیوں
247	شفعہ میں اختلاف کی صورتیں		کو ایک کر دیا یا کو چہرہ سربستہ کی دیوار توڑ کر راستہ
250	کتنے داموں میں شفیع کو جاندا ملے گی	238	عام کر دیا
		238	چند شرکا ہوں تو سب حقدار ہیں
	بائع نے مشتری سے ثمن کم کر دیا تو یہ کی شفیع سے بھی	238	شفعہ کرنے والے بعض موجود ہیں بعض غائب
250	ہوگئی اور ثمن میں زیادتی ہوئی تو شفیع پر زیادتی نہیں ہوگی		قاضی کے فیصلہ کے بعد شفیع نے لینے سے انکار کر دیا
251	ذوات الامثال یا ذوات القیم سے جاندا خریدی	239	تو اس کے بعد والے شفیع نہیں کر سکتے
	ادائے ثمن کے لیے میعاد تھی تو شفیع کو اختیار ہے کہ	239	شفیع جاندا کا صرف ایک جز لینا چاہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا
251	ثمن اس وقت دے یا میعاد پر	240	ایک نے اپنا حق شفیعہ دوسرے کو دے دیا
	مشتری نے زمین میں کاشت کی تو فصل طیار ہونے پر		دو شخصوں نے مشترک مکان بیچا یا دو شخصوں نے ایک
252	شفیع کو زمین ملے گی	240	مکان خریدایا ایک نے دو مکان خریدے
	مشتری نے جدید تعمیر کی یا درخت لگائے یا مکان میں	240	وکیل سے طلب شفیعہ کب ہو سکتی ہے
252	روغن وغیرہ کرایا	240	طلب شفیعہ کا بیان
252	عمارت منہدم کر دی یا منہدم ہوگئی تو کتنا ثمن دینا ہوگا	240	طلب مواثبت
253	زمین خریدی جس میں درخت ہیں ان کے پھل کس کے ہیں		طلب مواثبت میں دیر کرنا شفیعہ کو باطل کرتا ہے اور
254	مشتری کے تمام تصرفات شفیعہ باطل کر دے گا	241	اس کی صورتیں
254	کس میں شفیعہ ہو سکتا ہے اور کس میں نہیں	242	طلب اشہاد یا طلب تقریر اور اس کی صورتیں
		244	طلب تملیک
255	صلح کے ذریعہ سے جو چیز حاصل ہوئی اس میں شفیعہ ہو سکتا ہے یا نہیں	245	شفیعہ کے دعویٰ کرنے پر قاضی چند سوالات کرے گا
255	بیع بالخیار اور بیع فاسد میں شفیعہ ہو سکتا ہے یا نہیں	245	ثمن کا حاضر کرنا دعوے کے لیے شرط ہے نہ فیصلہ کے لیے
	خیار عیب یا اقالہ سے جاندا واپس ہوئی تو شفیعہ	246	شفیعہ کا دعویٰ مشتری پر ہوگا اور کبھی بائع پر بھی ہو سکتا ہے

262	تقسیم میں حصہ جدا کرتا ہے اور مبادلہ کا پہلو بھی ہے	256	ہو سکتا ہے یا نہیں
	ایک شریک موجود ہے ایک غائب یا ایک بالغ ہے	256	شفعہ باطل ہونے کے وجوہ
263	دوسرا نابالغ		مشرقی نے شفعہ کو کچھ دے کر مصالحت کر لی یا حق شفعہ کو خرید لیا شفعہ باطل ہو گیا
	تقسیم کے لیے حکومت کی طرف سے آدمی مقرر کیا جائے	257	شفعہ کی موت سے شفعہ باطل ہوتا ہے بائع یا مشتری کی موت سے نہیں
263	یا اُس کی اجرت شرکا دیں		جس جائیداد کے ذریعہ سے شفعہ کرتا ہے وہ ملک مشتری سے خارج ہو گئی، شفعہ باطل ہو گیا
263	اجرت تقسیم سب شرکا برابر برابر دیں	258	شفعہ نے وہ جائیداد خرید لی یا او سے ضمان درک کیا شفعہ باطل ہو گیا
264	تقسیم کنندہ کو کیسا ہونا چاہیے		بائع کا وکیل شفعہ نہیں کر سکتا ہے اور مشتری کا وکیل کر سکتا ہے یو ہیں بائع یا مشتری نے جس کو اختیار دیا ہے شفعہ کو غلط خبر ملی تھی اور اوس نے تسلیم کر دی تو تسلیم صحیح ہے یا نہیں
264	ایک ہی شخص اس کے لیے مقرر نہ ہونہ ان کو شرکت کا موقع دیا جائے	258	شفعہ نے ملک کا دعویٰ کیا شفعہ باطل ہو گیا
264	شرکاء خود بھی تقسیم کر سکتے ہیں	258	شفعہ باطل کرنے کی صورتیں یا یہ کہ شفعہ کا حق ہی نہ پیدا ہو نابالغ کے لیے بلکہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کے لیے بھی حق شفعہ حاصل ہوتا ہے
	بعض صورتوں میں شرکاء سے گواہ مانگے جائیں گے اور بعض میں نہیں	259	نابالغ کے لیے کون شخص طلب شفعہ کرے
265	تنہا ایک وارث موت مورث ثابت کرنا چاہتا ہے		تقسیم کا بیان
265	جائیداد مشترک غائب یا نابالغ کے قبضہ میں ہے	259	تقسیم کی تعریف
266	کیا چیز تقسیم کی جائے گی اور کیا نہیں	260	تقسیم کرنے پر قاضی کب تقسیم کرے گا
	اگر ہر ایک کا حصہ قابل انتفاع ہے تو فقط ایک کے کہنے سے تقسیم ہوگی اور جس کا حصہ قابل انتفاع نہ ہو تو اس کے کہنے سے تقسیم نہ ہوگی	261	
266	ایک چیز کی تقسیم کرنی ہو یا چند چیزیں تقسیم کی جائیں دونوں کا حکم	261	
266	جو چیزیں تقسیم سے خراب ہو جائیں یا اولن میں بہت تفاوت ہو	262	

	دیوار مشترک کی تقسیم	267	ایک کی دو روٹیاں ہیں دوسرے کی تین ان کو تین
271	دکان مشترک قابل تقسیم نہ ہو تو باری مقرر کر دی جائے اگرچہ ایک شریک راضی نہ ہو		شخصوں نے کھایا
272	زرعت اور تھان یا سلے ہوئے کپڑے کی تقسیم	268	تقسیم میں غلطی کا دعویٰ یا یہ کہ میرا حصہ مجھے نہیں ملا
273	برتن، زیور، سونے، چاندی کی تقسیم	268	استحقاق کے مسائل
274	چند مکانات یا قطعات زمین کی تقسیم	269	مکان یا زمین کی تقسیم ہوئی ایک نے دوسرے کے
	نالی یا پرنا لہ کی تقسیم	269	حصہ میں دعویٰ کیا کہ یہ کمرہ یا درخت میرا ہے
274	طریقہ تقسیم	269	درخت یا عمارت کی تقسیم کے بعد ایک نے دوسرے پر زمین کا دعویٰ کیا
	تقسیم میں قرعہ ڈالنا اچھا ہے	269	ایک کے درخت کی شاخیں دوسرے کے حصہ میں
275	قاضی یا اُس کے نائب کی تقسیم میں انکار کی گنجائش نہیں خود تقسیم کر رہے تھے اور سب کے نام نکل آئے یا	270	لنگتی ہیں یا ایک کی دیوار پر دوسرے کی کڑیاں ہیں
275	صرف ایک باقی ہے تو انکار نہیں کر سکتے	270	زمین مشترک میں درخت لگایا مکان بنوایا
275	زمین و عمارت کی تقسیم میں قیمت بھی لگائی جائے	270	ترکہ کی تقسیم کے بعد معلوم ہوا کہ میت پر دین ہے
275	ایک کا پرنا لہ دوسرے کے حصہ میں پڑا تو تقسیم رکھی جائے یا توڑ دی جائے	270	جن لوگوں نے تقسیم کی ان میں سے کسی نے میت پر اپنا دین بتایا
276	بعض شرکا کہتے ہیں کہ راستہ مشترک ہی رہے	271	وصی سے وراثہ یہ کہتے ہیں کہ بقدر دین جدا کر کے
276	راستہ کتنا چوڑا کتنا اونچا ہونا چاہیے	271	باقی کو تقسیم کر دے وصی کو اختیار ہے کہ تقسیم نہ کرے
276	تقسیم میں شرط ہے کہ راستے کی مقداریں مختلف ہوں گی	271	وصی دو شخص ہوں تو تنہا ایک کچھ نہیں کر سکتا
276	دو منزلہ مکان کی تقسیم قیمت کے لحاظ سے ہوگی	271	ورثہ مسلمان ہیں اور وصی کافر ذمی
276	زمین مشترک میں درخت یا زرعت ہے	271	ایک وارث نے دین کا اقرار کیا دوسرے انکار کرتے ہیں
	بھوسے کی تقسیم	271	دائن کے مطالبہ پر تقسیم توڑی جاسکتی ہے
		271	ورثہ نے قاضی کے پاس تقسیم کی درخواست کی تو قاضی

	277	مہایاۃ ہوئی اور مکان کا کرایہ زیادہ ہو گیا یہ زیادتی	دریافت کرے کہ ذین یا وصیت ہے کہ نہیں
281	277	کس کی ہے	تقسیم کے بعد نیا وارث ظاہر ہوا یا وصیت کا پتا چلا
281		دو مختلف چیزوں میں بھی مہایاۃ ہو سکتی ہے	وارث نے ذین ادا کیا تو دوسرے ورثہ سے رجوع
281	277	مہایاۃ توڑی بھی جاسکتی ہے	کر سکتا ہے یا نہیں
	278	غلام کو اجرت پر دینے یا جانور پر سواری لینے یا جانور	تقسیم کے بعد عورت نے ذین مہر کا دعویٰ کیا
282	278	کے دودھ لینے میں مہایاۃ ناجائز ہے	ذین وعین کی تقسیم باطل ہے
282		درختوں کے پھل اور بکریوں میں مہایاۃ ناجائز ہے اور	ایک شخص مراجس کے تین لڑکے ہیں پھر ان میں سے کوئی
		اسکے جواز کا حیلہ	مراؤں نے لڑکا چھوڑا ان تینوں میں تقسیم ہوئی پھر یہ لڑکا
282		کپڑے پہننے میں مہایاۃ ناجائز ہے	کہتا ہے کہ دادا نے میرے لیے وصیت کی ہے یا میرے
283	278	مہایاۃ کی صورت میں ابتداء کون کرے گا	باپ پر میرا ذین ہے یہ تقسیم توڑی جائے گی یا نہیں
283	279	طریق مہایاۃ میں اختلاف ہو تو قاضی کیا کرے	تقسیم کو توڑنا اور تقسیم میں قرعہ اندازی
	279	گاؤں کی حفاظت کے لیے سپاہی مقرر ہوئے تو مصارف	تقسیم میں حصوں کا تعین کیونکر ہوگا
283	279	کس کے ذمہ ہیں	بلاوجہ تقسیم ایک شخص توڑنا چاہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا
283		تقسیم میں کیا چیز تجعداً داخل ہوگی	سب نام نکل آئے یا صرف ایک باقی رہ گیا ہے تو
284	279	تقسیم میں خیار کے احکام	رجوع نہیں کر سکتے
285	279	ولی بھی تقسیم کر سکتا ہے	اونٹ بکریوں کی تقسیم
285	280	وصی تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں	ہبہ یا صدقہ یا بیع کی شرط سے تقسیم فاسد ہے
286		مزارعت کا بیان	مکان مشترک اس طرح تقسیم ہوا کہ ایک کو ساری
287	280	مزارعت کی تعریف اور اس کے شرائط	زمین دی جائے دوسرے کو پوری عمارت
289	280	وہ شرائط جن سے مزارعت فاسد ہو جاتی ہے	مہایاۃ کا بیان اس کے معنی اور احکام
289	280	بعض جائز و ناجائز صورتیں	مہایاۃ کی صورتیں

296	مدت پوری ہوگئی اور فصل کچی ہے	290	عقدِ مزارعت لازم ہے یا نہیں
	طیار ہونے سے پہلے مزارع مر گیا اور سکے ورش کام	290	مزارع کے ذمہ کھیت جو تپا پانی دینا ہے یا نہیں
296	کرنے کو کہتے ہیں یا انکار کرتے ہیں دونوں کے احکام	291	پیداوار کی تقسیم میں طے شدہ سے گھٹانا بڑھانا چاہتے ہیں
296	کھیت بونے کے بعد مزارع غائب ہو گیا تو مالک کیا کرے	291	ایک کی زمین اور بیچ دونوں کے یا زمین دونوں کی اور بیچ ایک کے یا دونوں کی دونوں چیزیں
	مالک زمین پر دین ہے اور اُس زمین کے سوا کوئی چیز نہیں جس کو مزارعت پر دے چکا ہے تو زمین بیچی جائے گی یا نہیں	291	مزارعت فاسدہ کے احکام
297	فصل طیار ہونے کے بعد زمین کی بیج ہوئی	292	مزارعت فاسدہ میں جو حصہ ملا ہے اسے طیب ظاہر کرنے کا طریقہ
298	او گنے سے پہلے کھیت کو بیچ دیا	292	مالک زمین کو کاشت کرنے کے لیے بیج دیس کی صورت میں
	مزارع بہت زیادہ بیمار ہو گیا یا سفر میں جائے گا یا اس پیشہ کو چھوڑنا چاہتا ہے یا دوسرا کھیت بونا چاہتا ہے ان صورتوں میں مزارعت فسخ کی جا سکتی ہے	293	یہ کہہ کر زمین دی کہ گیہوں بوئے تو اتنا اور بھو بوئے تو یہ زمین دی کہ اس میں زراعت کرو اور پیڑ بھی لگاؤ
298	مدت پوری ہوگئی اور فصل طیار نہیں ہے تو مدت کے بعد مصارفِ دونوں کے ذمہ ہیں	293	یہ شرط کہ مزدور کی اجرت مالک زمین دے گا یا کاشتکار جس شرط سے مزارعت فاسد ہوئی وہ جس کے لیے مفید تھی اس نے ساقط کر دی اور دونوں کے لیے مفید ہو اور دونوں ساقط کر دیں تو مزارعت صحیح ہوگئی
298	مدت پوری ہونے کے بعد مالک یا مزارع کچی کھیتی کا ثنا چاہتا ہے	293	کاشتکار نے کھیت جو ت لیا اب مالک زمین کھیت بوانا نہیں چاہتا
298	زمین مشترک ہے ایک شریک غائب ہو گیا تو جو موجود ہے زراعت کر سکتا ہے یا نہیں	294	مزارع دوسرے کو مزارعت پر دینا چاہتا ہے اسکی صورت میں مزارعت فسخ ہونے کی صورت میں
299	دوسرے کی زمین بلا اجازت بوئی	295	مر جانے سے مزارعت فسخ ہوگئی اور ابھی فصل طیار نہ ہو تو انتظار کریں
299	زمین غصب کر کے مزارعت پر دے دی	296	کھیت جو تنے کے بعد ان میں سے کوئی مر گیا
299	بیچ غصب کر کے اپنی زمین میں بودیے	296	کھیت او گنے سے پہلے مر گیا

304	نئے پودے جو ابھی پھلنے کے قابل نہیں ان کا معاملہ	300	راہن نے مرہون زمین مزارعت پر دی یہ صحیح ہے
	ترکاریوں کے درخت یا باغ کو معاملہ پر دیا کہ جب	300	مزارعت میں کس کے ذمہ کیا کام ہیں
304	تک پھلیں کام کرو، یہ معاملہ فاسد ہے	301	مزارع کے پاس غلہ امانت ہے اگرچہ مزارعت فاسد ہو
	ترکاریوں کا وقت ختم ہو گیا بیج لینے کا وقت باقی ہے	301	پانی دینے یا کاٹنے میں دیر کی اور فصل ضائع ہوگی
305	معاملہ صحیح ہے		شرکت میں کھیت بویا ایک شریک پانی دینے سے
305	پھل آنے کے بعد معاملہ پر دینے کی دو صورتیں ہیں	301	انکار کرتا ہے
	خالی زمین معاملہ پر دی کہ عامل درخت لگائے یہ		مزارعت میں بیج مزارع کے ذمے تھے مگر مالک
305	جائز ہے	302	زمین نے خود کھیت کو بویا
	دوسرے کے باغ سے گٹھلی آ کر اس کی زمین میں جم		اجارہ پر کھیت لیا اور مالک زمین سے اجرت پر کام
305	گئی یا پھل آ کر گرا اور جما، یہ مالک زمین کا ہے	302	کرایا جائز ہے
305	معاملہ صحیح کے احکام		ایک شخص مرا اور اُس کی اولادیں ایک ساتھ رہتی ہیں
306	معاملہ فاسد کے احکام		بڑے لڑکوں نے کھیت بویا تو غلہ سب کا ہے یا فقط
306	معاملہ فسخ ہونے کی صورتیں	302	بونے والوں کا
307	ایک شریک نے دوسرے کو معاملہ پر دیا	302	معاملہ یا مساقاة کا بیان
307	دو شخصوں کو معاملہ پر دیا یہ جائز ہے		اور اس کے شرائط؟
307	دو شخصوں نے مشترک باغ کو معاملہ پر دیا	303	درختوں کے سوا بکری وغیرہ کو معاملہ کے طور پر نہیں دے سکتا
	بغیر اجازت زمیندار کا شکار نے پیڑ لگایا یہ زمیندار	303	نرکل، سینٹھا، بید کو معاملہ کے طور پر دے سکتا ہے یا نہیں
307	کا ہے	303	معاملہ اور مزارعت میں بعض باتوں کا فرق
	معلم کے لیے غلہ جمع کر کے بویا گیا اُس کا مالک معلم	304	مدت مذکور نہ ہو تو کب تک معاملہ باقی رہے گا
307	نہیں جب تک او سے دے نہ دیں		مدت ایسی ذکر کی جس میں پھل نہیں آئیں گے یا
	کھیت میں کچھ پھل یا بالیں یا دانے چھوڑ دیے جو	304	پھلنے کا احتمال ہو اس کے احکام

317	ما اهل لغیر اللہ بہ کا مطلب اور وہابیہ کا رد	308	چاہے لے سکتا ہے
317	بسم اللہ کی "ہ" کو ظاہر کرنا چاہیے	308	عالم کو چند باتوں سے بچنا لازم ہے
317	بسم اللہ اکبر بغیر واو کہے	308	ذبح کا بیان
318	زبان سے بسم اللہ کہی اور دل میں نیت حاضر نہیں	309	ذبح کے متعلق حدیثیں
318	ذبح اختیاری میں جانور پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور	312	ذبح کی تعریف اور اس کے اقسام
318	شکار میں آلہ پر	313	ذبح فوق العقدہ میں جانور حلال ہے یا حرام
318	خود ذاب بسم اللہ پڑھے اور معین ذاب کس کو کہتے ہیں	313	ذبح سے جانور حلال ہونے کے شرائط
318	بسم اللہ پڑھنے اور ذبح کے درمیان فاصلہ نہ ہو		بکری ذبح کی اوس سے خون نکلا یا حرکت پیدا ہوئی
319	پلاؤ جانور بھاگ جائے تو ذبح اضطراری ہو سکتا ہے	314	حلال ہے یا حرام
319	آبادی اور جنگل میں بھاگنے کا فرق ہے یا نہیں	314	کس چیز سے ذبح کر سکتے ہیں
319	مرغی اڑ کر درخت پر چلی گئی یا کبوتر اڑ گیا یا ہرن بھاگ گیا	315	ذبح کے بعض مستحبات و مکروہات
320	ذبیحہ کے پیٹ سے بچہ نکلا زندہ ہو تو ذبح کر دیا جائے		احرام میں شکار ذبح کرنے یا حرام کے جانور کو ذبح
320	ذبح کے بعض مستحبات	315	کرنے میں جانور حرام ہے
320	حلال و حرام جانوروں کا بیان		جنگلی جانور مانوس ہو جائے تو ذبح اختیاری ہے اور
320	اس کے متعلق چند حدیثیں	315	گھریلو جانور وحشی ہو جائے تو ذبح اضطراری ہو سکتا ہے
322	جیش الخبط کا مختصر اور نتیجہ خیز واقعہ	316	عورت اور گونگے اور اقلف اور جن کا ذبیحہ
323	بعض جانوروں کے حرام ہونے میں کیا حکمت ہے		معبودان باطل کے لیے مشرک نے مسلم سے ذبح کرایا
324	حلال و حرام جانوروں کی کچھ تفصیل اور چند کلیات	316	اور مسلمان نے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا
	مچھلی کے پیٹ سے موتی یا اشرفی یا زیور نکلا ان کا کیا	316	ذبح کے بعد چھری پھیرنے کا اعتبار نہیں
325	حکم ہے	316	قصدا یا بھول کر بسم اللہ نہ کہنے کا حکم
325	جلالہ اور بکرے کا حکم		بسم اللہ کے ساتھ دوسرا نام بھی لیا اس کی تین
325	بکری کے بچہ کو کتیا کا دودھ پلایا	317	صورتیں ہیں

334	چاہے کر سکتا ہے	326	بکری سے کتے کی شکل کا بچہ پیدا ہوا
	قربانی کرنے کے بعد فقیر مالدار ہو گیا دوبارہ قربانی کرے یا نہیں وقت گزرنے کے بعد فقیر ہو گیا تو ساقط نہیں اور وقت کے اندر مر گیا تو ساقط ہے	326	ذبح کیا ہوا جانور پانی میں گر کر یا لڑھک کر گرا اور مر گیا کھایا جائے
335	بکری یا گائے، اونٹ کا ساتواں حصہ واجب ہے زائد ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا	326	زندہ جانور سے جو ٹکڑا کاٹ لیا گیا حرام ہے
335	شُرکت میں قربانی کے مسائل	326	ذبح کے بعد ابھی جانور زندہ تھا اس کا ٹکڑا کاٹ لیا حلال ہے
335	گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے اندازہ سے تقسیم ناجائز ہے	326	شکار پر تیر چلایا اور کوئی ٹکڑا کٹ کر جدا ہو گیا وہ حلال ہے یا حرام
336	قربانی کا وقت اور اس میں افضل کون سا ہے	327	دوسرے سے جانور ذبح کرنے کو کہا اور اس وقت ذبح نہیں کیا بیچنے کے بعد ذبح کیا تاوان دے
336	تاریخوں میں شبہ ہو تو کیا کرے	327	سوز اور انسان کے سوا ہر جانور ذبح سے پاک ہو جاتا ہے
336	قربانی کرنا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے	327	قربانی کا بیان
337	شہر میں بعد نماز وقت قربانی ہوتا ہے اور دیہات میں طلوع فجر سے	327	اس کے فضائل میں چند احادیث
337	پہلی جگہ نماز ہو گئی وقت ہو گیا اگرچہ عید گاہ میں نہیں ہوئی	331	قربانی کے اقسام اور وجوب کے شرائط
	نماز کے بعد قربانی ہوئی اور معلوم ہوا کہ نماز نہیں ہوئی تو نماز کا اعادہ ہے قربانی کا نہیں	332	شرائط کا ایک جزو وقت میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے
337	یہ گمان تھا کہ عرفہ کا دن ہے اور قربانی کر لی پھر معلوم ہوا کہ دسویں ہے یا اسی صورت میں دسویں کو نماز سے قبل قربانی کی	333	سبب وجوب اور قربانی کا کارکن
338	نویں کے متعلق دسویں کی گواہی گزری اور قربانی و نماز	333	کتنا مال پائے جانے میں قربانی واجب ہوگی
		334	بی بی یا بالغ لڑکوں کی طرف سے قربانی کرنے میں اجازت یعنی ہوگی
		334	قربانی کا حکم
			دسویں ہی کو قربانی کرنا ضرور نہیں وقت میں جب

	ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے نفع حاصل کرنا منع ہے اور اسکی صورتیں	338	338	ہوگئی پھر معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی دونوں ہو گئیں
347		338		ایامِ حُر گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو کیا کرے
	قربانی کے لیے جانور خرید یا اوس کے بچہ پیدا ہوا اس کو کیا کرے	339	339	قربانی کی وصیت کی مگر نہ قیمت بتائی نہ جانور کا تعین کیا
347				قربانی کی منت مانی اور یہ نہیں معین کیا کہ بکری یا گائے اور بکری کی منت ہے تو گائے کی قربانی ہو سکتی ہے
348	قربانی کرنے کے بعد اوسکے پیٹ میں بچہ نکلا	339		
348	دوسرے کے جانور کو بلا اجازت بھول کر ذبح کیا	339		قربانی کے جانوروں کا بیان
348	دوسرے کے جانور کو بلا اجازت قصداً ذبح کر دیا	340		جانوروں کی عمر کیا ہو اور کون سا جانور افضل ہے
	مالک نے جانور کو معین نہ کیا ہو اور بلا اجازت کسی نے ذبح کر دیا	340		قربانی کے جانوروں میں عیب نہ ہو اور عیبوں کی تفصیل
348				خریدنے کے وقت عیب نہ تھا بعد میں عیب ہو گیا یا
349	جانور کو غصب کر کے قربان کر دیا			خریدنے کے وقت عیب تھا پھر جاتا رہا
349	اپنی بکری دوسرے کی طرف سے قربانی کی نہیں ہوئی	342		قربانی کے وقت جانور کو دا اور عیب پیدا ہو گیا
349	امانت یا عاریت یا رہن کی قربانی	342		قربانی کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا تو کیا کرے
349	موشی خانہ سے نیلام لے کر قربانی کی نہیں ہوئی	342		قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل
	دو شخصوں کے مابین ایک جانور مشترک ہے اس کی قربانی کوئی نہیں کر سکتا	343		شرکا کی نیتیں مختلف قسم کے تقرب کی ہوں قربانی جائز ہے
349	ایک شخص کے اہل و عیال نوہیں اوس نے دس بکریوں کی قربانی کی اور یہ معین نہیں کیا کہ کس کی طرف سے کون ہے	343		لوگوں کے جانور مل گئے پتا نہیں چلتا کون کس کا ہے تو کیا کرے
350	اپنی طرف سے اور بچوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی	344		قربانی کے مستحبات
350	بیع فاسد سے خرید کر قربانی کی ہوگئی	344		اگر خود ذبح نہ کرے تو مسلمان سے ذبح کرائے
350	موہوب کی قربانی کی اور واہب نے واپس لے لیا	345		قربانی کے گوشت و پوست وغیرہ کے مسائل

سولہواں حصہ (16)			
358	کھانے کا بیان	350	دوسرے سے قربانی کرائی اوس نے قصداً بسم اللہ چھوڑ دی تاوان دے
359	کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے فضائل	350	تین شخصوں کی بکریاں مل گئیں ان کو کیا کرنا چاہیے
362	کھانے سے پہلے کی دعا		دوسرے سے ذبح کرایا اور خود بھی چھری پر ہاتھ رکھا
362	دہنے ہاتھ سے کھائے پیئے	351	دونوں بسم اللہ کہیں
362	تین انگلیوں سے کھائے		قربانی کے لیے گائے خریدی اب اس میں دوسرے کو شریک کر سکتا ہے یا نہیں
363	کھانے کے بعد ہاتھ اور برتن کو چاٹ لے	351	پانچ شخصوں نے گائے خریدی چھٹا شخص شرکت چاہتا ہے چار نے منظور کیا ایک انکار کرتا ہے
363	کھانے اور پانی میں پھونکنا منع ہے		قربانی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جانور میں عیب تھا
364	لقمہ گر جائے تو صاف کر کے کھالے	351	قربانی شدہ بکری کسی نے غصب کر لی تاوان لے کر صدقہ کرے
364	روٹی کا احترام کرنا چاہیے	351	غنی نے منت مانی تو اس کے ذمہ دو قربانیاں واجب
364	کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائے		ایک سے زیادہ قربانیاں بھی جائز ہیں
364	کھانے کے بعد الحمد للہ کہے اور یہ دعا پڑھے	351	قربانی کا طریقہ
366	کھانے اور دودھ پینے کے بعد کی دعا	352	سرکار رسالت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے قربانی
366	جب تک کھانا اٹھایا نہ جائے دسترخوان سے نہ اٹھے	352	عقیقہ کا بیان
	جب تک ساتھ والے فارغ نہ ہوں کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے	352	اس کے متعلق احادیث
366	کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا	353	عقیقہ کرنا مستحب ہے
367	اکٹھا ہو کر کھانے میں برکت ہے	353	بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا چاہیے
367	ایک قسم کا کھانا ہو تو ایک جگہ سے اور اپنے آگے سے کھائے	355	بچہ کا اچھانا م رکھا جائے اور عقیقہ کیا جائے
368	کھانے کے بعد ہاتھ سے چکنائی چھوڑالے	355	عقیقہ کے مسائل
368	کھانے کے وقت جوتے اتار لے	356	
368	گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھانا بچھیوں کا طریقہ ہے	356	

374	دوا کے طور پر حرام چیز کو کھانا پینا ناجائز ہے	368	تکلیف لگا کر نہ کھائے
374	کتنا کھانا چاہیے	368	حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے کھانے کا طریقہ
375	ریاضت کے طور پر تقلیل غذا	369	کھانے کو عیب نہ لگائے
375	کھانا کھا کر قے کر ڈالنا	369	ایک کا کھانا دوسرے کے لیے کفایت کرتا ہے
375	طرح طرح کے میوے اور کھانے کھانا	369	ناپ کر کھانا پکانے میں برکت ہوتی ہے
375	سیر ہو کر کھانے میں غلبہ شہوت ہو تو غذا میں کمی کرے	369	کنارہ سے کھائے برتن کے بیچ سے نہ کھائے
376	کھانے کے آداب و سنن	370	تہائی پیٹ بلکہ اس سے بھی کم کھائے
378	دستر خوان پر جو ٹکڑے ریزے جمع ہوئے انھیں کیا کرے	370	کھانے کے لیے کس طرح بیٹھے
379	کھانے کے لیے دوسروں کو پوچھنا		جب تک ساتھیوں سے اجازت نہ لے لے دو کھجوریں
379	بیٹے کی چیز حاجت کے وقت باپ لے سکتا ہے	370	ملا کر نہ کھائے
	بھوک سے جو شخص اتنا کمزور ہو گیا کہ گھر سے نکل نہیں	370	جن کے یہاں کھجوریں ہیں وہ لوگ بھوکے نہیں
	سکتا، تو جسے معلوم ہے کھانے کو دے اور سوال کب کر	371	کچا لہسن نہ کھائے اور پکا ہو تو حرج نہیں
380	سکتا ہے کب نہیں	371	سرکہ اچھا سالن ہے
	کھانے یا پانی میں پاک چیز گر گئی جس سے نفرت ہوتی	372	بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرے
380	ہے تو وہ حرام نہیں ہوا		حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیخین کے ساتھ ایک انصاری
380	روٹی میں اُپلے کا ٹکڑا ملا، یا ناپاک جگہ میں روٹی کا ٹکڑا ملا	372	کے یہاں تشریف لے گئے انھوں نے ضیافت کی
380	سزا ہوا گوشت حرام ہے	372	چاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا منع ہے
380	دوسرے کے باغ میں پھل کب کھا سکتا ہے		کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو غوطہ دے کر
381	باغ سے گرے ہوئے پتے لے سکتا ہے	373	پھینک دے
381	دوست کے گھر سے کوئی چیز کھا سکتا ہے جبکہ اُسے ناگوار نہ ہو	373	بعض صورتوں میں کھانا کھانا فرض ہے
381	چھری سے روٹی نہ کاٹے مگر خاص صورتوں میں	373	اضطرار کی حالت میں حرام کھا کر یا پی کر جان بچائے
381	مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ	374	انسان کا گوشت کھانا اضطرار میں بھی ناجائز ہے

386	پانی اور نمک اور آگ کوئی مانگے تو دینا ہی چاہیے اور ان کے دینے کا ثواب	381	نان باقی خمیر دیتا ہے پھر اتنا ہی آنا نکال لیتا ہے یہ جائز ہے
387	پانی پینے کے آداب	381	چندہ کر کے کھانا پکوا یا اپنی اپنی چیزیں ملا کر کھائیں
387	لوٹے کی ٹوٹی اور صراحی میں مونہ لگا کر پانی نہ پیے	381	کھانے کے بعد خلل کرنا
387	سبیل کا پانی اور مسجد کے سقاہ کے پانی کا حکم	382	پانی پینے کا بیان
387	مسجد کے لوٹے گھر نہ لے جائے	383	تین سانس میں پانی پیے
387	وضو کا بچا ہو پانی پھینکنا جائز ہے	383	برتن میں سانس لینا اور پھونکنا منع ہے
388	ولیمہ و ضیافت کا بیان	383	برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیے
388	ولیمہ کے فضائل اور وہ کتنا ہو	383	مشک کے دہانہ کو موڑ کر پانی نہ پیے
389	دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور ولیمہ میں اگر مالدار بلائے جائیں، غریبوں کو نہ پوچھا جائے یہ بُرا ہے	383	کھڑا ہو کر پانی نہ پیے
389	پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا سنت، تیسرے دن کا سمعہ	384	آپ بزم اور وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے
389	جو تباخ کے طور پر دعوت کرے اس کے یہاں نہ کھائے	384	پُرانی مشک کا باسی پانی
390	دو شخص دعوت دیں تو کس کی دعوت قبول کرے	385	دودھ کی لسی پینی
390	جب کسی کے ساتھ دوسرا شخص بغیر بلائے دعوت میں چلا جائے تو ظاہر کر دے	385	دہنے والے کو مقدم کرو
390	فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرے	385	حریر و دیباچ پہننے اور سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے کی ممانعت
390	مومن کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، پڑوسی کو ایذا نہ دے صلہ رحمی کرے، مہمان کو حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ ٹھہرے	385	پینے کی چیز شیریں ٹھنڈی پسند ہے
390	سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازہ تک رخصت کرنے جائے	386	پیٹ کے بل جھک کر پانی میں مونہ ڈال کر پینا منع ہے اور رات میں برتن کو ہلا کر پیے جبکہ ڈھکانہ ہو
390	سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازہ تک رخصت کرنے جائے	386	ہاتھ سے پانی پینا
391	سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازہ تک رخصت کرنے جائے	386	ساتی سب کے بعد پیے
391	سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازہ تک رخصت کرنے جائے	386	پانی چوس کر پیے زیادہ مفید ہے

407	جو کسی سے تشبہ کرے انہیں میں سے ہے		کافر یا فاسق کی یہ خبر کہ میں فلاں شخص کا بیچ میں وکیل ہوں معتبر ہے
408	مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے تشبہ ناجائز ہے	399	دیانات میں مُخبِر کا عادل ہونا ضروری ہے اور اگر اس کے ساتھ زوالِ ملک بھی ہو تو عدد بھی ضروری ہے
408	مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق	400	پانی کے متعلق کافر یا فاسق یا مستور یا عادل کی خبر
408	حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے سبز کپڑے پہنے ہیں	400	
408	حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا بستر اور تکیہ کیسا تھا	400	لباس کا بیان
409	حاجت سے زیادہ بچھونے نہ رکھے	401	حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا لباس مبارک
409	لباس کتنا ضروری ہے اور کتنا مستحب اور کون سی صورت	401	کپڑا گھسیٹنے اور ٹخنے سے نیچا کرنے کی مذمت
409	ناجائز ہے	403	سپید کپڑے پسند ہیں اور سُرخ اچھے نہیں
409	اونی سو تکی کتان کے کپڑے سنت کے مطابق ہوں، نہ	403	عورت باریک کپڑے نہ پہنے
409	بہت بڑھیا ہوں نہ بہت گھٹیا	404	عمامہ کی فضیلت اور عمامہ ٹوپی پر باندھا جائے
409	فتح مکہ کے دن حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سیاہ عمامہ	404	کپڑے میں پیوند لگانا اور ردی حال میں ہونا
409	باندھے ہوئے تھے	404	لباس شہرت کی مذمت
409	دامن کی لمبائی اور آستین کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو	405	پراگندہ سر نہ ہونا چاہیے اور کپڑے صاف رکھنا چاہیے
409	جانگھیا اور آدھی آستین کے کرتے کا حکم	405	خدا نے جب دیا ہے تو اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے
410	ریشم کے کپڑوں کے متعلق احکام	405	ریشم اور سونے کی مردوں کے لیے ممانعت
410	ریشم کا بچھونا اور تکیہ	405	چار انگل تک ریشم کی گوٹ لگائی جاسکتی ہے
410	نُسر اور کاشی سلک چینا سلک سن اور رام بانس اور کیلے	406	حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ملبوس دھو کر بیمار کو پلانا
410	کے کپڑے کے احکام	406	کسم کارنگا ہوا کپڑا مرد کے لیے ناجائز ہے
411	ریشم کا لحاف اوڑھنا یا اس کا پردہ دروازہ پر لٹکانا	406	درندہ کی کھال بچھانا منع ہے
411	ریشم کا کپڑا بیچنے والا اگر کندھے پر ڈال لے جائز ہے	406	کپڑے پہننے میں دہنے سے شروع کرے
411	عورتوں کے لیے خالص ریشم بھی جائز ہے	406	نیا کپڑا پہنتے وقت کی دعائیں

414	ریشم کی تھیلی میں روپیہ رکھنا جائز ہے		مردوں کے لیے ریشم کی گوٹ یا عمامہ اور تہبند کے
414	ریشم یا زری کے بٹوے کا کیا حکم ہے	411	کنارے اور پلو ریشم کے ہوں تو کیا حکم ہے
414	فصد کے وقت ریشم کی پٹی باندھنا جائز ہے		ریشم کا ساز یا گھنڈیاں یا ٹوپی کا طرہ یا پاجامہ کا نیفہ یا
414	ریشم کے مصلے پر نماز پڑھنا منع نہیں	411	اچکن وغیرہ میں پھول یا کیریاں جائز ہیں
414	ریشم یا چاندی سونے سے مکان آراستہ کرنا		ریشم کے کپڑے کا پیوند اور ریشم کو بجائے روئی بھر دیا
415	فقہاء و علماء کیسے کپڑے پہنیں	411	جائے اس کا کیا حکم ہے
	کھانے کے وقت گھنٹوں پر کپڑا ڈالنا، ناک مونہ	412	ٹوپی میں لیس، عمامہ میں گوٹہ لچکا لگانا
415	پونچھنے کے لیے ریشمی رومال	412	متفرق کاموں کو جمع نہیں کیا جائے گا
415	چاندی سونے کے بٹن بغیر زنجیر کے جائز ہیں		بانے میں ایک تا گاریشم ہے اور ایک سوت مگر سوت
415	آشوب چشم کی وجہ سے سیاہ ریشمی نقاب ڈالنا جائز ہے	412	نظر نہیں آتا تو ناجائز ہے
415	نابالغ لڑکوں کو ریشم پہنانا منع ہے	412	سونے چاندی سے کپڑا بنا گیا ہو تو کیا حکم ہے
415	کسم اور زعفران اور دوسرے رنگ کے احکام		کخواب پوت، بنارسی عمامے، زری کی ٹوپی کا مدانی
416	سوگ میں سیاہ کپڑے پہننا یا بلے لگانا منع ہے	412	ریشم اور زری کی پٹی کا کیا حکم ہے
416	محرم کے زمانہ میں تین قسم کے رنگ نہ پہنے		ریشم کی مچھردانی جائز ہے، ریشم کے کپڑے میں یا چاندی
416	اون اور بالوں کے کپڑے پہننا سنت انبیاء ہے		سونے کے خول میں تعویذ رکھ کر پہننا یا ان کے پتر پر
416	پاجامہ پہننا سنت ہے اور پاجامہ کیسا ہو	413	کندہ کیا ہو تعویذ مرد کے لیے ناجائز ہے
417	ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا تہبند منع ہے		ریشم یا زری کی ناجائز ٹوپی اگر چہ عمامہ کے نیچے
417	نیکر اور چوڑی دار پاجامہ	413	ہونا جائز ہے
417	باریک کپڑے خصوصاً تہبند نہ پہنے		ریشم کا کمر بند، تسبیح کا ڈورا، گھڑی کا ڈورا یا چین سونے
417	دھوتی سے پورا ستر نہیں ہوتا		چاندی یا کسی دھات کی زنجیر گھڑی میں لگانا، ان سب
417	سدل یعنی کپڑا لگانا	413	کا کیا حکم ہے
418	پوستین پہننا جائز ہے	414	قرآن مجید کا جزدان ریشمی یا زری کا ہو سکتا ہے

422	بہت بنا سنور نا نہ چاہیے	418	ہاتھ مونہ پونچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے
	بال والے چڑے کے جوتے یا کیلوں سے سلے ہوئے	418	عمامہ کا بیان
422	جائز ہیں	418	شملہ پیٹھ پر ہوا اور اسکی مقدار کتنی ہے
422	انگوٹھی اور زیور کا بیان	419	عمامہ پھر سے باندھنا ہو تو اُدھیڑ کر باندھے
423	انگوٹھی کس انگلی میں پہنی جائے	419	ٹوپی پہننا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے ثابت ہے
424	ریشم اور سونا مردوں پر حرام ہیں	419	عمامہ کم سے کم کتنا ہو اور زیادہ سے زیادہ کتنا
424	پیتل اور لوہے کی انگوٹھی پہننا منع ہے	419	علماء و مشائخ کی قبور پر غلاف ڈالنا جائز ہے
425	دس چیزیں بُری ہیں		یادداشت کے لیے کپڑے میں گرہ لگانا یا انگلی میں
425	لڑکیوں کو گھنگر و پہننا منع ہے	419	ڈورا باندھنا جائز ہے
	مرد صرف چاندی کی ایک مشقال سے کم کی انگوٹھی پہن سکتا ہے	419	گلے میں تعویذ لٹکانا یا مریض کو شفا کے لیے آیات وغیرہ رکابی میں لکھ کر پلانا جائز ہے
426	چاندی سونے کے سوا عورت بھی دوسری دھات کا زیور نہیں پہن سکتی	420	بچھونے یا دسترخوان پر لکھا ہو تو استعمال نہ کرے
426	یشب وغیرہ پتھر کی انگوٹھی بھی نہ پہنے	420	نظر بد سے بچانے کے لیے کپڑا لکڑی پر لپیٹ کر کھیت میں لٹکانا جائز ہے
	جو چیزیں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں ان کا بنانا بھی منع ہے	420	نظر بد سے بچنے کی دعا
427	جوتا پہننے کا بیان	420	جوتا پہننے کا بیان
427	انگوٹھی یا زیور کے اندر لوہے کی سلاخ ڈالنا جائز ہے	420	حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی نعلین مبارک جوتا پہلے دہنے پاؤں میں پہنے اور دہنے کا بعد میں اوتارے
427	گنبد میں سوراخ کر کے سونے کی کیل ڈالوا سکتا ہے		
427	انگوٹھی کس کے لیے مسنون ہے	421	ایک جوتا یا موزہ نہ پہنے دونوں پہنے یا دونوں اُتار دے
427	انگوٹھی کس طرح اور کس انگلی میں پہنے	421	بعض قسم کے جوتے بیٹھ کر پہنے
427	انگوٹھی پر کیا چیز کندہ کر سکتا ہے	421	عورتوں کو مردانہ جوتے پہننے کی ممانعت
427	کئی نگ کی انگوٹھی اور چھلامرد کو ناجائز ہے	422	

432	دو شخصوں کے درمیان میں بغیر اجازت نہ بیٹھے		سونے کے تار سے دانت بندھوا سکتا ہے اور ناک
432	اپنے بھائی کے لیے جگہ دے اور سرک جائے	428	کٹ گئی ہو تو سونے کی ناک لگو سکتا ہے
432	احتبا کرنا اور چارزانو بیٹھنا		اپنا دانت گر گیا تو بندھوا سکتا ہے دوسرے کا دانت
	دھوپ میں تھا دھوپ ہٹ گئی کچھ سایہ کچھ دھوپ میں	428	اپنے مونہ میں نہیں لگا سکتا
432	ہو گیا تو وہاں سے ہٹ جائے		لڑکوں کو زیور پہنانا یا ان کے ہاتھ پاؤں میں منہدی
	بائیں ہاتھ کو پیٹھ پر رکھ کر دہنے ہاتھ کی گدی پر فیک	428	لگانا منع ہے
432	دے کر بیٹھنا منع ہے	428	برتن چھپانے اور سونے کے وقت کے آداب
433	جب کسی مجلس میں جائے تو جہاں مجلس ختم ہو وہاں بیٹھے		بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرے اور برتن چھپا دے اور
433	مجلس سے اٹھنے کے وقت کی دعا		مشک کا مونہ باندھ دے اور چراغ بجھا دے اور بچوں
	جس مجلس میں نہ اللہ (عزوجل) کا ذکر ہو، نہ درود پڑھیں		کو گھر سے باہر نہ جانے دے
433	تو نقصان ہے	428	سوتے وقت آگ بجھا دیا کریں
433	جو تارا تار کر بیٹھے	429	رات میں کتوں اور گدھے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ پڑھے
433	چت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھے یا نہ رکھے	429	بیٹھنے اور سونے اور چلنے کے آداب
434	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح لیتے تھے	430	بات کرنے میں رخسارہ ٹیڑھانہ کرے اور اتر کر نہ چلے
434	پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے		اللہ (عزوجل) کے خاص بندوں کی پہچان
435	جس چھت پر روک نہ ہو اُس پر نہ لیٹے	430	جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو اُس کے لیے جگہ
435	عصر کے بعد نہ سوائے اور تنہا مکان میں نہ سوائے	430	دیدئی جائے
435	اترا کر چلنے والا زمین میں دھنسا دیا گیا		دوسرے کو اٹھا کر اُس کی جگہ پر بیٹھنا منع ہے
435	دو عورتوں کے بیچ میں مرد کو نہ چلنا چاہیے	430	جو اٹھ کر گیا اور پھر آیا تو اُس جگہ کا وہی حقدار ہے
435	قیلولہ مستحب ہے	431	جب آنے کا ارادہ ہو تو اپنی کوئی چیز وہاں چھوڑ دے
436	سونے کے آداب و کمروہات	431	
436	عشا کے بعد بات کرنے کے احکام	431	

441	کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے دوسری کے حسن و جمال وغیرہ بیان نہ کرے	436	دو مرد یا دو عورتوں کو ایک کپڑا اوڑھ کر برہنہ سونا منع ہے
442	جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو اُسے دیکھ سکتا ہے	436	لڑکا اور لڑکی جب دس برس کے ہوں تو اُن کو علیحدہ سلایا جائے
442	کوئی شخص موضع ستر کو کھولے ہو اُسے کس طرح منع کیا جائے	437	میاں بیوی جب ایک چار پائی پر سونیں تو دس برس کے بچہ کو اُس پر نہ سلائیں
442	بہت چھوٹے بچہ کے کسی حصہ جسم کو چھپانا فرض نہیں	437	راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین پر چل سکتا ہے یا نہیں
442	لڑکا جب مراہق ہو اُس کو دیکھنے اور چھونے کا کیا حکم ہے	437	دیکھنے اور چھونے کا بیان
443	عورت دوسری عورت کے کس حصہ جسم کو دیکھ سکتی ہے	438	عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی اور جاتی ہے
443	عورت صالحہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے اور مسلمہ کافرہ سے بچائے	438	جب کسی عورت کو دیکھ کر میلان پیدا ہو تو کیا کرے
443	عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں	439	اچانک نظر پڑ جائے یہ معاف ہے، مگر فوراً ہٹالے
443	عورت مرد اجنبی کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے	439	مواضع ستر کی حفاظت
443	مرد اپنی عورت اور باندی کے تمام اعضا کو دیکھ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے	440	اجنبیہ کے ساتھ تنہائی جائز نہیں
444	میاں بی بی جب بچھونے پر ہوں تو محارم اجازت لے کر آسکتے ہیں	440	جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں اُن کے پاس تنہائی میں نہ جائے
444	اس طرح جماع نہ کرے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے	440	دیور موت ہے یعنی اس سے بھی پردہ کرے
444	محارم کے کون سے اعضا کی طرف نظر کر سکتا ہے	440	برہنہ ہونے سے بچو اور ران کو چھپاؤ
444	اپنی ماں کے پاؤں دبا سکتا ہے، قدم کو بوسہ دے سکتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا	441	نہ مرد مرد کے ستر کی جگہ کو دیکھے اور نہ عورت عورت کے ستر کی جگہ دیکھے اور نہ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوائے اور نہ عورت عورت کے ساتھ
445	محارم کے ساتھ سفر و خلوت جائز ہے	441	ازواج مطہرات کے لیے حکم تھا کہ وہ مردوں کی طرف نظر نہ کریں

448	جس کے عضو تاسل وغیرہ کٹے ہوں یہ اور زنجے مرد کے حکم میں ہیں	446	کنیز کو خریدنا ہو تو اُس کے بعض اعضا کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے
448	جس عضو کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے اگر وہ بدن سے جُدا ہو جائے تو اب بھی اُس کو دیکھنا ناجائز ہے	446	اجنبیہ کے چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھ سکتا ہے چھونے کی اجازت نہیں
449	عورت کے داڑھی مونچھ نکل آئے تو بالوں کو نوچ ڈالے	446	چھوٹی لڑکی جو مشہدہ نہ ہو اُس کو دیکھنا چھونا جائز ہے
449	اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت ناجائز ہے اور محارم کے ساتھ جائز	446	نوکرنی کی کلائی اور دانتوں کی طرف نظر جائز ہے
449	مکان میں جانے کے لیے اجازت لینا	446	اجنبیہ کے چہرہ کی طرف نظر نہ کرے مگر بضرورت شرعیہ
449	اجازت حاصل کرنے کے لیے تین مرتبہ سلام کرے	447	جس عورت سے نکاح کرنا ہے اُسے دیکھ لے یا دیکھوالے اور عورت بھی مرد کو دیکھ لے
450	جب آدمی بھیج کر بلایا گیا تو بعض صورتوں میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں	447	جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہے اُسکی لڑکی ماں کی ہم شکل ہے اور مشہدہ ہے اس کو دیکھنا جائز نہیں
451	اپنی ماں کے پاس جائے جب بھی اجازت مانگے	447	علاج کی غرض سے عورت کے جسم کو دیکھ سکتا ہے اور چھو بھی سکتا ہے اور چاہیے یہ کہ علاج کرنا عورتوں کو بھی سکھا دیا جائے
452	اجازت مانگنے سے پہلے سلام کرے	447	عمل دینے کی ضرورت ہو تو موضعِ حقنہ کی طرف نظر کر سکتا ہے
452	دروازہ پر سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ دہنے بائیں ہٹ کر کھڑا ہو	448	کسی کے مکان میں جھانکنے کی ممانعت
452	کسی کے یہاں جائے تو کیا کرے	448	عورت کو فصد کرانی ہو تو مرد سے کرا سکتی ہے جبکہ کوئی عورت فصد کرنا نہ جانتی ہو
453	آواز دی اور مکان والے نے کہا کون تو جواب میں اپنا نام بتائے، اگر اجازت نہ ملے تو ناراض نہ ہونا چاہیے	448	عورت نے خوب موٹے اور ڈھیلے کپڑے پہنے ہوں تو ان کپڑوں کی طرف نظر جائز ہے اور چست کپڑے ہوں تو نظر نہ کرے، یوہیں باریک کپڑے ہوں تو نظر جائز نہیں
453	جس مکان میں کوئی نہ ہو وہاں جائے تو کیا کہے	448	آنے والے نے بغیر سلام کیے بات چیت شروع کر دی تو اختیار ہے کہ اُس کی بات کا جواب نہ دے

	آتے وقت اور جاتے وقت دونوں دفعہ سلام کرے	453	ایک جماعت دوسری کے پاس آئی تو بہتر یہ ہے کہ
460	سلام کا بیان	453	سب ہی سلام کریں اور جواب دیں
460	آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور انھوں نے فرشتوں کو سلام کیا تو فرشتوں نے کیا جواب دیا	454	مجلس کو سلام کیا اور نابالغ یا عورت نے جواب دیا
461	سلام کرنے کی فضیلت	454	کون شخص کس کو سلام کرے اور کہاں کہاں جواب دینا واجب نہیں
461	ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں	454	کافر کو سلام نہ کرے
461	پہلے سلام کرنے کی فضیلت	455	سلام ملاقات کرنے کی تحیت ہے، جہاں ملاقات مقصود نہ ہو وہاں جواب واجب نہیں
462	جماعت میں سے ایک نے سلام کر لیا یا جواب دیدیا یہ کافی ہے	457	کن لوگوں کو سلام نہ کرے
462	کون کس کو سلام کرے	457	کسی کو سلام کہلا بھیجا تو وہ کیوں کر جواب دے
463	یہود و نصاریٰ کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہے	457	خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا جواب بھی واجب ہے
464	راستہ پر بیٹھے تو اُس کے حقوق ادا کرے	458	سلام کی میم کو نہ ساکن پڑھے نہ اس کو پیش سے کہے
464	سلام کے الفاظ، رحمت وغیرہ کا ذکر	458	ابتداءً علیک السلام نہ کہے
464	یہود و نصاریٰ کے ساتھ سلام میں تشبہ نہ کرے	459	سلام اور اُس کا جواب اتنی آواز سے ہو کہ وہ سن سکے
464	علیک السلام کہنے کی ممانعت	459	اسی طرح چھینک کا جواب
464	سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے	459	انگلی یا ہتھیلی کے اشارہ سے سلام نہ کرے، ہاتھ یا سر کے اشارہ سے جواب دینا نا کافی ہے
464	ہر مسلمان کو سلام کرے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو	459	سلام کرتے وقت جھکنا نہ چاہیے
464	سلام و جواب سلام میں افضل کیا ہے	459	اس زمانہ میں نئے نئے سلام ایجاد ہوئے ہیں ان سے بچے
464	سلام میں جمع کا صیغہ بولے ایک کو کرے یا زیادہ کو	460	کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یا لکھنا یہ انبیاء و
465	جواب میں تاخیر نہ کرے کہ یہ گناہ ہے	460	ملنیکہ کے ساتھ خاص ہے

474	چھینک پر الحمد للہ کہنا اور اس کا جواب		چھوٹا سلام کرے تو اُس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ جیتے رہو
476	چھینک کے وقت مونہ کو چھپالے اور آواز کو پست کرے	465	
476	جمائی کے وقت مونہ چھپائے	465	مصافحہ و معانقہ و بوسہ و قیام کا بیان
476	کسی بات کے موقع پر چھینک آجانا اُس کے سچے ہونے کی دلیل ہے	465	مصافحہ کے فضائل
476	چھینک پر الحمد للہ کہنے والے کا جواب دینا واجب ہے	467	معانقہ کی حدیثیں
478	چھینک کے وقت سر جھکا لے اور آواز پست کرے	468	کھڑا ہونا اور بوسہ دینا
478	چھینک کو بدفالی تصور کرنا جہالت ہے	470	مصافحہ کے مسائل اور نمازوں کے بعد مصافحہ کا جواز
478	خرید و فروخت کا بیان	471	مصافحہ کا طریقہ
478	گوبر اور پاخانہ کی بیع کا کیا حکم ہے	471	معانقہ جائز ہے جبکہ محلِ فتنہ نہ ہو اور عیدین کے دن معانقہ
478	ایک شخص دوسرے کی چیز کو بیع کرتا ہے تو خرید سکتا ہے یا نہیں	472	بوسہ دینا کہاں جائز ہے اور کہاں نہیں
479	مشترک چیز بیچی ہو تو شریک کو مطلع کر دے	472	مصافحہ کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے
479	بازار والے ایسوں سے مال خریدتے ہوں جن کا غالب مال حرام ہے تو اُن سے خریدنے میں تین صورتیں ہیں	472	عالم دین یا بادشاہ عادل کے ہاتھ یا قدم کا چومنا جائز ہے کسی کے سامنے زمین کو چومنا جائز ہے
480	تجارت میں مشغولی کے سبب فرائض ترک نہ کرے	472	بوسہ کی چھ قسمیں ہیں
480	نجس کپڑے کی بیع	473	قرآن مجید کو بوسہ دینا جائز ہے
480	بائع کو شمن سے کچھ زیادہ دیا اور روکھ لینے کا حکم	473	سجدہ تحیت حرام ہے اور غیر خدا کے لیے سجدہ عبادت کفر
480	ایسی چیز جو جلد خراب ہو جاتی ہے خریدی اور مشتری غائب ہو گیا تو بائع اس کو دوسرے کے ہاتھ بیع کر سکتا ہے	473	ملاقات کے وقت جھکنا منع ہے
480	بیمار کی دوا وغیرہ اُس کی بغیر اجازت خرید سکتا ہے	473	آنے والے کی تعظیم کو کھڑا ہونا جبکہ وہ مستحق تعظیم ہو اور قیام ممنوع کی صورت
480	گیہوں میں دھول ملانا یا دودھ میں پانی ملانا ناجائز ہے	474	چھینک اور جمافی کا بیان
474	روٹی گوشت کا نرخ مقرر ہے اور بائع نے کم دیا، خریدار	474	چھینک اللہ (عزوجل) کو پسند ہے اور جمافی ناپسند

494	قرآن پڑھ کر آدمیوں سے سوال کرنا ناجائز ہے	481	کو بعد میں معلوم ہوا کہ کم ہے تو کمی پوری کر سکتا ہے
494	مصحف شریف کی کتابت پر اجرت لینا جائز ہے		لو ہے، پیتل وغیرہ کی انگوٹھی یا زیور کو بیچنا منع ہے، اسی طرح ایفون کو کھانے والے کے ہاتھ بیچنا
494	قرآن مجید اور کتابوں کے آداب	481	کافر نے شراب بیچ کر مسلم کا دین ادا کیا تو لینا جائز ہے اور مسلم نے شراب کے ثمن سے دین ادا کیا تو لینا ناجائز
	قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا، اُس میں اعراب لگانا، وقف وغیرہ کی علامتیں لکھنا، سورتوں کے نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا اور اُس کے ساتھ ترجمہ چھاپنا جائز ہے	481	رنڈیوں کے پاس جو حرام مال آیا اُس کو دین یا کسی مطالبہ میں نہیں لے سکتا، یوہیں مورث کا حرام مال ورثہ نہ لیں
494	تاریخ کے اوراق کا قرآن مجید و تفسیر و فقہ کی کتابوں پر غلاف لگا سکتے ہیں	481	پنساری کے پاس روپیہ رکھ دیا کہ سودے میں کتنا رہے گا، یہ منع ہے
494	قرآن مجید کی کتابت، طباعت کاغذ سب اچھا ہونا چاہیے	482	احکام کی ممانعت اور اُس کی صورتیں اور احکام چیزوں کا نرخ مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں
495	قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے	483	قرآن مجید پڑھنے کے فضائل
495	قرآن مجید پر انا بوسیدہ ہو جائے تو دفن کر دیا جائے	483	سورۃ فاتحہ کے فضائل
495	کون کتاب اوپر ہو اور کون نیچے	488	سورۃ بقرہ و آل عمران و آیۃ الکرسی کے فضائل
495	قرآن مجید برکت کے لیے گھر میں رکھنا بہتر ہے	489	سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے فضائل
495	مصحف شریف کی توہین کفر ہے	490	سورۃ کہف کے فضائل
	جس گھر میں قرآن مجید ہو اُس میں بی بی سے جماع کر سکتا ہے یا نہیں	490	سورۃ طہ و یس کے فضائل
496	تلاوت و اذان میں آواز اچھی ہونی چاہیے اور قواعد تجوید کی مراعات کرے موسیقی سے بچے	491	حَمَّ الْمُؤْمِنِ و حَمَّ الدُّخَانِ اور اَلَمْ تَنْزِيلِ و تَبَارَكَ کے فضائل
496	قرآن مجید کو معروف قراءت سے پڑھا جائے	491	سورۃ واقعه و اِذَا زُلْزِلَتْ و سورۃ تکوین و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے فضائل
	قرآن مجید کو بند کر دے کھلا ہوا نہ چھوڑ دے، اُس کی طرف نہ پیٹھ کرے، نہ پاؤں اور جزدان و غلاف میں رکھے	492	سورۃ حشر کے فضائل
496		493	

505	عیادت کے مسائل	496	قلم کا تراشہ اور مسجد کے گھاس، کوڑے کو کہاں ڈالے
505	علاج کے مسائل	497	جس کا غذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اُس کی پڑیا نہ بنائے
505	حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنا ناجائز ہے	497	آداب مسجد و قبلہ
506	علاج نہیں کرایا اور مر گیا تو گنہگار نہیں		مسجد کو متفیش کرنا اوس پر چاندی سونے کا پانی چڑھانا،
506	حمل کی حالت میں عورت نہ فصد کھلوائے اور نہ چھپنے لگوائے	497	جائز ہے
506	پچھتا کن تاریخوں میں ہونا چاہیے	497	مسجد کی دیواروں میں گچ یا پلاسٹر کرنا ناجائز ہے
506	شراب کا استعمال خارجی علاج میں بھی ناجائز ہے		مسجد میں درس دینا جائز ہے، اگرچہ بوقت درس
507	انگلی میں پتلا باندھنا یا ورم پر لٹی یا روٹی باندھنا ناجائز ہے	497	چٹائیاں اور جانماز استعمال میں آئیں
	عمل دینا جائز ہے اور اگر نظر کرنے یا چھونے کی	497	مسجد میں سونا اور کھانا مکروہ ہے مگر معکف کے لیے
507	ضرورت ہو تو یہ بھی جائز ہے	497	مسجد کو راستہ نہ بنائے
507	دوا سے بیہوش کرنا ناجائز ہے	498	مسجد میں تعویذ بیچنا ناجائز ہے اور نکاح پڑھوانا جائز
508	لہو و لعب کا بیان	498	مسجد کے آداب و مکروہات
508	سب کھیل باطل ہیں سوا تین کے	500	عیادت و علاج کا بیان
509	لڑکیوں کے لیے گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت ہے	500	علاج کے متعلق حدیثیں
510	نوبت بجانا ایک خاص صورت میں جائز ہے		جھاڑ پھونک کرانے میں حرج نہیں خصوصاً نظر بد اور
510	عمید کے دن اور شادی میں دف بجانا ناجائز ہے		زہریلے جانور کے کاٹنے میں مگر جبکہ اُس میں ناجائز
	حمام کا بگل اور رمضان میں سحری کا نقارہ اور کارخانہ	501	الفاظ ہوں
511	یار مل گاڑی کی سیٹی جائز ہے		مرض کا متعدی ہونا اور صفر کو منحوس جاننا اور بدقالی لینا
511	گنجفہ، چوسر، شطرنج وغیرہ سب کھیل باطل ہیں	502	یہ سب غلط ہیں اور فال حسن اچھی چیز ہے
	ناچنا، تالی بجانا، ستار ہار مونیٹیم وغیرہ باجا بجانا حرام،	504	بدشگون سے بچنے کی دعا
511	مزامیر کے ساتھ قوالی ناجائز ہے		جہاں طاعون ہو، وہاں نہ جائے اور جہاں یہ ہے،
512	کبوتر بازی اور جانوروں کو لڑانا حرام ہے	504	وہاں ہو جائے تو نہ بھاگے

525	جو سب کو بُرا کہے، وہ خود سب سے بُرا ہے	512	آم کے زمانہ میں نوروز کو جانا جائز ہے
525	دورِ خا آدمی بہت بُرا ہے	512	گشتی لڑنا جائز ہے اگر ستر پوشی کے ساتھ ہو
525	چغلی کی قباحت	512	ہنسی مذاق بعض صورتوں میں جائز ہے
526	غیبت کی مذمت میں حدیثیں	513	اشعار کا بیان
529	غیبت سے روکنے کی فضیلت	514	اشعار اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی
530	کسی کو عار دلانا اور شامت	514	اشعار پڑھنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی
530	بعض لوگوں کی بُرائی کرنا غیبت نہیں ہے	515	جھوٹ کا بیان
531	تعریف میں مبالغہ کرنے اور منہ پر تعریف کرنے کی ممانعت	515	جھوٹ کی بُرائی میں چند حدیثیں
531	فاسق کی مدح سے ممانعت	517	تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے
532	غیبت کی تعریف اور اس میں اور بہتان میں فرق	518	تو یہ بلا حاجت جائز نہیں
532	جس سے ضرر کا اندیشہ ہے اُس کی یہ بات ظاہر کرنی جائز ہے	518	احیاءِ حق کے لیے تو یہ جائز ہے
532	بد مذہب کی بُرائی کرنا غیبت نہیں	518	جھوٹ بولنے کے مواقع
532	بیٹے کی بُری بات اُس کے باپ سے کہنا اور عورت کی شوہر سے اور رعایا کی بادشاہ سے تاکہ یہ لوگ انسداد کر دیں یہ جائز ہے	519	جس قسم کا مبالغہ عادت میں جاری ہے وہ جھوٹ نہیں
532	کسی کی بُرائی افسوس کے طور پر بیان کرنا غیبت نہیں	519	تعریض کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں
533	کسی بستی یا شہر والوں کی بُرائی کرنا غیبت نہیں	522	زبان کو روکنا اور گالی گلوچ، چغلی سے پرہیز کرنا
534	غیبت چار قسم ہے	524	زبان اور شرم گاہ کی حفاظت
534	فاسق معطن کی بُرائی کرنا غیبت نہیں	524	لعن و طعن کی ممانعت و قباحت
534	جس سے مشورہ لیا جائے وہ اُس کی بُرائی بیان کر سکتا ہے، جس کے متعلق مشورہ ہے	524	جو کافر و فاسق نہ ہو اُسے کافر و فاسق کہنے کی حرمت
534		525	جھگڑا اور گالی گلوچ کرنا
			فحش گوئی سے بچو
			دہر اور زمانہ کو بُرا نہ کہو

538	معافی مانگنے میں یہ بھی ضرور ہے کہ ایسا کام کرے کہ اُس کے دل سے بُرائی دور ہو جائے	534	بد مذہب اپنی بد مذہبی چھپائے یا ظاہر کرے دونوں صورتوں میں اُس کا اظہار کیا جاسکتا ہے
538	ظاہری اور نمائشی معافی کوئی چیز نہیں	535	ظلم کی شکایت حاکم یا مفتی کے پاس کرنا غیبت نہیں
539	جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا غائب ہو گیا تو کیا کرے	535	مبیح کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں
539	مہم طور پر معافی مانگنا کافی ہے یا نہیں	535	اگر بُرائی سے مقصود معرفت ہو بُرائی نہ ہو تو غیبت نہیں
539	معذرت کے ساتھ مصافحہ بھی معافی مانگنے کے حکم میں ہے	535	حدیث کے راویوں اور مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا غیبت نہیں
539	مونہ پر یا پیٹھ پیچھے تعریف کی صورتیں	536	صراحت اور تعریض دونوں طرح غیبت ہوتی ہے
539	بغض و حسد کا بیان	536	زبان سے اور ہاتھ پاؤں اور سر، ابرو کے اشارہ سے بھی غیبت ہوتی ہے
540	حسد کی بُرائی میں حدیثیں	536	نقل کرنا بھی غیبت ہے
541	بغض و عداوت کے متعلق حدیثیں	536	جس کی بُرائی کی اُس کا نام نہیں لیا مگر قرآن سے مخاطب کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص مراد ہے یہ بھی غیبت ہے
541	حسد کے معنی اور حدیث بخاری کا مطلب	537	کافر ذمی کی بُرائی کرنا غیبت ہے، حربی کی بُرائی کرنے میں غیبت نہیں
543	ظلم کی مذمت	537	مونہ پر بُرائی کرنا بھی حرام ہے
544	غصہ اور تکبر کا بیان	537	وہ عیوب جن کے بیان کرنے میں غیبت ہوتی ہے
547	ہجران و قطع تعلق کا بیان	537	جس کے سامنے غیبت کی جائے اُس پر لازم ہے کہ منع کر دے یا وہاں سے چلا جائے
548	سلوک کرنے کا بیان	538	جس کی غیبت کی اُس سے معافی مانگے اور توبہ کرے
551	ماں باپ کے ساتھ سلوک اور ان کی خدمت کرنا	538	بہتان میں بھی معافی مانگے اور توبہ کرے اور جن کے سامنے
555	بڑے بھائی کا حق	538	بہتان باندھا اُن کے سامنے اپنی تکذیب کرے
556	رشتہ والوں کے ساتھ سلوک کرنا	538	
558	صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام، رشتہ والوں سے مراد کون لوگ ہیں	538	
559	صلہ رحم کی صورتیں	538	
560	صلہ رحم سے عمر زیادہ ہونے کا مطلب	538	

581	بغیر حجامت گردن کے بال نہ مونڈائے	560	اولاد پر شفقت اور یتامی پر رحمت
	قزع یعنی متعدد جگہ سے سر مونڈنا اور جگہ جگہ چھوڑ دینا	560	لڑکیوں پر مہربانی کرنا
581	منع ہے	561	قیموں پر مہربانی
582	سر کے بال بڑے نہ ہوں اور نہ تہبند نیچا ہو	562	اولاد کو ادب سکھانا
582	عورت کو سر مونڈنا منع ہے	562	اولاد کے ساتھ عطیہ میں برابری کرے
582	بالوں میں مانگ نکالے، سیدھے بال نہ رکھے	564	پڑوسیوں کے حقوق
583	ناخن ترشوانا اور اس کا طریقہ	568	چھت پر چڑھنے سے دوسروں کی بے پردگی ہوگی تو نہ چڑھے
584	دانتوں سے ناخن نہ کھٹکے		پچھت میں مٹی لگانے کے لیے دوسرے کے مکان
584	مجاہد دار الحرب میں مونچھیں اور ناخن بڑے رکھے	568	میں اجازت سے جائے
	ہر جمعہ کو ناخن وغیرہ تراشے یا پندرہ دن پر اور چالیس	568	مخلوق خدا پر مہربانی کرنا
584	روز سے تجاوز نہ کرے	571	نرمی و حیا و خوبی اخلاق کا بیان
584	نہانا صاف ستھرا رہنا، موئے زیر ناف مونڈنا	572	نرمی میں خوبیاں
585	بغل کے بال اکھاڑنا سنت ہے	572	حیا کے متعلق حدیثیں
585	ناک کے بال نہ اکھاڑے	573	حسن خلق کی حدیثیں
585	جنابت کی حالت میں نہ حجامت بنوائے، نہ ناخن تراشے	574	نیکیوں کی صحبت اختیار کرنا اور صحبت بد سے بچنا
585	بھوں کے بال ترشوا سکتا ہے	576	اللہ کے لیے دوستی
585	بچی کے اغل بغل کے بال مونڈنا بدعت ہے		و دشمنی کا بیان
	مونچھیں کم کرے اور دونوں کنارے کے بال بڑے	579	حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا
585	ہو سکتے ہیں	579	پانچ چیزیں فطرت سے ہیں
585	داڑھی چڑھانا یا اس میں گرہ لگانا، ناجائز ہے	579	مونچھیں ترشواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ
586	داڑھی مونچھوں میں طرح طرح کی تراش خراش	580	حجامت و ناخن وغیرہ کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے
586	داڑھی کا مذاق اڑانا بہت سخت حکم رکھتا ہے	580	سفید بال نہ اکھاڑو

591	زینت کا بیان		مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال مونڈائے یا بڑھائے مگر شانہ سے نیچے نہ ہوں
591	تیل اور خوشبو لگانا، دھونی لینا	586	
592	کنگھا کرنا، سرمہ لگانا	587	سفید بال اُکھاڑنا یا چونانا مکروہ ہے مگر مجاہد کے لیے
593	عورتیں منہدی لگائیں۔	587	سر پر پان بنوانا جائز ہے مگر خلاف سنت ہے
593	مخنث کو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے شہر بدر کر دیا	587	پیشانی کو خط کی طرح بنوانا خلاف سنت ہے
593	اللہ تعالیٰ نظافت کو پسند کرتا ہے	587	گردن کے بال سر کے ساتھ مونڈائے بغیر اس کے نہیں
594	اللہ (عزوجل) کو جمال پسند ہے، جمال اور تکبر میں فرق	587	سر پر بالوں کا گھما رکھنا تقلید نصاریٰ ہے
594	خضاب کرنا چاہیے مگر سیاہ خضاب ہرگز نہ لگائے	588	قینچی یا مشین سے سر کے بال ترشوانا
	بال ملانے والی اور ملوانے والی اور گودنے والی اور	588	عورت سر کے بال ترشوائے نا جائز ہے
	گودوانے والی اور بالوں کو نوچ کر ابرو خوبصورت کرنے	588	بال اور ناخن کو دفن کر دے
	والی اور دانتوں کو ریت کر خوبصورت کرنے والی پر	588	سر میں جوئیں پڑ گئیں بال مونڈائے انھیں بھی دفن کر دے
595	لعنت آئی ہے	589	ختنہ کا بیان
	اون یا سیاہ کپڑے یا سیاہ تاگے کا موباف بنانا جائز ہے	589	ختنہ کی مدت
596	کلاوہ کا بدرجہ اولیٰ جائز	589	ختنہ میں پوری کھال نہیں کٹی تو کیا کرے
596	لڑکیوں کے کان ناک چھیدنا جائز ہے اور لڑکوں کے نا جائز	589	پیدائشی ختنہ کی کھال نہ ہو تو ختنہ نہ کرائی جائے
596	عورتوں اور لڑکیوں کو منہدی لگانا جائز ہے اور لڑکوں کو نا جائز	590	کافر اسلام لایا تو ختنہ کس طرح ہو
	عورتیں اپنی چوٹیوں میں پوت اور چاندی سونے کے	590	بچہ کی ختنہ کون کرائے
597	دانے لگا سکتی ہیں	590	عورتوں اور لڑکیوں کے کان ناک چھیدنا
597	سیاہ سرمہ یا کاجل بقصد زینت مرد کو مکروہ ہے		انسان کو خصی یا بیجوا کرنا حرام ہے، جانوروں کو خصی
597	مکان کو غیر ذی روح کی تصویر سے آراستہ کر سکتے ہیں	590	کرنا جائز ہے جبکہ مقصد صحیح ہو
597	گر میوں میں خس اور جو اسے کی ٹٹیاں جائز ہیں	591	خصی غلام سے خدمت لینا منع ہے
	ایک شخص سواری پر ہے اور ساتھ والے پیدل، اگر اس	591	گھوڑی کو گدھے سے گا بھن کرانا جائز ہے

	طلبہ نے یہ شرط کی کہ جس کی بات صحیح ہو اُس کو یہ دیا جائے گا	597	سے تکبر مقصود نہ ہو تو جائز ہے
609		597	نام رکھنے کا بیان
	طلبہ میں یہ ٹھہرا کہ درس گاہ میں جو پہلے آئے گا اُس کا سبق پہلے ہوگا	598	اچھے نام رکھنا اور اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارنا
609		598	انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے ناموں پر نام رکھنا
609	کسب کا بیان	599	اگر کسی کا نام محمد ہو تو اُس کی کنیت ابوالقاسم ہو سکتی ہے یا نہیں
	مال حاصل کرنا بعض صورتوں میں فرض ہے اور بعض میں مستحب ہے	599	محمد و احمد نام کے فضائل
609		600	جس کے یہ نام ہوں اُس کی عزت کی جائے
610	مسجدوں میں متوکلا نہ بیٹھنا اور پیری مریدی کو پیشہ بنانا	600	نام بدلنے کی صورتیں
610	افضل کسب کیا ہے	601	سب سے اچھے کون سے نام ہیں
610	چرخہ کا تنا۔ سوال کرنا	601	ابوالقاسم کنیت ہو سکتی ہے
610	علم دین پڑھ کر کسب چھوڑ دینا		بعض اسمائے الہیہ جن کا اطلاق غیر پر جائز ہے وہ نام ہو سکتے ہیں
611	حرام مال کو ورثہ کیا کریں	602	
611	مال مشتبہ قرہبی رشتہ دار کو دے سکتا ہے	603	نام وہ ہو جو قرآن و حدیث میں ہو یا مسلمانوں میں رائج ہو
611	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا بیان	603	مرا ہوا بچہ پیدا ہوا یا پیدا ہو کر مر گیا اُس کا نام رکھنا
		603	بچہ کی کنیت رکھنا اور ابو بکر و ابوتراب کنیت کرنا جائز ہے
612	ان کے متعلق احادیث	603	بُرے نام بدل کر اچھے نام رکھنا چاہیے
	گناہ کا ارادہ کیا مگر کیا نہیں تو اس میں ثواب ملنے کی امید ہے	604	بعض جائز و ناجائز ناموں کی تفصیل
614		605	مسابقت کا بیان
615	امر بالمعروف کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور اس کی صورتیں		مسابقت کی تعریف اور اُس کے جائز و ناجائز ہونے کی صورتیں
616	امر بالمعروف میں پانچ چیز کی ضرورت ہے	607	
	عامی شخص کو یہ نہ چاہیے کہ کسی عالم قبیح شریعت کو امر بالمعروف کرے	608	محلل کے داخل کرنے کی صورتیں
616		608	آگے ہونے کا کیا مطلب ہے

629	معلم ثواب چاہتا ہے تو پانچ باتیں کرے	617	جو شخص خود بُرا کام کرتا ہے وہ بھی امر کرے
629	ایک شخص نے اس لیے پڑھا کہ پڑھائے گا اور دوسرے نے عمل کرنے کے لیے	617	بیٹے کی شکایت باپ کے پاس لکھ بھیجنا عورت کی شوہر کے پاس یا رعایا کی بادشاہ اور ملازم کی آقا کے پاس
629	علمی مذاکرہ عبادت سے افضل ہے	617	باپ کس انداز سے نصیحت کرے
629	قرآن مجید حفظ کرنے سے علم فقہ حاصل کرنا افضل ہے	617	مسلمان فساق کو امر کرے تو قتل کر دیا جائے گا اور ان کا کچھ نہ کر سکے گا، جب بھی عزیمت امر کرنا ہے
629	ریا و سمعہ کا بیان	617	
630	قرآن و حدیث سے ریا و سمعہ کی مذمت	618	علم و تعلیم کا بیان
636	عبادت میں اخلاص ضروری ہے بغیر اس کے ثواب نہیں	618	قرآن و حدیث سے علم کے فضائل
637	ریا کی دو صورتیں ہیں اصل عبادت میں ہو یا وصف میں	625	بچوں کو پڑھانا اور ان کو تنبیہ کرنا
637	اشاء عمل میں ریا کی مداخلت قسم دوم سے ہے	626	عالم کی عزت کرنی چاہیے
637	روزہ میں بھی ریا ہو سکتا ہے		دین حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا اور مناظرہ کے ساتھ کید کرنا یا اُس کے کید سے بچنے کی ترکیب کرنا
637	أجرت لے کر قرآن پڑھنے پر ثواب نہیں اور اس صورت میں ایصالِ ثواب نہیں ہو سکتا، اسی طرح	626	واعظ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے
637	مٹھائی کی وجہ سے پڑھنا		معلم نے بچوں سے چٹائی کے لیے پیسے منگائے اور کچھ بیچ گئے تو معلم کے ہیں
638	بیچ آیت پڑھنے والا اور میلا دخواں یا واعظ اپنا دوہرا حصہ لیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے	627	عالم اپنا عالم ہونا ظاہر کر سکتا ہے
638	حج کو گیا اور تجارت کا بھی خیال ہے یا جمعہ کو گیا اور راستہ میں دوسرے کام کرنے کا بھی خیال ہے، تو جانے کا ثواب ہے یا نہیں	627	اچھی نیت سے تحصیل علم ہر عمل سے بہتر ہے
638	فرائض میں ریا کو دخل نہیں، اس کا کیا مطلب ہے	628	علم میں بخل نہ کرے اور اس کے نقصانات
639	زیارت قبور کا بیان	628	عالم و مُتعلّم علم کی توقیر کریں اور ان کو کس طرح رہنا چاہیے
		628	اُستاد کے حقوق کی محافظت اور اُس کا ادب
		628	نااہل کو نہ پڑھائے اور اہل سے انکار نہ کرے

	641	زیارت قبور کے آداب
652	641	قبرستان کے درخت کا کیا حکم ہے
	642	بزرگانِ دین کے مزارات پر غلاف ڈالنا جائز ہے
652	642	ایصالِ ثواب
		تیج، چالیسواں، شش ماہی، برسی، تبارک، ماہِ رجب کے کونڈے، محرم کی سبیلیں، شربت، کھجڑا، گیارہویں اور چھٹی کی فاتحہ، اصحابِ کہف و غوثِ پاک کا توشہ یہ
653		مشرکین کے برتنوں میں بغیر دھوئے کھانا مکروہ ہے
653	643	سب ایصالِ ثواب میں داخل ہیں
653	644	عربی زبان سب زبانوں سے افضل ہے
	644	عورت رخصت ہو کر آئی، دوسری عورتوں نے کہا یہ
653	645	رجب شریفِ نعلینِ پاک پہن کر عرش پر جانا ثابت نہیں
	645	خلفائے راشدین کی تاریخِ وفات میں مجلس منعقد کرنا
654	645	لکھی اور ہزاری روزے
	646	عشرہ محرم میں مجالس منعقد کرنا
654	646	تعزیہ داری
	646	حمام میں برہنہ نہ نہائے
654	648	آداب سفر کا بیان
	648	اس کے متعلق حدیثیں
655	651	عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے سفرنا جائز ہے
	651	سفر کے لیے والدین سے اجازت لے
655	651	یادداشت کے لیے گرہ لگانا یا ڈورا باندھنا جائز ہے
		گلے میں تعویذ لگانا جائز ہے۔ رکابی میں دعائیں لکھ
655	652	کرمریض کو پلانا جائز ہے
		میں نہیں
655		اجنبی مرد یا عورت کا جھوٹا

658	زلزلہ کے وقت مکان سے باہر ہو جانا یا جھکی ہوئی دیوار کے نیچے سے ہٹ جانا جائز ہے	655	زوجہ نماز نہ پڑھے یا زیارت نہ کرے یا باہر نکل جائے تو مار سکتا ہے
658	جہاں طاعون ہو وہاں نہ جائے اور وہاں سے نہ بھاگے	656	بی بی بیہودہ ہو تو طلاق دینا واجب نہیں
658	کافر کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، ہدایت کی کر سکتا ہے	656	قرض لینا جائز ہے جبکہ ادا کی نیت ہو
658	مردہ کے اسلام کی ایک شخص نے شہادت دی، نماز پڑھی جائے اور مسلمان مرا اُس کے مرتد ہونے کی ایک شخص نے شہادت دی اس کا اعتبار نہیں	656	صاحبِ حق غائب ہو گیا تو تلاش کرنا واجب نہیں
658	پرند نے مکان میں گھونسا لگایا، انڈے بچے دیے	656	دائن مر گیا اور ورثہ مدیون سے وصول نہ کر سکے تو ثواب دائن کو ملے گا
658	جماع کے وقت کلام کرنا مکروہ ہے اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک سوا خیر کے کچھ نہ بولے	656	مدیون مر گیا اور ورثہ کو دین کا علم نہ تھا یا بھول گیا اور ترکہ خرچ کر ڈالا تو مؤاخذہ نہیں۔ ودیعت کا بھی یہی حکم ہے
659	ماہ صفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، خصوصاً تیرہ تیزی یہ غلط ہے، اسی طرح ماہ ذیقعدہ اور ہرمینہ کی کچھ تاریخیں	656	ڈاکوؤں نے گھیرا ہے، اس وقت مدیون دین ادا کرنا چاہے اسے لینے سے انکار کر سکتا ہے
659	قمر و عقرب اور نجومیوں کی سب باتیں اور پنچتر کو ماننا جائز ہے	657	کسی سے کہا فلاں کی میں نے چیزیں کھالی ہیں او سے پانچ روپیہ دے دینا وہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دینا اور صرف اُس کی بی بی ہے
659	آخری چہار شنبہ	657	جان و مال آبرو بچانے کے لیے یا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دینا
660	کسی سے معافی مانگنا	657	بھیڑ بکریوں کو کھیت میں ٹھہرانے پر چرواہے کو کچھ دینا
660	کپڑے کے متعلق بعض باتیں	657	اولاد باپ کو نام لے کر نہ پکارے اور نہ عورت شوہر کو
660	نیل پر سوار ہونا، گدھے سے مل جوتنا	657	موت کی آرزو یا دعا کرنا مکروہ ہے
660	جانوروں سے کتنا کام لیا جائے اور اُس پر ظلم نہ کیا جائے	658	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ط

مضاربت کا بیان

یہ تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام، مال دینے والے کو رب المال اور کام کرنے والے کو مضارب اور مالک نے جو دیا اُسے اس المال کہتے ہیں اور اگر تمام نفع رب المال ہی کے لیے دینا قرار پایا تو اُس کو ایضاً کہتے ہیں اور اگر کل کام کرنے والے کے لیے طے پایا تو قرض ہے، اس عقد کی لوگوں کو حاجت ہے کیونکہ انسان مختلف قسم کے ہیں بعض مالدار ہیں اور بعض تہی دست۔⁽¹⁾ بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا تجارت کے اصول و فروع⁽²⁾ سے ناواقف ہوتے ہیں اور بعض غریب کام کرنا جانتے ہیں مگر ان کے پاس روپیہ نہیں لہذا تجارت کیونکر کریں اس عقد کی مشروعیت میں یہ مصلحت ہے کہ امیر و غریب دونوں کو فائدہ پہنچے مال والے کو روپیہ دیکر اور غریب آدمی کو اُس کے روپیہ سے کام کر کے۔

شرائط مضاربت

مسئلہ ۱ - مضاربت کے لیے چند شرائط ہیں:

(۱) اس المال از قبیل ثمن ہو۔ عرض⁽³⁾ کے قسم سے ہو تو مضاربت صحیح نہیں پیسوں کو اس المال قرار دیا اور وہ چلتے ہوں تو مضاربت صحیح ہے۔ یوہیں نکل⁽⁴⁾ کی اکنیاں⁽⁵⁾ دو انیاں⁽⁶⁾ اس المال ہو سکتی ہیں جب تک ان کا چلن ہے۔ اگر اپنی کوئی چیز دیدی کہ اسے بیچو اور ثمن پر قبضہ کرو اور اُس سے بطور مضاربت کام کرو اُس نے اُس کو روپیہ یا اشرفی سے بیچ کر کام کرنا شروع کر دیا یہ مضاربت صحیح۔

(۲) اس المال معلوم ہو۔ اگرچہ اس طرح معلوم کیا گیا ہو کہ اُس کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر اگر نفع کی تقسیم کرتے وقت اس المال کی مقدار میں اختلاف ہوا تو گواہوں سے جو ثابت کر دے اُس کی بات معتبر ہے اور دونوں کے گواہ ہوں تو رب المال کے گواہ معتبر ہیں اور اگر کسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو قسم کے ساتھ مضارب کی بات معتبر ہوگی۔

①..... غریب، نادار۔ ②..... قواعد و ضوابط، طور طریقے۔

③..... نقد (سونا، چاندی اور کرنسی) کے علاوہ دوسری چیزیں۔ ④..... ایک قسم کی سفید دھات۔

⑤..... اکئی کی جمع، کانسی کا بنا ہوا سکہ جو قیمت میں روپے کا سولہواں حصہ ہوتا ہے۔

⑥..... دوانی کی جمع، جو آنے کی قدر کا چاندی یا کانسی کا سکہ۔

(۳) اس المال عین ہو یعنی معین ہو دین نہ ہو جو غیر معین واجب فی الذمہ^(۱) ہوتا ہے۔ مضاربت اگر دین کے ساتھ ہوئی اور وہ دین مضاربت پر ہے یعنی اُس سے کہہ دیا کہ تمہارے ذمہ جو میرا روپیہ ہے اُس سے کام کرو یہ مضاربت صحیح نہیں جو کچھ خریدے گا اُس کا مالک مضارب ہوگا اور جو کچھ دین ہوگا اُس کے ذمہ ہوگا اور اگر دوسرے پر دین ہو مثلاً کہہ دیا کہ فلاں کے ذمہ میرا اتنا روپیہ ہے اُس کو وصول کرو اور اُس سے بطور مضاربت تجارت کرو یہ مضاربت جائز ہے اگرچہ اس طرح کرنا مکروہ ہے اور اگر یہ کہا تھا کہ فلاں پر میرا دین ہے وصول کر کے پھر اُس سے کام کرو اُس نے کل روپیہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیا ضامن ہے یعنی اگر تلف ہوگا ضمان دینا ہوگا اور اگر یہ کہا تھا کہ اُس سے روپیہ وصول کرو اور کام کرو اور اس نے کل روپیہ وصول کرنے سے پہلے کام شروع کر دیا ضامن نہیں ہے اور اگر یہ کہا کہ مضاربت پر کام کرنے کے لیے اُس سے روپیہ وصول کرو تو کل وصول کرنے سے پہلے کام کرنے کی اجازت نہیں یعنی ضمان دینا ہوگا۔^(۲) (بحر، درمختار وغیرہما)

مسئلہ ۲ یہ کہا کہ میرے لیے ادھار غلام خریدو پھر بیچو اور اُس کے ثمن سے بطور مضاربت کام کرو اس نے خریدا پھر بیچا اور کام کیا یہ صورت جائز ہے۔ غاصب یا امین یا جس کے پاس اس نے ابضاع^(۳) کے طور پر روپیہ دیا تھا ان سے کہا جو کچھ میرا مال تمہارے پاس ہے اُس سے بطور مضاربت کام کرو نفع آدھا آدھا یہ جائز ہے۔^(۴) (بحر)

(۴) اس المال مضارب کو دیدیا جائے یعنی اُس کا پورے طور پر قبضہ ہو جائے رب المال کا بالکل قبضہ نہ رہے۔

(۵) نفع دونوں کے مابین شائع ہو یعنی مثلاً نصف نصف یا دو تہائی ایک تہائی یا تین چوتھائی ایک چوتھائی، نفع میں اس طرح حصہ معین نہ کیا جائے جس میں شرکت قطع ہو جانے کا احتمال ہو مثلاً یہ کہہ دیا کہ میں سو روپیہ نفع لوں گا اس میں ہو سکتا ہے کہ کل نفع سو ہی ہو یا اس سے بھی کم تو دوسرے کی نفع میں کیوں کر شرکت ہوگی یا کہہ دیا کہ نصف نفع لوں گا اور اُس کے ساتھ دس روپیہ اور لوں گا اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کل نفع دس ہی روپے ہو تو دوسرا شخص کیا پائے گا۔

(۶) ہر ایک کا حصہ معلوم ہو لہذا ایسی شرط جس کی وجہ سے نفع میں جہالت پیدا ہو مضاربت کو فاسد کر دیتی ہے مثلاً یہ

①..... کسی کے ذمہ لازم۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب المضاربة، ج ۷، ص ۴۴۸۔

و "الدر المختار"، کتاب المضاربة، ج ۸، ص ۵۰۰، وغیرہما۔

③..... یعنی کسی کو کام کرنے کے لیے مال دیا اس طور پر کہ جو نفع ہوگا وہ تمام مالک کا ہوگا۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب المضاربة، ج ۷، ص ۴۴۸۔

شرط کہ تم کو آدھا یا تہائی نفع دیا جائے گا یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو معین نہیں کیا بلکہ تردید کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اگر اُس شرط سے نفع میں جہالت نہ ہو تو وہ شرط ہی فاسد ہے اور مضاربت صحیح ہے مثلاً یہ کہ نقصان جو کچھ ہوگا وہ مضارب کے ذمہ ہوگا یا دونوں کے ذمہ ڈالا جائے گا۔

(۷) مضارب کے لیے نفع دینا شرط ہو۔ اگر اس المال میں سے کچھ دینا شرط کیا گیا یا اس المال اور نفع دونوں سے دینا شرط کیا گیا مضاربت فاسد ہو جائے گی۔^(۱) (بحر، درر)

مسئلہ ۳ رب المال نے یہ کہا کہ جو کچھ خدا نفع دے گا وہ ہم دونوں کا ہوگا یا نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے یہ جائز ہے اور نفع دونوں کو برابر برابر ملے گا اور اگر مضارب کو روپیہ دیتے وقت یہ کہا کہ ہمارے مابین اُس طرح تقسیم ہوگا جو فلاں و فلاں کے مابین ٹھہرا ہے اگر دونوں کو معلوم ہے جو اُن کے مابین ٹھہرا ہے تو مضاربت جائز ہے اور اگر دونوں کو یا ایک کو معلوم نہ ہو کہ اُن کے مابین کیا ٹھہرا ہے تو ناجائز ہے اور مضاربت فاسد۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ روپیہ دیا اور مضارب سے کہہ دیا کہ تمہارا جو جی چاہے نفع میں سے مجھے دے دینا یہ مضاربت فاسد ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ ایک ہزار روپے مضارب کو اس طور پر دیے کہ نفع کی دو تہائیاں مضارب کی ہوں گی^(۴) بشرطیکہ ایک ہزار روپے اپنے بھی اس میں شامل کر لے اور دو ہزار سے کام کرے اُس نے ایسا ہی کیا اور نفع ہوا تو ایک ہزار کا کل نفع مضارب کو ملے گا اور ایک ہزار جو رب المال کے ہیں اُن کے نفع میں دو تہائیاں مضارب کی اور ایک تہائی رب المال کی ہوگی۔ اور اگر رب المال نے کہہ دیا کہ کل نفع کی دو تہائیاں میری اور ایک تہائی مضارب کی تو نفع کو برابر تقسیم کریں اور اس صورت میں مضاربت نہیں ہوئی بلکہ ابضاع ہے کہ اپنے مال کا سارا نفع خود لینا قرار دیدیا۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ روپے دیے اور کہہ دیا کہ گہوں خریدو گے تو آدھا نفع تمہارا اور آٹا خریدو گے تو چوتھائی نفع تمہارا اور جو

①..... "البحر الرائق"، کتاب المضاربة، ج ۷، ص ۴۴۹.

و "درر الحکام"، کتاب المضاربة، الجزء الثانی، ص ۳۱۱.

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربة، الباب الثانی فیما یجوز من المضاربة... إلخ، ج ۴، ص ۲۸۸.

③..... المرجع السابق.

④..... یعنی نفع کے کل تین حصوں میں سے دو حصے مضارب کے ہونگے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربة، الباب الثانی فیما یجوز من المضاربة... إلخ، ج ۴، ص ۲۸۹.

خریدو گے تو ایک تہائی تمہاری، اس صورت میں جیسا کہا اسی کے موافق نفع تقسیم کیا جائے گا، مگر گیہوں خرید چکا تو اب بچو یا آنا نہیں خرید سکتا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ مالک نے یہ کہا کہ اگر اس شہر میں کام کرو گے تو تمہیں ایک تہائی نفع ملے گا اور باہر کام کرو گے تو نصف، اس میں خریدنے کا اعتبار ہے بیچنے کا اعتبار نہیں اگر اس شہر میں خرید تو ایک تہائی دی جائے گی بیچنا یہاں ہو یا باہر۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مضاربت کا حکم یہ ہے کہ جب مضارب کو مال دیا گیا اُس وقت وہ امین ہے اور جب اُس نے کام شروع کیا اب وہ وکیل ہے اور جب کچھ نفع ہوا تو اب شریک⁽³⁾ ہے اور رب المال کے حکم کے خلاف کیا تو غاصب ہے اور مضاربت فاسد ہو گئی تو وہ اُجیر⁽⁴⁾ ہے اور اجارہ بھی فاسد۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹ مضاربت میں جو کچھ خسارہ ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے اگر یہ چاہے کہ خسارہ مضارب کو ہو مال والے کو نہ ہو اُس کی صورت یہ ہے کہ کل روپیہ مضارب کو بطور قرض دیدے اور ایک روپیہ بطور شرکت عنان دے یعنی اُس کی طرف سے وہ کل روپے جو اس نے قرض میں دیے اور اس کا ایک روپیہ اور شرکت اس طرح کی کہ کام دونوں کریں گے اور نفع میں برابر کے شریک رہیں گے اور کام کرنے کے وقت تہا وہی مُستَقْرَض⁽⁶⁾ کام کرتا رہا اس نے کچھ نہیں کیا اس میں حرج نہیں کیونکہ اگر رب المال کام نہ کرے تو شرکت باطل نہیں ہوتی اب اگر تجارت میں نقصان ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی روپیہ ہے سارا مال تو مستقرض کا ہے اُس کا خسارہ ہو اور رب المال کا کیا ایسا خسارہ ہوا کیونکہ جو کچھ مستقرض کو دیا ہے وہ قرض ہے اُس سے وصول کرے گا۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۰ مضاربت اگر فاسد ہو جاتی ہے تو اجارہ کی طرف منقلب ہو جاتی ہے یعنی اب مضارب کو نفع جو مقرر ہوا ہے وہ نہیں ملے گا بلکہ اُجرتِ مثل ملے گی چاہے نفع اس کام میں ہوا ہو یا نہ ہو مگر یہ ضرور ہے کہ یہ اُجرت اُس سے زیادہ نہ ہو جو مضاربت کی صورت میں نفع ملتا۔⁽⁸⁾ (درمختار)

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الثانی فیما یحوز من المضاربت... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۰.

②.....المرجع السابق.

③.....حصہ دار۔

④.....اُجرت پر کام کرنے والا، ملازم، نوکر۔

⑤....."الدرالمختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۴۹۷.

⑥.....قرض لینے والا۔

⑦....."الدرالمختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۴۹۷-۴۹۸.

⑧.....المرجع السابق، ص ۴۹۸.

مسئلہ ۱۱ وصی نے یتیم کا مال بطور مضاربت فاسدہ لیا مثلاً یہ شرط کہ دس روپے نفع کے میں لوں گا اور اُس نے کام کیا اور نفع بھی ہو مگر وصی کو کچھ نہیں ملے گا۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۱۲ مضاربت فاسدہ میں بھی مضارب کے پاس جو مال رہتا ہے وہ بطور امانت ہے اگر کچھ نقصان ہو جائے تاوان اسکے ذمہ نہیں جس طرح مضاربت صحیحہ میں تاوان نہیں۔ دوسرے کو مال دیا اور کل نفع اپنے لیے مشروط کر لیا جس کو ابضاع کہتے ہیں اس میں بھی اُس کے پاس جو مال ہے بطور امانت ہے ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ رب المال نے مضارب کو مال دیا اور شرط یہ کی ہے کہ مضارب کے ساتھ میں بھی کام کروں گا اس سے مضاربت فاسدہ ہو گئی اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ رب المال ہی نے عقد مضاربت کیا اور اپنے ہی کام کرنے کی شرط کی۔ دوسری یہ کہ عاقد دوسرا ہے اور رب المال دوسرا مثلاً نابالغ بچہ یا معتوہ کا مال ہے اُس کے ولی نے کسی سے عقد مضاربت کیا اور شرط یہ ہے کہ یہ بچہ بھی (جس کا مال ہے) تمہارے ساتھ کام کرے گا دونوں صورتوں میں مضاربت فاسدہ ہے یا مثلاً دو شخصوں میں شرکت^(۳) ہے ایک شریک نے عقد مضاربت کیا اور مال دیدیا اور شرط یہ ہے کہ مضارب کے ساتھ میرا شریک بھی کام کرے گا مضاربت فاسدہ ہو جائے گی جبکہ اس المال دونوں کی شرکت کا ہو اور اگر اس المال مال مشترک نہ ہو اور شرکت عنان ہو تو مضاربت صحیح ہے اور اگر شرکت مفادہ ہو تو مطلقاً صحیح نہیں اور اگر عاقد (جورب المال نہیں ہے) اس نے اپنے کام کرنے کی شرط کی ہے اس میں دو صورتیں ہیں وہ عاقد خود اس مال کو بطور مضاربت لے سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں لے سکتا تو مضاربت فاسدہ ہے مثلاً غلام ماذون^(۴) نے بطور مضاربت مال دیا اور اپنے عمل کی شرط کر لی یہ فاسدہ ہے۔ اور اگر وہ خود مضاربت کے طور پر مال کو لے سکتا ہے تو فاسدہ نہیں جیسے باپ یا وصی کہ انہوں نے بچہ کا مال مضاربہ دیا اور خود اپنے عمل کی شرط کر لی کہ کام کریں گے اور نفع میں سے اتنا لیں گے اس سے مضاربت فاسدہ نہیں۔ غلام ماذون نے عقد کیا اور اپنے مولیٰ^(۵) کے کام کرنے کی شرط کی اسکی بھی دو صورتیں ہیں اُس پر دین ہے یا نہیں اگر دین نہیں ہے عقد فاسدہ ہے ورنہ صحیح ہے جس طرح مکاتب نے عقد کیا اور مولیٰ کا کام کرنا شرط کیا یہ مطلقاً صحیح ہے۔^(۶) (ہدایہ، بحر، درر وغیرہا)

① "الدر المختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۴۹۹.

② المرجع السابق، ص ۵۰۰.

③ حصہ داری۔ ④ وہ غلام جسے آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت ہو۔ ⑤ آقا، مالک۔

⑥ "الهدایہ"، کتاب المضاربت، ج ۲، ص ۲۰۱.

و "البحر الرائق"، کتاب المضاربت، ج ۷، ص ۴۴۹.

و "درر الحکام"، کتاب المضاربت، الجزء الثانی، ص ۳۱۱، وغیرہا.

مسئلہ ۱۴ مضارب نے رب المال کو مضاربہ مال دے دیا یہ دوسری مضاربت صحیح نہیں اور پہلی مضاربت بدستور صحیح ہے اور نفع اسی طور پر تقسیم ہوگا جو باہم ٹھہرا ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ مضارب و رب المال میں مضاربت کی صحت و فساد^(۲) میں اختلاف ہے اس کی دو صورتیں ہیں اگر مضارب فساد کا مدعی^(۳) ہے تو رب المال کا قول معتبر اور رب المال نے فساد کا دعویٰ کیا تو مضارب کا قول معتبر، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ عقود^(۴) میں جو مدعی صحت ہے اُس کا قول معتبر ہوتا ہے ہاں اگر رب المال یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے دس کم تہائی نفع شرط تھا مضارب کہتا ہے تہائی نفع میرے لیے تھا یہاں رب المال کا قول معتبر ہے حالانکہ اُس کے طور پر مضاربت فاسد ہے اور مضارب کے طور پر صحیح ہے کیونکہ یہاں مضارب زیادت کا مدعی ہے اور رب المال اس سے منکر۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۶ مضاربت کبھی مطلق ہوتی ہے جس میں زمان و مکان^(۶) اور قسم تجارت کی تعیین نہیں ہوتی روپیہ دے دیا ہے کہ تجارت کرو نفع میں دونوں کی اس طرح شرکت ہوگی اور کبھی مضاربت میں طرح طرح کی قیدیں ہوتی ہیں۔ مضاربت مطلقہ^(۷) میں مضارب کو ہر قسم کی بیع کا اختیار ہے نقد بھی بیچ سکتا ہے اودھار بھی، مگر ایسا ہی اودھار کر سکتا ہے جو تا جروں میں رائج ہے اسی طرح ہر قسم کی چیز خرید سکتا ہے خرید و فروخت میں دوسرے کو وکیل کر سکتا ہے۔ دریا اور خشکی کا سفر بھی کر سکتا ہے اگرچہ رب المال نے شہر کے اندر اس کو مال دیا ہو۔ البضاع بھی کر سکتا ہے یعنی دوسرے کو تجارت کے لیے مال دے دے اور نفع اپنے لیے شرط کرے یہ ہو سکتا ہے بلکہ خود رب المال کو بھی بضاعت کے طور پر مال دے سکتا ہے اور اس سے مضاربت فاسد نہیں ہوگی۔ مضارب مال کو کسی کے پاس امانت رکھ سکتا ہے۔ اپنی چیز کسی کے پاس رہن رکھ سکتا ہے دوسرے کی چیز اپنے پاس رہن لے سکتا ہے کسی چیز کو اجارہ پر دے سکتا ہے کرایہ پر لے سکتا ہے۔ مشتری^(۸) نے ثمن کا کسی پر حوالہ کر دیا مضارب اس حوالہ کو قبول کر سکتا ہے کیونکہ یہ ساری باتیں تجارت^(۹) کی عادت میں داخل ہیں کبھی یہاں مال بیچتے ہیں کبھی باہر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے گاڑی کشتی جانور وغیرہ کو کرایہ پر لینا ہوتا ہے ورنہ مال کس طرح لے جائے گا۔ دوکان پر کام کرنے کے لیے نوکر رکھنے کی ضرورت ہوتی

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الرابع فیما یملک المضارب... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۲۔

②..... صحیح اور فاسد ہونے۔ ③..... دعویٰ کرنے والا۔

④..... عقد کی جمع، جس کے معنی ہیں ایجاب و قبول کا ایسے مشروع طریقہ پر مربوط ہونا جس کا اثر اس کے محل میں ظاہر ہو۔

⑤..... "الدر المختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۵۰۲۔

⑥..... یعنی وقت اور جگہ۔ ⑦..... ایسی مضاربت جس میں کسی قسم کی قید نہ ہو۔

⑧..... خریدار۔ ⑨..... تاجر کی جمع، تاجر لوگ۔

ہے دکان کرایہ پر لینی ہوتی ہے۔ مال رکھنے کے لیے مکان کرایہ پر لینا ہوتا ہے اور اسکی حفاظت کے لیے نوکر رکھنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں بالکل ظاہر ہیں۔⁽¹⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۷ - مضاربت مطلقہ میں بھی مال لے کر سفر اُس وقت کر سکتا ہے جب بظاہر خطرہ نہ ہو اور اگر راستہ خطرناک ہو لوگ اُس راستہ سے ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تو مضارب بھی مال لے کر اُس راستہ سے نہیں جاسکتا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ - مضارب نے مال بیع کرنے⁽³⁾ کے بعد ثمن کے لیے کوئی میعاد مقرر کر دی یہ جائز ہے اور اگر بیع⁽⁴⁾ میں عیب تھا اُسکے ثمن سے کچھ کم کر دیا جتنا تجارتی صورت میں کم کیا کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اور اگر بہت زیادہ ثمن کم کر دیا کہ عادت تجارت کے خلاف ہے تو یہ کمی مضارب کے ذمہ ہوگی۔ رب المال سے اس کو تعلق نہ ہوگا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ - مضارب یہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے کو بطور مضاربت یہ مال دیدے یا اس مال کے ساتھ کسی سے شرکت کرے یا اس مال کو اپنے مال میں خلط کرے⁽⁶⁾ مگر جبکہ رب المال نے اُس کو ان کاموں کی اجازت دیدی ہو یا یہ کہہ دیا ہو کہ تم اپنی رائے سے کام کرو۔ مضارب کو قرض دینے کا اختیار نہیں اور استدانہ کا بھی اختیار نہیں اگرچہ رب المال نے کہہ دیا ہو کہ اپنی رائے سے کام کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تجارت کی عادت میں نہیں استدانہ کے یہ معنی ہیں کہ کوئی چیز اودھار خریدی اور مال مضاربت میں اس ثمن کی جنس سے کچھ باقی نہیں ہے مثلاً جو کچھ روپیہ تھا سب کی چیزیں خریدی جا چکیں اب کچھ روپیہ باقی نہیں ہے اسکے باوجود مضارب نے دس، بیس، سو، پچاس کی کوئی اور چیز خرید لی یہ مضاربت میں داخل نہ ہوگی مضارب کی اپنی ہوگی اپنے پاس سے دام⁽⁷⁾ دینے ہوں گے۔ اگر رب المال نے صاف اور صریح لفظوں میں قرض دینے اور استدانہ کی اجازت دیدی ہو تو اب مضارب ان دونوں کو کر سکتا ہے اور استدانہ کے طور پر جو کچھ خریدے گا وہ رب المال و مضارب کے مابین بطور شرکت وجوہ مشترک ہوگی۔⁽⁸⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۰ - مضاربت کے طور پر ایک ہزار روپے دیے تھے مضارب کو ایک ہزار سے زیادہ کی چیزیں خریدنے کا اختیار

- ① "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۵۰۲، وغیرہ.
- ② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب الرابع فیما یملک المضارب... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۳.
- ③ بیچنے۔
- ④ بیچی گئی چیز۔
- ⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب الرابع فیما یملک المضارب... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۲.
- ⑥ یعنی ملائے۔
- ⑦ روپیہ، رقم۔
- ⑧ "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۵۰۳-۵۰۵.

نہیں اور اگر اس نے خرید لیں تو ایک ہزار کی چیزیں مضاربت کی ہیں باقی چیزیں خاص مضاربت کی ہیں نقصان ہوگا تو ان چیزوں کے مقابلہ میں جو کچھ نقصان ہے وہ تنہا مضاربت کے ذمہ ہے اور ان کا نفع بھی تنہا مضاربت ہی کو ملے گا اور ان چیزوں کو مال مضاربت میں خلط کرنے⁽¹⁾ سے مضاربت پر ضمان لازم نہ ہوگا۔⁽²⁾ (خانہ)

مسئلہ ۲۱ رب المال نے روپے دیے تھے اور مضاربت نے اشرفی⁽³⁾ سے چیزیں خریدیں یا اشرفیاں دی تھیں اور مضاربت نے روپے سے چیزیں خریدیں تو یہ چیزیں مضاربت ہی کی قرار پائیں گی کہ روپیہ اور اشرفی اس باب میں ایک ہی جنس ہیں اور اگر رب المال نے روپیہ یا اشرفی دی تھی اور مضاربت نے غیر نقد⁽⁴⁾ سے چیزیں خریدیں تو یہ چیزیں مضاربت کی نہیں بلکہ خاص مضاربت کی ہوں گی۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ رب المال نے اشرفیاں دی تھیں مضاربت نے روپے سے چیزیں خریدیں مگر یہ روپے اشرفیوں کی قیمت سے زیادہ ہیں تو جتنے زیادہ ہیں ان کی چیزیں خاص مضاربت کی ملک ہیں اور مضاربت اس صورت میں مضاربت میں شریک ہو جائے گا اور اگر وہ روپے اشرفیوں کی قیمت کے تھے مگر خریدنے کے بعد ثمن ادا کرنے سے پہلے اشرفیوں کا نرخ اتر گیا⁽⁶⁾ تو یہ نقصان مال مضاربت میں قرار پائے گا اشرفیاں بھنا کر⁽⁷⁾ ثمن ادا کرے اور جو کمی پڑے مال بچ کر بائع⁽⁸⁾ کا بقیہ ثمن ادا کرے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ مضاربت نے پورے مال مضاربت سے کپڑا خریدا اور اس کو اپنے پاس سے دھلویا یا مال مضاربت کو لاد کر دوسری جگہ لے گیا اور کرایہ اپنے پاس سے خرچ کیا اگر مضاربت سے رب المال نے کہا تھا کہ تم اپنی رائے سے کام کرو یہ مضاربت مُشترع ہے یعنی ان چیزوں کا اُسے کوئی معاوضہ نہیں ملے گا کیونکہ استدانہ⁽¹⁰⁾ کا اُسے اختیار نہ تھا اور اگر کپڑے کو مُرخ رنگ دیا یا دھلوا کر اُس میں کلپ چڑھایا⁽¹¹⁾ تو اس رنگ یا کلپ کی وجہ سے جو کچھ اُس کی قیمت میں اضافہ ہوگا اُتنے کا یہ شریک

①..... ملادینے۔

②..... "الفتاویٰ الحانیه"، کتاب المضاربت، ج ۲، ص ۲۱۷۔

③..... سونے کے سکے۔ ④..... سونا، چاندی اور کرنسی کے علاوہ دیگر سامان۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب التاسع فی الاستدانۃ علی المضاربت، ج ۴، ص ۳۰۵۔

⑥..... یعنی کم ہو گیا۔ ⑦..... کسی سکے کی ریزگاری لے کر، تزا کر۔ ⑧..... بیچنے والے۔

⑨..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب التاسع فی الاستدانۃ علی المضاربت، ج ۴، ص ۳۰۵۔

⑩..... یعنی ادھا خریدنے۔ ⑪..... کلف لگایا، یعنی پکا ہوا لیس دار مادہ جسے پانی میں ملا کر کپڑے کو اس میں ڈبوتے ہیں۔

ہے یعنی مضارب نے اپنے مال کو مالِ مضاربت میں ملا دیا مگر چونکہ رب المال نے کہہ دیا تھا کہ اپنی رائے سے کام کرو لہذا اس کو ملا دینے کا اختیار تھا۔ اب یہ کپڑا فروخت ہو اس میں رنگ کی قیمت کا جو حصہ ہے وہ تنہا مضارب کا ہے اور خالی سفید کپڑے کا جو ثمن ہوگا وہ مضاربت کے طور پر ہوگا مثلاً وہ تھان اس وقت دس روپے میں فروخت ہو اور رنگا ہوا نہ ہوتا تو آٹھ روپے میں بکتا، دو روپے مضارب کے ہیں اور آٹھ روپے مضاربت کے طور پر اور اگر رب المال نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی رائے سے کام کرو تو مضارب شریک نہیں بلکہ غاصب ہوگا۔⁽¹⁾ (درمختار) اور اس پچھلی صورت میں مالک کو اختیار ہے کہ کپڑا لے کر زیادتی کا معاوضہ دیدے یا سفید کپڑے کی قیمت مضارب سے تاوان لے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - کل روپے کا کپڑا خرید لیا بار برداری⁽³⁾ یا دھلائی وغیرہ اپنے پاس سے خرچ کی تو مُتَبَرَع⁽⁴⁾ ہے کہ نہ اس کا معاوضہ ملے گا نہ اسکی وجہ سے تاوان دینا پڑے گا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ - مضارب کو یہ اختیار نہیں کہ کسی سے قرض لے اگرچہ رب المال نے صاف لفظوں میں قرض لینے کی اجازت دیدی ہو کیونکہ قرض لینے کے لیے وکیل کرنا بھی درست نہیں اگر قرض لے گا تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہوگا رب المال سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ - مضارب ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں ضرر ہو، نہ وہ کام کر سکتا ہے جو تجارت نہ کرتے ہوں، نہ ایسی میعاد پر بیع کر سکتا ہے جس میعاد پر تاجر نہیں بیچتے ہوں اور دو شخصوں کو مضارب کیا ہے تو تنہا ایک بیع و شرا⁽⁷⁾ نہیں کر سکتا، جب تک اپنے ساتھی سے اجازت نہ لے لے۔⁽⁸⁾ (بحر)

مسئلہ ۲۷ - اگر بیع فاسد کے ساتھ کوئی چیز خریدی جس میں قبضہ کرنے سے ملک ہو جاتی ہے یہ مخالفت نہیں ہے اور وہ چیز مضاربت ہی کی کہلائے گی اور غبن فاحش کے ساتھ خریدی تو مخالفت ہے اور یہ چیز صرف مضارب کی ملک ہوگی اگرچہ مالک

① "الدر المختار"، کتاب المضاربة، ج ۸، ص ۵۰۵.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربة، الباب التاسع فی الاستدانة... إلخ، ج ۴، ص ۳۰۶.

③ مزدوری۔ ④ احسان کرنے والا۔

⑤ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربة، الباب التاسع فی الاستدانة... إلخ، ج ۴، ص ۳۰۶.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب المضاربة، ج ۸، ص ۵۰۶.

⑦ یعنی خرید و فروخت۔

⑧ "البحر الرائق"، کتاب المضاربة، ج ۷، ص ۴۵۰.

نے کہہ دیا ہو کہ اپنی رائے سے کام کرو اور اگر غبنِ فاحش کے ساتھ بیچ دی تو مخالفت نہیں ہے۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۲۸ رب المال نے شہر یا وقت یا قسم تجارت کی تعیین کر دی ہو یعنی کہہ دیا ہو کہ اس شہر میں یا اس زمانہ میں خرید و فروخت کرنا یا فلاں قسم کی تجارت کرنا تو مضارب پر اسکی پابندی لازم ہے اسکے خلاف نہیں کر سکتا۔ یوہیں اگر بائع⁽²⁾ یا مشتری⁽³⁾ کی تقید کر دی ہو کہ فلاں دکان سے خریدنا یا فلاں فلاں کے ہاتھ بیچنا اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتا اگرچہ یہ پابندیاں اُس نے عقدِ مضاربت کرتے وقت یا روپے دیتے وقت نہ کی ہوں بعد میں یہ قیود بڑھادی ہوں، ہاں اگر مضارب نے سودا خرید لیا اب کسی قسم کی پابندی اُسکے ذمہ کرے مثلاً یہ کہ اودھار نہ بیچنا یا دوسری جگہ نہ لے جانا وغیرہ وغیرہ، مضارب ان قیود کی پابندی پر مجبور نہیں مگر جبکہ سودا فروخت ہو جائے اور اس المال نقد کی صورت میں ہو جائے تو رب المال اس وقت قیود لگا سکتا ہے اور مضارب پر اُن کی پابندی لازم ہوگی۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ مضارب سے کہہ دیا کہ فلاں شہر والوں سے بیع کرنا اُس نے اُسی شہر میں بیع کی مگر جس سے بیع کی وہ اُس شہر کا باشندہ نہیں ہے یہ جائز ہے کہ اس شرط سے مقصود اُس شہر میں بیع کرنا ہے۔ یوہیں اگر کہہ دیا کہ صرف⁽⁵⁾ سے خرید و فروخت کرنا اس نے صرف کے غیر سے عقد صرف کیا یہ بھی مخالفت نہیں ہے بلکہ جائز ہے کہ اس سے مقصود عقد صرف ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ رب المال نے کپڑا خریدنے کے لیے کہہ دیا ہے تو اونی، سوتی، ریشمی، ٹسری⁽⁷⁾ جو چاہے خرید سکتا ہے، ٹاٹ⁽⁸⁾ دری قالین پردے وغیرہ جو از قبیل ملبوس نہیں ہیں⁽⁹⁾، نہیں خرید سکتا۔⁽¹⁰⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ رب المال نے بے فائدہ قیدیں ذکر کیں مثلاً یہ کہ نقد نہ بیچنا اسکی پابندی مضارب پر لازم نہیں اور ایسی قید جس میں فی الجملہ فائدہ ہو مثلاً اس شہر کے فلاں بازار میں تجارت کرنا فلاں میں نہ کرنا اس کی پابندی کرنی ہوگی۔⁽¹¹⁾ (درمختار)

①..... "البحر الرائق"، کتاب المضاربة، ج ۷، ص ۴۵۰.

②..... بیچنے والا۔

③..... خریدار۔

④..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب المضاربة، ج ۸، ص ۵۰۶.

⑤..... سونے چاندی کا کام کرنے والا۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربة، الباب السادس فیما یشرط... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۸.

⑦..... مصنوعی ریشم سے تیار کیا ہوا کپڑا۔

⑧..... بوری کا کپڑا۔

⑨..... یعنی جو لباس کی قسم سے نہیں ہیں۔

⑩..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربة، الباب السادس فیما یشرط... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۹.

⑪..... "الدر المختار"، کتاب المضاربة، ج ۸، ص ۵۰۶.

اُدھار کی قید بیکار اُس وقت ہے جب مضارب نے واجبی قیمت (1) پر یا اُس ثمن پر بیع کی (2) تو رب المال نے بتایا تھا اور اگر کم داموں میں بیع کر دی تو مخالفت قرار پائے گی۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ رب المال نے معین کر دیا تھا کہ فلاں شہر میں یا اس شہر سے مال خریدنا، مضارب نے اس کے خلاف کیا دوسرے شہر کو مال خریدنے کے لیے چلا گیا ضامن ہو گیا یعنی اگر مال ضائع ہوگا تاوان دینا پڑے گا اور جو کچھ خریدے گا وہ مضارب کا ہوگا مال مضاربت نہیں ہوگا اور اگر وہاں سے کچھ خریدنا نہیں بغیر خریدے واپس آ گیا تو مضاربت عود کر آئی یعنی اب ضامن نہ رہا اور اگر کچھ خریدا کچھ روپیہ واپس لایا تو جو کچھ خریدا ہے اس میں ضامن ہے اور جو روپیہ واپس لایا ہے یہ مضاربت پر ہو گیا۔ (4) (بحر، درمختار)

مسئلہ ۳۳ مال مضاربت سے جو لونڈی، غلام خریدے گا اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بات تجارت کی عادت سے نہیں۔ ایسے غلام کو نہیں خرید سکتا جو خریدنے سے رب المال کی جانب سے آزاد ہو جائے مثلاً رب المال کا ذی رحم محرم (5) ہے کہ اگر اُس کی ملک میں آجائے گا آزاد ہو جائے گا یا رب المال نے کسی غلام کی نسبت کہا ہے کہ اگر میں اس کا مالک ہو جاؤں تو آزاد ہے کہ ان سب کی خریداری مقصد تجارت کے خلاف ہے اگر خریدے گا تو مضارب ان کا مالک ہوگا اور اُس کو اپنے پاس سے ثمن دینا ہوگا اس مال سے ثمن نہیں دے سکتا بخلاف وکیل بالشراء (6) کے کہ اگر قرینہ نہ ہو تو یہ ایسے غلاموں کو خرید سکتا ہے اور وہ مؤکل کی ملک ہوں گے اور آزاد ہو جائیں گے قرینہ کی صورت یہ ہے کہ مؤکل نے کہا ہے ایک غلام میرے لیے خریدو میں اُسے بیچوں گا یا اُس سے خدمت لوں گا یا کنیز (7) خریدو جس کو فراش بناؤں گا (8) ان صورتوں میں وکیل بھی ایسے غلام و کنیز کو نہیں خرید سکتا جو مؤکل پر آزاد ہو جائیں۔ (9) (بحر، درمختار، ہدایہ)

①..... رائج قیمت، بازاری قیمت۔

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب السادس فیما یشرط... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۸، ۲۹۹۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب المضاربت، ج ۷، ص ۴۵۰۔

و "الدر المختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۵۰۶۔

⑤..... یعنی نسب کی رو سے ان میں باہم وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ حرمت نکاح کا موجب ہوتا ہے۔

⑥..... خریدنے کا وکیل۔

⑦..... لونڈی۔

⑧..... یعنی اس سے صحبت، مجامعت کروں گا۔

⑨..... "البحر الرائق"، کتاب المضاربت، ج ۷، ص ۴۵۱۔

و "الدر المختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۵۰۷۔

و "الہدایہ"، کتاب المضاربت، ج ۲، ص ۲۰۳۔

مسئلہ ۳۴ اگر مال میں نفع ہو تو مضارب ایسے غلام کو بھی نہیں خرید سکتا جو خود اُسکی جانب سے آزاد ہو جائے کیونکہ اس وقت بقدر اپنے حصہ کے خود مضارب بھی اوس کا مالک ہو جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا، یہاں نفع کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اس غلام کی واجبی قیمت راس المال سے زیادہ ہو مثلاً ایک ہزار میں خریدا ہے اور یہی راس المال تھا مگر یہ غلام ایسا ہے کہ بازار میں اس کے بارہ سولیس گے معلوم ہوا کہ دوسو کا نفع ہے جس میں ایک سو مضارب کے ہیں لہذا بارہ حصہ میں سے ایک حصہ کا مضارب مالک ہے اور یہ آزاد ہے پس اس صورت میں یہ غلام مضاربت کا نہیں ہے بلکہ تنہا مضارب کا قرار پائے گا اور پورا آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر نفع نہ ہو تو یہ غلام مضاربت کا ہوگا اور آزاد نہیں ہوگا۔^(۱) (درمختار، ہدایہ)

مسئلہ ۳۵ مال میں نفع نہیں تھا اور مضارب نے ایسا غلام خریدا کہ اگر مضارب اُس کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے اس کی خریداری از جانب مضاربت صحیح ہوگئی مگر خریدنے کے بعد بازار کا نرخ تیز ہو گیا اب اس میں نفع ظاہر ہو گیا یعنی جب خریدا تھا اُس وقت ہزار ہی کا تھا اور ہزار میں خریدا مگر اب اس کی قیمت بارہ سو ہوگئی تو مضارب کا حصہ آزاد ہو گیا مگر مضارب کو تاوان نہیں دینا ہوگا اس لیے کہ اُس نے قصداً^(۲) مالک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے بلکہ غلام سے سعی^(۳) کرا کر راس المال کا حصہ پورا کرایا جائے گا۔ اور اگر شریک^(۴) نے ایسا غلام خریدا ہوتا جو دوسرے شریک کی طرف سے آزاد ہوتا یا باپ یا وصی^(۵) نے نابالغ کے لیے ایسا غلام خریدا ہوتا جو نابالغ کی طرف سے آزاد ہوتا تو یہ غلام اُسی خریدنے والے کا قرار پاتا شریک یا نابالغ سے اس کو تعلق نہ ہوتا۔^(۶) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۳۶ مضارب نے ایسے شخص سے بیع و شراء کی^(۷) جس کے حق میں اس کی گواہی مقبول نہیں مثلاً اپنے باپ یا بیٹے یا زوجہ سے، اگر یہ بیع واجبی قیمت پر ہوئی تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔^(۸) (عالمگیری)

①..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۵۰۶.

و "الهدایة"، کتاب المضاربت، ج ۲، ص ۲۰۳.

②..... جان بوجھ کر۔

③..... محنت مزدوری۔

④..... حصہ دار۔

⑤..... جس کو میت نے اپنی وصیت پوری کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔

⑥..... "الهدایة"، کتاب المضاربت، ج ۲، ص ۲۰۳.

و "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، ج ۸، ص ۵۰۷.

⑦..... خرید و فروخت۔

⑧..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المضاربت، الباب الرابع فیما یملک المضارب... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۴.

مسئلہ ۳۷ - مضارب نے مال مضاربت سے کوئی چیز خریدی اس کے بعد گواہوں کے سامنے اسی چیز کو اپنے لیے خریدتا ہے یہ ناجائز ہے اگرچہ رب المال نے کہہ دیا ہو کہ تم اپنی رائے سے کام کرنا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ - مضارب نے بلا اجازت رب المال دوسرے شخص کو بطور مضاربت مال دیدیا، محض دینے سے مضارب ضامن نہیں ہوگا جب تک دوسرا شخص کام کرنا شروع نہ کر دے اور دوسرے نے کام کرنا شروع کر دیا تو مضارب اول ضامن ہو گیا ہاں اگر دوسری مضاربت (جو مضارب نے کی ہے) فاسد ہو تو باوجود مضارب ثانی کے عمل کرنے کے بھی مضارب اول ضامن نہیں ہے اگرچہ اُس دوسرے نے جو کچھ کام کیا ہے اُس میں نفع ہو بلکہ اس صورتِ مضاربت فاسدہ میں مضارب ثانی کو اجرت مثل ملے گی جو مضارب دے گا اور رب المال نے جو نفع مضارب اول سے ٹھہرایا ہے وہ لے گا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۹ - صورت مذکورہ میں مضارب ثانی کے پاس سے عمل کرنے کے پہلے مال ضائع ہو گیا تو ضمان کسی پر نہیں، نہ مضارب اول پر،⁽³⁾ نہ مضارب ثانی پر⁽⁴⁾ اور اگر مضارب ثانی سے کسی نے مال غصب کر لیا جب بھی ان دونوں پر ضمان نہیں بلکہ غاصب سے تاوان لیا جائے گا اور اگر مضارب ثانی نے خود ہلاک کر دیا یا کسی کو بہہ کر دیا تو خاص اس ثانی سے ضمان لیا جائے گا۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴۰ - اگر مضارب ثانی نے کام شروع کر دیا تو رب المال کو اختیار ہے جس سے چاہے اس المال کا ضمان لے اول سے یا ثانی سے، اگر اول سے ضمان لیا تو ان دونوں کے مابین جو مضاربت ہوئی ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور نفع دونوں کے لیے حلال ہوگا اور اگر دوسرے سے ضمان لیا تو وہ اول سے واپس لے گا اور مضاربت دونوں کے مابین صحیح ہو جائے گی مگر نفع پہلے کے لیے حلال نہیں ہے دوسرے کے لیے حلال ہے۔ اور اگر مضارب ثانی نے کسی تیسرے کو مضاربت کے طور پر مال دیدیا اور مضارب اول نے ثانی سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی رائے سے کام کرو تو رب المال کو اختیار ہے، ان تینوں میں سے جس سے چاہے ضمان لے اگر اُس نے تیسرے سے لیا تو یہ دوسرے سے لے گا اور دوسرا پہلے سے اور پہلا کسی سے نہیں۔⁽⁶⁾ (بحر، درمختار، ردالمحتار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الرابع فیما یملک المضارب... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۴.

②..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، باب المضارب یضارب، ج ۸، ص ۵۰۹.

③..... یعنی نہ پہلے مضارب پر۔ ④..... نہ دوسرے مضارب پر۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، باب المضارب یضارب، ج ۸، ص ۵۰۹.

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب المضاربت، باب المضاربت یضارب، ج ۷، ص ۴۵۳.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب المضاربت، باب المضارب یضارب، ج ۸، ص ۵۰۹.

مسئلہ ۳۱ صورت مذکورہ میں کہ بغیر اجازت مضاربت نے دوسرے کو مال دے دیا ہے مالک تاوان لینا نہیں چاہتا بلکہ نفع لینا چاہتا ہے اس کا اُسے اختیار نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۲ بغیر اجازت مالک مضاربت نے بطور مضاربت کسی کو مال دے دیا اور پہلی مضاربت فاسد تھی دوسری صحیح ہے تو کسی پر ضمان نہیں اور پورا نفع رب المال کو ملے گا اور مضاربت اول کو اجرت مثل دی جائے گی اور مضاربت دوم مضاربت اول سے وہ لے گا جو دونوں میں طے پایا ہے اور اگر پہلی صحیح ہے دوسری فاسد تو مضاربت اول وہ لے گا جو طے پایا ہے اور مضاربت دوم کو اجرت مثل ملے گی جو مضاربت اول سے لے گا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ مضاربت دوم نے مال ہلاک کر دیا یا بہہ کر دیا تو تاوان صرف اُسی سے لیا جائے گا اول سے نہیں لیا جائے گا اور اگر مضاربت دوم سے کسی نے مال غصب کر لیا تو تاوان غاصب سے لیا جائے گا نہ اول سے لیا جائے گا نہ دوم سے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ مضاربت اول کو مضاربت کے طور پر مال دینے کی اجازت تھی اور اُس نے دے دیا اور ان دونوں کے مابین یہ طے پایا ہے کہ مضاربت ثانی کو نفع کی تہائی ملے گی اور اس کی تجارت میں نفع بھی ہو اگر مضاربت اول اور مالک کے درمیان نصف نصف نفع کی شرط تھی یا مالک نے یہ کہا تھا کہ خدا جو کچھ نفع دے گا وہ میرے تمہارے درمیان نصف نصف ہے یا اتنا ہی کہا تھا کہ نفع میرے اور تمہارے مابین ہوگا تو نفع میں سے آدھا مالک لے گا اور ایک تہائی مضاربت ثانی لے گا اور چھٹا حصہ مضاربت اول کا ہے اور اگر مالک نے یہ کہا تھا کہ خدا تمہیں جو کچھ نفع دے گا یا یہ کہا تھا کہ تمہیں جو کچھ نفع ہو وہ میرے اور تمہارے مابین نصف نصف یا اسی قسم کے دیگر الفاظ، اس صورت میں ایک تہائی مضاربت ثانی کی اور بقیہ میں مالک اور مضاربت اول دونوں برابر کے شریک یعنی ہر ایک کو ایک ایک تہائی ملے گی، یوں اگر مضاربت ثانی کے لیے تہائی سے زیادہ یا کم کی شرط تھی تو جو اس کے لیے ٹھہرا تھا یہ لے لے اور باقی ان دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو، یوں اگر مالک نے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ تمہیں نفع ہو وہ ہم دونوں کے مابین نصف نصف اور اس نے دوسرے کو نصف نفع پر دے دیا تو جو کچھ نفع ہوگا مضاربت ثانی اس میں سے نصف لے لے گا اور باقی^(۴) ان دونوں کے مابین نصف نصف اور اگر مالک نے کہا تھا کہ خدا اس میں جو

① "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، باب المضاربت يضارب، ج ۸، ص ۵۱۰.

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب السابع فی المضاربت... إلخ، ج ۴، ص ۲۹۹.

③ المرجع السابق.

④ یعنی جو کچھ بچے۔

نفع دے گا یا خدا کا جو کچھ فضل ہوگا وہ دونوں کے مابین نصف نصف اور مضاربِ اوّل نے دوسرے کو نصف نفع پر دے دیا تو جو کچھ نفع ہوگا اُس میں سے آدھا مضاربِ ثانی لے گا اور آدھا مالک لے گا اور مضاربِ اوّل کے لیے کچھ نہیں بچا اور اگر اس صورت میں مضاربِ اوّل نے دوسرے سے دو تہائی نفع کے لیے کہہ دیا تھا تو آدھا نفع مالک لے گا اور دو تہائی مضاربِ ثانی کی ہوگی یعنی جو کچھ نفع ہوا ہے اُس کا چھٹا حصہ مضاربِ اوّل دوسرے کو اپنے گھر سے دے گا تاکہ دو تہائیاں پوری ہوں۔⁽¹⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۳۵ مضاربِ اوّل نے مضاربِ دوم کو یہ کہہ کر دیا کہ تم اپنی رائے سے کام کرو اور مضاربِ اوّل کو مالک نے بھی یہی کہہ کر دیا تھا تو مضاربِ دوم تیسرے شخص کو مضاربت پر دے سکتا ہے اور اگر مضاربِ اوّل نے یہ کہہ کر نہیں دیا تھا کہ اپنی رائے سے کام کرو تو مضاربِ دوم سوم کو نہیں دے سکتا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ مضارب نے یہ شرط کی تھی کہ ایک تہائی مالک کی اور ایک تہائی مالک کے غلام کی وہ بھی میرے ساتھ کام کرے گا اور ایک تہائی میری، یہ بھی صحیح ہے اور نفع اسی طرح تقسیم ہوگا اس کا محصل⁽³⁾ یہ ہوا کہ دو تہائیاں مالک کی اور ایک مضارب کی۔ اور اگر مضارب نے اپنے غلام کے لیے ایک تہائی رکھی ہے اور ایک تہائی مالک کی اور ایک اپنی اور غلام کے عمل کی شرط نہیں کی ہے تو یہ ناجائز ہے اور اس کا حصہ رب المال کو ملے گا یہ⁽⁴⁾ جبکہ غلام پر دین ہو، ورنہ صحیح ہے اُس کے عمل کی شرط ہو یا نہ ہو اور اُس کے حصہ کا نفع مضارب کے لیے ہوگا۔⁽⁵⁾ (درمختار، بحر)

مسئلہ ۳۷ غلام ماذون نے اجنبی کے ساتھ عقد مضاربت کیا اور اپنے مولیٰ کے کام کرنے کی شرط کر دی اگر ماذون پر دین نہیں ہے یہ مضاربت صحیح نہیں ورنہ صحیح ہے اسی طرح یہ شرط کہ مضارب اپنے مضارب کے ساتھ یعنی مضاربِ اوّل مضاربِ ثانی کے ساتھ کام کرے گا یا مضاربِ ثانی کے ساتھ مالک کام کرے گا جائز نہیں ہے اس سے مضاربت فاسد ہو جاتی ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

①..... "الهدایہ"، کتاب المضاربت، باب المضارب يضارب، ج ۲، ص ۲۰۵.

و "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۰.

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب السابع فی المضارب... إلخ، ج ۴، ص ۳۰۰.

③..... حاصل۔

④..... یعنی یہ اُس وقت ہے۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۰.

و "البحر الرائق"، کتاب المضاربت، باب المضارب يضارب، ج ۷، ص ۴۵۴.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۱.

مسئلہ ۳۸ — یہ شرط کی کہ اتنا نفع مسکینوں کو دیا جائے گا یا حج میں دیا جائے گا یا گردن چھڑانے میں یعنی مکاتب کی آزادی میں اس سے مدد دی جائے گی یا مضارب کی عورت کو یا اُس کے مکاتب کو دیا جائے گا یہ شرط صحیح نہیں ہے مگر مضاربت صحیح ہے اور یہ حصہ جو شرط کیا گیا ہے رب المال کو ملے گا۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۹ — یہ شرط کی کہ نفع کا اتنا حصہ مضارب جس کو چاہے دے دے اگر اُس نے اپنے لیے یا مالک کے لیے چاہا تو یہ شرط صحیح ہے اور کسی اجنبی کے لیے چاہا تو صحیح نہیں۔ اجنبی کے لیے نفع کا حصہ دینا شرط کیا اگر اُس کا عمل بھی مشروط ہے یعنی وہ بھی کام کرے گا اور اتنا اُسے دیا جائے گا تو شرط صحیح ہے اور اُس کا کام کرنا شرط نہ ہو تو صحیح نہیں اور اس کے لیے جو کچھ دینا قرار پایا ہے مالک کو دیا جائے گا۔ یہ شرط ہے کہ نفع کا اتنا حصہ دین کے ادا کرنے میں صرف کیا جائے گا یعنی مالک کا دین اُس سے ادا کیا جائے گا یا مضارب کا دین ادا کیا جائے گا یہ شرط صحیح ہے اور یہ حصہ اُس کا ہے جس کا دین ادا کرنا شرط ہے اور اُس کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ قرض خواہوں کو دے دے۔^(۲) (درمختار، بحر)

مسئلہ ۵۰ — دونوں میں سے ایک کے مرجانے سے مضاربت باطل ہو جاتی ہے، دونوں میں سے ایک مجنون ہو جائے اور جنون بھی مطبق^(۳) ہو تو مضاربت باطل ہو جائے گی مگر مال مضاربت اگر سامان تجارت کی شکل میں ہے اور مضارب مرگیا تو اُس کا وصی ان سب کو بیچ ڈالے اور اگر مالک مرگیا اور مال تجارت نقد کی صورت میں ہے تو مضارب اس میں تصرف نہیں کر سکتا^(۴) ہے اور سامان کی شکل میں ہے تو اُس کو سفر میں نہیں لے جاسکتا، بیع کر سکتا ہے۔^(۵) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۵۱ — مضارب مرگیا اور مال مضاربت کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے یہ مضارب کے ذمہ دین ہے جو اُس کے ترکہ سے وصول کیا جائے گا۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۵۲ — مضارب مرگیا اُس کے ذمہ دین ہے مگر مال مضاربت معروف و مشہور ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں

①....."الدرالمختار"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۱.

②....."الدرالمختار"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۲.

و"البحر الرائق"، کتاب المضاربة، باب المضاربة يضارب، ج ۷، ص ۴۵۵.

③.....ایسا جنون جو ایک ماہ مسلسل رہے۔
④.....یعنی اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا۔

⑤....."الهدایہ"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فی العزل والقسمۃ، ج ۲، ص ۲۰۶.

و"الدرالمختار"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۲.

⑥....."الدرالمختار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۲۴.

مضاربت کی ہیں دین والے اس مال سے دین وصول نہیں کر سکتے بلکہ اس المال اور نفع کا حصہ رب المال لے گا نفع میں جو مضارب کا حصہ ہے وہ دین والے اپنے دین میں لے سکتے ہیں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۳ رب المال معاذ اللہ مرتد ہو کر دار الحرب کو چلا گیا تو مضاربت باطل ہو گئی اور مضارب مرتد ہو گیا تو مضاربت بدستور باقی ہے پھر اگر مر جائے یا قتل کیا جائے یا دار الحرب کو چلا جائے اور قاضی نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ چلا گیا تو اس صورت میں مضاربت باطل ہو گئی۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۴ مضارب کو رب المال معزول کر سکتا ہے بشرطیکہ اُس کو معزولی کا علم ہو جائے یہ خبر دو مردوں کے ذریعہ سے اُسے ملی یا ایک عادل نے اُسے خبر دی یا مالک کے قاصد نے خبر دی اگرچہ یہ قاصد بالغ بھی نہ ہو، سمجھ وال ہونا کافی ہے اور اگر مالک نے معزول کر دیا مگر مضارب کو خبر نہ ہوئی تو معزول نہیں جو کچھ تصرف⁽³⁾ کرے گا صحیح ہوگا۔⁽⁴⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵۵ مضارب معزول ہوا اور مال نقد کی صورت میں ہے یعنی روپیہ اشرفی ہے تو اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہاں اگر اس المال روپیہ تھا اور اس وقت اشرفی ہے تو ان کو بھنا کر⁽⁵⁾ روپیہ کر لے اسی طرح اگر اس المال اشرفی تھا اور اس وقت روپیہ ہے تو ان کی اشرفیاں کر لے تاکہ نفع کا اس المال سے اچھی طرح امتیاز ہو سکے۔⁽⁶⁾ (ہدایہ) یہی حکم رب المال کے مرنے کی صورت میں ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۶ مضارب معزول ہوا یا مالک مر گیا اور مال سامان (یعنی غیر نقد) کی شکل میں ہے تو مضارب ان چیزوں کو بیچ کر نقد جمع کرے ادھار بیچنے کی بھی اجازت ہے اور جو روپیہ آتا جائے ان سے پھر چیز خریدنی جائز نہیں۔ مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضارب کو اس صورت میں سامان بیچنے سے روک دے بلکہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کسی قسم کی قید اس کے ذمہ لگائے۔⁽⁸⁾ (درمختار)

①..... "ردالمحتار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۲۵.

②..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۲.

③..... خرید و فروخت، کام کاج۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۳، وغیرہ.

⑤..... سکے کی ریزگاری لے کر، سکہ تراکر۔

⑥..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فی العزل والقسمۃ، ج ۲، ص ۲۰۷.

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربة، الباب الثامن عشر فی عزل المضارب... الخ، ج ۴، ص ۳۲۹.

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۳.

مسئلہ ۵۷ پیسے راس المال تھے مگر اس وقت مضارب کے پاس روپے ہیں اور مالک نے مضارب کو خرید و فروخت سے منع کر دیا تو مضارب سامان نہیں خرید سکتا مگر روپے کو بھنا کر پیسے کر سکتا ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۸ رب المال و مضارب دونوں جدا ہوتے ہیں مضاربت کو ختم کرتے ہیں اور مال بہت لوگوں کے ذمہ باقی ہے اور نفع بھی ہے دین وصول کرنے پر مضارب مجبور کیا جائے گا اور اگر نفع کچھ نہیں ہے صرف راس المال ہی بھرے یا شاید یہ بھی نہ ہو اس صورت میں مضارب کو دین وصول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نفع نہ ہونے کی صورت میں یہ مستبرع ہے^(۲) اور مستبرع کو کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہاں اُس سے کہا جائے گا کہ رب المال کو دین وصول کرنے کے لیے وکیل کر دے کیونکہ بیع کی ہوئی مضارب کی ہے اور اُس کے حقوق اُسی کے لیے ہیں، وکیل بالبیع^(۳) اور مستبضع^(۴) کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو وصول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا مگر اس پر مجبور کیے جائیں گے کہ موکل^(۵) و مالک کو وکیل کر دیں بخلاف دلال اور آڑھتی^(۶) کے کہ یہ ثمن وصول کرنے پر مجبور ہیں۔^(۷) (ہدایہ، عالمگیری)

مسئلہ ۵۹ مضاربت کا مال لوگوں کے ذمہ باقی ہے مالک نے مضارب کو وصول کرنے سے منع کر دیا اُس کو اندیشہ ہے کہ مضارب وصول کر کے کھانہ جائے مالک کہتا ہے کہ میں خود وصول کروں گا تو اگر مال میں نفع ہے تو مضارب ہی کو وصول کرنے کا حق ہے اور نفع نہیں ہے تو مضارب کو روک سکتا ہے پھر نفع کی صورت میں جن لوگوں پر دین ہے اُسی شہر میں ہیں تو وصولی کے زمانہ کا نفقہ^(۸) مضارب کو نہیں ملے گا اور دوسرے شہر میں ہیں تو مضارب کے سفر کے اخراجات مال مضاربت سے دیے جائیں گے۔^(۹) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۰ مال مضاربت سے جو کچھ خریدا ہے اس کے عیب پر مضارب کو اطلاع ہوئی تو مضارب ہی کو دعویٰ کرنا ہوگا

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الثامن عشر فی عزل المضارب... الخ، ج ۴، ص ۳۲۹.

②..... یعنی احسان کرنے والا۔

③..... بیچنے کا وکیل۔

④..... جس کو کام کرنے کے لیے اس طور پر مال دیا گیا ہو کہ تمام نفع مال والے کو ملے گا۔

⑤..... وکیل کرنے والا۔

⑥..... ایجنٹ۔

⑦..... "الہدایۃ"، کتاب المضاربت، باب المضارب یضارب، فصل فی العزل والقسمۃ، ج ۲، ص ۲۰۷.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الثامن عشر فی عزل المضارب... الخ، ج ۴، ص ۳۲۹، ۳۳۰.

⑧..... کھانے، پینے وغیرہ کے اخراجات۔

⑧..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الثامن عشر فی عزل المضارب... الخ، ج ۴، ص ۳۳۰.

رب المال کو اس سے تعلق نہیں اور اگر بائع یہ کہتا ہے کہ عیب پر یہ راضی ہو گیا تھا یا میں نے عیب سے براءت کر لی تھی یا عیب پر مطلع ہونے کے بعد یہ خود بیع کر رہا تھا تو مضارب پر حلف⁽¹⁾ دیا جائے گا پھر اگر مضارب ان امور کا اقرار کر لے یا حلف سے نکول⁽²⁾ کرے تو بائع پر⁽³⁾ واپس نہیں کیا جائے گا اور یہ مضاربت کا مال قرار پائے گا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۱ مضارب نے مال بیچا مشتری⁽⁵⁾ کہتا ہے اس میں عیب ہے اور یہ عیب اس مدت میں مشتری کے یہاں پیدا ہو سکتا ہے اور مضارب نے اقرار کر لیا کہ یہ عیب میرے یہاں تھا اس کے اقرار کی وجہ سے قاضی نے واپس کر دیا یا اس نے بغیر قضائے قاضی⁽⁶⁾ خود واپس لے لیا یا مشتری نے اقالہ چاہا اس نے اقالہ کر لیا یہ سب جائز ہے یعنی اب بھی یہ مضاربت کا مال ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۲ جس چیز کو مضارب نے خریدا اُسے دیکھا نہیں تو مضارب کو اختیار رویت حاصل ہے اگرچہ رب المال دیکھ چکا ہے۔ دیکھنے کے بعد مضارب کو ناپسند ہے واپس کر سکتا ہے اور اگر مضارب دیکھ چکا ہے تو اختیار رویت حاصل نہیں اگرچہ رب المال نے نہ دیکھی ہو۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

نفع کی تقسیم

مسئلہ ۶۳ مال مضاربت سے جو کچھ ہلاک اور ضائع ہوگا وہ نفع کی طرف شمار ہوگا اس المال میں نقصانات کو نہیں شمار کیا جاسکتا مثلاً سو روپے تھے تجارت میں بیس روپے کا نفع ہوا اور دس روپے ضائع ہو گئے تو یہ نفع میں منہا کیے جائیں گے یعنی اب دس ہی روپے نفع کے باقی ہیں اگر نقصان اتنا ہوا کہ نفع اُس کو پورا نہیں کر سکتا مثلاً بیس نفع کے ہیں اور پچاس کا نقصان ہوا تو یہ نقصان اس المال میں ہوگا مضارب سے کل یا نصف نہیں لے سکتا کیونکہ وہ امین ہے اور امین پر ضمان نہیں اگرچہ وہ نقصان مضارب کے ہی فعل سے ہوا ہو ہاں اگر جان بوجھ کر قصداً اُس نے نقصان پہنچایا مثلاً شیشہ کی چیز قصداً⁽⁹⁾ اُس نے پٹک دی

①..... قسم۔ ②..... انکار۔ ③..... بیچنے والے پر۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب العاشر فی خيار العیب، ج ۴، ص ۳۰۸، ۳۰۹۔

⑤..... خریدار۔ ⑥..... قاضی کے فیصلے کے بغیر۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب العاشر فی خيار العیب، ج ۴، ص ۳۰۹۔

⑧..... المرجع السابق۔

⑨..... ارادۃ، جان بوجھ کر۔

اس صورت میں تاوان دینا ہوگا کہ اس کی اُسے اجازت نہ تھی۔⁽¹⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۶۳ → مضاربت میں نفع کی تقسیم اُس وقت صحیح ہوگی کہ اس المال رب المال کو دے دیا جائے اس المال دینے سے قبل تقسیم باطل ہے یعنی فرض کرو کہ اس المال ہلاک ہو گیا تو نفع واپس کر کے اس المال پورا کریں اس کے بعد اگر کچھ بچے تو حسبِ قرارداد تقسیم کر لیں مثلاً ایک ہزار اس المال ہے اور ایک ہزار نفع۔ پان پانسو دونوں نے نفع کے لے لیے اور اس المال مضارب ہی کے پاس رہا کہ اس سے وہ پھر تجارت کرے گا یہ ہزار ہلاک ہو گئے کام کرنے سے پہلے ہلاک ہوئے یا بعد میں، بہر حال مضارب پانسو کی رقم رب المال کو واپس کر دے اور خرچ کر چکا ہے تو اپنے پاس سے پانسو دے، کہ یہ رقم اور رب المال جو لے چکا ہے وہ اس المال میں محسوب⁽²⁾ ہے اور نفع کا ہلاک ہونا تصور ہوگا اور دو ہزار نفع کے تھے ایک ایک ہزار دونوں نے لیے تھے اسکے بعد اس المال ہلاک ہوا تو ایک ہزار جو مالک کو ملے ہیں ان کو اس المال تصور کیا جائے اور مضارب کے پاس جو ایک ہزار ہیں وہ نفع کے ہیں ان میں سے رب المال پانسو وصول کرے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۵ → اس المال لے لینے کے بعد تقسیم صحیح ہے یعنی اب کوئی خرابی پڑے تو تقسیم پر اس کا کچھ اثر نہ ہوگا مثلاً اس المال لے لینے کے بعد نفع تقسیم کیا گیا پھر وہی اس المال مضارب کو بطور مضاربت دے دیا تو یہ جدید مضاربت ہے کہ مضارب کے پاس اس المال ہلاک ہو تو پہلی تقسیم نہیں توڑی جائے گی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۶ → رب المال و مضارب دونوں سال پر یا ششماہی یا ماہوار حساب کر کے نفع تقسیم کر لیتے ہیں اور مضاربت کو حسبِ دستور باقی رکھتے ہیں اس کے بعد گل مال یا بعض مال ہلاک ہو جائے تو دونوں نفع کی اتنی اتنی مقدار واپس کریں کہ اس المال پورا ہو جائے اور اگر سارا نفع واپس کرنے پر بھی اس المال پورا نہیں ہوتا تو سارا نفع واپس کر کے مالک کو دے دیں اس کے بعد جو اور کمی رہ گئی ہے اُس کا تاوان نہیں اور اگر نفع کی رقم تقسیم کرنے کے بعد مضاربت کو توڑ دیتے ہیں اگرچہ یہ تقسیم اس المال ادا کرنے سے قبل ہوئی ہو اس کے بعد پھر جدید عقد کر کے کام کرتے ہیں تو جو نفع تقسیم ہو چکا ہے وہ واپس نہیں لیا جاسکتا بلکہ جتنا نقصان ہوگا وہ نفع کے بعد اس المال ہی پر ڈالا جائے گا کیوں کہ اس جدید

①..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فی العزل والقسمۃ، ج ۲، ص ۲۰۷.

و "الدر المختار"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۸، ص ۵۱۴.

②..... شمار.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربة، الباب السادس عشر فی قسمۃ الربح، ج ۴، ص ۳۲۱.

④..... المرجع السابق.

مضاربت کو پہلی مضاربت سے کوئی تعلق نہیں ہے مضاربت کو نقصان سے بچنے کی یہ اچھی ترکیب ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ، عالمگیری)

مسئلہ ۶۷ - اس المال دینے کے بعد نفع کی تقسیم ہوئی مگر مالک کا حصہ بھی مضاربت ہی کے پاس رہا اُس نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ یہ رقم ضائع ہوگئی تو تنہا مالک کا حصہ ضائع ہونا نہیں تصور کیا جائے گا بلکہ دونوں کا نقصان قرار پائے گا لہذا مضاربت کے پاس نفع کی جو رقم ہے اُسے دونوں تقسیم کر لیں اور اگر مضاربت کا حصہ ضائع ہوا تو یہ خاص اسی کا نقصان ہے کیونکہ یہ اپنے حصہ پر قبضہ کر چکا تھا اس کی وجہ سے تقسیم نہ توڑی جائے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۸ - نفع کے متعلق جو قرارداد ہو چکی ہے مثلاً نصف نصف یا کم و بیش اس میں کمی زیادتی کرنا جائز ہے مثلاً رب المال نے نصف نفع لینے کو کہا تھا اب کہتا ہے میں ایک تہائی ہی لوں گا یعنی مضاربت کا حصہ بڑھا دیا یو ہیں مضاربت اپنا حصہ کم کر دے یہ بھی جائز ہے اسی جدید قرارداد پر نفع کی تقسیم ہوگی اگرچہ نفع اس قرارداد سے پہلے حاصل ہو چکا ہو۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۹ - وقتاً فوقتاً مضاربت سے سو، پچاس، دس، بیس روپے لیتا رہا اور دیتے وقت مضاربت یہ کہتا تھا کہ یہ نفع ہے اب تقسیم کے وقت کہتا ہے نفع ہوا ہی نہیں وہ جو میں نے دیا تھا اس المال میں سے دیا تھا مضاربت کی بات قابل قبول نہیں۔⁽⁴⁾ (خانہ)

مسئلہ ۷۰ - مالک نے مضاربت سے کہا میرا اس المال مجھے دے دو جو باقی بچے تمہارا ہے اگر مال موجود ہے اس طرح کہنا ناجائز ہے یعنی مضاربت ماہی⁽⁵⁾ کا مالک نہ ہوگا کہ یہ بہہ مجھ بولہ⁽⁶⁾ ہے اور ایسا بہہ جائز نہیں اور مضاربت صرف⁽⁷⁾ کر چکا ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ اپنا مطالبہ معاف کرنا ہے اور اسکے لیے جہالت مضرت نہیں۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷۱ - مضاربت نے رب المال کو کچھ مال یا کل مال بضاعت کے طور پر دے دیا ہے کہ وہ کام کرے گا مگر اس کام کا اُسے بدلہ نہیں دیا جائے گا اور رب المال نے خرید و فروخت کرنا شروع کر دیا اس سے مضاربت پر کچھ اثر نہیں پڑتا وہ

①..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضاربت بضاربت، فصل فی العزل والقسمۃ، ج ۲، ص ۲۰۷.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربة، الباب السادس عشر فی قسمۃ الربح، ج ۴، ص ۳۲۱، ۳۲۲.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربة، الباب السادس عشر فی قسمۃ الربح، ج ۴، ص ۳۲۲.

③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاویٰ الخانیۃ"، کتاب المضاربة، ج ۲، ص ۲۱۹.

⑤..... یعنی جو باقی بچے۔

⑥..... نامعلوم چیز کا بہہ کرنا۔

⑦..... خرچ۔

⑧..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربة، الباب السادس عشر فی قسمۃ الربح، ج ۴، ص ۳۲۲.

بدستور سابق باقی ہے اور اگر مالک نے مضارب کی بغیر اجازت مال لے کر خرید و فروخت کی تو مضاربت باطل ہوگئی اگر اس المال نقد ہو اور اگر اس المال سامان ہو اُس کو بغیر اجازت لے گیا اور اس کو سامان کے عوض میں بیع کیا تو مضاربت باطل نہیں ہوئی اور اگر روپے اشرفی کے بدلے میں بیچ دیا تو باطل ہوگئی۔⁽¹⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۷۲ → مضارب نے رب المال کو مضاربت کے طور پر مال دیا یہ جائز نہیں یعنی یہ دوسری مضاربت صحیح نہیں ہے اور وہ پہلی مضاربت حسب دستور باقی ہے۔⁽²⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۷۳ → مضارب جب تک اپنے شہر میں کام کرتا ہے کھانے پینے اور دیگر مصارف⁽³⁾ مال مضاربت میں نہیں ہوں گے بلکہ تمام اخراجات کا تعلق مضارب کی ذات سے ہوگا اور اگر پردیس جائے گا تو کھانا پینا کپڑا سواری اور عادیہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے متعلق تاجروں کا عرف ہو یہ سب مصارف مال مضاربت میں سے ہوں گے دوا و علاج میں جو کچھ صرف ہوگا وہ مضاربت سے نہیں ملے گا یہ اُس صورت میں ہے کہ مضاربت صحیح ہو اور اگر مضاربت فاسد ہو تو پردیس جانے کے بعد بھی مصارف اُس کی ذات پر ہوں گے مال مضاربت سے نہیں لے سکتا اور بضاعت⁽⁴⁾ کے طور پر جو شخص کام کرتا ہو اُس کے مصارف بھی نہیں ملیں گے۔⁽⁵⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۷۴ → مصارف میں سے کپڑے کی دھلائی اور اگر خود دھونا پڑے تو صابن بھی ہے، اگر روٹی پکانے یا دوسرے کام کرنے کے لیے آدمی نوکر رکھنے کی ضرورت ہو تو اس کا صرفہ⁽⁶⁾ بھی مضاربت سے وصول کیا جائے گا جانور کا دانہ چارہ بھی اسی میں سے ہوگا اور سواری کرایہ کی ملے کرایہ پر لی جائے اور خریدنے کی ضرورت پڑے مثلاً روز روز کا کام ہے کہاں تک کرایہ پر لے گیا کرایہ پر ملتی نہیں ہے خرید لے دریا ئی سفر میں کشتی کی ضرورت ہے کرایہ پر یا مول لے بعض جگہ بدن میں تیل کی مالش کرانی ہوتی ہے اس کا صرفہ بھی ملے گا۔⁽⁷⁾ (ہدایہ)

①..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فيما يفعله المضارب، ج ۲، ص ۲۰۹.

و "الدر المختار"، کتاب المضاربة، فصل في المتفرقات، ج ۸، ص ۵۱۵.

②..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فيما يفعله المضارب، ج ۲، ص ۲۰۹.

③..... اخراجات۔ ④..... کسی سے مال لیکر اس طور پر کام کرنا کہ سارا نفع مال والے کو ملے گا۔

⑤..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فيما يفعله المضارب، ج ۲، ص ۲۰۹.

⑥..... خرچہ۔

⑦..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فيما يفعله المضارب، ج ۲، ص ۲۰۹.

مسئلہ ۷۵ مالک نے اپنے غلام اور اپنے جانور مضارب کو بطور اعانت سفر میں لے جانے کے لیے دے دیے اس سے مضاربت فاسد نہیں ہوگی اور غلاموں اور جانوروں کے مصارف مضارب کے ذمہ ہیں مضاربت سے ان کے اخراجات نہیں دیے جائیں گے اور مضارب نے مال مضاربت سے ان پر صرف کیا (1) تو ضامن ہے مضارب کو نفع میں سے جو حصہ ملے گا اُس میں سے یہ مصارف منہا ہوں گے (2) اور کمی پڑے گی تو اُس سے لی جائے گی اور مصارف سے کچھ بچ رہا تو اُسے دے دیا جائے گا ہاں اگر رب المال نے کہہ دیا کہ میرے مال سے ان پر صرف کیا جائے تو مصارف اُسی کے مال سے محسوب (3) ہوں گے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۷۶ ہزار روپے مضارب کو دیے تھے اُس نے کام کیا اور نفع بھی ہوا اور مالک مر گیا اور اُس پر اتنا دین ہے جو کل مال کو مستغرق (5) ہے تو مضارب اپنا حصہ پہلے لے لے گا اس کے بعد قرض خواہ اپنے دین وصول کریں گے اور اگر یہ مضاربت فاسد ہو تو مضارب کو اجرت مثل ملے گی اور وہ رب المال کے ذمہ ہوگی جس طرح دیگر قرض خواہ اپنے دین لیں گے یہ بھی حصہ رسد کے موافق (6) پائے گا۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ ۷۷ خریدنے یا بیچنے پر کسی کو اجیر کیا یعنی نوکر رکھا یہ اجارہ درست نہیں کیونکہ جس کام پر اُس کو اجیر کرتا ہے اُس کے اختیار میں نہیں اگر خریدار نہ لے تو کس کے ہاتھ بیچے اور بائع نہ بیچے تو کیوں کر خریدے لہذا اسکے جواز کا طریقہ یہ ہے کہ مدت معین کے لیے کام کرنے پر نوکر رکھے اور اس کام پر لگا دے۔ (8) (درمختار)

مسئلہ ۷۸ مضارب نے حاجت سے زیادہ صرفہ کیا ایسے مصارف کے لیے جو تجارت کی عادت میں نہیں ہیں ان تمام مصارف کا تاوان دینا ہوگا۔ (9) (ہدایہ)

مسئلہ ۷۹ اگر وہ شہر مضارب کا مولد نہیں ہے مگر وہیں کی سکونت (10) اُس نے اختیار کر لی ہے تو مال مضاربت

①..... خرچ کیا۔ ②..... کوئی کر لیے جائیں گے۔ ③..... شمار۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب الثانی عشر فی نفقة المضارب، ج ۴، ص ۳۱۳۔

⑤..... گھیرے ہوئے۔ ⑥..... جتنا اس کے حصہ میں آئے گا اس کے موافق۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب الثالث والعشرون فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۳۴۔

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربت، باب المضارب یضارب، ج ۸، ص ۵۱۴۔

⑨..... "الہدایہ"، کتاب المضاربت، باب المضارب یضارب، فصل فیما یفعله المضارب، ج ۲، ص ۲۰۹۔

⑩..... رہائش۔

سے مصارف نہیں لے سکتا اور اگر وہاں نیت اقامت کر کے مقیم ہو گیا مگر وہاں کی سکونت نہیں اختیار کی ہے تو مال مضاربت سے وصول کرے گا۔ یہاں پر دیس جانے یا سفر سے مراد سفر شرعی نہیں ہے بلکہ اتنی دور چلا جانا مراد ہے کہ رات تک گھر لوٹ کر نہ آئے اور اگر رات تک گھر لوٹ کر آجائے تو سفر نہیں مثلاً دیہات کے بازار کہ دوکاندار وہاں جاتے ہیں مگر رات میں ہی گھر واپس آجاتے ہیں۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۸۰ ایک شخص دوسرے شہر کا رہنے والا ہے اور مال مضاربت دوسرے شہر میں لیا مثلاً مراد آباد کا رہنے والا ہے اور بریلی میں آکر مال لیا تو جب تک بریلی میں ہے اُس کو مصارف نہیں ملیں گے اور جب بریلی سے چلا اب مصارف ملیں گے جب تک مراد آباد پہنچ نہ جائے۔ اور جب مراد آباد میں ہے یہ اُس کا وطن اصلی ہے یہاں نہیں ملیں گے اب اگر یہاں سے بغرض تجارت چلے گا تو ملیں گے بلکہ پھر بریلی پہنچ گیا اور کاروبار کے لیے جب تک ٹھہرے گا مصارف ملتے رہیں گے کیونکہ یہاں تجارت کے لیے ٹھہرنا ہے ہاں اگر بریلی بھی اُس کا وطن ہو مثلاً اُس کے بال بچے یہاں بھی رہتے ہیں، یہاں اُس نے شادی کر لی ہے تو جب تک یہاں رہے گا خرچ نہیں ملے گا کہ یہ بھی وطن ہے۔⁽²⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۸۱ کسی شہر کو مال خریدنے گیا اور وہاں پہنچ بھی گیا مگر کچھ خریدا نہیں ویسے ہی واپس آیا تو اس صورت میں بھی مصارف مال مضاربت سے ملیں گے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸۲ مالک نے مضارب سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی رائے سے کام کرو اور مضارب نے کسی دوسرے کو مضاربت کے طور پر مال دے دیا یہ مضارب دوم اگر سفر کرے گا تو مصارف مال مضاربت سے ملیں گے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸۳ مضارب کچھ اپنا مال اور کچھ مال مضاربت دونوں کو لے کر سفر میں گیا یا اس کے پاس دو شخصوں کے مال ہیں ان صورتوں میں بقدر حصہ دونوں پر خرچہ ڈالا جائے گا۔⁽⁵⁾ (درمختار)

①....."البحر الرائق"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۷، ص ۴۵۸.

②....."البحر الرائق"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج ۷، ص ۴۵۸.

و"الدر المختار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۱۶.

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربة، الباب الثانی عشر فی نفقة المضارب، ج ۴، ص ۳۱۳.

④.....المرجع السابق.

⑤....."الدر المختار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۱۶.

مسئلہ ۸۴ مضارب نے سفر میں ضرورت کی چیزیں خریدیں اور خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ اپنے وطن میں پہنچ گیا اور کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں تو حکم یہ ہے کہ جو کچھ بچے سب مال مضاربت میں واپس کرے کیوں کہ ان چیزوں کا صرف کرنا اب جائز نہیں۔^(۱) (ہدایہ)

مسئلہ ۸۵ مضارب نے اپنے مال سے تمام مصارف کیے اور قصد^(۲) یہ ہے کہ مال مضاربت سے وصول کرے گا ایسا کر سکتا ہے یعنی وصول کر سکتا ہے اور اگر مال مضاربت ہی ہلاک ہو گیا تو رب المال سے ان مصارف کو نہیں لے سکتا۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۸۶ جو کچھ نفع ہوا پہلے اس سے وہ اخراجات پورے کیے جائیں گے جو مضارب نے اس المال سے کیے ہیں جب اس المال کی مقدار پوری ہوئی اُس کے بعد کچھ نفع بچا تو اُسے دونوں حسب شرائط تقسیم کر لیں اور نفع کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں مثلاً ہزار روپے دیے تھے تو روپے مضارب نے اپنے اوپر خرچ کر ڈالے اور سو ہی روپے بالکل نفع کے ہیں کہ یہ پورے خرچ میں نکل گئے اور کچھ نہیں بچا اور اگر نفع کے سو سے زیادہ ہوتے تو وہ تقسیم ہوتے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۸۷ جو کچھ مصارف ہوئے نفع کی مقدار اُس سے کم ہے تو مصارف کی بقیہ رقم اس المال سے پوری کی جائے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۸ مضارب مراہجہ کرنا چاہتا ہے تو جو کچھ مال پر خرچ ہوا ہے، بار برداری،^(۶) دلالی،^(۷) ان تھانوں کی دھلائی، رنگائی اور ان کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن کو اس المال میں شامل کرنے کی عادت ہے ان سب کو ملا کر مراہجہ کرے اور یہ کہے اتنے میں یہ چیز پڑی ہے یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے کہ یہ غلط ہے اور جو کچھ مصارف مضارب نے اپنے متعلق کیے ہیں وہ بیع مراہجہ میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔^(۸) (درمختار)

①..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب یضارب، فصل فیما یفعله المضارب، ج ۲، ص ۲۰۹.

②..... ارادہ۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۱۷.

④..... المرجع السابق.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المضاربة، الباب الثانی عشر فی نفقة المضارب، ج ۴، ص ۳۱۳.

⑥..... مزدوری۔

⑦..... یعنی دلال کی اجرت۔

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۱۷.

مسئلہ ۸۹ مضارب نے ایک چیز رب المال سے ہزار روپے میں خریدی جس کو رب المال نے پانسو میں خریدا تھا اس کا مراجمہ پانسو پر ہوگا نہ کہ ہزار پر یعنی مراجمہ میں یہ بیع کا عدم سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اس کا عکس یعنی رب المال نے مضارب سے ایک چیز ہزار میں خریدی جس کو مضارب نے پانسو میں خریدا تھا تو مراجمہ پانسو پر ہوگا۔^(۱) (ہدایہ) بیع مراجمہ وتولیہ کے مسائل کتاب البیوع^(۲) میں مفصل مذکور ہو چکے ہیں وہاں سے معلوم کیے جائیں۔

مسئلہ ۹۰ مضارب کے پاس ہزار روپے آدھے نفع پر ہیں اس نے ہزار روپے کا کپڑا خریدا اور دو ہزار میں بیچ ڈالا پھر دو ہزار کی کوئی چیز خریدی اور ثمن ادا کرنے سے پہلے کل روپے یعنی دونوں ہزار ضائع ہو گئے پندرہ سو روپے مالک بائع کو دے اور پانسو مضارب دے کیونکہ دو ہزار میں مالک کے پندرہ سو تھے اور مضارب کے پانسو لہذا ہر ایک اپنے اپنے حصہ کی قدر بائع کو ادا کرے اس بیع میں ایک چوتھائی مضارب کی ملک ہے کیونکہ ایک چوتھائی اس نے قیمت دی ہے اور یہ چوتھائی مضاربت سے خارج ہے اور باقی تین چوتھائیاں مضاربت کی ہیں اور اس المال کل وہ رقم ہے جو مالک نے دی ہے یعنی دو ہزار پانسو مگر مضارب اس چیز کا مراجمہ کرے گا تو دو ہی ہزار پر کرے گا زیادہ پر نہیں کیوں کہ یہ چیز دو ہی ہزار میں خریدی ہے لیکن فرض کرو اس چیز کو دو چند قیمت پر اگر فروخت کیا یعنی چار ہزار میں تو ایک ہزار صرف مضارب لے گا کہ چوتھائی کا یہ مالک تھا اور پچیس سو^{۲۵} اس المال کے نکالے جائیں اور باقی پانسو دونوں نصف نصف تقسیم کر لیں یعنی ڈھائی ڈھائی سو۔^(۳) (ہدایہ)

مسئلہ ۹۱ مضارب نے اس المال سے ابھی چیز خریدی بھی نہیں کہ اس المال تلف^(۴) ہو گیا تو مضاربت باطل ہوگئی اور چیز خریدی ہے اور ابھی ثمن ادا نہیں کیا ہے کہ مضارب کے پاس سے روپیہ ضائع ہو گیا رب المال سے پھر لے گا پھر ضائع ہو جائے تو پھر لے گا و علیٰ ہذا القیاس^(۵) اور اس المال تمام وہ رقم ہوگی جو مالک نے یکے بعد دیگرے دی ہے بخلاف وکیل بالشراء^(۶) کہ اگر اس کو روپیہ پہلے دے دیا تھا اور خریدنے کے بعد روپیہ ضائع ہو گیا تو ایک مرتبہ موکل سے لے سکتا ہے اب اگر ضائع ہو جائے تو موکل سے نہیں لے سکتا اور اگر پہلے وکیل کو نہیں دیا تھا خریدنے کے بعد دیا اور ضائع ہو گیا تو اب بالکل موکل سے نہیں لے سکتا۔^(۷) (ہدایہ، عالمگیری)

①..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب یضارب، فصل آخر، ج ۲، ص ۲۱۰.

②..... بہار شریعت، جلد ۲، حصہ ۱۱، بیع کا بیان۔

③..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب یضارب، فصل آخر، ج ۲، ص ۲۱۰.

④..... ضائع۔ ⑤..... یعنی روپیہ ضائع ہوتا ہے تو پھر لیتا رہے گا۔ ⑥..... خریدنے کا وکیل۔

⑦..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب یضارب، فصل آخر، ج ۲، ص ۲۱۱.

و"الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المضاربة، الباب الرابع عشر فی ہلاک مال المضاربة... إلخ، ج ۴، ص ۳۱۸، ۳۱۹.

دونوں میں اختلاف کے مسائل

مسئلہ ۹۲ → مضارب کے پاس دو ہزار روپے ہیں اور کہتا ہے کہ ایک ہزار تم نے دیے تھے اور ایک ہزار نفع کے ہیں اور رب المال یہ کہتا ہے کہ میں نے دو ہزار دیے ہیں اگر کسی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مضارب کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی اختلاف ہو مضارب کہتا ہے کہ میرے لیے آدھے نفع کی شرط تھی اور رب المال کہتا ہے ایک تہائی نفع تمہارے لیے تھا تو اس میں رب المال کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر دونوں میں سے کسی نے اپنی بات کو گواہوں سے ثابت کیا تو اسی کی بات مانی جائے گی اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو اس المال کی زیادتی میں رب المال کے گواہ معتبر ہیں اور نفع کی زیادتی میں مضارب کے گواہ معتبر۔^(۱) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۹۳ → مضارب کہتا ہے اس المال میں نے تمہیں دے دیا اور یہ جو کچھ میرے پاس ہے نفع کی رقم ہے اس کے بعد پھر کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں دیا بلکہ ضائع ہو گیا تو مضارب کو تاوان دینا ہوگا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۹۴ → ایک ہزار روپے اُس کے پاس کسی کے ہیں مالک کہتا ہے یہ بطور بضاعت دیے تھے^(۳) اس میں ایک ہزار نفع ہوا ہے یہ خاص میرا ہے اور وہ کہتا ہے مضاربت بالنصف کے طور پر مجھے دیے تھے^(۴) لہذا آدھا نفع میرا ہے اس صورت میں مالک کا قول معتبر ہے کہ یہی منکر ہے۔ یو ہیں اگر مضارب کہتا ہے کہ یہ روپے تم نے مجھے قرض دیے تھے لہذا کل نفع میرا ہے اور مالک کہتا ہے میں نے امانت یا بضاعت یا مضاربت کے طور پر دیے تھے اس میں بھی رب المال ہی کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے اور دونوں نے گواہ پیش کیے تو مضارب کے گواہ معتبر ہیں اور اگر مالک کہتا ہے میں نے قرض دیے تھے اور مضارب کہتا ہے بطور مضاربت دیے تھے تو مضارب کا قول معتبر ہے اور جو گواہ قائم کر دے اُس کے گواہ معتبر ہیں اور اگر دونوں نے گواہ پیش کیے تو مالک کے گواہ معتبر ہوں گے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۹۵ → مضارب کہتا ہے تم نے ہر قسم کی تجارت کی مجھے اجازت دی تھی یا مضاربت مطلق تھی یعنی عام یا خاص

①..... "الهدایة"، کتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، فصل فی الاختلاف، ج ۲، ص ۲۱۱.

و"الدرالمختار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۲۲.

②..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المضاربة، الباب السابع عشر فی الاختلاف... إلخ، النوع الرابع، ج ۴، ص ۳۲۵.

③..... یعنی سارا نفع میرے لئے مقرر تھا۔ ④..... یعنی آدھا آدھا نفع مقرر تھا۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب المضاربة، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۲۳.

کسی کا ذکر نہ تھا اور مالک کہتا ہے میں نے خاص فلاں چیز کی تجارت کے لیے کہہ دیا تھا اس میں مضاربت کا قول معتبر ہے۔ اور اگر دونوں ایک ایک چیز کو خاص کرتے ہوں مضاربت کہتا ہے مجھے کپڑے کی تجارت کے لیے کہہ دیا تھا مالک کہتا ہے میں نے غلہ کے لیے کہا تھا تو قول مالک کا معتبر ہے اور گواہ مضاربت کے۔ اور اگر دونوں کے گواہوں نے وقت بھی بیان کیا مثلاً مضاربت کے گواہ کہتے ہیں کہ کپڑے کی تجارت کے لیے رمضان میں کہا تھا اور مالک کے گواہ کہتے ہیں غلہ کی تجارت کے لیے دیے تھے اور سوال کا مہینہ مقرر کر دیا تھا تو جس کے گواہ آخر وقت بیان کریں وہ معتبر۔⁽¹⁾ (درمختار) یہ اس وقت ہے کہ عمل کے بعد اختلاف ہو اور اگر عمل کرنے سے قبل باہم اختلاف ہو مضاربت عموم یا مطلق کا دعویٰ کرتا ہے اور رب المال کہتا ہے میں نے فلاں خاص چیز کی تجارت کے لیے کہا ہے تو رب المال کا قول معتبر ہے اس انکار کے معنی یہ ہیں کہ مضاربت کو ہر قسم کی تجارت سے منع کرتا ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹۶ مضاربت کہتا ہے میرے لیے آدھا یا تہائی نفع ٹھہرا تھا اور مالک کہتا ہے تمہارے لیے سو روپے ٹھہرے تھے یا کچھ شرط نہ تھی لہذا مضاربت فاسد ہو گئی اور تم اجرت مثل کے مستحق ہو اس میں رب المال کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹۷ وصی⁽⁴⁾ نے نابالغ کے مال کو بطور مضاربت خود لیا یہ جائز ہے بعض علماء اس میں یہ قید اضافہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے اتنا ہی نفع لینا قرار دیا ہو جو دوسرے کو دیتا۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹۸ مضاربت نے اس المال سے کوئی چیز خریدی ہے اور کہتا ہے اسے ابھی نہیں بیچوں گا جب زیادہ ملے گا اس وقت بیچ کروں گا اور مالک یہ کہتا ہے کچھ نفع مل رہا ہے اسے بیچ کر ڈالو مضاربت بیچنے پر مجبور کیا جائے گا ہاں اگر مضاربت یہ کہتا ہے میں تمہارا اس المال بھی دوں گا اور نفع کا حصہ بھی دوں گا اس وقت مالک کو اس کے قبول پر مجبور کیا جائے گا۔⁽⁶⁾ (درمختار)

①....."الدرالمختار"، کتاب المضاربت، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۲۴.

②....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المضاربت، الباب السابع عشر فی الاختلاف... إلخ، النوع الثانی، ج ۴، ص ۳۲۳.

③.....المرجع السابق، النوع الثالث، ص ۳۲۴.

④.....وہ شخص جسے مرنے والا اپنی وصیت پوری کرنے کے لیے مقرر کرے۔

⑤....."الدرالمختار"، کتاب المضاربت، فصل فی المتفرقات، ج ۸، ص ۵۲۴.

⑥.....المرجع السابق.

متفرق مسائل

مسئلہ ۱ مضارب کو روپے دیے کہ کپڑے خرید کر اُسے قطع کر کے سی کر فروخت کرے اور جو کچھ نفع ہوگا وہ دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو جائے گا یہ مضاربت جائز ہے یوہیں مضارب سے یہ کہا کہ یہ روپے لو اور چمڑا خرید کر موزے یا جوتے طیار کرو اور فروخت کرو یہ مضاربت بھی جائز ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ ایک ہزار روپے مضاربت پر ایک ماہ کے لیے دیے اور کہہ دیا کہ مہینہ گزر جائے گا تو یہ قرض ہوگا تو جیسا اُس نے کہا ہے وہی سمجھا جائے گا مہینہ گزر گیا اور روپے بدستور باقی ہیں تو قرض ہیں اور سامان خرید لیا تو جب تک انہیں بیچ کر روپے نہ کر لے قرض نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ مضارب کو مالک نے پیسے دیے تھے کہ ان سے تجارت کرے ابھی سامان خریدنا تھا کہ اُن کا چلن بند ہو گیا مضاربت فاسد ہو گئی پھر اگر مضارب نے ان سے سودا خرید کر نفع یا نقصان اٹھایا وہ رب المال کا ہوگا اور مضارب کو اجرت مثل ملے گی اور اگر مضارب کے سامان خرید لینے کے بعد وہ پیسے بند ہوئے تو مضاربت بدستور باقی ہے پھر سامان بیچنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی اس سے پیسوں کی قیمت رب المال کو ادا کرے اس کے بعد جو بیچے اُسے حسبِ قرارداد تقسیم کیا جائے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ باپ نے بیٹے کے لیے کسی شخص سے مضاربت پر مال لیا یوں کہ اس مال سے بیٹے کے لیے باپ کام کرے گا چنانچہ اُس نے کام کیا اور نفع بھی ہوا تو یہ نفع رب المال اور باپ میں حسبِ قرارداد تقسیم ہوگا بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا اگر بیٹا اتنا بڑا ہے کہ اس کے ہم جولی^(۴) خرید و فروخت کرتے ہیں اور باپ نے اس طور پر مال لیا ہے کہ لڑکا خرید و فروخت کرے گا اور نفع آدھا آدھا دونوں کو ملے گا یہ مضاربت جائز ہے اور جو کچھ نفع ہوگا وہ رب المال اور لڑکے میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ یوہیں اگر اس صورت میں لڑکے کے کہنے سے باپ نے کام کیا ہے تو آدھا نفع لڑکے کو ملے گا اور اُس کے بغیر کہے اس نے کام کیا تو مال کا ضامن ہے اور نفع اسی کو ملے گا مگر اسے صدقہ کر دے۔ وصی کے لیے بھی یہی احکام ہیں۔^(۵) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الثالث والعشرون فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۳۴.

②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق، ص ۳۳۵.

④..... ہم عمر۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المضاربت، الباب الثالث والعشرون فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۳۷.

مسئلہ ۵ رب المال نے مال مضاربت کو واجبی قیمت^(۱) یا زائد پر بیع کر ڈالا تو جائز ہے اور واجبی سے کم پر بیچا تو ناجائز ہے جب تک مضارب بیع کی اجازت نہ دے دے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ مضارب اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ کسی سرائی میں ٹھہرا ان میں سے ایک یہیں حجرہ میں رہا باقی ساتھیوں کے ساتھ مضارب باہر چلا گیا کچھ دیر بعد یہ ایک بھی دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا اور مال مضاربت ضائع ہو گیا اگر مضارب کو اس پر اعتماد تھا تو مضارب ضامن نہیں یہ ضامن ہے اور اگر مضارب کو اس پر اعتماد نہ تھا تو خود مضارب ضامن ہے۔^(۳) (خانہ)

مسئلہ ۷ مضارب کو ہزار روپے دیے کہ اگر خاص فلاں قسم کا مال خریدو گے تو نفع جو کچھ ہوگا نصف نصف تقسیم ہوگا اور فلاں قسم کا مال خریدو گے تو کل نفع رب المال کا ہوگا اور فلاں قسم کا خریدو گے تو سارا نفع مضارب کا ہوگا تو جیسا کہا ہے ویسا ہی کیا جائے گا یعنی قسم اول میں مضاربت ہے اور نفع نصف نصف ہوگا اور قسم دوم کا مال خریدا تو بضاعت ہے نفع رب المال کا اور نقصان ہو تو وہ بھی اسی کا اور قسم سوم کا مال خریدا تو روپے مضارب پر قرض ہیں نفع بھی اسی کا نقصان بھی اسی کا۔^(۴) (عالمگیری)

ودیعت کا بیان

ودیعت رکھنا جائز ہے قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾^(۵)

”اللہ (عزوجل) حکم فرماتا ہے کہ امانت جس کی ہو اُسے دے دو۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُصَدِّقِينَ لَهُمْ لِعَهْدِهِمْ رِغْوَنًا﴾^(۶)

”اور فلاح پانے والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔“

①..... راجح قیمت جو بازار میں متعین ہوتی ہے۔

②..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المضاربت، الباب الثالث والعشرون فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۳۷.

③..... ”الفتاویٰ الخانیہ“، کتاب المضاربت، فصل فیما یجوز للمضارب... إلخ، ج ۲، ص ۲۲۲.

④..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب المضاربت، الباب الثالث والعشرون فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۳۷، ۳۳۸.

⑤..... پ ۵، النساء: ۵۸. ⑥..... پ ۱۸، المؤمنون: ۸.

اور فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (1)

”اے ایمان والو! اللہ ورسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو۔“

حدیث صحیح میں ہے کہ منافق کی علامت میں یہ ہے کہ جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (2)

مسئلہ ۱ دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو ایداع کہتے ہیں اور اُس مال کو ودیعت کہتے ہیں جس کو عام طور پر امانت (3) کہا جاتا ہے جس کی چیز ہے اُسے مودِع اور جس کی حفاظت میں دی گئی اُسے مودِع کہتے ہیں ایداع کی دو صورتیں ہیں کبھی صراحۃً کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز تمہاری حفاظت میں دی اور کبھی دلالتاً بھی ایداع ہوتا ہے مثلاً کسی کی کوئی چیز گرگنی اور مالک کی غیر موجودگی میں لے لی یہ چیز لینے والے کی حفاظت میں آگئی اگر لینے کے بعد اُس نے چھوڑ دی ضامن ہے اور اگر مالک کی موجودگی میں لی ہے ضامن نہیں۔ (4)

مسئلہ ۲ ودیعت کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہیں خواہ یہ دونوں چیزیں صراحۃً ہوں یا دلالتاً۔ صراحۃً ایجاب مثلاً یہ کہے کہ میں یہ چیز تمہارے پاس ودیعت رکھتا ہوں امانت رکھتا ہوں۔ ایجاب دلالتاً یہ کہ مثلاً ایک شخص نے دوسرے سے کہا مجھے ہزار روپے دے دو، یہ کپڑا مجھے دے دو اُس نے کہا میں تم کو دیتا ہوں کہ اگر چہ دینے کا لفظ بہہ کے واسطے بھی بولا جاتا ہے مگر ودیعت اُس سے کم مرتبہ کی چیز ہے اسی پر حمل کریں گے۔ اور کبھی فعل بھی ایجاب ہوتا ہے مثلاً کسی کے پاس اپنی چیز رکھ کر چلا گیا اور کچھ نہ کہا۔ صراحۃً قبول مثلاً وہ کہے میں نے قبول کیا اور دلالتاً یہ کہ اُس کے پاس کسی نے چیز رکھ دی اور کچھ نہ کہا یا کہہ دیا کہ تمہارے پاس یہ چیز امانت رکھتا ہوں اور وہ خاموش رہا مثلاً حمام میں جاتے ہیں اور کپڑے حمامی کے پاس رکھ کر اندر نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور سرائے (5) میں جاتے ہیں بھٹیاریے (6) سے پوچھتے ہیں گھوڑا کہاں باندھوں اُس نے کہا یہاں یہ ودیعت ہوگئی اُس کے ذمہ حفاظت لازم ہوگئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ (7) (در مختار)

①..... پ ۹، الأنفال: ۲۷.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب علامة المنافق، الحدیث: ۳۳، ج ۱، ص ۲۴.

③..... امانت اُسے کہتے ہیں جس میں تلف پر ضمان نہیں ہوتا ہے عاریت اور کرایہ کی چیز کو بھی امانت کہتے ہیں مگر ودیعت خاص اُس کا نام ہے جو حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ ہم نے بیانات سابقہ میں ودیعت کو امانت اس لیے لکھا ہے کہ لوگ آسانی سے سمجھ لیں۔ ۱۲۰ منہ

④..... ”الدر المختار“، کتاب الإیداع، ج ۸، ص ۵۲۶.

⑤..... مسافر خانہ۔ ⑥..... مسافر خانے کا مالک۔

⑦..... ”الدر المختار“، کتاب الإیداع، ج ۸، ص ۵۲۶.

مسئلہ ۳ - حامی کے سامنے^(۱) کپڑے رکھ کر نہانے کو اندر گیا دوسرا شخص اندر سے نکلا اور اُس کے کپڑے پہن کر چلا گیا حامی سے جب اُس نے کہا تو کہنے لگا میں نے سمجھا تھا کہ اُسی کے کپڑے ہیں اس صورت میں حامی کے ذمہ تاوان ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اُن کے پاس کتاب رکھ کر چلا گیا اور وہ سب وہاں سے کتاب چھوڑ کر چلے گئے اور کتاب جاتی رہی اُن لوگوں کے ذمہ تاوان واجب ہے اور اگر ایک ایک کر کے وہاں سے اُٹھے تو پچھلا شخص ضامن ہے کہ حفاظت کے لیے یہ متعین ہو گیا تھا۔^(۳) (بحر)

مسئلہ ۵ - کسی مکان میں چیز بغیر اُس کے کہے رکھ دی اُس نے حفاظت نہیں کی چیز ضائع ہو گئی ضمان نہیں۔ یو ہیں اس نے ودیعت کہہ کر دی اُس نے بلند آواز سے کہہ دیا میں حفاظت نہیں کروں گا وہ چیز ضائع ہو گئی اُس پر تاوان نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - ودیعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال اس قابل ہو جو قبضہ میں آسکے لہذا بھاگے ہوئے غلام کے متعلق کہہ دیا میں نے اُس کو ودیعت رکھایا ہوا میں پرند اُڑ رہا ہے اس کو ودیعت رکھان کا ضمان واجب نہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ مکلف ہو تب حفاظت واجب ہوگی اگر بچہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی اُس نے ہلاک کر دی ضمان واجب نہیں اور غلام مجبور^(۵) کے پاس رکھ دی اس نے ہلاک کر دی تو آزاد ہونے کے بعد اُس سے ضمان لیا جاسکتا ہے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۷ - ودیعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز مودع کے پاس امانت ہوتی ہے اُس کی حفاظت مودع پر واجب ہوتی ہے اور مالک کے طلب کرنے پر دینا واجب ہوتا ہے۔ ودیعت کا قبول کرنا مستحب ہے۔ ودیعت ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان واجب نہیں۔^(۷) (بحر)

①.....حامی والے کے سامنے۔

②....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الودیعة، الباب الاول فی تفسیر الإیداء... إلخ، ج ۴، ص ۳۳۹۔

③....."البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۴۶۴۔

④....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الودیعة، الباب الاول فی تفسیر الإیداء... إلخ، ج ۴، ص ۳۳۸۔

⑤.....وہ غلام جسے مالک نے تصرفات و معاملات سے روک دیا ہو۔

⑥....."الدر المختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۲۸۔

⑦....."البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۴۶۵۔

مسئلہ ۸ ودیعت کو نہ دوسرے کے پاس امانت رکھ سکتا ہے نہ عاریت یا اجارہ پردے سکتا ہے نہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے اس میں سے کوئی کام کرے گا تاوان دینا ہوگا۔^(۱) (عالمگیری)

مودع کس کی حفاظت میں ودیعت دے سکتا ہے

مسئلہ ۹ امین پر ضمان کی شرط کر دینا کہ اگر یہ چیز ہلاک ہوئی تو تاوان لوں گا یہ باطل ہے۔ مودع کو اختیار ہے کہ خود حفاظت کرے یا اپنی عیال سے حفاظت کرائے جیسے وہ خود اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے کہ ہر وقت اُسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا اہل و عیال کے پاس چھوڑ کر باہر جایا کرتا ہے۔ عیال سے مراد وہ ہیں جو اُس کے ساتھ رہتے ہوں حقیقتہً اُس کے ساتھ ہوں یا حکماً لہذا اگر سمجھ والے بچہ کو دے دی جو حفاظت پر قادر ہے یا بی بی کو دے دی اور یہ دونوں اُس کے ساتھ نہ ہوں جب بھی ضمان واجب نہیں یو ہیں عورت نے خاوند کی حفاظت میں چیز چھوڑ دی ضامن نہیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ بی بی اور نابالغ بچہ یا غلام یہ اگر چہ اُس کے ساتھ نہ رہتے ہوں مگر عیال میں شمار ہوں گے فرض کرو یہ شخص ایک محلہ میں رہتا ہے اور اس کی زوجہ دوسرے محلہ میں رہتی ہے اور اُس کو نفقہ^(۳) بھی نہیں دیتا ہے پھر بھی اگر ودیعت ایسی زوجہ کو سپرد کر دی اور تلف ہوگئی تاوان لازم نہیں ہوگا اور بالغ لڑکا یا ماں باپ جو اس کے ساتھ رہتے ہوں ان کو ودیعت سپرد کر سکتا ہے اور ساتھ نہ رہتے ہوں تو نہیں سپرد کر سکتا کہ تلف ہونے پر ضمان لازم ہوگا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ زوجہ کا لڑکا دوسرے شوہر سے ہے جبکہ اس کے ساتھ رہتا ہے تو عیال میں ہے اُس کے پاس ودیعت کو چھوڑ سکتا ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ جو شخص اس کی عیال میں ہے اُس کی حفاظت میں امانت کو اُس وقت رکھ سکتا ہے جب یہ امین ہو اور اگر اس کی خیانت معلوم ہو اور اس کے پاس چھوڑ دی تو تاوان دینا ہوگا۔ اس نے اپنی عیال کی حفاظت میں چھوڑ دی اور وہ اپنے بال بچوں کی حفاظت میں چھوڑے یہ بھی جائز ہے۔^(۶) (درمختار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الاول فی تفسیر الإیداء... إلخ، ج ۴، ص ۳۳۸.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۲۹.

③..... کھانے پینے اور کپڑے کے اخراجات۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثانی فی حفظ الودیعة... إلخ، ج ۴، ص ۳۳۹.

⑤..... المرجع السابق، ص ۳۴۰.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۲۹.

مسئلہ ۱۳ مالک نے منع کر دیا تھا کہ اپنی عیال میں سے فلاں کے پاس مت چھوڑنا باوجود ممانعت اس نے اُس کے پاس امانت کی چیز رکھی اگر اس سے بچنا ممکن تھا کہ اُس کے علاوہ دوسرے ایسے تھے کہ اُن کی حفاظت میں رکھ سکتا تھا تو ضمان واجب ہے ورنہ نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۱۴ دکان میں لوگوں کی ودیعتیں تھیں دکاندار نماز کو چلا گیا اور ودیعت ضائع ہوگئی تاوان واجب نہیں کہ دکان میں ہونا ہی حفاظت ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ اہل و عیال کے علاوہ دوسروں کی حفاظت میں چیز کو چھوڑنے سے یا اُن کے پاس ودیعت رکھنے سے ضمان واجب ہے ہاں اگر اُن کے علاوہ ایسوں کی حفاظت میں دی ہے جو خود اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں جیسے اس کا وکیل اور ماذون اور شریک جس کے ساتھ شرکت مفروضہ یا شرکت عنان ہے ان سب کی حفاظت میں دینا جائز ہے۔^(۳) (درمختار، درر)

مسئلہ ۱۶ نوکر کی حفاظت میں ودیعت کو دے سکتا ہے کیونکہ خود اپنا مال بھی اس کی حفاظت میں دیتا ہے۔^(۴) (درر)

مسئلہ ۱۷ مودع^(۵) کے مکان میں آگ لگ گئی اگر ودیعت دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا ہے جل جاتی ہے یا کشتی میں ودیعت ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے اگر دوسری کشتی میں نہیں پھینکتا ہے ڈوب جاتی ہے اس صورت میں دوسرے کو دینا یا دوسری کشتی میں پھینکنا جائز ہے بشرطیکہ اپنی عیال کی حفاظت میں دینا اس وقت ممکن نہ ہو اور اگر آگ لگنے کی صورت میں اسکے گھر کے لوگ قریب ہی میں ہیں کہ اُن کو دے سکتا ہے یا کشتی ڈوبنے کی صورت میں اسکے گھر والوں کی کشتی پاس میں ہے کہ اُن کو دے سکتا ہے تو دوسروں کو دینا جائز نہیں ہے دے گا تو ضمان واجب ہوگا۔^(۶) (درمختار، درر)

مسئلہ ۱۸ کشتی ڈوب رہی تھی اس نے دوسری کشتی میں ودیعت پھینکی مگر کشتی میں نہیں پہنچی بلکہ دریا میں گری یا کشتی

①..... "الدر المختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۲۹.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون تضييعاً... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۶.

③..... "الدر المختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۳۰.

④..... "درر الحکام" شرح "غرر الأحکام"، کتاب الودیعة، الجزء الثانی، ص ۲۴۷.

⑤..... "درر الحکام" شرح "غرر الأحکام"، کتاب الودیعة، الجزء الثانی، ص ۲۴۷.

⑥..... امین، جس کے پاس امانت رکھی گئی۔

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۳۰.

⑧..... "درر الحکام" شرح "غرر الأحکام"، کتاب الودیعة، الجزء الثانی، ص ۲۴۵.

میں پہنچ گئی تھی مگر لڑھک کر دریا میں چلی گئی مودع ضامن ہے۔ یوں اگر قصد اس نے ودیعت کو ڈوبنے سے نہیں بچایا اتنا موقع تھا کہ دوسری کشتی میں دے دیتا مگر ایسا نہیں کیا یا مکان میں آگ لگی تھی موقع تھا کہ ودیعت کو نکال لیتا اور نہیں نکالی ان صورتوں میں ضامن ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۹ یہ کہتا ہے کہ میرے مکان میں آگ لگی تھی یا میری کشتی ڈوب گئی اور پروسی کو دیدی یا دوسری کشتی میں ڈال دی اگر آگ لگنا یا کشتی ڈوبنا معلوم ہو تو اسکی بات مقبول ہے اور اگر معلوم نہ ہو تو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۰ آگ لگنے کی وجہ سے ودیعت پروسی کو دیدی تھی آگ بجھنے کے بعد اس سے واپس لینی ضروری ہے اگر واپس نہ لی اور اسکے پاس ہلاک ہوگئی تو تاوان دینا ہوگا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ مودع کا انتقال ہو رہا ہے اور اسکے پاس اس کی عیال میں سے کوئی موجود نہیں ہے جس کی حفاظت میں ودیعت کو دیتا اس حالت میں اس نے پروسی کی حفاظت میں دیدی تو ضمان واجب نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

جس کی چیز ہے وہ طلب کرتا ہے تو روکنے کا اختیار نہیں

مسئلہ ۲۲ جس کی چیز تھی اس نے طلب کی مودع کو منع کرنا جائز نہیں بشرطیکہ اسکے دینے پر قادر ہو خود مالک نے چیز مانگی یا اس کے وکیل نے، قاصد کے مانگنے پر نہ دے اگرچہ کوئی نشانی پیش کرتا ہو۔ اور اگر اس وقت دینے سے عاجز ہے مثلاً ودیعت یہاں موجود نہیں ہے اور جہاں ہے وہ جگہ دور ہے یا دینے میں اس کو اپنی جان یا مال کا اندیشہ ہے مثلاً ودیعت کو دفن کر رکھا ہے اس وقت کھود نہیں سکتا ہے یا ودیعت کے ساتھ اپنا مال بھی مدفون ہے اندیشہ ہے کہ میرے مال کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان صورتوں میں روکنا جائز ہے۔ اور اگر مالک واپسی نہیں چاہتا ہے ویسے ہی کہتا ہے ودیعت اٹھالا یعنی دیکھنا مقصود ہے تو مودع اس سے انکار کر سکتا ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۳ ایک شخص نے تلوار امانت رکھی وہ اپنی تلوار مانگتا ہے اور اس مودع کو معلوم ہو گیا کہ اس تلوار سے ناحق طور

①....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۳۰.

②.....المرجع السابق.

③....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثانی فی حفظ الودیعة... الخ، ج ۴، ص ۳۴۰.

④.....المرجع السابق، ص ۳۴۱.

⑤....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۳۰.

پر کسی کو مارے گا تو تلوار نہ دے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اُس نے اپنی رائے بدل دی اب اس تلوار کو مباح کام کے لیے مانگتا ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۳ → ایک دستاویز⁽²⁾ ودیعت رکھی اور مودِع کو معلوم ہے کہ اس کے کچھ مطالبے وصول ہو چکے ہیں اور مودِع⁽³⁾ مر گیا اُس کے ورثہ مطالبہ وصول پانے سے انکار کرتے ہیں ان ورثہ کو یہ دستاویز کبھی نہ دے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ → عورت نے ایک دستاویز ودیعت رکھی ہے جس میں اس نے شوہر کے لیے کسی مال کا اقرار کیا ہے یا اُس میں نہر وصول پانے کا عورت نے اقرار کیا ہے اس کو روکنا جائز ہے کیونکہ اسکے دینے میں شوہر کا حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۶ → ایک دستاویز دوسرے کے نام کی کسی نے ودیعت رکھی جس کے نام کی دستاویز ہے اُس نے دعویٰ کیا ہے اور دستاویز پر جن لوگوں کی شہادت ہے وہ کہتے ہیں جب تک ہم دستاویز دیکھ نہ لیں گواہی نہیں دیں گے قاضی مودِع کو حکم دے گا کہ گواہوں کو دستاویز دکھا دو کہ وہ اپنے دستخط دیکھ لیں مدعی کو یعنی جس کے نام کی دستاویز ہے نہیں دے سکتا کہ مودِع کے سوا دوسرے کو ودیعت کیوں کر دے گا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ → کسی نے دھوبی کے پاس دوسرے کے ہاتھ دھونے کو کپڑا بھیجا پھر دھوبی کے پاس کہلا بھیجا کہ جو کپڑا دے گیا تھا اُسے مت دینا اگر لانے والے نے دھوبی کو کپڑا دیتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں کا کپڑا ہے اور دھوبی نے اُسے دے دیا ضامن نہیں اور اگر کہہ دیا کہ فلاں کا ہے اور یہی شخص اُسکے تمام کام کرتا ہے اور دھوبی نے اسے دیدیا تو بھی ضامن نہیں اور اُس کے کام یہ شخص نہیں کرتا اور باوجود ممانعت دھوبی نے اسے دیدیا تو ضامن ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ → مالک نے مودِع سے ودیعت طلب کی اس نے کہا اس وقت نہیں حاضر کر سکتا ہوں مالک چلا گیا اور اگر مالک کا چلا جانا رضامندی اور خوشی سے ہے اور ودیعت ہلاک ہوگئی تو تاوان نہیں کہ یہ دوبارہ امانت رکھنا ہے اور اگر ناراض

①....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۳۱.

②.....وہ تحریری ثبوت جس سے اپنا حق ثابت کر سکیں۔ ③.....امانت رکھوانے والا، دستاویز کا مالک۔

④....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب العاشر فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۶۱.

⑤....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۳۱.

⑥....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب العاشر فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۶۲.

⑦....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب السادس فی طلب الودیعة... إلخ، ج ۴، ص ۳۵۳.

ہو کر گیا تو ہلاک ہونے پر مودع کو تاوان دینا ہوگا کہ طلب کے بعد روکنے کی اجازت نہ تھی اور اگر مالک کے وکیل نے مانگا اور مودع نے وہی جواب دیا تو یہ راضی ہو کر جائے یا ناراض ہو کر دونوں صورتوں میں ضمان واجب ہے کہ اس کو جدید ابداع کا (1) اختیار نہیں۔ (2) (بحر)

مسئلہ ۲۹ مالک نے ودیعت مانگی مودع نے کہا کل لینا دوسرے دن یہ کہتا ہے کہ وہ جو تم میرے پاس آئے تھے اور میں نے اقرار کیا تھا اُس کے بعد وہ ودیعت ضائع ہوگئی اس صورت میں تاوان نہیں اور اگر یہ کہتا ہے کہ اُس سے پہلے ودیعت ضائع ہو چکی تھی تو تاوان واجب ہے۔ (3) (بحر)

مسئلہ ۳۰ مالک نے مودع سے کہا ودیعت واپس کر دو اُس نے انکار کر دیا کہتا ہے میرے پاس ودیعت رکھی ہی نہیں اور اُس چیز کو جہاں تھی وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا حالانکہ وہاں کوئی ایسا بھی نہ تھا جس کی جانب سے یہ اندیشہ ہو کہ اسے پتہ چل جائے گا تو ودیعت کو چھین لے گا اور انکار کے بعد ودیعت کو حاضر بھی نہیں کیا اور اُس کا یہ انکار خود مالک سے ہوا اسکے بعد ودیعت کا اقرار کیا تو اب بھی ضامن ہے اور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چیز تم نے مجھے ہبہ کر دی تھی یا میں نے خرید لی تھی اس کے بعد ودیعت کا اقرار کیا تو ضامن نہیں رہا اور اگر مالک نے ودیعت واپس نہیں مانگی صرف اُس کا حال پوچھا ہے کہ کس حالت میں ہے اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس ودیعت نہیں رکھی ہے پھر اقرار کیا تو ضمان نہیں۔ اور اگر اُس کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جب بھی ضامن نہیں اور اگر وہاں کوئی ایسا تھا جس سے اندیشہ تھا اس وجہ سے انکار کر دیا تو ضامن نہیں اور اگر انکار کے بعد چیز کو حاضر کر دیا کہ مالک لے سکتا تھا مگر نہیں لی کہہ دیا کہ اسے تم اپنے ہی پاس رکھو تو یہ جدید ابداع ہے اور ضامن نہیں اور مالک کے سوا دوسرے لوگوں سے انکار کیا ہے جب بھی ضامن نہیں۔ (4) (درمختار، بحر)

مسئلہ ۳۱ ودیعت سے مودع نے انکار کر دیا یعنی یہ کہا کہ میرے پاس تمہاری ودیعت نہیں ہے اسکے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تمہاری ودیعت واپس کر دی تھی اور اس پر گواہ قائم کیے یہ گواہ مقبول ہیں۔ (5) (درمختار)

①..... دوبارہ امانت رکھنے کا۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۶۸، ۶۷.

③..... المرجع السابق، ص ۶۹، ۶۸.

④..... "الدر المختار"، کتاب الإبداع، ج ۸، ص ۵۳۸.

و "البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۴۷۱، ۴۷۲.

⑤..... "الدر المختار"، کتاب الإبداع، ج ۸، ص ۵۳۹.

مسئلہ ۳۲ — ودیعت رکھ کر غائب ہو گیا اُس کی عورت مودَع سے کہتی ہے میرا نفقہ ^(۱) ودیعت میں سے دے دو اُس نے ودیعت ہی سے انکار کر دیا اس کے بعد اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے ودیعت ضائع ہو گئی تو اس کے ذمہ تاوان ہے۔ یوہیں یتیموں کے ولی اور پروسیوں نے وصی سے کہا کہ ان بچوں کا جو کچھ مال تمہارے پاس ہے ان پر خرچ کرو وصی نے کہا میرے پاس ان کا کوئی مال نہیں ہے پھر مال کا اقرار کیا اور کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کے بعد ضائع ہو گیا تو وصی پر تاوان لازم ہے۔ ^(۲) (خانہ)

مسئلہ ۳۳ — ودیعت رکھنے والے کے مکان پر ودیعت لا کر رکھ گیا یا اُس کے بال بچوں کو دے گیا اور ودیعت ضائع ہو گئی تو مودَع پر تاوان لازم ہے اور اپنی عیال کے ہاتھ اُس کے پاس بھیج دی اور ضائع ہو گئی تو ضمان نہیں اور اگر اپنے بالغ لڑکے کے ہاتھ بھیجی جو اُس کی عیال میں نہیں ہے تو ضامن ہے اور نابالغ لڑکے کے ہاتھ بھیجی تو اگرچہ اُس کی عیال میں نہ ہو ضامن نہیں جبکہ یہ نابالغ بچہ ایسا ہو کہ حفاظت کرنا جانتا ہو اور چیزوں کی حفاظت کرتا ہو ورنہ تاوان لازم ہوگا۔ ^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ — ودیعت رکھنے والا غائب ہو گیا معلوم نہیں زندہ ہے یا مر گیا تو ودیعت کو محفوظ ہی رکھنا ہوگا جب موت کا علم ہو جائے اور ورثہ بھی معلوم ہیں ورثہ کو دیدے۔ معلوم نہ ہونے کی صورت میں ودیعت کو صدقہ نہیں کر سکتا اور لفظہ میں مالک کا پتہ نہ چلے تو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ ^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ — ودیعت رکھنے والا مر گیا اور اُس پر دین مستغرق نہ ہو ^(۵) تو ودیعت ورثہ کو دیدے اور دین مستغرق ہو تو یہ ودیعت حق غرامہ ہے اس صورت میں ورثہ کو نہیں دے سکتا دے گا تو غرامہ ^(۶) اس مودَع سے تاوان لیں گے۔ ^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ — جس کے پاس ودیعت تھی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ودیعت بھیج دی اور جس کے ہاتھ بھیجنا بتاتا ہے وہ اس کی عیال میں ہے تو اس کا قول معتبر ہے اور اجنبی کے ہاتھ بھیجنا کہتا ہے اور مالک انکار کرتا ہے کہتا ہے مجھ کو چیز نہیں ملی تو مودَع ضامن ہے ہاں اگر مالک اقرار کر لے یا مودَع گواہوں سے اُسکے پاس پہنچنا ثابت کر دے تو ضامن نہیں۔ ^(۸) (عالمگیری)

①..... کھانے پینے، کپڑے وغیرہ کے اخراجات۔

②..... "الفتاویٰ الخانیة"، کتاب الودیعة، فصل فیما بعد... إلخ، ج ۲، ص ۳۴۹۔

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الودیعة، الباب السابع فی رد الودیعة، ج ۴، ص ۳۵۴۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... یعنی اتنا قرض نہ ہو جو اس کے تمام ترکہ کو گھیر لے۔

⑥..... قرض خواہ یعنی جن کا قرضہ ہے وہ۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الودیعة، الباب السابع فی رد الودیعة، ج ۴، ص ۳۵۴۔

⑧..... المرجع السابق۔

مسئلہ ۳۷ غاصب نے مغضوب کو ودیعت رکھ دیا تھا مودع نے غاصب کے پاس چیز واپس کر دی یہ مودع ضمان سے بری ہو گیا۔^(۱) (عالمگیری)

ودیعت کی تجہیل

مسئلہ ۳۸ مودع کا انتقال ہو گیا اور اس نے ودیعت کے متعلق تجہیل کی ہے (صاف بیان نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ فلاں فلاں چیز امانت ہے اور وہ فلاں جگہ ہے) یہ بھی منع کرنے کے معنی میں ہے اس صورت میں ودیعت کا تاوان لیا جائے گا اور اُس کے ترکہ سے^(۲) بطور دین وصول کیا جائے گا ہاں اگر اُس کا بیان نہ کرنا اس وجہ سے ہو کہ ورثہ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز ودیعت ہے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو تاوان واجب نہیں۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۹ مودع مر گیا اور امانت ہلاک ہو گئی مودع کہتا ہے کہ مودع نے تجہیل کی ہے لہذا ضمان واجب ہے وارث کہتا ہے مجھے معلوم تھا اگر وارث نے اُن چیزوں کو بیان کر دیا کہ فلاں فلاں چیز مورث کے پاس^(۴) ودیعت تھی وارث کا قول معتبر ہے یعنی مودع کے مرنے کے بعد وارث اُس کے قائم مقام ہے اُس سے ضمان نہیں لیا جائے گا صرف ایک بات میں فرق ہے وارث نے چور کو ودیعت بتادی ضامن نہیں ہے اور مودع نے بتائی تو ضامن ہے مگر جبکہ اُسے لینے سے بقدر طاقت منع کرے۔^(۵) (درمختار، بحر)

مسئلہ ۴۰ ورثہ کہتے ہیں وودیعت اُس نے اپنی زندگی میں واپس کر دی تھی ان کا قول مقبول نہیں بلکہ گواہوں سے واپسی کو ثابت کرنا ہوگا ثابت نہ کرنے پر میت کے مال سے تاوان وصول کیا جائے اور اگر ورثہ نے گواہوں سے یہ ثابت کیا کہ مودع نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ وودیعت واپس کر چکا ہوں تو یہ گواہ بھی مقبول ہوں گے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۴۱ وودیعت کے علاوہ دیگر امانتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ تجہیل کر کے مر جائے گا تو اُس کا تاوان واجب

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب السابع فی رد الودیعة، ج ۴، ص ۳۵۴.

②..... چھوڑے ہوئے مال و جائداد سے۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۳۲.

④..... یعنی مرنے والے کے پاس۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۳۲.

و "البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۴۶۸.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب التاسع فی الاختلاف... إلخ، ج ۴، ص ۳۵۷.

ہو جائے گا امانت باقی نہیں رہے گی صرف بعض امانتوں کا اس حکم سے استثناء ہے۔

① متولی مسجد جس کے پاس وقف کی آمدنی تھی اور بغیر بیان کیے مر گیا۔

② قاضی نے یتامیٰ^(۱) اموال امانت رکھے اور بغیر بیان مر گیا یہ نہیں بتایا کہ کس کے پاس امانت ہے اور قاضی نے خود

اپنے ہی یہاں رکھا تھا اور بغیر بیان مر گیا تو ضامن ہے اُس کے ترکہ سے وصول کریں مگر قاضی نے اگر کہہ دیا تھا کہ مال میرے پاس سے ضائع ہو گیا یا میں نے یتیم پر خرچ کر ڈالا تو اُس پر ضمان نہیں۔

③ سلطان نے اموال غنیمت بعض غازیوں کے پاس امانت رکھے اور مر گیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ کس کے پاس ہیں۔

④ دو شخصوں میں شرکت مفاوضہ تھی ان میں سے ایک مر گیا اور جو کچھ اموال اس کے قبضہ میں تھے ان کو بیان

نہیں کیا۔^(۲) (بحر، عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ → مودع مجنون ہو گیا اور جنون بھی مطبق ہے اور اس کے پاس بہت کچھ اموال ہیں و دیعت تلاش کی گئی مگر

نہیں ملی اور اس کی امید بھی نہیں ہے کہ اُس کی عقل ٹھیک ہو جائے گی تو قاضی کسی کو مجنون کا ولی مقرر کرے گا وہ مجنون کے مال سے

ودیعت ادا کرے گا مگر جس کو دے گا اُس سے ضامن لے لے گا پھر اگر وہ مجنون اچھا ہو گیا اور کہتا ہے میں نے و دیعت واپس

کردی تھی یا ضائع ہو گئی یا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کیا ہوئی اُس پر حلف^(۳) دیا جائے گا بعد حلف جو کچھ اُس کا مال دیا گیا ہے واپس

لیا جائے گا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ → مودع نے و دیعت اپنی عورت کو دیدی اور مر گیا تو عورت سے مطالبہ ہوگا اگر عورت کہتی ہے چوری ہو گئی

یا ضائع ہو گئی تو قسم کے ساتھ عورت کی بات معتبر ہے اور اس کا مطالبہ اب کسی سے نہ ہوگا اور اگر عورت کہتی ہے میں نے مرنے

سے پہلے شوہر کو واپس دیدی تھی تو اس کی بات معتبر ہے اور عورت کو شوہر سے جو کچھ ترکہ ملا ہے اس میں سے و دیعت کا تاوان لیا

جائے گا۔^(۵) (عالمگیری)

①..... یتیم کی جمع۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۶۸، ۴.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الخامس فی تجهیل الودیعة، ج ۴، ص ۳۵۰.

③..... قسم۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الخامس فی تجهیل الودیعة، ج ۴، ص ۳۵۰.

⑤..... المرجع السابق.

مسئلہ ۳۴ خود مریض سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس فلاں کی ودیعت تھی وہ کیا ہوئی اُس نے کہا میں نے اپنی عورت کو دیدی ہے اُس کے مرنے کے بعد عورت سے پوچھا گیا عورت کہتی ہے مجھے اُس نے نہیں دی ہے اس صورت میں عورت پر حلف دیا جائے گا⁽¹⁾ اور حلف کر لے تو اُس سے مطالبہ نہ ہوگا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ مضارب نے یہ کہا کہ میں نے مال مضاربت فلاں کے پاس ودیعت رکھ دیا ہے یہ کہہ کر مر گیا تو نہ مضارب کے مال سے لیا جاسکتا ہے نہ اُس کے ورثہ سے اور جس کا اُس نے نام لیا ہے وہ انکار کرتا ہے تو قسم کے ساتھ اُس کی بات مان لی جائے گی اور اگر یہ شخص بھی مر گیا اور اس نے ودیعت کے متعلق کچھ بیان نہیں کیا اور اس کے پاس ودیعت رکھنا صرف مضارب کے کہنے ہی سے معلوم ہوا اور کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کے ترکہ سے وصول نہیں کی جاسکتی اور اگر گواہوں سے اُس کے پاس ودیعت رکھنا ثابت ہے یا اُس نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے پاس مضارب نے ودیعت رکھی ہے اور مضارب مر گیا پھر وہ شخص بھی مر گیا تو اُس شخص کے مال سے ودیعت وصول کی جائے گی۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ ایک شخص کے پاس ایک ہزار روپے ودیعت کے ہیں ان روپوں کے دو شخص دعویٰ دار ہیں ہر ایک کہتا ہے میں نے اس کے پاس ودیعت رکھے ہیں اور موذع کہتا ہے تم دونوں میں سے ایک نے ودیعت رکھے ہیں میں یہ نہیں معین کر کے بتا سکتا کہ کس نے رکھے ہیں تو اگر وہ دونوں مدعی⁽⁴⁾ اس بات پر صلح و اتفاق کر لیں کہ ہم دونوں یہ روپے برابر برابر بانٹ لیں تو ایسا کر سکتے ہیں اور موذع دینے سے انکار نہیں کر سکتا اسکے بعد نہ موذع سے مطالبہ ہو سکتا ہے نہ اُس پر حلف دیا جاسکتا اور اگر دونوں صلح نہیں کرتے بلکہ ہر ایک پورے ہزار کو لینا چاہتا ہے تو موذع سے دونوں حلف لے سکتے ہیں پھر اگر دونوں کے مقابل میں اُس نے حلف کر لیا تو دونوں کا دعویٰ ختم ہو گیا اور اگر دونوں کے مقابل میں قسم سے انکار کر دیا تو اس ہزار کو دونوں بانٹ لیں اور ایک دوسرے ہزار کا اُس پر تاوان ہوگا جو دونوں برابر لے لیں گے اور اگر ایک کے مقابل میں حلف کر لیا دوسرے کے مقابل میں قسم سے انکار کر دیا تو جس کے مقابل میں قسم سے انکار کیا ہے وہ ہزار لے لے اور جس کے مقابل میں حلف کر لیا ہے اُس کا دعویٰ ساقط۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

①..... قسم دی جائے گی۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الخامس فی تحبیل الودیعة، ج ۴، ص ۳۵۰.

③..... المرجع السابق.

④..... دعویٰ کرنے والے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الخامس فی تحبیل الودیعة، ج ۴، ص ۳۵۱، ۳۵۰.

ودیعت کو دوسرے مال میں ملا دینا یا اس میں تصرف کرنا

مسئلہ ۳۷ — ودیعت کو اپنے مال یا دوسرے کے مال میں بدون اجازت مالک (۱) اس طرح ملا دینا کہ امتیاز باقی نہ رہے یا بہت دشواری سے جدا کیے جا سکیں یہ بھی موجب ضمان (۲) ہے دونوں مال ایک قسم کے ہوں جیسے روپے کو روپے میں ملا دیا گیہوں (۳) کو گیہوں میں جو جو میں یا دونوں مختلف جنس کے ہوں مثلاً گیہوں کو جو میں ملا دیا اس میں اگر چہ امتیاز اور جدا کرنا ممکن ہے مگر بہت دشوار ہے، اس طرح پر ملا دینا چیز کو ہلاک کر دینا ہے مگر جب تک ضمان ادا نہ کرے اس کا کھانا جائز نہیں یعنی پہلے ضمان ادا کر دے اس کے بعد یہ مخلوط چیز (۴) خرچ کرے۔ (۵) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۳۸ — ایک ہی شخص نے گیہوں اور جو دونوں کو ودیعت رکھا جب بھی ملا دینا جائز نہیں ملا دے گا تو تاوان لازم ہوگا۔ (۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ — مالک کی اجازت سے اس نے دوسری چیز کے ساتھ خلط کیا (۷) یا اس نے خود نہیں ملایا بلکہ بغیر اس کے فعل کے دونوں چیزیں مل گئیں مثلاً دو بوریوں میں غلہ تھا بوریاں پھٹ گئیں غلہ مل گیا یا صندوق میں دو تھیلیوں میں روپے رکھے تھے تھیلیاں پھٹ گئیں اور روپے مل گئے ان دونوں صورتوں میں دونوں باہم شریک ہو گئے اگر اس میں سے کچھ ضائع ہوگا تو دونوں کا ضائع ہوگا جو باقی ہے اسے مطابق حصہ کے تقسیم کر لیں مثلاً ایک کے ہزار روپے تھے دوسرے کے دو ہزار تو جو کچھ باقی ہے اس کے تین حصے کر کے پہلا شخص ایک حصہ لے لے اور دوسرا شخص دو حصے۔ (۸) (بحر، عالمگیری)

مسئلہ ۵۰ — مودع کے سوا کسی دوسرے شخص نے خلط کر دیا اگرچہ وہ نابالغ ہو اگرچہ وہ شخص ہو جو مودع کی عیال میں ہے وہ خلط کرنے والا ضامن ہے مودع ضامن نہیں۔ (۹) (درمختار، عالمگیری)

①..... مالک کی اجازت کے بغیر۔

②..... تاوان کو لازم کرنے والا۔

③..... گندم۔

④..... ملائی ہوئی چیز۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۳۶، وغیرہ۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون تضييعًا... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۹۔

⑦..... یعنی ملا دیا۔

⑧..... "البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۴۷۰۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون تضييعًا... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۹۔

⑨..... "الدرالمختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۳۷۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون تضييعًا... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۹۔

مسئلہ ۵۱ → ودیعت روپیہ یا اشرفی ہے یا مکمل (۱) و موزون (۲) ہے مودع نے اس میں سے کچھ خرچ کر ڈالا تو جتنا خرچ کیا ہے اتنے ہی کا ضامن ہے جو باقی ہے اُس کا ضامن نہیں یعنی ماقی (۳) اگر ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان لازم نہیں اور اگر خرچ کرنے کے لیے نکالا تھا مگر خرچ نہیں کیا پھر اُسی میں شامل کر دیا تو تاوان لازم نہیں اور اگر جتنا ودیعت میں سے خرچ کر ڈالا تھا اتنا ہی باقی میں ملا دیا کہ امتیاز جاتا رہا مثلاً سو روپے میں سے دس خرچ کر ڈالے تھے پھر دس روپے باقی میں ملا دیے تو کل کا ضامن ہو گیا کیوں کہ اپنے مال کو ملا کر ودیعت کو ہلاک کر دیا اور اگر اس طرح ملایا ہے کہ امتیاز باقی ہے مثلاً کچھ روپے تھے اور کچھ نوٹ یا اشرفیاں (۴) روپے خرچ کر ڈالے پھر اتنے ہی روپے اُس میں شامل کر دیے یا جو کچھ ملایا اُس میں نشان بنا دیا ہے کہ جدا کیا جاسکتا ہے یا خرچ کیا اور اُس میں شامل نہیں کیا یا دو دیتیں تھیں مثلاً ایک مرتبہ اُس نے دس روپے دیے دوسری مرتبہ دس پھر دیے اور اُن میں سے ایک ودیعت کو خرچ کر ڈالا ان سب صورتوں میں صرف اُس کا ضامن ہے جو خرچ کیا ہے۔ یہ اُس چیز میں ہے جس کے ٹکڑے کرنا مضرنہ ہو مثلاً دس سیر گیہوں تھے اُن میں سے پانچ سیر خرچ کیے اور اگر وہ ایسی چیز ہو جس کے ٹکڑے کرنا مضر ہو مثلاً ایک اچکن کا کپڑا تھا یا کوئی زیور تھا اُس میں سے ایک ٹکڑا خرچ کر ڈالا تو کل کا ضامن ہے۔ (۵) (در مختار، عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ → جس شخص نے ملایا ہے وہ غائب ہو گیا اُس کا پتہ نہیں کہ کہاں ہے تو اگر دونوں مالک اس پر راضی ہو جائیں کہ ان میں کا ایک شخص اُس مخلوط چیز (۶) کو لے لے اور دوسرے کو اس کی چیز کی قیمت دیدے یہ ہو سکتا ہے اور اس پر بھی راضی نہ ہوں تو مخلوط شے کو بیچ کر ہر ایک اپنی اپنی چیز کی قیمت پر ثمن کو تقسیم کر کے لے لے۔ (۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۳ → ودیعت پر تعدی کی یعنی اُس میں بیجا تصرف کیا مثلاً کپڑا تھا اُسے پہن لیا گھوڑا تھا اُس پر سوار ہو گیا غلام تھا اُس سے خدمت لی یا اُسے کسی دوسرے کے پاس ودیعت رکھ دیا ان سب صورتوں میں اُس پر ضمان لازم ہے مگر پھر اس حرکت سے باز آیا یعنی اُس کو حفاظت میں لے آیا اور یہ نیت ہے کہ اب ایسا نہیں کرے گا تو تعدی کرنے سے جو ضمان کا حکم آ گیا تھا زائل ہو گیا یعنی اب اگر چیز ضائع ہو جائے تو تاوان نہیں مگر استعمال سے چیز میں نقصان پیدا ہو جائے تو تاوان دینا ہوگا اور اگر اب بھی

①..... ماپ کر بیچی جانے والی چیز۔

②..... وزن سے بچی جانے والی چیز۔

③..... یعنی جو باقی ہے۔

④..... سونے کے سکے۔

⑤..... "الدر المختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۳۷۔

⑥..... اُس ٹی ہوئی چیز۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یكون تضييعاً... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۹۔

نیت یہ ہو کہ پھر ایسا کرے گا مثلاً رات میں کپڑا اتار دیا اور یہ نیت ہے کہ صبح کو پھر پہنے گا ضمان کا حکم بدستور باقی ہے یعنی مثلاً رات ہی میں وہ کپڑا چوری ہو گیا تاوان دینا ہوگا۔⁽¹⁾ (بحر، عالمگیری)

مسئلہ ۵۴ مستعیر اور مستاجر نے تعدی کی⁽²⁾ پھر اس سے باز آئے تو ضمان سے⁽³⁾ بری نہیں جب تک مالک کے پاس چیز پہنچانہ دیں۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۵ موذع، بیع کا وکیل اور حفظ کا وکیل اور اجرت پر لینے کا وکیل یعنی اس کو وکیل کیا تھا کہ اس چیز کو کرایہ پر دے یا کرایہ پر لے اور اس نے خود اس چیز کو استعمال کیا پھر استعمال چھوڑ دیا اور مضارب و مستبضع یعنی مضارب نے چیز کو استعمال کیا یا جس کو بھاعت کے طور پر دیا تھا اس نے استعمال کیا پھر استعمال ترک کیا اور شریک عنان اور شریک مفاوضہ اور رہن کے لیے عاریت لینے والا کہ ایک چیز عاریت لی تھی کہ اُسے رہن رکھے گا اور خود استعمال کی پھر رہن رکھ دی یہ دس قسم کے اشخاص تعدی کرنے والے اگر تعدی سے باز آجائیں تو ضمان سے بری ہو جاتے ہیں اور ان کے علاوہ جو امین تعدی کرے گا وہ ضامن ہوگا اگرچہ تعدی سے باز آجائے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۶ موذع کو یہ اختیار ہے کہ ودیعت کو اپنے ہمراہ سفر میں لیجائے اگرچہ اس میں بار برداری⁽⁶⁾ صرف⁽⁷⁾ کرنی پڑے بشرطیکہ مالک نے سفر میں لے جانے سے منع نہ کیا ہو اور لیجانے میں اُس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو اور اگر مالک نے منع کر دیا ہو یا لیجانے میں اندیشہ ہو اور سفر میں جانا اس کے لیے ضروری نہ ہو اور سفر کیا اور ودیعت ضائع ہوگئی تو تاوان لازم ہے اور اگر سفر میں جانا ضروری ہے اور تنہا سفر کیا اور ودیعت کو بھی لے گیا ضامن ہے اور بال بچوں کے ساتھ سفر کیا ہے تو ضامن نہیں، دریائی سفر بھی خوفناک ہے کہ اس میں غالب ہلاک ہے۔⁽⁸⁾ (درمختار، بحر)

مسئلہ ۵۷ دو شخصوں نے مل کر ودیعت رکھی ہے اُن میں سے ایک اپنا حصہ مانگتا ہے دوسرے کی عدم موجودگی میں

①..... "البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۴۸۰.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون تضييعًا... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۷، ۳۴۸.

②..... بچا تصرف کیا۔

③..... تاوان سے۔

④..... "الدر المختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۳۷، ۵۳۸.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... مزدوری۔

⑦..... خرچ۔

⑧..... "الدر المختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۴۱.

و "البحر الرائق"، کتاب الودیعة، ج ۷، ص ۴۷۲.

امین کو دینا جائز نہیں اور اگر دیدے گا تو ضامن نہیں اور ایک نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا کہ میرا حصہ دلا دیا جائے تو قاضی دینے کا حکم نہیں دے گا۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۵۸ دو شخصوں نے ودیعت رکھی تھی ایک نے موذع سے کہا کہ میرے شریک کو سو روپے دے دو اُس نے دیدیے اس کے بعد بقیہ رقم ضائع ہوگئی تو جو شخص سو روپے لے چکا ہے یہ تنہا اسی کے ہیں اس کا ساتھی ان میں سے نصف نہیں لے سکتا اور اگر یہ کہا تھا کہ اُس میں سے آدھی رقم اُس کو دے دو اُس نے دیدی اور بقیہ رقم ضائع ہوگئی تو ساتھی جو نصف لے چکا ہے اُس میں سے نصف یہ لے سکتا ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۹ دو شخصوں نے ایک شخص کے پاس ہزار روپے ودیعت رکھے موذع مر گیا اور ایک بیٹا چھوڑا اُن دونوں میں ایک یہ کہتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس لڑکے نے ودیعت ہلاک کر دی دوسرے نے کہا معلوم نہیں ودیعت کیا ہوئی تو جس نے بیٹے کا ہلاک کرنا بتایا اُس نے موذع کو بری کر دیا یعنی اس کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے نے ودیعت کو یعنی⁽³⁾ قائم رکھا اور بیٹے سے ضمان لینا چاہتا ہے تو بغیر ثبوت اس کی یہ بات کیوں کر مانی جاسکتی ہے لہذا بیٹے پر تاوان کا حکم نہیں ہو سکتا اور دوسرا شخص جس نے کہا معلوم نہیں ودیعت کیا ہوئی اُس کو میت کے مال سے پانسو دلائے جائیں گے کیونکہ وہ میت پر تجمل و دیعت کا الزام⁽⁴⁾ رکھتا ہے اور اس صورت میں مال میت سے تاوان دلانے کا حکم ہوتا ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۰ موذع نے ودیعت رکھنے ہی سے انکار کر دیا مالک نے گواہوں سے ودیعت رکھنا ثابت کر دیا اس کے بعد موذع گواہ پیش کرتا ہے کہ ودیعت ضائع ہوگئی موذع کے گواہ نامقبول ہیں اور اس کے ذمہ تاوان لازم، چاہے اس کے گواہوں سے انکار کے بعد ضائع ہونا ثابت ہو یا انکار سے قبل، بہر صورت تاوان دینا ہوگا اور اگر ودیعت رکھنے سے موذع نے انکار نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ میرے پاس تیری ودیعت نہیں ہے اور گواہوں سے ضائع ہونا ثابت کیا، اگر گواہوں سے یہ ثابت ہو کہ اس کہنے سے پہلے ضائع ہوئی تو تاوان نہیں اور اگر اس کہنے کے بعد ضائع ہونا گواہوں نے بیان کیا تو تاوان لازم ہے اور اگر گواہوں سے مطلقاً ضائع ہونا ثابت ہو یا قبل یا بعد نہیں ثابت ہے جب بھی ضامن ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۴۱.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثامن فیما اذا کان... إلخ، ج ۴، ص ۳۵۴.

②....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثامن فیما اذا کان... إلخ، ج ۴، ص ۳۵۵.

③..... ویسے ہی، اسی طرح۔ ④..... یعنی ودیعت کے بارے میں نہ بتانے کا الزام۔

⑤....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثامن فیما اذا کان... إلخ، ج ۴، ص ۳۵۵.

⑥.....المرجع السابق، ص ۳۵۶.

مسئلہ ۶۱ → ودیعت سے موذع نے انکار کر دیا اس کے بعد ودیعت واپس کر دی اور اس کو گواہوں سے ثابت کر دیا تو گواہ مقبول ہیں اور یہ بری اور گواہوں سے یہ ثابت کیا کہ انکار سے پہلے ہی ودیعت دیدی تھی اور یہ کہتا ہے کہ میں نے انکار کرنے میں غلطی کی میں بھول گیا تھا تو یہ گواہ بھی مقبول ہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۲ → موذع کہتا ہے میں نے ودیعت واپس کر دی چند روز کے بعد کہتا ہے ضائع ہو گئی اس پر تاوان لازم ہے اور اگر کہا کہ ضائع ہو گئی پھر چند روز کے بعد کہتا ہے میں نے واپس کر دی میں نے غلطی سے ضائع ہونا کہہ دیا اس صورت میں بھی تاوان ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۳ → موذع کہتا ہے ودیعت ہلاک ہو گئی اور مالک اس کی تکذیب کرتا ہے^(۳) مالک کہتا ہے اس پر حلف دیا جائے^(۴) حلف دیا گیا اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اس سے ثابت ہوا کہ چیز اس کے یہاں موجود ہے لہذا اس کو قید کیا جائے گا اُس وقت تک کہ چیز دیدے یا ثابت کر دے کہ چیز نہیں باقی رہی۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۴ → کسی کے پاس ودیعت رکھ کر پردیس چلا گیا واپس آنے کے بعد اپنی چیز مانگتا ہے موذع کہتا ہے تم نے اپنے بال بچوں پر خرچ کر دینے کے لیے کہا تھا میں نے خرچ کر دی مالک کہتا ہے میں نے خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا مالک کا قول معتبر ہے۔ یوہیں اگر موذع یہ کہتا ہے کہ تم نے مساکین پر خیرات کرنے کو کہا تھا میں نے خیرات کر دی یا فلاں شخص کو ہبہ کرنے کو کہا تھا میں نے ہبہ کر دیا مالک کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا اس میں بھی مالک ہی کا قول معتبر ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۵ → کسی کے پاس روپے ودیعت رکھے مالک اُس سے کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو حکم دیدیا تھا کہ وہ تمہارے پاس سے وہ روپے لے لے پھر میں نے اُسے منع کر دیا موذع کہتا ہے وہ تو لے بھی گیا اُس شخص سے پوچھا گیا تو کہنے لگا میں نہ موذع کے پاس گیا نہ میں نے روپے لیے موذع کی بات معتبر ہے اس پر ضمان لازم نہیں۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۶ → موذع نے ودیعت سے انکار کر دیا پھر اُس موذع نے اس کے پاس اسی جنس کی چیز ودیعت رکھی یہ شخص اپنے مطالبہ میں اس ودیعت کو روک سکتا ہے اور اگر اس پر قسم دی جائے تو یوں قسم کھائے کہ اُس کی فلاں چیز میرے ذمہ نہیں ہے یہ قسم نہ کھائے کہ اُس نے ودیعت نہیں رکھی ہے کہ یہ قسم جھوٹی ہوگی۔ یوہیں اگر اس کا کسی کے ذمہ دین تھا مدیون نے دین سے انکار

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب التاسع فی الاختلاف... إلخ، ج ۴، ص ۳۵۶.

②..... المرجع السابق.

③..... جھوٹا بتاتا ہے یعنی اس سے انکار کرتا ہے۔ ④..... قسم دی جائے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب التاسع فی الاختلاف... إلخ، ج ۴، ص ۳۵۷.

⑥..... المرجع السابق، ص ۳۵۸. ⑦..... المرجع السابق.

کر دیا پھر مدیون نے اسی جنس کی چیز و دیعت رکھی اپنے دین میں اسے روک سکتا ہے اور اگر و دیعت اُس جنس کی چیز نہ ہو تو نہیں روک سکتا (1)۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۷ → ایک شخص سے پچاس روپے قرض مانگے اُس نے غلطی سے پچاس کی جگہ ساٹھ دیدیے اس نے مکان پر آکر دیکھا کہ دس زائد ہیں واپس کرنے کو دس روپے لے گیا راستہ میں یہ ضائع ہو گئے اس پر پانچ سوس کا ضمان ہے اور ایک سوس یعنی دس روپے میں سے چھٹے حصہ کا ضمان نہیں کیونکہ جو روپے اُس نے غلطی سے دیے وہ اس کے پاس و دیعت ہیں اور وہ کل کا چھٹا حصہ ہے لہذا ان دس کا چھٹا حصہ بھی و دیعت ہے صرف اس چھٹے حصے کا ضمان واجب نہیں اور اگر کل روپے ضائع ہوئے تو پچاس ہی روپے اس کے ذمہ واجب ہیں کیونکہ دس و دیعت ہیں ان کا تاوان نہیں۔ یوہیں اگر کسی کے ذمہ پچاس روپے باقی تھے اُس نے غلطی سے ساٹھ لے لیے دس روپے واپس کرنے جا رہا تھا راستہ میں ضائع ہو گئے تو پانچ سوس کا ضمان اس پر واجب ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۸ → شادی میں روپے پیسے نچھاور کرنے کے لیے کسی کو دیے تو یہ شخص اپنے لیے اُن میں سے بچا نہیں سکتا اور نہ خود گرے ہوئے کو لوٹ سکتا ہے اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرے کو لٹانے کے لیے دیدے۔ شکر اور چھوہارے جو لٹانے کے لیے دیے جاتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۶۹ → مسافر کسی کے مکان پر مر گیا اُس نے کچھ تھوڑا سا مال دو تین روپے کا چھوڑا اور اُس کا کوئی وارث معلوم نہیں اور جس کے مکان پر مرے یہ فقیر ہے اُس مال کو اپنے لیے یہ شخص رکھ سکتا ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۷۰ → ایک شخص نے دو شخصوں کے پاس و دیعت رکھی اگر وہ چیز قابلِ قسمت ہے دونوں اُس چیز کو تقسیم کر لیں

①..... جبکہ فی زمانہ دائن اگر اپنے دین کی جنس کے علاوہ کسی اور مال کے حصول پر قادر ہو تو وہ اسے لے سکتا ہے، جس کی صراحت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فتاویٰ رضویہ میں کچھ یوں فرمائی ہے: "فی الشامی والطحطاوی عن شرح الکنز للعلامة الحموی عن الامام العلامة علی المقدسی عن جدہ الاشقر عن شرح القدوری للإمام الأخصب ان عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاولتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من اى مال كان"۔ ترجمہ: شامی اور طحطاوی میں علامہ حموی کی شرح کنز سے بحوالہ امام علامہ علی مقدسی منقول ہے، انہوں نے اپنے دادا اشقر سے بحوالہ شرح قدوری از امام اخصب ذکر کیا کہ خلاف جنس سے وصول کرنے کا عدم جواز مشائخ کے زمانے میں تھا کیونکہ وہ لوگ حقوق میں باہم متفق تھے، آج کل فتویٰ اس پر ہے کہ جب اپنے حق کی وصولی پر قادر ہو چاہے کسی بھی مال سے ہو تو وصول کر لینا جائز ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۷، ص ۵۶۲)

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الودیعة، الباب العاشر فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۵۹۔

③..... المرجع السابق، ص ۳۶۰۔ ④..... المرجع السابق، ص ۳۶۲۔ ⑤..... المرجع السابق۔

ہر ایک اپنے حصہ کی حفاظت کرے اگر ایسا نہیں کیا بلکہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو سپرد کردی تو یہ دینے والا ضامن ہے اور اگر وہ چیز تقسیم کے قابل نہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کو سپرد کر سکتا ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴۱ - مودع نے کہہ دیا تھا کہ ودیعت کو دکان میں نہ رکھنا کیونکہ اُس میں سے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اگر مودع کے لیے کوئی دوسری جگہ اس سے زیادہ محفوظ ہے اور یہ اس پر قادر بھی تھا کہ اٹھا کر وہاں لے جاتا اور نہ لے گیا اور دکان سے وہ چیز رات میں چوری گئی تو ضمان دینا ہوگا اور کوئی دوسری جگہ حفاظت کی اس کے پاس نہیں یا اُس وقت چیز کو لے جانے پر قادر نہ تھا تو ضامن نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴۲ - مالک نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس چیز کو اپنی عیال کے پاس نہ چھوڑنا یا اس کمرے میں رکھنا اور مودع نے ایسے کو دیا جس کے دینے سے چارہ نہ تھا مثلاً زیور تھانی بی کو دینے سے منع کیا تھا اُس نے بی بی کو دیدیا، گھوڑا تھا غلام کو دینے سے منع کیا تھا اس نے غلام کو دیدیا اور اُس کمرے کے سوا دوسرے کمرے میں رکھی اور دونوں کمرے حفاظت کے لحاظ سے یکساں ہیں یا یہ اُس سے بھی زیادہ محفوظ ہے اور ودیعت ضائع ہوگئی تاوان لازم نہیں اور اگر یہ باتیں نہ ہوں مثلاً زیور غلام کو دیدیا یا گھوڑا بی بی کی حفاظت میں دیا یا وہ کمرہ اتنا محفوظ نہیں ہے تو تاوان دینا ہوگا۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴۳ - مودع نے کہا اس تھیلی میں نہ رکھنا اُس میں رکھنا یا تھیلی میں رکھنا صندوق میں نہ رکھنا یا صندوق میں رکھنا اس گھر میں نہ رکھنا اور اُس نے وہ کیا جس سے مودع نے منع کیا تھا ان صورتوں میں ضمان واجب نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

قاعدہ کلیہ اس باب میں⁽⁵⁾ یہ ہے کہ امانت رکھنے والے نے اگر ایسی شرط لگائی جس کی رعایت ممکن ہے اور مفید بھی ہو تو اُس کا اعتبار ہے اور ایسی نہ ہو تو اُس کا اعتبار نہیں مثلاً یہ شرط کہ اسے اپنے ہاتھ ہی میں لیے رہنا کسی جگہ نہ رکھنا یا دہنے ہاتھ میں رکھنا یا اس میں نہ رکھنا یا اس چیز کو دہنی آنکھ سے دیکھتے رہنا یا اس آنکھ سے نہ دیکھنا اس قسم کی شرطیں بیکار ہیں ان پر عمل کرنا کچھ ضرور نہیں۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۴۲.

②....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثالث فی شروط... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۲.

③....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۴۲.

④....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثالث فی شروط... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۱.

⑤.....یعنی اس مسئلہ میں کہ مالک اگر منع کرے اور امین وہی کر دے۔

⑥....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الثالث فی شروط... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۱.

مسئلہ ۷۴ ایک شخص کے پاس ودیعت رکھی اُس نے دوسرے کے پاس رکھ دی اور ضائع ہوگئی تو فقط موذع سے ضمان لے گا دوسرے سے نہیں لے سکتا اور اگر دوسرے کو دی اور وہاں سے ابھی موذع جدا نہیں ہوا ہے کہ ہلاک ہوگئی تو موذع سے بھی ضمان نہیں لے سکتا۔^(۱) (ہدایہ)

مسئلہ ۷۵ مالک کہتا ہے کہ دوسرے کے یہاں سے ہلاک ہوگئی اور موذع کہتا ہے اُس نے مجھے واپس کر دی تھی میرے یہاں سے ضائع ہوئی موذع کی بات نہیں مانی جائے گی اور اگر موذع سے کسی نے غصب کی ہوتی اور مالک کہتا غاصب کے یہاں ہلاک ہوئی اور موذع کہتا اُس نے واپس کر دی تھی میرے یہاں ہلاک ہوئی تو موذع کی بات مانی جاتی۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۷۶ ایک شخص کو ہزار روپے دیے کہ فلاں شخص کو جو فلاں شہر میں ہے دیدینا اس نے دوسرے کو دیدیے کہ تم اُس شخص کو دیدینا اور راستہ میں روپے ضائع ہو گئے اگر دینے والا مر گیا ہے تو موذع پر تاوان نہیں ہے کہ یہ وصی ہے اور اگر زندہ ہے تو تاوان ہے کہ وکیل ہے ہاں اگر وہ شخص جس کو دیے ہیں اُسکی عیال میں ہے تو ضامن نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷۷ دھوبی نے غلطی سے ایک کاپڑا دوسرے کو دیدیا اُس نے قطع کر ڈالا دونوں ضامن ہیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۷۸ جانور کو ودیعت رکھا تھا وہ بیمار ہوا علاج کرایا اور علاج سے ہلاک ہو گیا مالک کو اختیار ہے جس سے چاہے تاوان لے موذع سے بھی تاوان لے سکتا ہے اور معالج سے بھی اگر معالج سے تاوان لیا اور بوقت علاج اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ دوسرے کا ہے معالج موذع سے واپس لے سکتا ہے اور اگر معلوم تھا تو نہیں۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۷۹ غاصب نے کسی کے پاس مغضوب چیز ودیعت رکھ دی^(۶) اور ہلاک ہوگئی مالک کو اختیار ہے دونوں میں سے جس سے چاہے ضمان لے اگر موذع سے تاوان لیا وہ غاصب سے رجوع کر سکتا ہے۔^(۷) (درمختار)

①..... "الهدایة"، کتاب الودیعة، ج ۲، ص ۲۱۶.

②..... "الدر المختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۴۲.

③..... "ردالمحتار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۴۲.

④..... "الدر المختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۴۳.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... ناجائز بردتی قبضہ کی ہوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دی۔

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الإیداء، ج ۸، ص ۵۴۴.

مسئلہ ۸۰ ایک شخص کو روپے دیے کہ ان کو فلاں شخص کو آج ہی دیدینا اس نے نہیں دیے اور ضائع ہو گئے تاوان لازم نہیں اس لیے کہ اس پر اسی روز دینا لازم نہ تھا، یوں مالک نے یہ کہا کہ وديعت میرے پاس پہنچانا اس نے کہا پہنچا دوں گا اور نہیں پہنچائی اس کے پاس سے ضائع ہو گئی تاوان واجب نہیں کیونکہ مودع کے ذمہ یہاں لا کر دینا نہیں ہے کہ تاوان لازم آئے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۸۱ مالک نے کہا یہ چیز فلاں شخص کو دیدینا یہ کہتا ہے میں نے دیدی مگر وہ کہتا ہے نہیں دی ہے مودع کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۸۲ مودع نے کہا معلوم نہیں وديعت کیوں کر جاتی رہی ابتداءً اُس نے یہی جملہ کہا یا یوں کہا کہ چیز جاتی رہی اور معلوم نہیں کیوں کر گئی اس صورت میں ضمان نہیں، اور اگر یوں کہا معلوم نہیں ضائع ہوئی یا نہیں ہوئی یا یوں کہا معلوم نہیں میں نے اُسے رکھ دیا ہے یا مکان کے اندر کہیں دفن کر دیا ہے یا کسی دوسری جگہ دفن کیا ہے ان صورتوں میں ضمان ہے، اور اگر یوں کہتا کہ میں نے ایک جگہ دفن کر دیا تھا وہاں سے کوئی چور لے گیا اگرچہ اُس جگہ کو نہیں بتایا جہاں دفن کیا تھا اس میں ضمان واجب نہیں۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۸۳ دلال کو^(۴) بیچنے کے لیے کپڑا دیا تھا دلال کہتا ہے کپڑا میرے ہاتھ سے گر گیا اور ضائع ہو گیا معلوم نہیں کیوں کر ضائع ہوا تو اُس پر تاوان نہیں اور دلال یہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا معلوم نہیں کس دکان میں رکھ دیا تھا تو تاوان دینا ہوگا۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۴ مودع کہتا ہے وديعت میں نے اپنے سامنے رکھی تھی بھول کر چلا گیا ضائع ہو گئی اس صورت میں تاوان دینا ہوگا اور اگر کہتا ہے مکان کے اندر چھوڑ کر چلا گیا اور ضائع ہو گئی اگر وہ جگہ حفاظت کی ہے کہ اس قسم کی چیز وہاں بطور حفاظت رکھی جاتی ہے تو تاوان نہیں۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۵ مکان کسی کی حفاظت میں دے دیا اور اسی مکان کے ایک کمرہ یا کوٹھری میں وديعت رکھی ہے اگر اس کو

①....."الدرالمختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۴۴.

②.....المرجع السابق.

③.....المرجع السابق، ص ۵۴۵.

④.....کمیشن لے کر مال فروخت کرنے والے کو۔

⑤....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۲.

⑥.....المرجع السابق.

مقل کر دیا (1) ہے کہ آسانی سے نہ گھل سکتا ہو تو تاوان نہیں ورنہ ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۶ → اسکے مکان میں لوگ بکثرت آتے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود چیز کی حفاظت رہتی ہے اور اس نے حفاظت کی جگہ میں ودیعت رکھ دی ہے ضمان واجب نہیں۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۷ → مال و دیعت کو زمین میں دفن کر دیا ہے اور کوئی نشان بھی کر رکھا ہے تو ضائع ہونے پر تاوان نہیں اور نشان نہیں کیا تو تاوان ہے اور جنگل میں دفن کر دیا ہے تو بہر صورت تاوان ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۸ → موذع کے پیچھے چور لگ گئے اس نے ودیعت کو دفن کر دیا کہ چور اسکے ہاتھ سے کہیں لے نہ لیں اور دفن کر کے اُن کے خوف کی وجہ سے بھاگ گیا پھر آ کر تلاش کرتا ہے تو پتا نہیں چلتا کہ کہاں دفن کی تھی اگر دفن کرتے وقت اتنا موقع تھا کہ نشانی کر دیتا اور نہیں کی تو ضامن ہے اور اگر نشانی کا موقع نہ ملا تو دو صورتیں ہیں اگر جلد آ جاتا تو پتہ چل جاتا اور جلد آنا ممکن تھا مگر نہ آیا جب بھی ضامن ہے اور جلد آنا ممکن ہی نہ تھا اس وجہ سے نہیں آیا تو ضامن نہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۸۹ → زمانہ فتنہ میں ودیعت کو ویرانہ میں رکھ آیا اگر زمین کے اوپر رکھ دی تو ضامن ہے اور دفن کر دی تو ضامن نہیں۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۹۰ → موذع یا وصی سے زبردستی مال لینا کوئی چاہتا ہے اگر جان مارنے یا قطع عضو کی (7) دھمکی دی اس نے ڈر کر کچھ مال دید یا ضمان نہیں اور اگر اس کی دھمکی دی کہ اُسے بند کر دے گا یا قید کر دے گا اور مال دید یا تو تاوان واجب ہے اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ اگر کچھ تھوڑا مال اسے نہ دیا جائے تو کُل ہی چھین لے گا یہ دینے کے لیے عذر ہے یعنی ضمان لازم نہیں۔ (8) (درمختار)

مسئلہ ۹۱ → ودیعت کے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ خراب ہو جائے گی مالک موجود نہیں ہے یا وہ لے نہیں جاتا موذع کو چاہیے یہ معاملہ حاکم کے پاس پیش کرے تاکہ وہ بیچ ڈالے اور اگر موذع نے پیش نہ کیا یہاں تک کہ ودیعت خراب ہوگئی تو اس

①..... تالا لگا دیا۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۳۔

③..... المرجع السابق۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... المرجع السابق۔

⑦..... جسم کے کسی حصے کو کاٹ دینے کی۔

⑧..... "الدر المختار"، کتاب الإیذاء، ج ۸، ص ۵۴۵۔

پر زمان نہیں اور اگر وہاں قاضی ہی نہ ہو تو چیز کو بیچ ڈالے اور ثمن محفوظ رکھے۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۹۲ - وديعت کے متعلق مودع نے کچھ خرچ کیا اگر یہ قاضی کے حکم سے نہیں ہے مُتَبَرِّع ہے⁽²⁾ کچھ معاوضہ

نہیں پائے گا اور اگر قاضی کے پاس معاملہ پیش کیا قاضی اس پر گواہ طلب کرے گا کہ یہ وديعت ہے اور اس کا مالک غائب ہے پھر اگر وہ چیز ایسی ہے جو کرایہ پر دی جاسکتی ہے تو قاضی حکم دے گا کہ کرایہ پر دی جائے اور آمدنی اس پر صرف کی جائے اور اگر کرایہ پر دینے کی چیز نہ ہو تو قاضی یہ حکم دے گا کہ دو تین دن تم اپنے پاس سے اس پر خرچ کرو شاید مالک آجائے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دے گا بلکہ حکم دے گا کہ چیز بیچ کر اس کا ثمن محفوظ رکھا جائے۔⁽³⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۹۳ - مُصَنَّف شریف⁽⁴⁾ کو وديعت یا رہن رکھا تھا۔ مودع یا مرتہن اُس میں دیکھ کر تلاوت کر رہا تھا اسی حالت میں ضائع ہو گیا تاوان واجب نہیں۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹۴ - کتاب وديعت ہے اس میں غلطی نظر آئی اگر معلوم ہے کہ درست کرنے سے مالک کو ناگواری ہوگی درست نہ کرے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹۵ - ایک شخص کو دس روپے دیے اور یہ کہا کہ ان میں سے پانچ تمہارے لیے ہبہ ہیں اور پانچ وديعت اُس نے پانچ خرچ کر ڈالے اور پانچ ضائع ہو گئے ساڑھے سات روپے اُس پر تاوان کے واجب ہیں کیونکہ مشاع کا ہبہ⁽⁷⁾ صحیح نہیں ہے اور ہبہ فاسد کے طور پر جس چیز پر قبضہ ہوتا ہے اُس کا ضمان لازم ہوتا ہے اور پانچ روپے جو ضائع ہوئے ان میں وديعت اور ہبہ دونوں ہیں لہذا ان کے نصف کا ضمان ہوگا کہ وہ ڈھائی روپے ہیں اور جو خرچ کیے ہیں اُن کے کل کا ضمان⁽⁸⁾ ہے

①..... "الدر المختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۴۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۴.

②..... احسان کرنے والا ہے۔

③..... "الدر المختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۴۶.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب العاشر فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۶۰.

④..... قرآن پاک۔

⑤..... "الدر المختار"، کتاب الإيداع، ج ۸، ص ۵۴۶.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب العاشر فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۶۲.

⑦..... ایسی چیز کا ہبہ کرنا جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد شریک ہوں اور دونوں کے حصوں میں فرق نہ کیا جاسکتا ہو۔ مثلاً چکی وغیرہ۔

⑧..... کہ اگرچہ ان میں ڈھائی ہبہ کے ہیں اور ڈھائی وديعت کے، مگر ضمان دونوں کا واجب ہے کہ وديعت کی چیز خرچ کرنے سے ضمان واجب

ہوتا ہے۔ ۱۲ حفظ رہے

یوں ساڑھے ساتھ روپے کا تاوان واجب۔ اور اگر دیتے وقت یہ کہا کہ ان میں تین تمہیں ہبہ کرتا ہوں اور سات فلاں شخص کو دے آؤ وہ دینے گیا راستہ میں کل روپے ضائع ہو گئے تو صرف تین روپے کا تاوان واجب ہے کہ یہ ہبہ فاسد ہے اور پانچ پانچ روپے کر کے دیے اور یہ کہہ دیا کہ پانچ ہبہ ہیں اور پانچ امانت اور یہ نہیں بتایا کہ کون سے پانچ ہبہ کے ہیں اس نے سب کو خلط کر دیا (1) اور ضائع ہو گئے تو پانچ روپے تاوان واجب۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۹۶۔ وديعت ایسی چیز ہے جس میں گرمیوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اس نے اُس چیز کو ہوا میں نہیں رکھا اور کیڑے پڑ گئے تو اس پر تاوان واجب نہیں۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۹۷۔ وديعت کو چوہوں نے خراب کر دیا اگر اس نے پہلے ہی مودع سے کہہ دیا تھا کہ یہاں چوہے ہیں تو تاوان نہیں اور اسے معلوم ہو گیا کہ یہاں چوہے کے بل ہیں اور نہ بند کیے نہ مالک کو خبر دی تو تاوان واجب ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۹۸۔ جانور کو وديعت رکھا اور غائب ہو گیا مودع نے اُس کا دودھ دوبا اور یہ اندیشہ ہے کہ اُس کے آنے تک دودھ خراب ہو جائے گا اُس کو بیچ ڈالا اگر قاضی کے حکم سے بیچا تو ضامن نہیں اور بغیر حکم قاضی بیچا تو ضامن ہے یعنی اگر یہ ثمن ضائع ہوگا تو تاوان دینا ہوگا مگر جبکہ ایسی جگہ ہو جہاں قاضی نہ ہو تو ضامن نہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۹۹۔ انگوٹھی وديعت رکھی مودع نے چھنگلیا (6) یا اس کے پاس والی انگلی میں ڈال لی اور اسی میں پہنے ہوئے تھا کہ ہلاک ہو گئی تو تاوان لازم ہے اور انگوٹھے یا کلمہ کی انگلی یا بیچ کی انگلی میں ڈال لی اور اسی حالت میں ہلاک ہوئی تو تاوان نہیں اور عورت کے پاس وديعت رکھی تو کسی انگلی میں ڈالے گی ضامن ہوگی۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰۰۔ تھیلی میں روپے کسی کے پاس وديعت رکھے مودع کے سامنے گن کر سپرد نہیں کیے جب واپس لیے تو کہتا ہے کہ روپے کم ہیں تو مودع پر نہ ضمان ہے نہ اُس پر حلف (8) دیا جائے ہاں اگر اُس کے ذمہ خیانت یا ضائع کرنے کا الزام لگاتا ہے تو حلف ہوگا۔ (9) (عالمگیری)

①..... ملا دیا۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۳۔

③..... المرجع السابق، ص ۳۴۴۔ ④..... المرجع السابق۔ ⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... سب سے چھوٹی انگلی۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۵۔

⑧..... قسم۔

⑨..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۶۔

مسئلہ ۱۰۱ کوئٹا ودیعت رکھا مودع کے مکان میں تنور تھا اس نے کوئٹا تنور پر رکھ دیا اینٹ گری اور کوئٹا ٹوٹ گیا اگر تنور پر رکھنے سے تنور چھپانا مقصود تھا تو تاوان دے اور یہ مقصد نہ تھا بلکہ محض اُس کو رکھنا مقصود تھا تو تاوان نہیں۔ یوہیں رکابی یا طبق (۱) کو ودیعت رکھا مودع نے اُس کو مٹکے یا گولی (۲) پر رکھ دیا اگر محض رکھنا مقصود ہے تو تاوان نہیں اور چھپانا مقصود ہے تو تاوان ہے اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ چھپانا مقصود تھا یا نہیں اس کی صورت یہ ہے کہ اگر مٹکے یا گولی میں پانی یا آٹا یا کوئی ایسی چیز ہے جو ڈھانکی جاتی ہو تو چھپانا مقصود ہے اور خالی ہے یا اُس میں کوئی ایسی چیز ہے جو چھپا کر نہ رکھی جاتی ہو تو محض رکھنا مقصود ہے۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰۲ بکری ودیعت رکھی مودع نے اپنی بکریوں کے ساتھ اسے چرنے کو بھیج دیا اور بکری چوری گئی اگر یہ چرواہا خاص مودع کا چرواہا ہے تو تاوان نہیں اور اگر خاص نہیں تو تاوان ہے۔ (۴) (عالمگیری)

عاریت کا بیان

دوسرے شخص کو چیز کی منفعت کا بغیر عوض مالک کر دینا عاریت ہے جس کی چیز ہے اُسے معیر کہتے ہیں اور جس کو دی گئی مستعیر ہے اور چیز کو مستعار کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱ عاریت کے لیے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے اگر کوئی ایسا فعل کیا جس سے قبول معلوم ہوتا ہو تو یہ فعل ہی قبول ہے مثلاً کسی سے کوئی چیز مانگی اُس نے لا کر دیدی اور کچھ نہ کہا عاریت ہوگئی اور اگر وہ شخص خاموش رہا کچھ نہیں بولا تو عاریت نہیں۔ (۵) (بحر)

مسئلہ ۲ عاریت کا حکم یہ ہے کہ چیز مستعیر کے پاس امانت ہوتی ہے اگر مستعیر نے تعدی نہیں کی ہے (۶) اور چیز ہلاک ہوگئی تو ضمان (۷) واجب نہیں اور اسکے لیے شرط یہ ہے کہ شے مستعار انتفاع کے قابل ہو (۸) اور عوض لینے کی اس میں شرط نہ ہو اگر معاوضہ شرط ہو تو اجارہ ہو جائے گا اگرچہ عاریت ہی کا لفظ بولا ہو۔ منافع کی جہالت اس کو فاسد نہیں کرتی اور عین مستعار کی

①..... تھالی۔

②..... مٹی کا بنا ہوا برتن جس میں پانی یا غلہ رکھتے ہیں۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الودیعة، الباب الرابع فیما یکون... إلخ، ج ۴، ص ۳۴۷۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۷۶۔

⑥..... بے جا تصرف نہیں کیا ہے۔

⑦..... تاوان۔

⑧..... یعنی ادھار لی ہوئی چیز کام میں لانے کے قابل ہو۔

جہالت سے عاریت فاسد ہے مثلاً ایک شخص سے سواری کے لیے گھوڑا مانگا اُس نے کہا اصطبل⁽¹⁾ میں دو گھوڑے بندھے ہیں اُن میں سے ایک لے لو مستعیر ایک لیکر چلا گیا اگر ہلاک ہوگا ضمان دینا ہوگا اور اگر مالک نے یہ کہا اُن میں سے جو تو چاہے ایک لے تو ضمان نہیں بغیر مانگے کسی نے کہہ دیا یہ میرا گھوڑا ہے اس پر سواری لویا غلام ہے اس سے خدمت لو یہ عاریت نہیں یعنی خرچہ مالک کو دینا ہوگا اس کے ذمہ نہیں۔⁽²⁾ (بحر)

مسئلہ ۳ عاریت کے بعض الفاظ یہ ہیں میں نے یہ چیز عاریت دی، میں نے یہ زمین تمہیں کھانے کو دی، یہ کپڑا پہننے کو دیا، یہ جانور سواری کو دیا، یہ مکان تمہیں رہنے کو دیا، یا ایک مہینے کے لیے رہنے کو دیا، یا عمر بھر کے لیے دیا، یہ جانور تمہیں دینا ہوں اس سے کام لینا اور کھانے کو دینا۔⁽³⁾

مسئلہ ۴ ایک شخص نے کہا اپنا جانور کل شام تک کے لیے مجھے عاریت دے دو اُس نے کہا ہاں دوسرے نے بھی کہا کہ کل شام تک کے لیے اپنا جانور مجھے عاریت دے دو اس سے بھی کہا ہاں تو جس نے پہلے مانگا وہ حقدار ہے اور اگر دونوں کے مومھ سے ایک ساتھ بات نکلی تو دونوں کے لیے عاریت ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ عاریت ہلاک ہوگئی اگر مستعیر نے تعدی نہیں کی ہے یعنی اُس سے اُسی طرح کام لیا جو کام کا طریقہ ہے اور چیز کی حفاظت کی اور اُس پر جو کچھ خرچ کرنا مناسب تھا خرچ کیا تو ہلاک ہونے پر تاوان نہیں اگرچہ عاریت دیتے وقت یہ شرط کر لی ہو کہ ہلاک ہونے پر تاوان دینا ہوگا کہ یہ باطل شرط ہے جس طرح رہن میں ضمان نہ ہونے کی شرط باطل ہے۔⁽⁵⁾ (بحر)

مسئلہ ۶ دوسرے کی چیز عاریت کے طور پر دیدی مستعیر کے یہاں ہلاک ہوگئی تو مالک کو اختیار ہے پہلے سے تاوان لے یا دوسرے سے اگر دوسرے سے تاوان لیا تو یہ پہلے سے رجوع کر سکتا یہ اُس وقت ہے کہ مستعیر کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ چیز دوسرے کی ہے اور اگر معلوم ہے کہ دوسرے کی چیز ہے تو مستعیر کو ضمان دینا ہوگا اور مالک نے اس سے ضمان لیا تو یہ معیر سے رجوع نہیں کر سکتا اور مالک کو یہ بھی اختیار ہے کہ معیر سے ضمان وصول کرے اس سے لیا تو یہ مستعیر سے رجوع نہیں کر سکتا۔⁽⁶⁾ (بحر)

①..... گھوڑا بندھنے کی جگہ۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۷۶، ۴۷۷۔

③..... المرجع السابق، ص ۴۷۶۔

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب الثانی فی الألفاظ... إلخ، ج ۴، ص ۳۶۴۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۷۸۔

⑥..... المرجع السابق۔

مسئلہ ۷ تعدی کی بعض صورتیں یہ ہیں بہت زور سے لگام کھینچی یا ایسا مارا کہ آنکھ پھوٹ گئی یا جانور پر اتنا بوجھ لاد دیا کہ معلوم ہے ایسے جانور پر اتنا بوجھ نہیں لادا جاتا یا اتنا کام لیا کہ اتنا کام نہیں لیا جاتا۔ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں چلا گیا گھوڑا وہیں راستہ میں چھوڑ دیا وہ جاتا رہا، جانور اس لیے لیا کہ فلاں جگہ مجھے سوار ہو کر جانا ہے اور دوسری طرف نہر پر پانی پلانے لے گیا۔ بیل لیا تھا ایک کھیت جو تنے کے لیے اُس سے دوسرا کھیت جوتا، اس بیل کے ساتھ دوسرا اعلیٰ درجہ کا بیل ایک ہل میں جوت دیا اور ویسے بیل کے ساتھ چلنے کی اس کی عادت نہ تھی اور یہ ہلاک ہو گیا۔ جنگل میں گھوڑا لیے ہوئے چت سو گیا اور باگ ہاتھ میں ہے اور کوئی شخص چورالے گیا اور بیٹھا ہوا سو یا تو ضمان نہیں اور اگر سفر میں ہوتا تو چاہے لیٹ کر سوتا یا بیٹھ کر اس پر ضمان نہیں ہوتا۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۸ مستعار چیز سر یا کروٹ کے نیچے رکھ کر چت سو گیا ضمان نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ گھوڑا یا تلوار اس لیے عاریت لیتا ہے کہ قتال⁽³⁾ کرے گا تو گھوڑا مارا جائے یا تلوار ٹوٹ جائے اس کا ضمان نہیں⁽⁴⁾ اور اگر پتھر پر تلوار ماری اور ٹوٹ گئی تو تاوان ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ عاریت کو نہ اجرت پردے سکتا ہے اور نہ رہن رکھ سکتا ہے مثلاً مکان یا گھوڑا عاریت پر لیا اور اس کو کرایہ پر چلایا یا روپیہ قرض لیا اور عاریت کو رہن رکھ دیا یہ ناجائز ہے ہاں عاریت کو عاریت پردے سکتا ہے بشرطیکہ وہ چیز ایسی ہو کہ استعمال کرنے والوں کے اختلاف سے اُس میں نقصان نہ پیدا ہو جیسے مکان کی سکونت، جانور پر بوجھ لادنا۔ عاریت کو ودیعت رکھ سکتا ہے مثلاً عاریت کی چیز کا خود پہنچانا ضروری نہیں ہے دوسرے کے ہاتھ بھی مالک کے پاس بھیج سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (بحر، درمختار، ہدایہ)

مسئلہ ۱۱ مستعیر نے عاریت کو کرایہ پر دیدیا یا رہن رکھ دیا اور چیز ہلاک ہو گئی مالک مستعیر سے تاوان وصول کر سکتا

①....."البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۷۸.

②....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب الخامس فی توضیح العاریة... إلخ، ج ۴، ص ۳۶۸.

③.....جہاد۔ ④.....تاوان نہیں۔

⑤....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب الخامس فی توضیح العاریة... إلخ، ج ۴، ص ۳۶۹.

⑥....."البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۷۹.

و"الدر المختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۲.

و"الہدایة"، کتاب العاریة، ج ۲، ص ۲۱۹.

ہے اور یہ کسی سے رجوع نہیں کر سکتا⁽¹⁾ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستاجر یا مرتہن سے تاوان وصول کرے پھر یہ مستعیر سے واپس لیں کیونکہ اُسی کی وجہ سے یہ تاوان ان پر لازم آیا یہ اُس وقت ہے کہ مستاجر کو یہ معلوم نہ تھا کہ پرانی چیز کرایہ پر چلا رہا ہے اور اگر معلوم تھا تو تاوان کی واپسی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو کسی نے دھوکا نہیں دیا ہے۔⁽²⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۲ - مستعیر نے عاریت کی چیز کرایہ پر دیدی اور چیز ہلاک ہو گئی اس کو تاوان دینا پڑا تو جو کچھ کرایہ میں وصول ہوا ہے اُس کا مالک یہی ہے مگر اسے صدقہ کر دے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - گھوڑا عاریت لیا اور یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک اس پر سوار ہو کر جائے گا تو شہر کے باہر نہیں لے جا سکتا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ - چیز عاریت پر لینے کے لیے کسی کو بھیجا قاصد کو مالک نہیں ملا اور چیز گھر میں تھی یہ اونٹن لایا اور مستعیر کو دیدی مگر اُس سے یہ نہیں کہا کہ بے اجازت لایا ہوں اگر چیز ضائع ہو جائے تو مالک تاوان لے سکتا ہے اختیار ہے مستعیر سے لے یا قاصد سے اور جس سے بھی لے گا وہ دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ - نابالغ بچہ کا مال اُس کا باپ کسی کو عاریت کے طور پر نہیں دے سکتا۔ غلام ماذون مولے کا مال⁽⁶⁾ عاریت دے سکتا ہے۔ عورت نے شوہر کی چیز عاریت پر دیدی اگر یہ چیز اس قسم کی ہے جو مکان کے اندر ہوتی ہے اور عادتاً عورتوں کے قبضہ بلکہ تصرف⁽⁷⁾ میں رہتی ہے اس کے ہلاک ہونے پر تاوان کسی پر نہیں نہ مستعیر پر نہ عورت پر۔ گھوڑا یا بیل عورت نے منگنی⁽⁸⁾ دیدیا مستعیر اور عورت دونوں ضامن ہیں کہ یہ چیزیں عورتوں کے قبضہ کی نہیں ہوتیں۔⁽⁹⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۶ - مالک نے مستعیر سے منفعت کے متعلق کہہ دیا ہے کہ اس چیز سے یہ کام لیا جائے یا وقت کی پابندی کر دی ہے کہ اتنے وقت تک یا دونوں باتیں ذکر کر دی ہیں یہ تین صورتیں ہوئیں عاریت میں چوتھی صورت یہ ہے کہ وقت و منفعت

①..... یعنی مستعیر کسی سے تاوان نہیں لے سکتا۔

②..... "الهدایة"، کتاب العاریة، ج ۲، ص ۲۱۹۔

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب الثالث فی التصرفات... إلخ، ج ۴، ص ۳۶۴۔

④..... المرجع السابق، ص ۳۶۴، ۳۶۵۔

⑤..... المرجع السابق، الباب الخامس فی ترضیع العاریة... إلخ، ج ۴، ص ۳۶۹۔

⑥..... آقا (مالک) کا مال۔ ⑦..... استعمال۔ ⑧..... عاریتاً۔

⑨..... "البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۷۸۔

دونوں میں کسی بات کی قید نہ ہو اس میں مستعیر کو اختیار ہے کہ جس قسم کا نفع چاہے اور جس وقت میں چاہے لے سکتا ہے کہ یہاں کوئی پابندی نہیں۔ تیسری صورت میں کہ دونوں باتوں میں تقید ہو⁽¹⁾ یہاں مخالفت نہیں کر سکتا مگر ایسی مخالفت کر سکتا ہے کہ جو کام لیتا ہے اسی کے مثل ہے جو اُس نے کہہ دیا یا اُس چیز کے حق میں اُس سے بہتر ہے۔ مثلاً جانور لیا ہے کہ اس پر یہ دامن گیہوں لاد کر فلاں جگہ پہنچائے گا اور بجائے اُس گیہوں کے دوسرے دامن گیہوں لاد کر اسی جگہ لے گیا کہ گیہوں، گیہوں دونوں یکساں ہیں یا اُس سے کم مسافت پر لے گیا کہ یہ اُس سے آسان ہے یا گیہوں کی دو بوریاں لادنے کو کہا تھا جو کی دو بوریاں لادیں کہ یہ اُن سے ہلکے ہوتے ہیں۔ پہلی اور دوسری صورت میں مخالفت نہیں کر سکتا مگر ایسی مخالفت کر سکتا ہے کہ جو کہہ دیا ہے اسی کی مثل ہو یا اُس سے بہتر اور چوتھی صورت میں اُس پر خود سوار ہو سکتا ہے دوسرے کو سوار کر سکتا ہے خود بوجھ لاد سکتا ہے دوسرے کو لادنے کے لیے دے سکتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ خود سوار ہوا تو دوسرے کو اب نہیں سوار کر سکتا اور دوسرے کو سوار کیا تو خود سوار نہیں ہو سکتا کہ اگرچہ مالک کی طرف سے قید نہ تھی مگر ایک کے کرنے کے بعد وہی متعین ہو گیا دوسرا نہیں کر سکتا۔⁽²⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۷ اجارہ میں بھی یہی صورتیں اور یہی احکام ہیں اور مخالفت کرنے کی صورت میں اگر وہ مخالفت جائز نہ ہو اور چیز ہلاک ہو جائے تو عاریت و اجارہ دونوں میں ضمان دینا ہوگا۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ مکمل⁽⁴⁾ و موزون⁽⁵⁾ و عددی متقارب⁽⁶⁾ کو عاریت لیا اور عاریت میں کوئی قید نہیں تو عاریت نہیں بلکہ قرض ہے مثلاً کسی سے روپے، پیسے، گیہوں، جو وغیرہ عاریت لیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو خرچ کرے گا اور اسی قسم کی چیز دے گا یعنی روپیہ لیا ہے تو روپیہ دے گا پیسہ لیا ہے تو پیسہ دے گا اور جتنا لیا اتنا ہی دے دیگا یہ عاریت نہیں بلکہ قرض ہے کیونکہ عاریت میں چیز کو باقی رکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہاں ہلاک و خرچ کر کے فائدہ اٹھانا ہے لہذا قرض کرو کہ قبیل انشاع⁽⁷⁾ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں جب بھی تاوان دینا ہوگا کہ قرض کا یہی حکم ہے کہ لینے والا مالک ہو جاتا ہے نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا دینے والے کا نہیں ہوگا ہاں اگر ان چیزوں کے عاریت لینے میں کوئی ایسی بات ذکر کر دی جائے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہو کہ ہقیقۃً عاریت ہی ہے قرض نہیں تو اُسے عاریت ہی قرار دیں گے مثلاً روپے یا پیسے مانگتا ہے کہ اس

①..... یعنی وقت کی پابندی ہو اور چیز سے جو کام لینا ہے وہ بھی بتا دیا ہو۔

②..... "الهدایة"، کتاب العاریة، ج ۲، ص ۲۱۹۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۶، ۵۵۵۔

④..... جو چیزیں ماپ کر بیچی جاتی ہیں۔

⑤..... جو چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں۔

⑥..... گن کر بیچی جانے والی وہ اشیا جن کے افراد میں زیادہ فرق نہ ہو۔

⑦..... فائدہ حاصل کرنے سے پہلے۔

سے کوئی چیز وزن کرے گا یا اس سے تول کر باٹ بنائے گا⁽¹⁾ یا اپنی دوکان کو سجائے گا تو عاریت ہے۔⁽²⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۱۹ پہننے کے کپڑے قرض مانگے یہ عرفاً عاریت ہے پیوند مانگا کہ کرتے میں لگائے گا یا اینٹ یا کڑی⁽³⁾ مکان میں لگانے کے لیے عاریت مانگی اور ان سب میں یہ کہہ دیا ہے کہ واپس دیدوں گا تو عاریت ہے اور یہ نہیں کہا ہے تو قرض ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ کسی سے ایک پیالہ سالن مانگا یہ قرض ہے اور اگر دونوں میں انبساط و بے تکلفی ہو تو اباحت ہے۔ گولی، چھرے عاریت لیے یہ قرض ہے اور اگر نشانہ پر مارنے کے لیے یعنی چاند ماری کے لیے گولی لی ہے تو عاریت ہے کیونکہ اُسے واپس دے سکتا ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ عاریت دینے والا جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے جب یہ واپس مانگے گا عاریت باطل ہو جائے گی عاریت کی ایک مدت مقرر کر دی تھی مثلاً ایک ماہ کے لیے یہ چیز دی اور مالک نے مدت پوری ہونے سے قبل مطالبہ کر لیا عاریت باطل ہو گئی اگرچہ مالک کو ایسا کرنا مکروہ و ممنوع ہے کہ وعدہ خلافی ہے مگر واپس لینے میں اگر مستعیر کا ظاہر نقصان ہو تو چیز اُس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتا بلکہ چیز اُس مدت تک مستعیر کے پاس بطور اجارہ رہے گی مالک کو اجرت مثل ملے گی مثلاً ایک شخص کی لونڈی کو بچہ کے دودھ پلانے کے لیے عاریت پر لیا اور اندرون مدت رضاعت⁽⁶⁾ مالک لونڈی کو مانگتا ہے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہیں لیتا جب تک مدت پوری نہ ہو لونڈی نہیں لے سکتا ہاں اس زمانہ کی واجبی اجرت⁽⁷⁾ وصول کر سکتا ہے کیوں کہ عاریت باطل ہو گئی۔ جہاد کے لیے گھوڑا عاریت لیا تھا اور چار ماہ اس کی مدت تھی دو مہینے کے بعد مالک اپنے گھوڑے کو واپس لینا چاہتا ہے اگر اسلامی علاقہ میں ہے مالک کو واپس دے دیا جائے گا اور اگر بلادِ شرک میں مطالبہ کرتا ہے ایسی جگہ کہ نہ وہاں کرایہ پر گھوڑا مل سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے تو مستعیر واپس دینے سے انکار کر سکتا ہے اور ایسی جگہ تک آنے کا کرایہ دے گا۔⁽¹⁾ یعنی ترازو کا پتھر بنائے گا۔

②..... "الهدایة"، کتاب العاریة، ج ۲، ص ۲۲۰.

و "الدرالمختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۶.

③..... شہتیر۔

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب الاول فی تفسیرہا شرعاً... إلخ، ج ۴، ص ۳۶۳.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۶.

⑥..... دودھ پلانے کی مدت کے دوران۔

⑦..... راج اجرت، راج معاوضہ۔

جہاں کرایہ پر گھوڑا ملتا ہو یا خریداجا سکتا ہو۔⁽¹⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۲۲ پچا⁽²⁾ وغیرہ کوئی ظرف⁽³⁾ مستعار لیا⁽⁴⁾ اُس میں گھی تیل وغیرہ بھر کر لے جا رہا تھا جب جنگل میں پہنچا تو مالک واپس مانگنے لگا جب تک آبادی میں نہ آجائے دینے سے انکار کر سکتا ہے مالک فقط یہ کر سکتا ہے کہ اتنی دیر کی اجرت لے لے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ زمین عاریت لی کہ اس میں مکان بنائے گا یا درخت نصب کرے گا یہ عاریت صحیح ہے اور مالک زمین کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہے اپنی زمین خالی کرالے کیونکہ عاریت میں کوئی پابندی مالک پر لازم نہیں اور اگر مکان یا درخت کھود کر نکلنے میں زمین خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس ملکہ کی جو مکان کھودنے کے بعد قیمت ہوگی یا درخت کے کاٹنے کے بعد جو قیمت ہوگی مالک زمین سے دلا دی جائے اور مالک مکان و درخت اپنے مکان و درخت کو بچھوڑ دے⁽⁶⁾۔ مالک زمین نے مستعیر کے لیے کوئی مدت مقرر کر دی تھی مثلاً دس سال کے لیے یہ زمین مکان بنانے کو یا درخت لگانے کو عاریت دی اور مدت پوری ہونے سے پہلے زمین واپس لینا چاہتا ہے اگرچہ یہ مکروہ و وعدہ خلافی ہے مگر واپس لے سکتا ہے، کیونکہ یہ عقد اُس کے ذمہ قضاء⁽⁷⁾ لازم نہیں مگر اس عمارت اور درخت کی وجہ سے مستعیر کا جو کچھ نقصان ہوگا مالک زمین اُس کو ادا کرے یعنی کھڑی عمارت کی قیمت لگائی جائے اور ملکہ جدا کر دینے کے بعد جو قیمت ہو اس میں عمارت کی قیمت سے جو کمی ہو مالک زمین یہ رقم مستعیر کو دے۔⁽⁸⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۴ زمین زراعت کے لیے عاریت دی اور واپس لینا چاہتا ہے جب تک فصل طیار نہ ہو اور کھیت کاٹنے کا وقت نہ آئے واپس نہیں لے سکتا وقت مقرر کر کے دی ہو یا مقرر نہ کیا ہو دونوں کا ایک حکم ہے یہ البتہ ہے کہ فصل طیار ہونے تک زمین کی جو اجرت ہو مالک زمین کو دلا دی جائے گی۔ اگر کھیت بولیا ہے مگر ابھی تک جمانہیں ہے⁽⁹⁾ مالک زمین یہ کہتا ہے کہ بیج لے لو اور جو کچھ صرفہ ہوا⁽¹⁰⁾ ہے وہ لے لو اور کھیت چھوڑ دو یہ نہیں کر سکتا اگرچہ کاشتکار اس پر راضی بھی ہو کیونکہ جنمے سے

①..... "البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۷۷.

و "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۱.

②..... کنسٹر۔ ③..... برتن۔ ④..... عاریتاً لیا، مانگا۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب السابع فی استرداد العاریة... إلخ، ج ۴، ص ۳۷۱.

⑥..... یعنی نہ درخت کاٹے نہ مکان گرائے بلکہ ویسے ہی رہنے دے۔ ⑦..... شرعی فیصلے کی رو سے۔

⑧..... "الدر المختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۶.

⑨..... یعنی اُگانہیں ہے۔ ⑩..... خرچہ ہوا۔

پہلے زراعت کی بیع نہیں ہو سکتی اور کھیت جم گیا ہے تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔⁽¹⁾ (بحر، عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ → مکان عاریت پر لیا اور مستعیر نے مٹی کی اُس میں کوئی دیوار بنوائی مکان والے نے مکان واپس لیا مستعیر اُس دیوار کی قیمت یا صرفہ لینا چاہتا ہے نہیں لے سکتا اور اگر چاہتا ہے کہ دیوار گرا دے تو گرا بھی نہیں سکتا اگر دیوار مالک مکان کی مٹی سے بنوائی ہے۔ زمین عاریت پر لی کہ اس میں مکان بنائے گا اور رہے گا اور جب یہاں سے چلا جائے گا تو مکان مالک زمین کا ہو جائے گا یہ عاریت نہیں ہے بلکہ اجارہ فاسدہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعیر وہاں رہے زمین کا واجباً کرایہ اُس کے ذمہ ہے اور جب چھوڑ دے تو مکان کا مالک مستعیر ہے مالک زمین نہیں۔⁽²⁾ (بحر)

مسئلہ ۲۶ → کسی سے کہا کہ میری اس زمین میں مکان بنا لو میں تمہارے پاس اس زمین کو ہمیشہ رہنے دوں گا یا فلاں وقت تک تمہیں نہیں نکالوں گا اور اگر میں نکالوں تو جو کچھ تم خرچ کرو گے میں اُس کا ضامن ہوں اور عمارت میری ہوگی اس صورت میں اگر مستعیر کو نکالے گا عمارت کی قیمت دینی ہوگی اور عمارت مالک زمین کی ہوگی۔⁽³⁾ (خانہ)

مسئلہ ۲۷ → جانور عاریت پر لیا ہے تو اُس کا چارہ دانہ گھاس سب مستعیر کے ذمہ ہے یہی حکم لونڈی غلام کا ہے کہ اُنکی خوراک مستعیر کے ذمہ ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار) اور اگر بے مانگے خود مالک نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ اور اس سے کام لو تو اس صورت میں خوراک مالک کے ذمہ ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ → مستعیر کے پاس ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص سے فلاں چیز میں نے عاریت لی ہے اور وہ تمہارے یہاں ہے اُس نے کہہ دیا ہے کہ تم وہاں سے لے لو مستعیر نے اُس کو وکیل سمجھ کر چیز دیدی مالک نے انکار کیا کہتا ہے میں نے اُس سے یہ نہیں کہا تھا تو مستعیر کو تاوان دینا ہوگا اور اس شخص سے واپس بھی نہیں لے سکتا جبکہ اُس کی تصدیق کی تھی ہاں اگر اُس کی تصدیق نہیں کی تھی یا تکذیب کی تھی⁽⁶⁾ یا شرط کر دی تھی کہ ہلاک ہوئی تو تاوان دینا ہوگا اس صورت میں جو کچھ مستعیر نے تاوان دیا ہے اس سے وصول کر سکتا ہے۔ اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب مستعیر ایسا تصرف کرے جو موجب ضمان⁽⁷⁾

①..... "البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۸۱.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب العاریة، الباب السابع فی استرداد العاریة... إلخ، ج ۴، ص ۳۷۰.

②..... "البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۸۱.

③..... "الفتاویٰ الخانیۃ"، کتاب العاریة، فصل فیما یضمن المستعیر، ج ۴، ص ۳۵۲.

④..... "ردالمحتار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۸.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب العاریة، الباب التاسع فی المتفرقات، ج ۴، ص ۳۷۲.

⑥..... جھٹلا یا تھا۔

⑦..... تاوان کو لازم کرنے والا۔

ہو اور دعویٰ یہ کرے کہ مالک کی اجازت سے میں نے کیا ہے اور مالک اسکی تکذیب کرے تو مستعیر⁽¹⁾ کو ضمان دینا ہوگا، ہاں اگر گواہوں سے مالک کی اجازت ثابت کر دے تو ضمان سے بری ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ عاریت کی واپسی مستعیر کے ذمہ ہے جو کچھ واپس کرنے میں صرفہ⁽³⁾ ہوگا یہ اپنے پاس سے دے گا۔ عاریت کے لیے کوئی وقت معین کر دیا تھا کہ اتنے دنوں کے لیے یا اتنی دیر کے لیے چیز دیتا ہوں وہ وقت گزر گیا اور چیز نہیں پہنچائی اور ہلاک ہوگئی مستعیر کے ذمہ تاوان ہے کہ اس نے وقت پورا ہونے کے بعد کیوں نہیں پہنچائی جبکہ پہنچانا اس کے ذمہ تھا۔ اگر مستعیر نے عاریت اس لیے لی ہے کہ اُسے رہن رکھے گا اور فرض کر دے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اُسکی واپسی میں کچھ صرفہ ہوگا تو یہ صرفہ مستعیر کے ذمہ نہیں ہے بلکہ مالک کے ذمہ ہے پہلے جو بیان کیا گیا ہے کہ واپسی کا خرچہ مستعیر کے ذمہ ہے اس حکم سے صورت مذکورہ کا استثناء ہے۔⁽⁴⁾ (بحر)

مسئلہ ۳۰ ایک شخص نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا غلام فلاں شخص کی خدمت کرے یعنی وہ وارث کی ملک ہے⁽⁵⁾ اور موصلیٰ لہ کی اتنے دنوں خدمت کرے اس میں بھی واپسی کا صرفہ موصلیٰ لہ کے ذمہ ہے۔ غصب و رہن میں واپسی کی ذمہ داری و مصارف⁽⁶⁾ غاصب و مرتہن پر ہیں۔ مالک نے اپنی چیز اجرت پر دی تو واپسی کی ذمہ داری و مصارف مالک پر ہیں۔ یہ اُس وقت ہے کہ وہاں سے لے جانا مالک کی اجازت سے ہو مثلاً کہیں جانے کے لیے ٹو⁽⁷⁾ کرایہ پر لیا وہاں تک گیا ٹو واپس کرنا اس کا کام نہیں بلکہ مالک کا کام ہے اور اگر اُس کے حکم سے نہیں لے گیا ہے تو پہنچانا اس کے ذمہ ہے۔ مثلاً کرسی کرایہ پر لی اور شہر سے باہر لے گیا تو واپس کرنا اس کا کام ہوگا۔ شرکت و مضاربت اور موہوب شے⁽⁸⁾ جس کو مالک نے واپس کر لیا ان سب کی واپسی مالک کے ذمہ ہے۔ اجیر مشترک جیسے درزی دھوبی کپڑے کی واپسی ان کے ذمہ ہے۔⁽⁹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... عاریت لینے والا۔

②..... ”ردالمحتار“، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۸۔

③..... خرچہ۔

④..... ”البحر الرائق“، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۸۱۔

⑤..... یعنی وارث ہی اس کا مالک ہے۔ ⑥..... اخراجات۔

⑦..... چھوٹے قد کا گھوڑا۔ ⑧..... بہہ کی گئی چیز۔

⑨..... ”الدر المختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۸۔

مسئلہ ۳۱ مستعیر نے جانور کو اپنے غلام یا نوکر کے ہاتھ یا مالک کے غلام کے ہاتھ یا نوکر کے ہاتھ واپس کر دیا اور مالک کے قبضہ کرنے سے پہلے ہلاک ہو گیا مستعیر تاوان سے بری ہو گیا کہ جس طرح واپس کرنے کا دستور تھا بجایا یا اگر مزدور کے ہاتھ واپس کیا ہو جو روز پر کام کرتا ہے وہ مستعیر کا مزدور ہو یا مالک کا یا اجنبی کے ہاتھ واپس کیا اور قبضہ سے پہلے ہلاک ہو جائے تو ضمان دینا ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ عاریت کے لیے مدت تھی اور مدت گزرنے کے بعد مزدور یا اجنبی کے ہاتھ بھیجا ہو اور مدت نہ ہو یا مدت کے اندر بھیجا ہو تو اس میں تاوان نہیں کیونکہ مستعیر کو ودیعت رکھنا جائز ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۲ عمدہ و نفیس اشیاء جیسے زیور موتیوں کا ہار ان کو غلام اور نوکر کے ہاتھ واپس کرنے سے تاوان سے بری نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں اس طرح واپس نہیں کی جاتیں۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ مستعیر گھوڑے کو مالک کے اصطبل^(۳) میں باندھ گیا یا غلام کو مکان پر پہنچا گیا بری ہو گیا اور اگر گھوڑا غصب کیا ہوتا یا ودیعت کے طور پر ہوتا تو اس طرح پہنچا جانا کافی نہ ہوتا بلکہ مالک کو قبضہ دلانا ہوتا۔^(۴) (بحر) اور اگر اصطبل مکان سے باہر ہے وہاں باندھ گیا تو عاریت کی صورت میں بھی بری نہیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ چیز واپس کرنے لایا مالک نے کہا اُس جگہ رکھ دو رکھنے میں وہ چیز ٹوٹ گئی مگر اُس نے قصداً^(۶) نہیں توڑی ضمان واجب نہیں۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ دو شخص ایک کمرہ میں رہتے ہیں ایک جانب ایک دوسری جانب دوسرا ایک نے دوسرے سے کوئی چیز عاریت لی جب معیر نے واپس مانگی تو مستعیر نے کہا کہ تمہاری جانب جو طاق^(۸) ہے اُس پر میں نے چیز رکھ دی تھی تو مستعیر پر ضمان^(۹) واجب نہیں جبکہ یہ مکان انھیں دونوں کے قبضے میں ہے۔^(۱۰) (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۵۹.

②.....المرجع السابق.

③.....گھوڑا باندھنے کی جگہ۔

④....."البحر الرائق"، کتاب العاریة، ج ۷، ص ۴۸۲.

⑤....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب السادس فی رد العاریة، ج ۴، ص ۳۶۹.

⑥.....ارادۃ، جان بوجھ کر۔

⑦....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب السادس فی رد العاریة، ج ۴، ص ۳۶۹.

⑧.....دیوار کے آثار میں خانہ داری کی معمولی چیزیں رکھنے کی محراب دار یا چوکور جگہ۔ ⑨.....تاوان۔

⑩....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب العاریة، الباب الثامن فی الاختلاف... إلخ، ج ۴، ص ۳۷۲.

مسئلہ ۳۶ سونے کا ہار عاریت مانگ لایا اور بچہ کو پہنا دیا اُس کے پاس سے چوری ہو گیا اگر بچہ ایسا ہے کہ ایسی چیزوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو تاوان نہیں، ورنہ تاوان دینا ہوگا۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۷ باپ کو اختیار نہیں ہے کہ نابالغ کی چیز عاریت دے دے قاضی اور وصی بھی نہیں دے سکتے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۳۸ ایک شخص سے نیل عاریت مانگا اُس نے کہا کل دوں گا دوسرے دن مانگنے والا آیا اور بغیر اجازت نیل کھول لے گیا اُسے کام میں لایا اور نیل مر گیا تاوان دینا ہوگا کہ بغیر اجازت لے گیا ہے اور اگر صورت یہ ہے کہ مالک سے یہ کہا کہ مجھ کو کل نیل دے دو مالک نے کہا ہاں اور بغیر اجازت لے گیا اور مر گیا تو تاوان نہیں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں دوسرے دن نیل دینے کا وعدہ کیا ہے ابھی عاریت دیا نہیں اور دوسری صورت میں عاریت ابھی دیدی اور مستعیر کل لے جائے گا اور کل قبضہ کرے گا۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۹ لڑکی رخصت کی اور جہیز بھی ویسا دیا جیسا ایسے لوگوں کے یہاں دیا جاتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ سامان جہیز میں نے عاریت کے طور پر دیا تھا اگر وہاں کا عرف^(۴) یہ ہے کہ باپ بیٹی کو جو کچھ جہیز دیتا ہے وہ لڑکی کی ملک ہوتا ہے عاریت کے طور پر نہیں ہوتا تو اس شخص کی بات کہ عاریت ہے مقبول نہیں اور اگر عرف عاریت ہی کا ہے یا اکثر عاریت کے طور پر دیتے ہیں یا دونوں طرح یکساں چلن ہے تو اسکی بات مقبول ہے لڑکی کی ماں یا نابالغہ کے ولی نے وہی بات کہی جو باپ نے کہی تھی تو ان کا بھی وہی حکم ہے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۴۰ عاریت کی وصیت کی ہے ورنہ اس سے رجوع نہیں کر سکتے۔ عاریت کا حکم اجارہ کی طرح ہے کہ دونوں میں سے ایک مر جائے عاریت فسخ ہو جائے گی۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۴۱ جانور کو کسی مقام تک کے لیے کرایہ پر لیا تو صرف وہاں تک جانا ہی کرایہ پر ہے آنا داخل نہیں اور اگر اُس مقام تک کے لیے عاریت پر لیا ہے تو آمد و رفت دونوں شامل ہیں۔ کہیں جانے کے لیے جانور کو عاریت پر لیا تھا

①....."الدرالمختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۶۱.

②.....المرجع السابق، ص ۵۶۲.

③....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۶۲.

④.....رواج، دستور۔

⑤....."الدرالمختار"، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۶۲.

⑥.....المرجع السابق، ص ۵۶۵.

وہاں گیا نہیں بلکہ جانور کو گھر میں باندھ رکھا اور ہلاک ہو گیا تو تاوان دینا ہوگا کہ جانور جانے کے لیے لیا تھا نہ کہ باندھنے کے لیے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۲ → کتاب عاریت لی دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس میں کتابت کی غلطیاں ہیں اگر معلوم ہو کہ غلطی درست کر دینے پر مالک راضی ہے تو غلطیوں کی اصلاح کر دے⁽²⁾ اور اگر غلطی کی اصلاح نہ کرے بدستور چھوڑ دے تو اس میں گنہگار نہیں اور قرآن شریف کی کتابت کی غلطیاں درست کرنا ضروری ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۳ → ایک شخص نے انگوٹھی رہن رکھی اور مرتہن سے کہہ دیا اسے پہن لو اس نے پہن لی تو رہن نہیں بلکہ عاریت ہے کہ اگر ضائع ہوگئی دین ساقط نہیں ہوگا اور اگر مرتہن نے اوتار لی تو رہن ہوگئی کہ ضائع ہونے سے دین ساقط ہوگا اور اگر رہن نے کلمہ کی انگلی میں پہننے کو کہا تو عاریت نہیں بلکہ رہن ہے کہ عادتاً⁽⁴⁾ اس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہنی جاتی۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

ہبہ کا بیان

ہبہ کے فضائل میں بکثرت احادیث آئی ہیں بعض ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ → امام بخاری نے ادب مفرد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”باہم ہدیہ کرو، اس سے آپس میں محبت ہوگی۔“⁽⁶⁾

حدیث ۲ → ترمذی نے اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہدیہ کرو کہ اس سے حسد دور ہو جاتا ہے۔“⁽⁷⁾

①..... ”الدر المختار“، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۶۵.

②..... درست کر دے۔

③..... ”الدر المختار“، کتاب العاریة، ج ۸، ص ۵۶۵.

④..... عام طور پر۔

⑤..... ”الفتاویٰ الہندیة“، کتاب العاریة، الباب التاسع فی التفرقات، ج ۴، ص ۳۷۳.

⑥..... ”الأدب المفرد“، للبخاری، باب قبول الهدیة، الحدیث: ۶۰۷، ص ۱۶۸.

⑦..... ”مشکاة المصابیح“، کتاب البیوع، باب فی الهبة والهدیة، الحدیث: ۳۰۲۷، ج ۲، ص ۱۸۷.

⑧..... لم نجدہ فی سنن الترمذی و لكن فی مشکاة بهذا اللفظ فلذا خرّجنا منها... علمية

حدیث ۳ — ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”ہدیہ کرو کہ اس سے سینہ کا کھوٹ (1) دور ہو جاتا ہے اور پروس والی عورت پروسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہو۔“ (2) اسی کے مثل بخاری شریف میں بھی انہیں سے مروی۔ (3) مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر تھوڑی چیز میسر آئے تو وہی ہدیہ کرے یہ نہ سمجھے کہ ذرا سی چیز کیا ہدیہ کی جائے یا یہ کہ کسی نے تھوڑی چیز ہدیہ کی تو اُسے نظرِ حقارت سے نہ دیکھے یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ذرا سی چیز بھیجی ہے۔ اس حکم میں خاص عورتوں کو ممانعت فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ مادہ بہت پایا جاتا ہے بات بات پر اس قسم کی نکتہ چینی کیا کرتی ہیں اور عموماً جو چیزیں ہدیہ بھیجی جاتی ہیں وہ عورتوں ہی کے قبضے میں ہوتی ہیں لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ پروس والی کو چیز بھیجنے میں یہ خیال نہ کرے کہ کم ہے۔

حدیث ۴ — صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اگر مجھے دست یا پایہ کے لیے بلا یا جائے تو اس دعوت کو قبول کروں گا اور اگر یہ چیزیں میرے پاس ہدیہ کی جائیں تو انہیں قبول کروں گا۔“ (4)

حدیث ۵ — صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہتی ہیں: میں نے ایک کنیز (5) آزاد کر دی تھی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو اس کی اطلاع دی، فرمایا: ”اگر تم نے اپنے ماموؤں کو دے دی ہوتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔“ (6)

حدیث ۶ — ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے مہاجرین نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کی: یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) جن کے یہاں ہم ٹھہرے ہیں (یعنی انصار) ان سے بڑھ کر ہم نے کسی کو زیادہ خرچ کرنے والا نہیں دیکھا اور تھوڑا ہو تو اسی سے موساسا (7)

①..... کینہ، میل۔

②..... ”جامع الترمذی“، کتاب الولاء والہبۃ، باب فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الہدیۃ، الحدیث: ۲۱۳۷، ج ۴، ص ۴۹۔

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الہبۃ... إلخ، باب الہبۃ وفضلہا... إلخ، الحدیث: ۲۵۶۶، ج ۲، ص ۱۶۵۔

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الہبۃ... إلخ، باب القلیل من الہبۃ، الحدیث: ۲۵۶۸، ج ۲، ص ۱۶۶۔

⑤..... لونڈی۔

⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب الہبۃ... إلخ، باب ہبۃ المرأۃ لغير زوجہا... إلخ، الحدیث: ۲۵۹۲، ج ۲، ص ۱۷۳۔

⑦..... دل جوئی، خیر خواہی۔

کرتے ہیں، انہوں نے کام کی ہم سے کفایت کی اور منافع میں ہمیں شریک کر لیا یعنی باغات کے کام یہ کرتے ہیں اور جو کچھ پیداوار ہوتی ہے اُس میں ہمیں شریک کر لیتے ہیں ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا ثواب یہی لوگ لے لیں گے۔ ارشاد فرمایا: ”نہیں جب تک تم اُن کے لیے دُعا کرتے رہو گے اور اُن کی ثنا کرتے رہو گے (تم بھی اجر کے مستحق بنو گے)۔“ (1)

حدیث ۷ — ترمذی و ابو داؤد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کو کوئی چیز دی گئی اگر اُس کے پاس کچھ ہے تو اُس کا بدلہ دے اور بدلہ دینے پر قادر نہ ہو تو اُس کی ثنا کرے۔“ (2)

حدیث ۸ — ترمذی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے ساتھ احسان کیا گیا اور اُس نے احسان کرنے والے کے لیے یہ کہا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا تو پوری ثنا کر دی۔“ (3)

حدیث ۹ — صحیح بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کسی قسم کا کھانا کہیں سے آتا تو دریافت فرماتے صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اگر کہا جاتا صدقہ ہے تو۔ (فقراے) صحابہ سے فرماتے: ”تم لوگ اسے کھاؤ“ اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو صحابہ کے ساتھ خود بھی تناول فرماتے۔ (4)

حدیث ۱۰ — انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے روایت کی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرماتے (5) اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے پاس پھول پیش کیا جائے تو واپس نہ کرے کہ اٹھانے میں ہلکا ہے اور بو اچھی ہے۔“ (6) ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دینے والے کا احسان زیادہ نہیں ہے۔

حدیث ۱۱ — ترمذی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تین چیزیں واپس نہ کی جائیں، تکیہ اور تیل اور دودھ۔“ (7) بعض نے کہا تیل سے مراد خوشبو ہے۔

①..... ”جامع الترمذی“، کتاب صفة القيامة... إلخ، باب: ۴۴، الحدیث: ۲۴۹۵، ج ۴، ص ۲۲۰.

②..... ”جامع الترمذی“، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في المتشعب بما لم يعطه، الحدیث: ۲۰۴۱، ج ۳، ص ۴۱۷.

③..... المرجع السابق، باب ما جاء في الثناء بالمعروف، الحدیث: ۲۰۴۲، ج ۳، ص ۴۱۷.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الہبة... إلخ، باب قبول الهدية، الحدیث: ۲۵۷۶، ج ۲، ص ۱۶۸.

⑤..... المرجع السابق، باب ما لا یرد من الهدية، الحدیث: ۲۵۸۲، ج ۲، ص ۱۷۰.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب الالفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك... إلخ، الحدیث: ۲۲۵۳، ص ۱۲۳۷.

⑦..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية رد الطيب، الحدیث: ۲۷۹۹، ج ۴، ص ۳۶۲.

حدیث ۱۲ — ترمذی نے ابو عثمان نہدی سے مرسل روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی کو پھول دیا جائے تو واپس نہ کرے کہ وہ جنت سے نکلا ہے۔“ (1)

حدیث ۱۳ — بیہقی نے دعوات کبیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نیا پھل حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں پیش کیا جاتا اُسے آنکھوں اور ہونٹوں پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَارِنَا آخِرَهُ۔ (اے اللہ! (عزوجل) جس طرح تو نے ہمیں اس کا اول دکھایا ہے، اس کا آخر دکھا۔) اس کے بعد جو چھوٹا بچہ حاضر ہوتا اُسے دے دیتے۔ (2)

حدیث ۱۴ — صحیح بخاری میں ہے اُمّ المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرے دو پروسی ہیں ان میں کس کو ہدیہ کروں؟ ارشاد فرمایا: ”جس کا دروازہ تم سے زیادہ نزدیک ہو۔“ (3)

حدیث ۱۵ — صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہدیہ، ہدیہ تھا اور اس زمانہ میں رشوت ہے۔ یعنی حکام کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے۔ (4)

مسائل فقہیہ

مسئلہ ۱ — کسی چیز کا دوسرے کو بلا عوض مالک کر دینا ہبہ ہے یعنی اس میں عوض ہونا شرط و ضروری نہیں۔ (5) (درر) دینے والے کو واہب کہتے ہیں اور جس کو دی گئی اُسے موہوب لہ اور چیز کو موہوب اور کبھی چیز کو ہبہ بھی کہتے ہیں۔

مسئلہ ۲ — ہبہ میں واہب کے لیے کبھی دنیا کا نفع ہے کبھی نفع اخروی (6)۔ نفع دنیوی مثلاً ہبہ کر کے کچھ عوض لینا یا اس واسطے ہبہ کیا کہ لوگوں میں اس کا ذکر خیر ہوگا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن پر اپنی اولاد کو جو دوا احسان (7) کی

①..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية رد الطيب، الحديث: ۲۸۰۰، ج ۴، ص ۳۶۲۔

②..... ”مشكاة المصابيح“، کتاب البيوع، باب في الهبة والهدية، الحديث: ۳۰۳۲، ج ۲، ص ۱۸۸۔

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الهبة... إلخ، باب بمن يبدا بالهدية، الحديث: ۲۵۹۵، ج ۲، ص ۱۷۴۔

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الهبة... إلخ، باب من لم يقبل الهدية لعلة، ج ۲، ص ۱۷۴۔

⑤..... ”درر الحکام“ شرح ”غرر الأحکام“، کتاب الهبة، الجزء الثاني، ص ۲۱۷۔

⑥..... آخرت کا نفع۔

⑦..... سخاوت و بھلائی۔

تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے کیونکہ جو دو احسان سے دُنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دُنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہبہ کا قبول کرنا سنت ہے ہدیہ کرنے سے آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۔ ہبہ صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں:

واہب کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، مالک ہونا، نابالغ کا ہبہ صحیح نہیں اسی طرح غلام کا ہبہ کرنا بھی کہ یہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں، جو چیز ہبہ کی جائے وہ موجود ہو اور، قبضہ میں ہو، مشاع^(۲) نہ ہو، متمیز ہو،^(۳) مشغول نہ ہو۔ اس کے ارکان ایجاب و قبول ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہبہ کرنے سے چیز موہوب لہ کی ملک ہو جاتی ہے اگرچہ یہ ملک لازم نہیں ہے۔ اس میں خیار شرط صحیح نہیں مثلاً ہبہ کیا اور موہوب لہ کے لیے تین دن کا اختیار دیا ہاں اگر جدائی سے پہلے اُس نے ہبہ کو اختیار کر لیا ہبہ صحیح ہو گیا ورنہ نہیں۔ اور اگر واہب نے اپنے لیے تین دن کا اختیار رکھا ہے تو ہبہ صحیح ہے اور خیار باطل، شرط فاسدہ^(۴) سے ہبہ باطل نہیں ہوتا بلکہ خود شرطیں ہی باطل ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص کو اپنا غلام اس شرط پر ہبہ کیا کہ وہ غلام کو آزاد کر دے ہبہ صحیح ہے اور شرط باطل۔^(۵) (بحر، عالمگیری)

مسئلہ ۴۔ ہبہ دو قسم ہے ایک تملیک دوسرا اسقاط مثلاً جس پر مطالبہ تھا مطالبہ اُسے ہبہ کرنا اُس کو ساقط کرنا ہے۔ مدیون^(۶) کے سوا دوسرے کو دین^(۷) ہبہ کرنا اُس وقت صحیح ہے کہ قبضہ کا بھی اُس کو حکم دیدیا ہو اور قبضہ کا حکم نہ دیا ہو تو صحیح نہیں۔^(۸) (بحر)

مسئلہ ۵۔ ایک شخص نے ہنسی مذاق کے طور پر دوسرے سے چیز ہبہ کرنے کو کہا مثلاً یار دوستوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذاق میں کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ یا یہ چیز دے دو مگر اُس نے سچ مچ کو ہبہ کر دیا یہ ہبہ صحیح ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہبہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز تم میں سے ایک کے لیے ہبہ کر دی جس کا جی چاہے لے لے اُن میں سے ایک نے

①..... "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۶۸.

②..... وہ مشترک چیز جس میں شریکوں کے حصے ممتاز نہ ہوں۔

③..... جدا ہو، نمایاں ہو۔

④..... ایسی شرطیں جو کسی عقد کے تقاضے کے خلاف ہوں۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۳.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبہ، الباب الاول فی تفسیر الہبہ... إلخ، ج ۴، ص ۳۷۴.

⑥..... مقروض۔

⑦..... قرض۔

⑧..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۳.

لے لی ہبہ درست ہو گیا وہ مالک ہو گیا یا کہہ دیا میں نے اپنے باغ کے پھل کی اجازت دیدی ہے جو چاہے لے لے جو لے گا مالک ہو جائے گا اور اگر ایسے شخص نے لیا جس کو واہب کے اس ہبہ کی خبر نہیں پہنچی ہے اُس کو لینا جائز نہیں۔⁽¹⁾ (بحر) اور علم سے پہلے کھایا تو حرام کھایا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ ہبہ کے بہت سے الفاظ ہیں۔ میں نے تجھے ہبہ کیا، یہ چیز تمہیں کھانے کو دی۔ یہ چیز میں نے فلاں کے لیے یا تیرے لیے کر دی، میں نے یہ چیز تیرے نام کر دی، میں نے اس چیز کا تجھے مالک کر دیا، اگر قرینہ ہو⁽³⁾ تو ہبہ ہے ورنہ نہیں کیونکہ مالک کرنا بیع وغیرہ بہت چیزوں کو شامل ہے۔ عمر بھر کے لیے یہ چیز دیدی، اس گھوڑے پر سوار کر دیا، یہ کپڑا پہننے کو دیا، میرا یہ مکان تمہارے لیے عمر بھر رہنے کو ہے، یہ درخت میں نے اپنے بیٹے کے نام لگا دیا ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، بحر)

مسئلہ ۷ ہبہ کے بعض الفاظ ذکر کر دیے اور اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر لفظ ایسا بولا جس سے ملک رقبہ سمجھی جاتی ہو یعنی خود اُس شے کی ملک تو ہبہ ہے اور اگر منافع کی تملیک معلوم ہوتی ہو⁽⁵⁾ تو عاریت ہے اور دونوں کا احتمال ہے تو نیت دیکھی جائے گی۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ مرد نے عورت کو کپڑے بنوانے کے لیے روپے دیے کہ بنا کر پہنے یہ ہبہ ہے چھوٹے بچے کے لیے کپڑے بنوائے تو بنواتے ہی بلکہ قطع کراتے ہی اُس کی ملک ہو گئے بچہ کو دے یا نہ دے اور بالغ لڑکے کے لیے بنوائے تو جب تک اُس کو قبضہ نہ دے مالک نہیں ہوگا۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ ہبہ کے لیے قبول ضروری ہے یعنی موہوب لہ جب تک قبول نہ کرے اُس کے حق میں ہبہ نہیں ہوگا اگرچہ واہب کے حق میں فقط ایجاب سے ہبہ ہو جائے گا بخلاف بیع کہ اس میں جب تک ایجاب و قبول دونوں نہ ہوں بائع⁽⁸⁾ و مشتری⁽⁹⁾ کسی کے حق میں بیع نہیں اس کا حاصل یہ ہوا کہ مثلاً قسم کھائی تھی کہ یہ چیز فلاں کو ہبہ کر دوں گا اس نے ایجاب کیا مگر

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۸۴.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثالث فیما... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۲.

③..... ایسی بات جو ہبہ ہونے پر دلالت کر دے۔

④..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۷۰.

و "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۸۳.

⑤..... یعنی نفع حاصل کرنے کا اختیار معلوم ہوتا ہو۔

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۷۱.

⑦..... "ردالمحتار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۷۱.

⑧..... بیچنے والا۔

⑨..... خریدار۔

اُس نے قبول نہ کیا قسم میں سچا ہو گیا اور اگر قسم کھاتا کہ اسے فلاں کے ہاتھ بیچ کروں گا اور ایجاب کیا مگر اُس نے قبول نہیں کیا حاث ہو گیا قسم ٹوٹ گئی۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۰ ہبہ کا قبول کرنا کبھی الفاظ سے ہوتا ہے اور کبھی فعل سے مثلاً اس نے ایجاب کیا یعنی کہا میں نے یہ چیز تمہیں ہبہ کر دی اُس نے لے لی ہبہ تمام ہو گیا۔⁽²⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۱ ہبہ تمام ہونے کے لیے قبضہ کی بھی ضرورت ہے بغیر اس کے ہبہ تمام نہیں ہوتا پھر اگر اسی مجلس میں قبضہ کرے تو واہب کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں اور مجلس بدل جانے کے بعد قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اجازت درکار ہے ہاں اگر جس مجلس میں ہبہ کیا ہے اُس نے کہہ دیا ہے کہ تم قبضہ کر لو تو اب اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں وہی پہلی اجازت کافی ہے۔⁽³⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۱۲ قبضہ پر قادر ہونا بھی قبضہ ہی کے حکم میں ہے مثلاً صندوق میں کپڑے ہیں اور کپڑے ہبہ کر کے صندوق اُسے دیدیا اگر صندوق مقفل ہے⁽⁴⁾ قبضہ نہیں ہوا اور قفل کھلا ہوا ہے قبضہ ہو گیا یعنی ہبہ تمام ہو گیا کہ قبضہ پر قادر ہو گیا۔⁽⁵⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۳ واہب نے موہوب لہ کو قبضہ سے منع کر دیا تو اگرچہ قبضہ کر لے یہ قبضہ صحیح نہیں مجلس میں قبضہ کرے یا بعد میں اس صورت میں ہبہ تمام نہیں۔⁽⁶⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۴ ہبہ کے لیے قبضہ کامل⁽⁷⁾ کی ضرورت ہے اگر موہوب شے (یعنی جو چیز ہبہ کی گئی ہے) واہب کی ملک کو شامل ہو تو قبضہ کامل ہو گیا اور ہبہ تمام ہو گیا اور اُس کی ملک میں مشغول ہے تو قبضہ کامل نہیں ہوا مثلاً بوری میں واہب کا غلہ ہے بوری ہبہ کر دی اور مع غلہ کے قبضہ دیدیا یا مکان میں واہب کے سامان ہیں مکان ہبہ کر دیا اور سامان کے ساتھ قبضہ دیا ہبہ تمام نہیں

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۵.

②..... المرجع السابق.

③..... "الہدایہ"، کتاب الہبہ، ج ۲، ص ۲۲۲.

و "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۲.

④..... یعنی تالالگا ہوا ہے۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۶.

⑥..... المرجع السابق.

⑦..... مکمل طور پر قبضہ۔

ہوا اور اگر غلہ ہبہ کیا یا مکان میں جو چیزیں تھیں اُن کو ہبہ کیا اور بوری سمیت قبضہ دید یا مکان اور سامان سب پر قبضہ دید یا ہبہ تمام ہو گیا۔ یوہیں گھوڑے پر کاٹھی (1) کسی ہوئی اور لگام لگی ہوئی تھی کاٹھی اور لگام کو ہبہ کیا اور گھوڑے پر مع کاٹھی اور لگام کے قبضہ کیا ہبہ تمام نہیں ہوا اور گھوڑے کو ہبہ کیا اور قبضہ دے دیا اگر چہ کاٹھی اور لگام کے ساتھ ہے قبضہ تمام ہو گیا۔ یوہیں کنیز زیور پہنے ہوئے ہے کنیز کو ہبہ کیا اور قبضہ دید یا ہبہ تمام ہو گیا۔ اور زیور کو ہبہ کیا تو جب تک زیور اتار کر قبضہ نہ دے گا ہبہ تمام نہیں ہوگا۔ (2) (بحر، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ موہوب چیز ملک غیر واہب (3) میں مشغول ہو اور قبضہ کر لیا ہبہ تمام ہو گیا مثلاً مکان ہبہ کیا جس میں مستحق کی چیزیں ہیں یا اُن چیزوں کو واہب یا موہوب لہ نے غصب کیا ہے اور موہوب لہ نے مع اُن چیزوں کے مکان پر قبضہ کر لیا ہبہ تمام ہو گیا۔ (4) (بحر)

مسئلہ ۱۶ اگر اپنے نابالغ بچہ کو ہبہ کیا اور موہوب شے ملک واہب میں مشغول ہے مثلاً نابالغ لڑکے کو مکان ہبہ کیا جس میں باپ کا سامان موجود ہے یہ مشغولیت مانع تمامیت نہیں یعنی ہبہ تمام ہو گیا۔ یوہیں مکان ہبہ کیا جس میں کچھ لوگ بطور عاریت رہتے ہیں ہبہ تمام ہو گیا اور اگر کرایہ پر رہتے ہوں تو نہیں۔ یوہیں عورت نے اپنا مکان شوہر کو ہبہ کیا اور مکان پر شوہر کو قبضہ دید یا اگر چہ اُس میں عورت کا اثاثہ موجود ہو قبضہ کامل ہو گیا۔ (5) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ مشغول کو ہبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شاعل کو موہوب لہ کے پاس پہلے ودیعت رکھ دے پھر مشغول کو ہبہ کر کے قبضہ دیدے اب ہبہ صحیح ہو جائے گا مثلاً مکان میں جو سامان ہے اسے ودیعت رکھ کر مکان پر قبضہ دلا دے۔ (6) (درمختار)

مسئلہ ۱۸ ہبہ میں یہ ضروری ہے کہ موہوب شے غیر موہوب سے جدا ہوا اگر غیر کے ساتھ متصل ہو ہبہ صحیح نہیں مثلاً درخت میں جو پھل لگے ہوں اُن کو ہبہ کرنا درست نہیں۔ جو چیز ہبہ کی گئی اگر وہ قابل تقسیم ہو تو ضرور ہے کہ اُس کی تقسیم ہو گئی

①..... زین۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۸۔

و "الدر المختار" و "رد المحتار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۳۔

③..... ہبہ کرنے والے کے علاوہ کی ملکیت۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۹۔

⑤..... "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۵۔

⑥..... المرجع السابق۔

ہو بغیر تقسیم کیے ہوئے ہبہ درست نہیں اور اگر تقسیم کے قابل ہی نہ ہو یعنی تقسیم کے بعد وہ شے قابل انتفاع نہ رہے مثلاً چھوٹی سی کوٹھری یا حمام ان میں ہبہ صحیح ہونے کے لیے تقسیم ضرور نہیں۔⁽¹⁾ (ہدایہ وغیر ہا)

مسئلہ ۱۹ جو چیز تقسیم کے قابل ہے اُس کو اجنبی کے لیے ہبہ کرے یا شریک کے لیے دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ ہاں اگر ہبہ کرنے کے بعد واہب نے اُسے خود یا اُس کے حکم سے کسی دوسرے نے تقسیم کر کے قبضہ دیدیا یا موہوب لہ کو حکم دیدیا کہ تقسیم کر کے قبضہ کر لو اور اُس نے ایسا کر لیا ان صورتوں میں ہبہ جائز ہو گیا کیونکہ مانع زائل ہو گیا۔ اگر بغیر تقسیم موہوب لہ کو قبضہ دے دیا موہوب لہ اُس چیز کا مالک نہیں ہوگا اور جو کچھ اُس میں تصرف کرے گا نافذ نہیں ہوگا بلکہ اس کے تصرف سے جو نقصان ہوگا اُس کا ضامن ہوگا اور خود واہب اُس میں تصرف کرے مثلاً بیع کر دے اُس کا تصرف نافذ ہو جائے گا۔⁽²⁾ (بحر، درمختار) اس کا حاصل یہ ہے کہ مشاع کا ہبہ صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کے وقت شیوع پایا جائے اور اگر ہبہ کے وقت شیوع ہے مگر قبضہ کے وقت شیوع نہ ہو تو ہبہ صحیح ہے مثلاً مکان کا نصف حصہ ہبہ کیا اور قبضہ نہیں دیا پھر دوسرا نصف ہبہ کیا اور پورے مکان پر قبضہ دیدیا ہبہ صحیح ہو گیا اور اگر نصف ہبہ کر کے قبضہ دیدیا پھر دوسرا نصف ہبہ کیا اور اُس پر بھی قبضہ دیدیا یہ دونوں ہبہ صحیح نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ مشاع یعنی بغیر تقسیم چیز کو بیع⁽⁴⁾ کر دیا جائے تو بیع صحیح ہے اور اس کا اجارہ اگر شریک کے ساتھ ہو تو جائز ہے اجنبی کے ساتھ ہو تو جائز نہیں بلکہ یہ اجارہ فاسدہ ہوگا اس میں اجرت مثل لازم ہوگی۔ اور مشاع⁽⁵⁾ کا عاریت دینا اگر شریک کو ہے تو جائز ہے اور اجنبی کو عاریت کے طور پر دیا اور کل پر قبضہ دیدیا تو یہ قبضہ دینا ہی عاریت دینا ہے اور کل پر قبضہ نہ دیا تو کچھ نہیں۔ اور اس کو رہن رکھنا ناجائز ہے وہ چیز قابل قسمت⁽⁶⁾ ہو یا نہ ہو شریک کے پاس رہن⁽⁷⁾ رکھے یا اجنبی کے پاس ہاں اگر دو شخصوں کی چیز ہے دونوں نے رہن رکھ دی تو جائز ہے۔ مشاع کا وقف صحیح ہے۔ مشاع کی ودیعت شریک کے پاس ہو تو جائز ہے۔ مشاع کو قرض دے سکتا ہے مثلاً ہزار روپے دیے اور کہہ دیا ان میں سے پانسو قرض ہیں اور پانسو شرکت کے طور پر یہ جائز

①..... "الهدایة"، کتاب الہبہ، ج ۲، ص ۲۲۳، وغیر ہا۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۷۔

و"الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۶۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبہ، الباب الثانی فیما یجوز... إلخ، ج ۴، ص ۳۷۶، ۳۷۷۔

④..... فروخت۔

⑤..... شے مشترک۔

⑥..... تقسیم کے قابل

⑦..... گروی۔

ہے۔ مشاع کا غصب ہو سکتا ہے یعنی غاصب پر غصب کے احکام جاری ہوں گے۔ مشاع کے صدقہ کا وہی حکم ہے جو ہبہ کا ہے۔ ہاں اگر کل دو شخصوں پر تصدق کر دیا یہ جائز ہے۔⁽¹⁾ (بحر الرائق)

مسئلہ ۲۱۔ ایک شریک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ نفع میں میرا حصہ ہے میں نے تم کو ہبہ کیا اگر مال موجود ہے یہ ہبہ صحیح نہیں کہ مشاع کا ہبہ ہے اور ہلاک ہو چکا ہے تو صحیح ہے کہ یہ اسقاط⁽²⁾ ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲۔ غیر منقسم⁽⁴⁾ چیز میں مشاع کا ہبہ کیا موہوب لہ اُس جز کا مالک ہو گیا مگر تقسیم کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ دونوں اُس چیز سے نوبت بنو بت نفع حاصل کریں مثلاً ایک مہینہ ایک اُس سے کام لے اور دوسرے مہینہ میں دوسرا یہ ہو سکتا ہے مگر اس پر بھی جبر نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک قسم کی عاریت ہے اور عاریت پر جبر نہیں۔⁽⁵⁾ (بحر)

مسئلہ ۲۳۔ جو مشاع غیر قابل قسمت⁽⁶⁾ ہے اُس کا ہبہ صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اُس کی مقدار معلوم ہو یعنی اس چیز میں اس کا حصہ اتنا ہے جس کو ہبہ کرتا ہے اگر معلوم نہ ہو تو ہبہ صحیح نہیں مثلاً غلام دو شخصوں میں مشترک ہے اس کو معلوم نہیں کہ میرا حصہ کتنا ہے اور ہبہ کر دیا۔ ایک روپیہ دو شخصوں کو ہبہ کیا یہ صحیح ہے کیونکہ نصف نصف دونوں کا حصہ ہوا اور یہ معلوم ہے اور اگر واہب کے پاس دو روپے ہیں اُس نے یہ کہا کہ ان میں سے میں نے ایک روپیہ ہبہ کیا اور اُسے جدا نہ کیا یہ ہبہ صحیح نہیں ہوا۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک نے اُس غلام کو کوئی چیز ہبہ کر دی اگر وہ چیز قابل تقسیم ہے ہبہ بالکل صحیح نہیں اور قابل تقسیم نہیں تو شریک کے حصے میں صحیح ہے یعنی اُس غلام میں جتنا حصہ اس کے شریک کا ہے شے موہوب کے اتنے ہی حصہ کا ہبہ صحیح ہے اور جتنا حصہ اُس غلام میں واہب کا ہے اُس کے مقابل میں موہوب کے حصہ کا ہبہ صحیح نہیں۔ مجہول⁽⁷⁾ حصہ کا ہبہ صحیح نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جہالت باعث نزاع⁽⁸⁾ ہو سکے اور اگر باعث نزاع نہ ہو مثلاً یہ کہہ دیا کہ اس گھر میں جو کچھ میرا حصہ ہے ہبہ کر دیا یہ جائز ہے اگرچہ موہوب لہ⁽⁹⁾ کو معلوم نہ ہو کہ کیا حصہ ہے کیونکہ یہ جہالت دور ہو سکتی ہے اور اگر بہت زیادہ

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۸۶.

②..... یعنی اپنا حق چھوڑنا ہے۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثانی فیما یجوز... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۱.

④..... تقسیم نہ ہونے والی۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۸۷.

⑥..... ناقابل تقسیم۔

⑦..... نامعلوم۔

⑧..... جھگڑے کا باعث۔

⑨..... جس کے لیے ہبہ کیا۔

جہالت ہو تو ناجائز ہے مثلاً میں نے تم کو کچھ ہبہ کر دیا۔⁽¹⁾ (بحر، منہ)

مسئلہ ۲۳ شیوع جو تمامیت قبضہ کو⁽²⁾ روکتا ہے وہ شیوع ہے جو عقد کے ساتھ مقارن⁽³⁾ ہو عقد کے بعد جو شیوع

طاری ہوگا وہ مانع نہیں مثلاً پوری چیز ہبہ کر دی اور قبضہ دے دیا اس کے بعد اُس میں سے جز و شائع نصف ربع واپس لے لیا یہاں شیوع پیدا ہو گیا جو پہلے سے نہ تھا یہ مانع نہیں۔ شیوع طاری کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مرض الموت میں اپنا مکان ہبہ کر دیا اور اس مکان کے سوا اُس کے پاس کوئی دوسرا ترکہ نہیں ہے واہب مر گیا ورثہ نے اس کو جائز نہیں کیا اس کا حاصل یہ ہوا کہ ایک تہائی ہبہ ہوا اور دو تہائیاں ورثہ کی ہیں یہاں ہبہ میں شیوع ہے مگر وقت عقد میں نہیں ہے بعد عقد ہوا جبکہ ورثہ نے جائز نہ کیا۔ جس چیز کو ہبہ کیا اُس میں کسی نے استحقاق کا دعویٰ کیا کہ اس چیز میں اتنے کا میں مالک ہوں اگرچہ یہ دعویٰ بعد میں ہوا مگر شیوع اب نہیں پیدا ہوا بلکہ پہلے ہی سے ہے کہ یہ شخص اُس کے ایک جز کا پہلے سے مالک تھا اور اب ظاہر ہوا لہذا ایک شخص نے کھیت اور زراعت دونوں چیزیں ایک شخص کو ہبہ کر دیں اور قبضہ بھی دیدیا اس کے بعد زراعت میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میری ہے اور ثابت کر دیا قاضی نے حکم بھی دیدیا زراعت تو مستحق نے لے لی زمین کا ہبہ بھی باطل ہو گیا کیونکہ محتمل قسمت⁽⁴⁾ میں شیوع⁽⁵⁾ ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار، بحر)

مسئلہ ۲۵ تھن میں دودھ، بھیڑ کی پیٹھ پر اون، زمین میں درخت، درخت میں پھل، یہ چیزیں مشاع کے حکم

میں ہیں کہ ان کا ہبہ صحیح نہیں مگر دودھ دوہ کر، اون کاٹ کر، پھل توڑ کر، موہوب لہ کو تسلیم کر دیے تو ہبہ جائز ہو گیا کہ مانع زائل ہو گیا۔⁽⁷⁾ زراعت جو کھیت میں ہے، تلواریں کا حلیہ، اشرفی جو پہنے ہوئے ہے، ڈھیری میں سے دس پانچ سیر غلہ کا ہبہ کرنا بھی وہی حکم رکھتا ہے کہ جدا کر کے موہوب پر قبضہ دیدیا درست ہے ورنہ نہیں۔⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۷.

و "منحة الحائق" هامش علی "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۷.

②..... قبضہ کے مکمل ہونے کو۔ ③..... ملا ہوا۔ ④..... جس میں تقسیم کا احتمال ہو۔

⑤..... یعنی زراعت چونکہ زمین کے ساتھ متصل ہے لہذا زمین و زراعت دونوں مل کر ایک چیز ہیں ان میں سے زراعت کا استحقاق حکماً جزو موہوب

کا استحقاق ہے اس لیے زمین کا ہبہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ۱۲ منہ حفظ رہے

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۷.

و "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۷.

⑦..... رکاوٹ ختم ہو گئی۔

⑧..... "الدر المختار" و "ردالمختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۸.

مسئلہ ۲۶ معدوم شے^(۱) کا ہبہ باطل ہے قبضہ دینے کے بعد بھی موہوب لہ کی ملک نہیں ہوگی مثلاً کہا ان گیبوں^(۲) کا آٹا ہبہ کر دیا تلوں میں جو تیل ہے ہبہ کیا۔ دودھ میں جو گھی ہے ہبہ کیا۔ لونڈی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ ہبہ کیا ان صورتوں میں اگر آٹا پلو کر، تلوں کو پلو کر، دودھ میں سے گھی نکال کر موہوب لہ کو دے بھی دے جب بھی اُسکی ملک نہیں ہوگی ہاں اب جدید ہبہ کرے تو ہو سکتا ہے۔^(۳) (بحر، درمختار)

مسئلہ ۲۷ ایک شخص کو ایک چیز ہبہ کی موہوب لہ نے قبضہ نہیں کیا پھر اُس شخص نے دوسرے کو وہی چیز ہبہ کر دی اور دونوں سے قبضہ کرنے کو کہہ دیا دونوں نے قبضہ کر لیا تو چیز دوسرے موہوب لہ کی ہوگی پہلے کی نہیں ہوگی اور اگر واہب نے پہلے موہوب لہ کو قبضہ کرنے کے لیے کہہ دیا اُس نے قبضہ کر لیا تو یہ قبضہ باطل ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ ایک چیز خریدی اور قبضہ کرنے سے پہلے کسی کو ہبہ کر دی اور موہوب لہ سے کہہ دیا کہ تم قبضہ کر لو اس نے کر لیا ہبہ تمام ہو گیا۔ رہن کا بھی یہی حکم ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۹ یہ کہا کہ اس ڈھیری میں سے تم کو اتنا غلہ دیا تم ناپ کر لے لو اُس نے ناپ لیا جائز ہے اور اگر فقط اتنا ہی کہا کہ اتنا غلہ دیا یہ نہ کہا کہ ناپ لو اور اُس نے ناپ کر لیا تو ناجائز ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ جو چیز ہبہ کی ہے وہ پہلے ہی سے موہوب لہ کے قبضہ میں ہے تو ایجاب و قبول کرتے ہی اُسکی ملک ہوگی جدید قبضہ کی ضرورت نہیں موہوب لہ کا وہ قبضہ قبضہ امانت ہو یا قبضہ ضمان مثلاً اُس کے پاس عاریت یا ودیعت کے طور پر ہے یا کرایہ پر ہے یا اُس نے غصب کر رکھی ہے اس کا قاعدہ کتاب البیوع میں بیان کیا گیا ہے کہ دو قبضے اگر ایک جنس کے ہوں یعنی دونوں قبضہ امانت ہوں یا دونوں قبضہ ضمان ہوں ان میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائے گا اور اگر دونوں دو جنس کے ہوں تو قبضہ ضمان قبضہ امانت کے قائم مقام ہو جائے گا اور قبضہ امانت قبضہ ضمان کے قائم مقام نہیں ہوگا۔^(۷) (بحر، درمختار)

①..... وہ چیز جو موجود نہیں۔ ②..... گندم۔

③..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۸۔

و "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۸۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبہ، الباب الثانی فیما یحوز... إلخ، ج ۴، ص ۳۷۷۔

⑤..... المرجع السابق۔ ⑥..... المرجع السابق۔

⑦..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۸۹۔

و "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۷۹۔

مسئلہ ۳۱ - مرہون (۱) کو مرتہن (۲) کے لیے ہبہ کیا ہبہ تمام ہو گیا کیونکہ مرتہن کا قبضہ پہلے ہی سے ہے اور رہن باطل ہو گیا یعنی مرتہن اپنا ذین راہن (۳) سے وصول کرے گا۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ - جو شخص نابالغ کا ولی (۵) ہے اگرچہ اس کو نابالغ کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو یہ جب کبھی نابالغ کو ہبہ کر دے تو محض عقد کرنے سے یعنی فقط ایجاب سے ہبہ تمام ہو جائے گا بشرطیکہ شے موہوب واہب یا اُس کے مودع کے قبضہ میں ہو۔ معلوم ہوا کہ باپ کے ہبہ کا جو حکم ہے باپ نہ ہونے کی صورت میں چچا یا بھائی وغیرہما کا بھی وہی حکم ہے بشرطیکہ نابالغ ان کی عیال میں ہو (۶) اس ہبہ میں بعض ائمہ کا ارشاد ہے کہ گواہ مقرر کر لے یہ اشہاد (۷) ہبہ کی صحت کے لیے شرط نہیں بلکہ اس لیے ہے تاکہ وہ آئندہ انکار نہ کر سکے یا اُس کے مرنے کے بعد دوسرے ورثہ اس ہبہ سے انکار نہ کر دیں۔ (۸) (بحر، درمختار)

مسئلہ ۳۳ - نابالغ لڑکے کو جو مال ہبہ کیا وہ نہ واہب کے قبضہ میں ہے نہ اُس کے مودع کے قبضہ میں ہے بلکہ غاصب یا مرتہن یا مستاجر کے قبضہ میں ہے تو ہبہ تمام نہیں۔ (۹) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ - مزروعہ زمین اپنے نابالغ لڑکے کو ہبہ کی اگر زراعت خود اسی کی ہے صحیح ہو گیا اور کاشتکار نے کھیت بویا ہے تو ہبہ صحیح نہ ہوا کہ واہب کے قبضہ میں نہیں ہے۔ (۱۰) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ - صدقہ کا بھی یہی حکم ہے کہ نابالغ کو اُس کے ولی نے صدقہ کیا تو قبضہ کی ضرورت نہیں، اگر نابالغ کا ولی نہ ہو تو اُس کی ماں بھی یہی حکم رکھتی ہے کہ محض ہبہ کر دینے سے موہوب لہ مالک ہو جائے گا بالغ لڑکا اگرچہ اس کی عیال میں ہو اس کا یہ حکم نہیں ہے وہ جب تک قبضہ نہ کرے مالک نہ ہوگا۔ ماں نے اپنا مہر لڑکے کو ہبہ کر دیا یہ ہبہ تمام نہ ہوگا جب تک خود ماں نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو اور لڑکے کا قبضہ نہ کرادے۔ (۱۱) (بحر)

①..... گروی رکھی ہوئی چیز۔ ②..... جس کے پاس گروی رکھی ہے۔ ③..... گروی رکھوانے والا۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثانی فیما یحوز... إلخ، ج ۴، ص ۳۷۷، ۳۷۸۔

⑤..... نابالغ کا سرپرست۔ ⑥..... یعنی پرورش۔ ⑦..... گواہ بنانا۔

⑧..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۸۹، ۴۹۰۔

و "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۷۹۔

⑨..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب السادس فی الہبۃ للصغیر، ج ۴، ص ۳۹۱۔

⑩..... المرجع السابق، ص ۳۹۲۔

⑪..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۰۔

مسئلہ ۳۶ : بیٹے کو تصرف کرنے کے لیے اموال دے رکھے ہیں بیٹا کام کرتا ہے اور مال میں اضافہ ہو۔ اگر یہ ثابت ہو کہ باپ نے اسے ہبہ کر دیا ہے جب تو اس کا ہے ورنہ سب کچھ باپ کا ہے اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ نابالغ کو کسی اجنبی نے کوئی چیز ہبہ کی یہ اُس وقت تمام ہوگا کہ ولی اُس پر قبضہ کر لے اس مقام پر ولی سے مراد یہ چار شخص ہیں: ① باپ پھر ② اُس کا وصی پھر ③ دادا پھر ④ اُس کا وصی، اس صورت میں یہ ضرورت نہیں کہ نابالغ ولی کی پرورش میں ہوان چار کی موجودگی میں کوئی شخص اُس پر قبضہ نہیں کر سکتا چاہے اس قابض کی عیال میں وہ نابالغ ہو یا نہ ہو^(۲) وہ قابض ذورحم محرم ہو یا اجنبی ہو موجودگی سے مراد یہ ہے کہ وہ حاضر ہوں اور اگر غائب ہوں اور غیبت بھی منقطعہ ہو تو اُس کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ قبضہ کرے۔^(۳) (بحر)

مسئلہ ۳۸ ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو تو چچا وغیرہ جس کی عیال میں نابالغ ہو وہ قبضہ کرے، ماں یا اجنبی کی پرورش میں ہو تو یہ قبضہ کریں گے، اگر وہ بچہ لقیط ہے یعنی کہیں پڑا ہوا ملا ہے اس کے لیے کوئی چیز ہبہ کی گئی تو ملتقط^(۴) قبضہ کرے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۳۹ نابالغ اگر سمجھ وال ہو مال لینا جانتا ہو تو وہ خود بھی موہوب^(۶) پر قبضہ کر سکتا ہے اگرچہ اُس کا باپ موجود ہو اور جس طرح یہ نابالغ قبضہ کر سکتا ہے ہبہ کو رد بھی کر سکتا ہے یعنی چھوٹے بچے کو کسی نے کوئی چیز دی تو وہ لے بھی سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے جس نے نابالغ کو ہبہ کیا ہے وہ ہبہ کی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے، قاضی کو چاہیے کہ نابالغ کو جو چیز ہبہ کی گئی ہے اُسے بیع کر دے تاکہ واہب^(۷) رجوع نہ کر سکے۔^(۸) (بحر)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب السادس فی الہبۃ للصغیر، ج ۴، ص ۳۹۲.

②..... ان چار کی موجودگی میں کوئی شخص اُس (تختے) پر قبضہ نہیں کر سکتا، چاہے اُس قابض (یعنی قبضہ حاصل کرنے والے) کی عیال میں (یعنی زیر سرپرستی) وہ نابالغ ہو یا نہ ہو۔ ان چاروں کی موجودگی کی صورت میں کسی اور کا قبضہ کرنا دُرست نہ ہونا ایک قول کے مطابق ہے جو بہار شریعت میں مذکور ہے البتہ علامہ شامی قدس سرہ الشامی نے "فتاویٰ شامی" اور "تنقیح الفتاویٰ" میں ان چاروں کی موجودگی میں بچے کی پرورش کرنے والے (خواہ ماں ہو یا بھائی، چچا وغیرہ) کے قبضے کو بھی دُرست قرار دیا ہے دوسرے قول کے مطابق اور اس کا مُقتضی یہ ہونا مختار ہونا بھی ذکر فرمایا ہے۔ (تنقیح الخالیہ ج ۲ ص ۹۸، شامی ج ۸ ص ۵۸۱) اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاویٰ رضویہ جلد ۱۹ صفحہ ۳۳۹ پر اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ (اور) وہ قابض ذورحم محرم (یعنی ایسا رشتے دار جس سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو) ہو یا اجنبی (یعنی نامحرم) ہو، موجودگی سے مراد یہ ہے کہ وہ حاضر ہوں اور اگر غائب ہوں اور غیبت (یعنی غیر موجودگی) بھی منقطعہ (یعنی رابطہ میں دشواری) ہو تو اُس کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ قبضہ کرے۔ (المحرز الرائق ج ۷، ص ۳۹۱)

③..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۱. ④..... یعنی اس بچے کو اٹھانے والا۔

⑤..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۱. ⑥..... ہبہ کی ہوئی چیز۔ ⑦..... ہبہ کرنے والا۔

⑧..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۲.

مسئلہ ۳۰

نابالغ کو مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں ہبہ کی جائیں ان میں سے والدین کھا سکتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ قرینہ سے معلوم ہو کہ خاص اس بچہ کو ہی دینا نہیں بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے مگر ان کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ چیز حقیر معلوم ہوتی ہے ان کو دیتے ہوئے لحاظ معلوم ہوتا ہے بچہ کا نام لے دیتے ہیں اور اگر قرینہ سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ خاص اسی بچہ کو دینا مقصود ہے تو والدین نہیں کھا سکتے مثلاً کوئی چیز کھارہا ہے کسی کا بچہ وہاں پہنچ گیا ذرا سی اٹھا کر بچہ کو دیدی یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ والدین کو دینا مقصود نہیں ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز کھانے کی نہ ہو وہ نابالغ کو دی جائے تو والدین کو بغیر حاجت استعمال درست نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۱

ختنہ کی تقریب میں رشتہ داروں کے یہاں سے جوڑے وغیرہ آتے ہیں سہرے پر روپے دیے جاتے ہیں اور جوڑے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے جن چیزوں کی نسبت معلوم ہو کہ بچہ کے لیے ہیں۔ مثلاً چھوٹے کپڑے جو بچہ کے مناسب ہیں یہ اسی بچہ کے لیے ہیں ورنہ والدین کے لیے ہیں اگر باپ کے اقربا^(۲) نے ہدیہ کیا ہے تو باپ کے لیے ہیں ماں کے رشتہ داروں نے ہدیہ کیا ہے تو ماں کے لیے ہیں۔^(۳) (درمختار) مگر یہاں ہندوستان کا یہ عرف^(۴) ہے کہ باپ کے کنبہ کے لوگ بھی زنانہ جوڑا بھیجتے ہیں جو ماں کے لیے ہوتا ہے اور نانہال^(۵) سے بھی مردانہ جوڑا بھیجا جاتا ہے جس کا صاف یہی مقصد ہے کہ مرد کے لیے مردانہ جوڑا ہے اور عورت کے لیے زنانہ اگرچہ کہیں سے آیا ہو، دیگر تقریبات مثلاً بسم اللہ کے موقع پر اور شادی کے موقع پر طرح طرح کے ہدایا^(۶) آتے ہیں اور وہ چیزیں کس کے لیے ہیں اس کے متعلق جو عرف ہو اس پر عمل کیا جائے اور اگر بھیجنے والے نے تصریح کر دی ہے تو یہ سب سے بڑھ کر ہے چنانچہ تقریبات میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ نام بنام سارے گھر کے لیے جوڑے بھیجے جاتے ہیں بلکہ ملازمین کے لیے بھی جوڑے آتے ہیں اس صورت میں جس کے لیے جو آیا ہے وہی لے سکتا ہے دوسرا نہیں لے سکتا۔

مسئلہ ۳۲

شادی وغیرہ تمام تقریبات میں طرح طرح کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں اس کے متعلق ہندوستان میں مختلف قسم کی رسمیں ہیں ہر شہر میں ہر قوم میں جدا جدا رسوم ہیں ان کے متعلق ہدیہ اور ہبہ کا حکم ہے یا قرض کا عموماً رواج سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والے یہ چیزیں بطور قرض دیتے ہیں اسی وجہ سے شادیوں میں اور ہر تقریب میں جب روپے دیے جاتے ہیں تو ہر ایک شخص کا نام اور رقم تحریر کر لیتے ہیں جب اس دینے والے کے یہاں تقریب ہوتی ہے تو یہ شخص جس کے یہاں دیا جا چکا ہے فہرست نکالتا ہے اور اتنے روپے ضرور دیتا ہے جو اس نے دیے تھے اور اس کے خلاف کرنے میں سخت بدنامی ہوتی

①....."الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۲۔

②.....قربت دار، تقریب کے رشتہ دار۔

③....."الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۲۔

④.....رواج۔ ⑤.....ماں کا خاندان۔ ⑥.....تختے، تحائف۔

ہے اور موقع پا کر کہتے بھی ہیں کہ نیوتے (1) کاروپہ نہیں دیا اگر یہ قرض نہ سمجھتے ہوتے تو ایسا عرف نہ ہوتا جو عموماً ہندوستان میں ہے۔

مسئلہ ۳۳ ایک شخص پردیس سے آیا اور جس کے یہاں اوترا اُس کو کچھ تحائف دیے اور یہ کہا کہ اس کو اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دو اور خود بھی لے لو اُس سے دریافت کرنا چاہیے کہ کیا چیز کسے دی جائے اور اگر وہ موجود نہ ہو چلا گیا ہو تو جو چیز عورتوں کے لائق ہو عورت کو دے اور جو لڑکیوں کے مناسب ہو لڑکیوں کو دے اور جو لڑکوں کے مناسب ہو لڑکوں کو دے اور جو چیز خود اُس کے مناسب ہو وہ خود لے اور جو چیز ایسی ہو کہ مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ دینے والا مرد کا رشتہ دار ہے تو مرد لے اور عورت کا رشتہ دار ہے تو عورت لے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ بعض اولاد کے ساتھ محبت زیادہ ہو بعض کے ساتھ کم یہ کوئی ملامت کی چیز نہیں کیونکہ یہ فعل غیر اختیاری ہے اور عطیہ (3) میں اگر یہ ارادہ ہو کہ بعض کو ضرر پہنچا دے تو سب میں برابری کرے کم و بیش نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے ہاں اگر اولاد میں ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت و ترجیح ہے مثلاً ایک عالم ہے جو خدمت علم دین میں مصروف ہے یا عبادت و مجاہدہ میں اشتغال رکھتا ہے ایسے کو اگر زیادہ دے اور جو لڑکے دنیا کے کاموں میں زیادہ اشتغال رکھتے ہیں انھیں کم دے یہ جائز ہے اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں یہ حکم دیانت کا ہے اور قضا کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا مالک ہے حالت صحت میں اپنا سا مال ایک ہی لڑکے کو دیدے اور دوسروں کو کچھ نہ دے یہ کر سکتا ہے دوسرے لڑکے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتے مگر ایسا کرنے میں گنہگار ہے۔ (4) (بحر الرائق)

مسئلہ ۳۵ اولاد کو ہبہ کرنے میں لڑکی اور لڑکا دونوں کو برابر دے یہ نہیں کہ لڑکے کو لڑکی سے دو چند (5) دے دے جس طرح میراث میں ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دو ملتا ہے ہبہ میں ایسا نہیں۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ لڑکا اگر فاسق ہے تو اُس کو صرف بقدر ضرورت دے زیادہ دینے کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ گناہ کے کام میں اُس کا معین (7) ہے، لڑکا فاسق ہے یہ گمان ہے کہ اُس کے بعد یہ اموال بدکاری اور گناہ میں خرچ کر ڈالے گا۔ تو اُس کے لیے چھوڑ

1..... شادی، بیاہ اور دیگر تقریبات میں جو تحفہ یا نقدی دی جاتی ہے اسے نیوتا کہتے ہیں۔

2..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبۃ، الباب الثالث فیما يتعلق بالتحلیل، ج ۴، ص ۳۸۳۔

3..... تحفہ۔

4..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۰۔

5..... دُگنا، ڈبل۔

6..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبۃ، الباب السادس فی الہبۃ للصغیر، ج ۴، ص ۳۹۱۔

7..... مددگار۔

جانے سے یہ بہتر ہے کہ نیک کاموں میں یہ اموال صرف (1) کر ڈالے اس صورت میں اُسے میراث سے محروم کرنے میں گناہ نہیں کہ یہ حقیقۃً میراث سے محروم کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اموال اور اپنی کمائی کو حرام میں خرچ کرنے سے بچانا ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ - باپ کو یہ جائز نہیں کہ نابالغ لڑکے کا مال دوسرے لوگوں کو ہبہ کر دے اگرچہ معاوضہ لے کر ہبہ کرے کہ یہ بھی ناجائز ہے اور خود بچہ بھی اپنا مال ہبہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا یعنی اُس نے ہبہ کر دیا اور موہوب لہ کو دید یا اُس سے واپس لیا جائے گا کہ ہبہ جائز ہی نہیں۔ (3) (درمختار، بحر) یہی حکم صدقہ کا ہے کہ نابالغ اپنا مال نہ خود صدقہ کر سکتا ہے نہ اُس کا باپ۔ یہ بات نہایت یاد رکھنے کی ہے اکثر لوگ نابالغ سے چیز لے کر استعمال کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اُس نے دے دی حالانکہ یہ دینا نہ دینے کے حکم میں ہے بعض لوگ دوسرے کے بچے سے پانی بھروا کر پیتے یا وضو کرتے ہیں یا دوسری طرح استعمال کرتے ہیں یہ ناجائز ہے کہ اُس پانی کا وہ بچہ مالک ہو جاتا ہے اور ہبہ نہیں کر سکتا پھر دوسرے کو اُس کا استعمال کیوں کر جائز ہوگا۔ اگر والدین بچہ کو اس لیے چیز دیں کہ یہ لوگوں کو ہبہ کر دے یا فقیروں کو صدقہ کر دے تاکہ دینے اور صدقہ کرنے کی عادت ہو اور مال و دنیا کی محبت کم ہو تو یہ ہبہ و صدقہ جائز ہے کہ یہاں نابالغ کے مال کا ہبہ و صدقہ نہیں بلکہ باپ کا مال ہے اور بچہ دینے کے لیے وکیل ہے جس طرح عموماً دروازوں پر سائل جب سوال کرتے ہیں تو بچوں ہی سے بھیک دلواتے ہیں۔

مسئلہ ۳۸ - بچہ نے ہدیہ پیش کیا اور یہ کہا کہ میرے والد نے یہ ہدیہ آپ کے پاس بھیجا ہے اُس کو لینا اور کھانا جائز ہے مگر جب یہ گمان ہو کہ اُس کے باپ نے نہیں بھیجا ہے یہ خود لایا ہے اور یہ غلط ہے کہ اُس کے باپ نے بھیجا ہے تو نہ لے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ - بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کپڑے اس لیے بنائے کہ جب پیدا ہوگا تو اُن پر رکھا جائے گا مثلاً تکیہ، گدا، وہ پیدا ہوا اور اسی پر رکھا گیا پھر مر گیا یہ کپڑے میراث نہیں قرار پائیں گے جب تک اُس نے یہ اقرار نہ کیا ہو کہ یہ کپڑے لڑکے کی ملک ہیں اور بدن کے کپڑے جو پہننے کے ہیں جب انھیں بچہ نے پہن لیا مالک ہو گیا اور میراث ہیں۔ (5) (بحر)

①..... خرچ۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب السادس فی الہبۃ للصغیر، ج ۴، ص ۳۹۱۔

③..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۳۔

و "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۸۳-۴۹۲۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثالث فیما يتعلق بالتحلیل، ج ۴، ص ۳۸۳۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۰۔

مسئلہ ۵۰ نابالغ لڑکی شوہر کے یہاں رخصت ہو کر چلی گئی اُس کو اگر کوئی چیز ہبہ کر دی جائے اور شوہر قبضہ کر لے ہبہ تمام ہو جائے گا اُس کا باپ زندہ ہو یا مر گیا ہو دونوں صورتوں میں شوہر قبضہ کر سکتا ہے وہ نابالغہ قابلِ جماع^(۱) ہو یا نہ ہو دونوں کا ایک حکم ہے اور نابالغہ کے باپ نے یا خود اس نے جبکہ سمجھ وال ہو قبضہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی شوہر ہی کا قبضہ کرنا ضروری نہیں اور اگر زوجہ بالغہ ہے تو اُس کے خود قبضہ کی ضرورت ہے شوہر کا قبضہ کافی نہیں اور اگر نابالغہ ہے اور ابھی رخصت بھی نہیں ہوئی ہے تو شوہر کا قبضہ اس صورت میں بھی کافی نہیں بلکہ اُسکے باپ وغیرہ جن کے قبضہ کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں۔^(۲) (بحر)

مسئلہ ۵۱ ایک شخص نے دو کپڑے ایک شخص کو دیے اور یہ کہا کہ ایک تمہارا ہے اور ایک تمہارے لڑکے کا اور جدا ہونے سے قبل یہ نہیں متعین کیا کہ کون کس کا ہے یہ ہبہ جائز نہیں اور بیان کر دیا ہے تو جائز ہے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵۲ دو شخصوں نے ایک شخص کو مکان جو قابلِ قسمت^(۴) ہے ہبہ کر دیا اور قبضہ دیدیا ہبہ صحیح ہے کہ یہاں شیوع نہیں ہے اور اگر ایک نے دو شخصوں کو ہبہ کیا اور یہ دونوں بالغ ہیں یا ایک بالغ ہے دوسرا نابالغ اور یہ نابالغ اسی بالغ کی پرورش میں ہے اور فقیر بھی نہیں ہیں اور مکان قابلِ تقسیم ہے تو ہبہ صحیح نہیں کہ مشاع کا ہبہ ہے اور اگر ایک نے ایک ہی کو ہبہ کیا ہے مگر موہوب لہ نے دو شخصوں کو قبضہ کے لیے وکیل کیا ہے تو یہ ہبہ جائز ہے۔ اور اگر دو شخصوں نے ایک مکان دو شخصوں کو ہبہ کیا یوں کہ ایک نے اپنا حصہ ایک کو ہبہ کیا اور دوسرے نے اپنا حصہ دوسرے کو تو یہ ہبہ ناجائز ہے اور اگر باپ نے اپنے دو بیٹوں کو ہبہ کیا اور دونوں بالغ ہیں یا ایک بالغ دوسرا نابالغ تو ہبہ صحیح نہیں اور اگر دونوں نابالغ ہیں تو صحیح ہے۔^(۵) (بحر، درمختار)

مسئلہ ۵۳ دس روپے دو فقیروں پر تصدق کیے یا ہبہ کیے یہ جائز ہے یعنی صدقہ میں شیوع مانعِ صحت نہیں^(۶) کہ صدقہ میں اللہ (عزوجل) کی رضا مقصود ہے وہ ایک ہے فقیر کا ایک ہونا یا متعدد ہونا اس کا لحاظ نہیں اور فقیر کو صدقہ کرنا یا ہبہ کرنا دونوں کا ایک مطلب ہے یعنی بہر صورت صدقہ ہے اور دو شخص غنی ہیں اُن کو دس روپے ہبہ کیے یا صدقہ کیے یہ دونوں ناجائز کہ یہاں

①..... ہبہ ستری کے قابل۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۹۲۔

③..... "ردالمحتار"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۵۸۴۔

④..... تقسیم کے قابل۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۹۲۔

و "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۸۴۔

⑥..... صحیح ہونے میں رکاوٹ نہیں۔

دونوں لفظوں سے ہبہ ہی مراد ہے اور ہبہ میں شیوع مانع ہے⁽¹⁾ کیونکہ یہاں اغنیا کی رضامندی مقصود ہے اور وہ متعدد ہیں اور صحیح نہ ہونے کا اس مقام پر مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مالک نہیں ہوں گے اگر دونوں کو تقسیم کر کے قبضہ دیدیا دونوں مالک ہو جائیں گے۔⁽²⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۵۴ - دیوار اس کے مکان میں اور پروسی کے مکان میں مشترک ہے اس نے وہ دیوار پروسی کو ہبہ کر دی یہ جائز ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۵ - مریض صرف ثلث مال⁽⁴⁾ سے ہبہ کر سکتا ہے اور یہ ہبہ بھی اُس وقت صحیح ہے کہ اُس کی زندگی میں موہوب لہ⁽⁵⁾ قبضہ کر لے۔ قبضہ سے پہلے مریض مر گیا تو ہبہ باطل ہو گیا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

ہبہ واپس لینے کا بیان

کسی کو چیز دے کر واپس لینا بہت بُری بات ہے حدیث میں ارشاد ہوا اسکی مثال ایسی ہے جس طرح کتاقے کر کے پھر چاٹ جاتا⁽⁷⁾ لہذا مسلمان کو اس سے بچنا ہی چاہیے مگر چونکہ ہبہ ایسا تصرف ہے کہ واہب پر لازم نہیں اگر دے کر واپس ہی لینا چاہے تو قاضی واپس کر دے گا اُسے نہ واپس لینے پر مجبور نہیں کرے گا اور یہ واپس لینے کا حکم بھی حدیث سے ثابت ہے مگر سب جگہ واپس نہیں کر سکتا بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اُن میں واپس لے سکتا ہے اور بعض میں نہیں یہاں اسی کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

مسئلہ ۱ - ہبہ میں اگر موہوب لہ کا قبضہ ہی نہیں ہوا ہے تو ابھی ہبہ کی تمامیت ہی نہیں ہوئی ہے اگر واہب نے رجوع کر لیا تو ہبہ بھی ختم ہو گیا اس کو رجوع نہیں کہتے رجوع یہ ہے کہ تمام ہو چکا ہے موہوب لہ نے قبضہ کر لیا ہے اس کے بعد واپس لے۔⁽⁸⁾ (درمختار)

①..... یعنی اشتراک ہبہ کے صحیح ہونے میں رکاوٹ ہے۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، ج ۷، ص ۴۹۳، ۴۹۴۔

و "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۸۵۔

③..... "الدر المختار"، کتاب الہبہ، ج ۸، ص ۵۸۶۔

④..... تہائی مال۔ ⑤..... جس کے لئے ہبہ کیا گیا۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبہ، الباب العاشر فی ہبۃ المریض، ج ۴، ص ۴۰۰۔

⑦..... "سنن ابی داؤد"، کتاب الإجارة، باب الرجوع فی الہبۃ، الحدیث: ۳۵۳۹، ج ۳، ص ۴۰۶۔

⑧..... "الدر المختار"، کتاب الہبہ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۶۔

مسئلہ ۲ جب موہوب لہ کو قبضہ دیدیا تو اب رجوع کرنے کے لیے قاضی کا حکم دینا یا موہوب لہ کا راضی ہونا ضروری ہے اور قبضہ نہ کیا ہو تو اس کی ضرورت نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ واہب نے کہہ دیا ہے کہ میں اس ہبہ کو واپس نہیں لوں گا جب بھی واپس لے سکتا ہے اُس کا یہ کہہ دینا مانع رجوع^(۲) نہیں۔^(۳) (بجر) اور اگر حق رجوع سے^(۴) مصالحت کر لی ہے تو رجوع نہیں کر سکتا کہ صلح میں جو چیز دی ہے ہبہ کا عوض ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ ایک شخص نے دوسرے سے کہا فلاں کو ایک ہزار روپیہ میری طرف سے ہبہ کر دو اُس نے کر دیے اور موہوب لہ نے قبضہ بھی کر لیا ہبہ تمام ہو گیا دوسرا شخص واپس نہیں لے سکتا نہ پہلے سے لے سکتا ہے نہ موہوب لہ سے اور وہ پہلا چاہے تو موہوب لہ سے واپس لے سکتا ہے کہ واہب یہی ہے وہ دینے والا تبرع^(۶) ہے اور اگر پہلے نے یہ کہا ہے کہ فلاں کو ایک ہزار ہبہ کر دو میں اس کا ضامن ہوں اور اُس نے دیدیے تو پہلا شخص ضامن ہے دوسرا اس سے لے سکتا ہے موہوب لہ سے نہیں لے سکتا اور پہلا شخص موہوب لہ سے واپس لے سکتا ہے۔^(۷) (بجر)

مسئلہ ۵ صدقہ دیکر واپس لینا جائز نہیں لہذا جس کو صدقہ دیا تھا اُس نے عاریت یا ودیعت سمجھ کر کچھ دنوں کے بعد واپس دیا اس کو لینا جائز نہیں اور لے لیا ہو تو واپس کر دے۔^(۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ دین^(۹) کے ہبہ میں رجوع نہیں کر سکتا مثلاً دائن^(۱۰) نے مدیون^(۱۱) کو دین ہبہ کر دیا اور مدیون نے قبول کر لیا دائن واپس نہیں لے سکتا کہ یہ اسقاط ہے مگر قبول کرنے سے پہلے واپس لے سکتا ہے۔^(۱۲) (بجر)

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۵.

②..... واپس لینے میں رکاوٹ۔

③..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۵.

④..... واپس کے حق سے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... إلخ، ج ۴، ص ۳۹۱.

⑥..... احسان کرنے والا۔

⑦..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۵.

⑧..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبۃ، الباب الثانی عشر فی الصدقۃ، ج ۴، ص ۴۰۶.

⑨..... قرض۔ ⑩..... قرض خواہ۔ ⑪..... مقروض۔

⑫..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۵.

مسئلہ ۷ رجوع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رجوع کے الفاظ بولے مثلاً رجوع کیا، واپس لیا، ہبہ کو توڑ دیا، باطل کر دیا اور اگر الفاظ نہیں بولے بلکہ اُس چیز کو بیع کر دیا یا اپنی چیز میں خلط کر دیا^(۱) یا کپڑا تھارنگ دیا یا غلام تھا آزاد کر دیا یہ رجوع نہیں بلکہ یہ تصرفات^(۲) بیکار ہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ واہب کو موہوب لہ سے ہبہ کو خریدنا نہ چاہیے کہ یہ بھی رجوع کے معنی میں ہے کیونکہ موہوب لہ یہ خیال کرے گا کہ یہ چیز اسی کی دی ہوئی ہے پورے دام^(۴) لینے سے اُسے شرم آئے گی مگر باپ نے بیٹے کو کوئی چیز دی ہے پھر خریدنا چاہتا ہے تو خرید سکتا ہے کہ شفقت پدیری کم دام دینے سے مانع ہوگی۔^(۵) (بحر)

مسئلہ ۹ ہبہ میں رجوع کرنے سے سات چیزیں مانع ہیں اُن سات کو ان الفاظ میں جمع کیا گیا ہے۔ ”دع خزقہ“ دال سے مُراد زیادت متصلہ ہے۔ میم سے مراد موت یعنی واہب و موہوب لہ دونوں میں سے کسی کا مرجانا۔ عین سے مراد عوض۔ خا سے مراد خروج یعنی ہبہ کا ملک موہوب لہ سے خارج ہو جانا۔ زا سے مراد زوجیت۔ قاف سے مراد قرابت۔ ہا سے ہلاک۔ ان سب کے احکام کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

(۱) زیادت متصلہ:

مسئلہ ۱۰ جس چیز کو ہبہ کیا اُس میں کچھ زیادت ہوئی اگر یہ موہوب کے ساتھ متصل ہے واہب رجوع نہیں کر سکتا مثلاً ایک نابالغ غلام کسی کو ہبہ کیا اب وہ جوان ہو گیا رجوع نہیں کر سکتا زیادت متصلہ متولدہ ہو یا غیر متولدہ موہوب لہ کے فعل سے ہوئی ہو یا اس کے فعل سے نہ ہو سب کا ایک حکم ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ زمین ہبہ کی موہوب لہ نے اس میں مکان بنایا یا درخت لگائے یہ زیادت متصلہ ہے یا پانی نکالنے کا چرخ نصب کیا^(۷) اس طرح کہ توابع زمین میں^(۸) شمار ہو اور بیع میں بغیر ذکر کیے توجاً داخل ہو جائے یہ بھی زیادت متصلہ ہے۔ یو ہیں

①..... ملادیا۔

②..... یہ کام کاج۔

③..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۶۔

④..... پوری قیمت۔

⑤..... ”البحر الرائق“، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۵۔

⑥..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... إلخ، ج ۴، ص ۶۰۴۔

⑦..... کنویں سے پانی کھینچنے کا چرخ لگایا موثر وغیرہ لگائی۔

⑧..... زمین سے متعلقہ چیزوں میں۔

اگر مکان ہبہ کیا تھا موہوب لہ نے اُس میں کچھ نئی تعمیر کی یہ زیادت متصلہ ہے۔ اب واپس نہیں لے سکتا۔⁽¹⁾ (بحر، درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ حمام ہبہ کیا تھا موہوب لہ نے اُسے رہنے کا مکان بنایا یا مکان ہبہ کیا تھا اُسے حمام بنایا اگر عمارت میں تغیر نہیں کی ہے رجوع کر سکتا ہے اور اگر تغیر کی ہے مثلاً دروازہ لگایا یا گچ کرائی⁽²⁾ یا کہگل کرائی⁽³⁾ تو رجوع نہیں کر سکتا اور اگر عمارت منہدم کر دی⁽⁴⁾ صرف زمین باقی ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ موہوب میں کچھ نقصان پیدا ہو گیا یہ رجوع کو منع نہیں کرتا خواہ وہ نقصان موہوب لہ کے فعل سے ہو یا اس کے فعل سے نہ ہو مثلاً کپڑا ہبہ کیا تھا اُس کو قطع کر لیا۔⁽⁶⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۴ زیادت منفصلہ رجوع سے مانع نہیں مثلاً بکری ہبہ کی تھی اُس کے بچہ پیدا ہوا یہ زیادت منفصلہ ہے واہب اپنی ہبہ کی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے اور وہ زیادت موہوب لہ کی ہوگی اُس کو واپس نہیں لے سکتا مگر جانور کو اُس وقت واپس لے سکتا ہے جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ اُسے اپنی ماں کی حاجت نہ رہے۔⁽⁷⁾ (درمختار، بحر)

مسئلہ ۱۵ زیادت سے یہ مراد ہے کہ موہوب میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے جس سے قیمت میں اضافہ ہو جائے لہذا اُس چیز کا پہلے سے زیادہ فریبہ ہو جانا یا خوبصورت ہو جانا بھی زیادت ہے۔ کپڑا تھا سی دیا یا رنگ دیا یہ بھی زیادت ہے۔ چیز کو ایک جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے گیا جبکہ اس انتقال مکانی⁽⁸⁾ سے قیمت میں اضافہ ہو جائے یہ بھی زیادت میں داخل ہے غلام کا فر تھا مسلمان ہو گیا یا اُس نے کوئی جنایت کی تھی⁽⁹⁾ ولی جنایت نے معاف کر دی۔ بہرا تھا سننے لگا۔ اندھا تھا دیکھنے لگا یہ سب زیادت متصلہ میں داخل ہیں۔ اور اگر قیمت کی زیادتی نرخ تیز ہو جانے کے سبب سے ہے تو زیادت میں اس کا شمار نہیں۔

①....."البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۵.

و"الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۸.

و"الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع فی الہبۃ... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۶.

②.....سفیدی اور دریا کی ریت سے تیار کئے ہوئے چوڑے کپڑے کروایا۔

③.....بھوسا ملی ہوئی مٹی کا پلستر کروایا۔ ④.....گرادی۔

⑤....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع فی الہبۃ... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۷.

⑥....."البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۶.

⑦....."الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۹.

و"البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۶.

⑧.....نقل مکانی۔ ⑨.....ایسا جرم کیا تھا جس سے عقوبت دنیوی (دنیوی سزا) لازم آتی ہے۔

تعلیم و کتابت اور کوئی صنعت سکھا دینا بھی زیادت میں داخل ہے۔ کپڑا ہبہ کیا تھا اُسے موہوب لہ نے دھلوا یا۔ جانور یا غلام جب ہبہ کیا تھا بیمار تھا موہوب لہ نے اُس کا علاج کرایا اب اچھا ہو گیا یہ بھی زیادت میں داخل ہے اور اگر موہوب لہ کے یہاں بیمار ہو اور اُس نے علاج کرایا اور اچھا ہو گیا یہ رجوع سے مانع نہیں ہے۔⁽¹⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۱۶ زمین میں مکان بنوایا یا درخت لگائے اگر یہ زیادتی اُس پوری زمین میں شمار ہو تو پوری کا رجوع ممتنع ہو جائے گا اور اگر فقط اُس قطعہ میں زیادت شمار ہو باقی میں نہیں تو اس قطعہ کی واپسی ممتنع ہو جائے گی باقی کی نہیں یعنی اگر بہت زیادہ زمین ہے کہ ایک دو مکان کے بننے سے پوری زمین میں اضافہ نہیں متصور ہوتا تو فقط اس حصہ کی واپسی ممتنع ہو جائے گی جس میں مکان بنا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۷ زمین میں بے موقع روٹی پکانے کا تورگڑ وایا یہ زیادت میں داخل نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ درخت کاٹ ڈالنا یا اُسے چیر پھاڑ کر جلانے کا ایندھن بنا لینا مانع رجوع نہیں اور اُس کو کاٹ کر چوکھٹ، بازو⁽³⁾، کیواڑ⁽⁴⁾، کڑیاں⁽⁵⁾، وغیرہ کوئی چیز بنائی تو رجوع نہیں کر سکتا۔ جانور کو قُربانی کر ڈالنا یا اور طرح ذبح کرنا بھی واپس کرنے کو منع نہیں کرتا۔⁽⁶⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۸ کپڑا ہبہ کیا تھا موہوب لہ نے اُسے دو ٹکڑے کر ڈالا ایک ٹکڑے کی اچکن⁽⁷⁾ سلوائی واہب دوسرے ٹکڑے کو واپس لے سکتا ہے۔ چھلا ہبہ کیا موہوب لہ نے اُس پر تگ لگایا اگر تگ جدا کرنے میں نقصان ہوگا تو واپس نہیں لے سکتا ورنہ لے سکتا ہے۔⁽⁸⁾ (بحر)

مسئلہ ۱۹ کاغذ ہبہ کیا اُس پر لکھ کر کتاب بنائی واپس نہیں لے سکتا۔ سادی بیاض⁽⁹⁾ ہبہ کی تھی موہوب لہ نے اُس

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۶۔

و "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۸۔

②..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۸۸۔

③..... دروازے وغیرہ کی کھڑی لکڑیوں میں سے ہر ایک کو بازو کہتے ہیں۔

④..... دروازے یا کھڑکی وغیرہ کا پٹ۔ ⑤..... کڑی کی جمع، شہتیر۔

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۶-۴۹۷۔

⑦..... ایک قسم کا مردانہ لباس۔

⑧..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۷۔

⑨..... یعنی سادہ اوراق کی مجلد یا غیر مجلد کتاب۔

میں کتاب لکھی جس سے اُس کی قیمت بڑھ گئی واپس نہیں لے سکتا اور اگر حساب وغیرہ ایسی چیزیں لکھی جس کی وجہ سے اس کا ردی میں شمار ہے تو واپس لے سکتا ہے۔^(۱) (بحر)

مسئلہ ۲۰ → قرآن مجید ہبہ کیا تھا اُس میں اعراب (زیر زبر) لگائے واپس نہیں لے سکتا۔ لوہا ہبہ کیا تھا اُس کی تلوار یا چھری وغیرہ کوئی چیز بنالی رجوع نہیں کر سکتا سوت ہبہ کیا اُس کا کپڑا بنو الیارجوع نہیں کر سکتا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ → واہب^(۳) اور موہوب لہ^(۴) میں اختلاف ہوا کہ موہوب لہ کے پاس زیادت ہوئی ہے یا نہیں اگر وہ زیادت متولدہ ہے مثلاً چھوٹی چیز ہبہ کی تھی اب وہ بڑی ہو گئی واہب کہتا ہے کہ اتنی ہی بڑی میں نے ہبہ کی تھی اور موہوب لہ کہتا ہے چھوٹی تھی اب بڑی ہو گئی اس میں واہب کا قول معتبر ہے اور اگر وہ زیادت غیر متولدہ ہے جیسے کپڑے کا سل جانا اُس کو رنگ دینا اس میں موہوب لہ کا قول معتبر ہے۔^(۵) (بحر)

مسئلہ ۲۲ → موہوب لہ کہتا ہے کہ مکان میں جدید تعمیر ہوئی ہے واہب اس سے منکر ہے اگر اتنی تعمیر اتنے دنوں میں عموماً نہ ہوتی ہو تو واہب کا قول معتبر اگرچہ یہ زیادت غیر متولدہ ہے۔ واہب کہتا ہے میں نے یہ رنگا ہوا کپڑا ہبہ کیا ہے یا ستو میں گھی ملا کر ہبہ کیا ہے موہوب لہ کہتا ہے یہ کپڑا رنگا ہوا نہ تھا میں نے رنگا ہے میں نے گھی ستو میں ملایا ہے چونکہ موہوب لہ منکر ہے اسی کا قول معتبر ہے۔^(۶) (بحر)

(۲) موت احد المتعاقدين:

مسئلہ ۲۳ → ہبہ کر کے قبضہ دید یا اس کے بعد واہب یا موہوب لہ دونوں میں سے کوئی بھی مرجائے ہبہ واپس نہیں ہو سکتا موہوب لہ مر گیا تو اُس کی ملک ورثہ کی طرف منتقل ہو گئی واہب مر گیا تو اس کا وارث اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اجنبی ہے لہذا واپس نہیں لے سکتا۔^(۷) (بحر، درمختار)

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، باب الرجوع فی الہبہ، ج ۷، ص ۴۹۷.

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الہبہ، الباب الخامس فی الرجوع... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۹.

③..... ہبہ کرنے والا۔

④..... جس کو ہبہ کیا گیا۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، باب الرجوع فی الہبہ، ج ۷، ص ۴۹۶.

⑥..... المرجع السابق.

⑦..... "البحر الرائق"، کتاب الہبہ، باب الرجوع فی الہبہ، ج ۷، ص ۴۹۷.

و "الدر المختار"، کتاب الہبہ، باب الرجوع فی الہبہ، ج ۸، ص ۵۹۰.

مسئلہ ۲۳ - اگر قبضہ سے پہلے متعاقدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ رجوع کو نہیں منع کرتا بلکہ وہ ہبہ ہی باطل ہو گیا وارث کہتا ہے میرے مورث نے ^(۱) یہ چیز تمہیں ہبہ کی تھی تم نے قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ اُس کا انتقال ہو گیا موہوب لہ کہتا ہے میں نے اُس کے مرنے سے پہلے ہی چیز پر قبضہ کر لیا تھا اگر وہ چیز وارث کے قبضہ میں ہو تو اُسی کا قول معتبر ہے۔ ^(۲) (درمختار، بحر)

(۳) واہب کا عوض لے لینا مانع رجوع ہے:

مسئلہ ۲۵ - موہوب لہ نے عوض دیا تو واہب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہبہ کا عوض ہے موہوب لہ نے کہا اپنے ہبہ کا عوض لویا اُس کا بدلہ لویا اُس کے مقابلہ میں یہ چیز لو واہب نے لے لیا رجوع کرنے کا حق ساقط ہو گیا اور اگر عوض ہونا لفظوں سے ظاہر نہیں کیا تو ہر ایک اپنے اپنے ہبہ کو واپس لے سکتا ہے یعنی واہب ہبہ کو اور موہوب لہ عوض کو۔ ^(۳) (ہدایہ، بحر)

مسئلہ ۲۶ - ہبہ کا عوض بھی ہبہ ہے اس میں وہ تمام باتیں لحاظ رکھی جائیں گی جو ہبہ کے لیے ضروری ہیں جن کا ذکر ہو چکا مثلاً اس کا جدا کر دینا، مشاع نہ ہونا، اس پر قبضہ دلا دینا۔ ^(۴) (درمختار، بحر) صرف اتنا فرق ہے کہ ہبہ میں حق رجوع ہوتا ہے جب تک موانع نہ پائے جائیں اور اس میں یہ حق نہیں۔ ^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ - ہبہ کا عوض اتنا ہی ہونا ضروری نہیں اُس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے اُس جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جنس کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پھل وغیرہ کی ڈالی لگاتے ہیں اور جتنے کی چیزیں ہوتی ہیں اُس سے بہت زیادہ پاتے ہیں۔ ^(۶) (بحر)

مسئلہ ۲۸ - بچہ کو کوئی چیز ہبہ کی گئی اس کے باپ کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے مال سے اُس ہبہ کا معاوضہ دے اگر عوض

۱..... یعنی مرنے والے نے۔

۲..... "الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۱۔

و "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۷۔

۳..... "الہدایۃ"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۲، ص ۲۲۶۔

و "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۷۔

۴..... "الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۱۔

و "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۷۔

۵..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب السابع فی حکم العوض فی الہبۃ، ج ۴، ص ۳۹۴۔

۶..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۷۔

دید یا جب بھی واہب ہبہ کو واپس لے سکتا ہے کہ وہ عوض دینا صحیح ہی نہیں ہوا۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۲۹ - نصرانی یا کسی کافر نے مسلمان کو کوئی چیز ہبہ کی مسلمان اس کے عوض میں اُسے سوڑ یا شراب دے یہ عوض دینا صحیح نہیں کیونکہ مسلمان اپنی طرف سے کسی کو بھی ان چیزوں کا مالک نہیں کر سکتا اور جب یہ دینا صحیح نہ ہو تو واہب اب بھی رجوع کر سکتا ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۰ - عوض دینے کا یہ مطلب ہے کہ موہوب کے سوا دوسری چیز واہب کو دے اگر موہوب کا ایک حصہ باقی کے عوض میں دید یا یہ صحیح نہیں واہب رجوع کر سکتا ہے۔ دو چیزیں ہبہ کی ہیں اگر دو عقد کے ذریعہ سے ہبہ ہوئی ہیں تو ایک کو دوسرے کے عوض میں دے سکتا ہے اور اگر ایک ہی عقد میں دونوں چیزیں واہب نے دی تھیں تو ایک کو دوسری کا عوض نہیں کہہ سکتے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۱ - گیہوں⁽⁴⁾ ہبہ کیے تھے موہوب لہ نے انھیں میں سے تھوڑا آٹا پسوا کر باقی کے عوض میں واہب کو دے دیا یہ عوض دینا صحیح ہے یعنی اب واہب بقیہ گیہوں کو واپس نہیں لے سکتا کہ عوض لے چکا ہے۔ یوہیں کپڑا ہبہ کیا تھا اُس میں کا ایک حصہ رنگ کر یا سی کر باقی کے عوض میں دیا یا ستو ہبہ کیا تھا تھوڑا سا اسی میں سے گھی میں ملا کر واہب کو دید یا یہ تعویض⁽⁵⁾ صحیح ہے۔ ایک شخص نے دو کینریں ہبہ کی تھیں موہوب لہ کے پاس ان میں سے ایک کے بچہ پیدا ہوا یہ بچہ عوض میں دید یا یہ صحیح ہے اور واپس لینا ممنوع ہو گیا۔ جانور کے ہبہ کا بھی یہی حکم ہے۔⁽⁶⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۳۲ - اجنبی شخص نے موہوب لہ کی طرف سے بطور تبرع و احسان واہب کو عوض دیا یہ بھی صحیح ہے اگر واہب نے قبول کر لیا رجوع ممنوع ہو گیا اجنبی کا عوض دینا موہوب لہ کے حکم سے ہو یا بغیر حکم دونوں کا ایک حکم ہے۔⁽⁷⁾ (ہدایہ، بحر)

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۷.

②..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۳.

③..... المرجع السابق.

④..... گندم۔ ⑤..... عوض دینا۔

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۸.

و "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۳.

⑦..... "الہدایہ"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۲، ص ۲۲۶.

و "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۸.

مسئلہ ۳۳ موہوب لہ کی طرف سے دوسرے نے عوض دیدیا یہ موہوب لہ سے رجوع نہیں کر سکتا اگرچہ یہ موہوب لہ کا شریک ہی ہو اگرچہ اس نے اُس کے حکم سے عوض دیا ہو کیونکہ موہوب لہ کے ذمہ عوض دینا واجب نہ تھا لہذا اُس کا حکم کرنا ایسا ہی ہے جس طرح تبرع کرنے کا حکم ہوتا کہ اس میں رجوع نہیں کر سکتا ہاں اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم عوض دے دو میں اس کا ضامن ہوں تو اس صورت میں وہ اجنبی موہوب لہ سے لے سکتا ہے۔^(۱) (بحر)

مسئلہ ۳۴ ہبہ کا عوض دے دیا اب دیکھتا ہے کہ موہوب^(۲) میں عیب ہے تو اسے یہ اختیار نہیں کہ موہوب کو واپس دے کر عوض واپس لے۔ یوں واہب^(۳) نے عوض پر قبضہ کر لیا تو اُسے بھی یہ اختیار نہیں کہ عوض واپس دے کر موہوب کو واپس لے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ مریض نے ہبہ کیا موہوب لہ نے ہبہ کا عوض دیا اور مریض نے اُس پر قبضہ کر لیا پھر مر گیا اور اُس مریض کے پاس اس کے سوا کوئی مال نہ تھا جسے ہبہ کر دیا تو اگر وہ عوض اُس مال کی دو تہائی قیمت کی قدر ہو یا زیادہ ہو تو ہبہ نافذ ہے اور اگر نصف قیمت کی قدر ہو تو ایک سدس^(۵) اُس کے ورثہ موہوب لہ سے واپس لے سکتے ہیں۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ عوض دینے کے بعد ہبہ میں کسی نے اپنا حق ثابت کیا اور نصف موہوب کو لے لیا تو موہوب لہ واہب سے نصف عوض واپس لے سکتا ہے اور اگر اس کا عکس ہو یعنی نصف عوض میں مستحق نے حق ثابت کر کے لے لیا تو واہب کو یہ حق نہیں کہ نصف ہبہ کو واپس لے لے ہاں اگر اس باقی کو یعنی جو کچھ عوض اس کے پاس رہ گیا ہے اس کو واپس کر کے ہبہ کا کل یا جز لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔

فائدہ: اس مقام پر عوض سے مراد وہ ہے کہ ہبہ میں مشروط نہ ہو اگر ہبہ میں عوض مشروط ہو تو وہ مبادلہ کے حکم میں ہے اُس کے اجزا پر اس کی تقسیم ہوگی یعنی نصف عوض کے استحقاق پر نصف ہبہ کو واپس لے سکتا ہے۔^(۷) (بحر، درمختار، ہدایہ)

①....."البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۸.

②.....ہبہ کی گئی چیز۔

③.....ہبہ کرنے والا۔

④....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب السابع فی حکم العوض... إلخ، ج ۴، ص ۳۹۴.

⑤.....چھٹا حصہ۔

⑥....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب السابع فی حکم العوض... إلخ، ج ۴، ص ۳۹۵.

⑦....."البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۸.

و"الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۴.

و"الہدایۃ"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۲، ص ۲۲۶.

مسئلہ ۳۷ موہوب لہ نے نصف ہبہ کا عوض دیا ہے یعنی کہہ دیا کہ یہ نصف کے عوض میں ہے تو جس کا عوض نہیں دیا ہے واہب اُسے واپس لے سکتا ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۸ پورے عوض کو کسی نے اپنا ثابت کیا اگر موہوب شے موجود ہے تو پوری واپس لے سکتا ہے اور ہلاک ہوگئی ہے تو کچھ نہیں اور اگر عوض دینے کے بعد کسی نے پورے ہبہ کو اپنا ثابت کر کے لے لیا تو موہوب لہ عوض کو واپس لے سکتا ہے اگر موجود ہو اور ہلاک ہو گیا ہے تو دو صورتیں ہیں مثلی ہے^(۲) تو اُس کی مثل لے اور قیمی ہے^(۳) تو قیمت۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۳۹ ہبہ کا عوض دیا تھا مگر اُس کا کوئی حقدار نکل آیا جس نے اس کو لے لیا اور ادھر موہوب چیز میں زیادت ہوگئی تو واہب واپس نہیں لے سکتا ہے۔^(۵) (درمختار)

(۳) ہبہ کا ملک موہوب لہ سے خارج ہو جانا مانع رجوع ہے:

اُس کی ملک سے نکل جانے کی بہت صورتیں ہیں بیع کر دے، صدقہ کر دے، ہبہ کر دے، جو کچھ کر دے واہب واپس نہیں لے سکتا۔

مسئلہ ۴۰ موہوب لہ نے موہوب شے کو ہبہ کر دیا تھا اور واہب کا رجوع ممتنع ہو گیا تھا مگر موہوب لہ نے جس کو دیا تھا اُس سے واپس لیا تو واہب اول اس سے لے سکتا ہے کہ مانع زائل ہو گیا۔ موہوب لہ ثانی سے^(۶) واپسی جو ہوئی وہ قاضی کے حکم سے ہوئی ہو یا خود اُس کی رضامندی سے کہ اس کے رجوع کرنے کے معنی ہبہ کو فسخ کرنا ہے لہذا مانع زائل ہو گیا۔ اور اگر اُس چیز کا اس کی ملک میں آنانے سبب سے ہو مثلاً اس نے موہوب لہ ثانی سے خرید لی یا اُس نے اس پر صدقہ کر دیا اس صورت میں واہب اول اس سے واپس نہیں لے سکتا۔^(۷) (درمختار، بحر)

مسئلہ ۴۱ موہوب شے موہوب لہ کی ملک سے خارج ہونے کے بعد اگر پھر اُس کی ملک میں آجائے تو یہ دیکھا

①....."الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۴.

②.....جس کی مثل بازار میں ملتی ہو۔ ③.....جس کی مثل بازار میں نہ ملتی ہو۔

④....."الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۴.

⑤.....المرجع السابق.

⑥.....دوسرے موہوب لہ سے۔

⑦....."الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۵.

و"البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۹.

جائے گا کہ یہ ملک میں آجانا کس سبب سے ہے اگر فسخ کی وجہ سے ہے تو واہب کو واپس لینے کا حق لوٹ آئے گا مثلاً بیع کر دی تھی پھر وہ بیع قاضی نے فسخ کر دی اور اگر ملک میں واپس آنا سبب جدید سے ہے تو واہب کو واپس لینے کا حق واپس نہیں آئے گا۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۳۲ - ملک سے نکلنے کے یہ معنی ہیں کہ پوری طرح اس کی ملک سے خارج ہو جائے لہذا اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ کچھ لگاؤ باقی ہو مثلاً موہوب لہ نے ہبہ کا جانور قربانی کر دیا یا بکری کے گوشت کو صدقہ کرنے کی منت مانی اور ذبح ہو چکی ہے گوشت تیار ہے واہب واپس لے سکتا ہے۔ تمتع⁽²⁾ یا قرآن⁽³⁾ یا نذر⁽⁴⁾ کا جانور ہبہ کیا ہوا ہے واہب واپس لے سکتا ہے اگرچہ ذبح کر دیا ہو اور گوشت ہو گیا ہو۔⁽⁵⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۳۳ - موہوب لہ نے آدمی چیز بیع کر دی ہے آدمی اُس کے پاس باقی ہے جو باقی ہے اس میں رجوع کر سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (بحر)

(۵) زوجیت مانع رجوع ہے:

مسئلہ ۳۴ - زوجیت سے مراد وہ ہے جو وقت ہبہ موجود ہو اور بعد میں پائی گئی تو مانع نہیں مثلاً ایک عورت اجنبیہ کو ہبہ کیا تھا ہبہ کے بعد اس سے نکاح کیا واپس لے سکتا ہے اور اگر اپنی عورت کو ہبہ کیا تھا اس کے بعد فرقت ہو گئی تو واپس نہیں لے سکتا غرض یہ کہ واپس لینے اور نہ لینے دونوں میں وقت ہبہ ہی کا لحاظ ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۵ - مرد نے عورت کے یہاں چیزیں بھیجی تھیں اور عورت نے مرد کے یہاں جس طرح یہاں بھی رواج ہے کہ طرفین سے چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں پھر زفاف کے بعد⁽⁸⁾ دونوں میں فرقت ہو گئی⁽⁹⁾ شوہر نے دعویٰ کیا کہ جو کچھ میں نے سامان بھیجا تھا بطور عاریت تھا لہذا واپس ملنا چاہیے اور عورت بھی کہتی ہے میری چیزیں مجھے واپس مل جائیں ہر ایک دوسرے سے واپس لے لے کیونکہ عورت کا یہ گمان ہے کہ جو کچھ اس نے دیا تھا ہبہ کے عوض میں دیا تھا اور ہبہ ثابت نہیں

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۹.

②..... جمع تمتع۔ ③..... حج قرآن۔ ④..... منت۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۹.

و"الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۵.

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۹.

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۶.

⑧..... رخصتی کے بعد۔ ⑨..... جدائی ہو گئی۔

لہذا عوض بھی واپس۔⁽¹⁾ (بحر)

(۶) قرابت مانع رجوع ہے:

قرابت سے مراد اس مقام پر ذی رحم محرم ہے یعنی یہ دونوں باتیں ہوں اور حرمت بھی نسب کی وجہ سے ہو تو واپس نہیں لے سکتا اگرچہ وہ ذی رحم محرم ذمی یا مستامن ہو کہ اس سے بھی واپس نہیں لے سکتا۔ مثلاً باپ، دادا، ماں، دادی اصول⁽²⁾ اور بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی فروع⁽³⁾ اور بھائی، بہن اور چچا، پھوپھی کہ یہ سب ذی رحم محرم ہیں۔ اگر موہوب لہ محرم ہے یعنی نکاح حرام ہے مگر ذی رحم نہ ہو جیسے رضاعی بھائی⁽⁴⁾ یا مصاہرت⁽⁵⁾ کی وجہ سے حرمت ہو جیسے ساس اور بی بی کی دوسرے خاوند سے اولادیں اور داماد اور بیٹے کی بی بی یا موہوب لہ ذی رحم ہے مگر محرم نہیں جیسے چچا زاد بھائی اگرچہ یہ رضاعی بھائی ہو کہ یہاں نسب کی وجہ سے حرمت نہیں ان سب کو چیز ہبہ کر کے واپس لے سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (بحر، عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ → ایک شے غیر منقسم⁽⁷⁾ اپنے بھائی اور اجنبی دونوں کو ہبہ کی اور دونوں نے قبضہ کر لیا اجنبی کا حصہ واپس لے سکتا ہے کہ اس میں رجوع سے مانع نہیں ہے اور بھائی کا حصہ واپس نہیں لے سکتا کہ یہاں مانع پایا جاتا ہے۔⁽⁸⁾ (درر)

(۷) عین موہوب کا ہلاک ہو جانا مانع رجوع ہے: کہ جب وہ چیز ہی نہیں ہے رجوع کیا کرے گا۔

مسئلہ ۳۷ → موہوب لہ کہتا ہے کہ چیز ہلاک ہو گئی اور واہب کہتا ہے کہ نہیں ہلاک ہوئی موہوب لہ کی بات بغیر حلف مان لی جائے گی کہ وہی منکر ہے کیونکہ وجوب رد کا وہ منکر ہے اور اگر واہب کہتا ہے کہ جو چیز میں نے ہبہ کی تھی وہ یہ ہے اور موہوب لہ منکر ہے تو موہوب لہ کی بات حلف کے ساتھ معتبر ہوگی اور اگر موہوب لہ کہتا ہے میں واہب کا بھائی ہوں اور واہب منکر ہے تو واہب کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے۔⁽⁹⁾ (بحر)

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۴۹۹، ۵۰۰.

②..... باپ، دادا، پڑدادا، پڑدادی وغیرہ اس طرح کے رشتے اصول کہلاتے ہیں۔

③..... بیٹا، پوتی، پڑپوتا وغیرہ اس طرح کے رشتے فروع کہلاتے ہیں۔

④..... دودھ شریک بھائی۔ ⑤..... سسرالی رشتہ۔

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۰.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۶، ۳۸۷.

⑦..... تقسیم کیے بغیر۔

⑧..... "درر الحکام" شرح "غرر الأحکام"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فیہا، الجزء الثانی، ص ۲۲۳.

⑨..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۰.

مسئلہ ۳۸ — موہوب چیز میں تغیر پیدا ہو گیا یعنی اب دوسری چیز ہو گئی یہ بھی مانع رجوع ہے مثلاً گیہوں کا آٹا پسا لیا یا آٹا تھا اس کی روٹی پکالی دودھ تھا اُسکو پیئر بنا لیا یا گھی کر لیا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ — کڑیاں^(۲) ہبہ کی تھیں اُس نے چیر پھاڑ کر ایندھن بنا لیا یا کچی اینٹیں ہبہ کی تھیں توڑ کر مٹی بنا لی رجوع کر سکتا ہے اور اس مٹی کی پھر اینٹیں بنا لیں تو رجوع نہیں کر سکتا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۰ — روپیہ ہبہ کیا تھا پھر موہوب لہ سے وہی روپیہ قرض لے لیا اب اس کو کسی طرح رجوع نہیں کر سکتا اور اگر موہوب لہ نے اُس روپیہ کو صدقہ کر دیا مگر ابھی فقیر نے قبضہ نہیں کیا ہے تو واہب^(۴) واپس لے سکتا ہے۔^(۵) (عالمگیری)

رجوع کے مسائل

مسئلہ ۵۱ — ہبہ میں رجوع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کی رضامندی سے چیز واپس ہو یا حاکم نے واپسی کا حکم دیدیا ہو لہذا قاضی کے حکم کرنے کے بعد اگر واہب نے چیز کو طلب کیا اور موہوب لہ نے انکار کر دیا اور اُس کے بعد وہ شے ضائع ہو گئی تو موہوب لہ کوتاوان دینا ہوگا کہ اب اُسے روکنے کا حق نہ تھا اور اگر قاضی کے حکم سے قبل یہ بات ہوئی تو اُس پر تاوان واجب نہیں کہ اُسے روکنے کا حق تھا۔ یوہیں اگر موہوب لہ نے بعد حکم قاضی اُسے روکا نہیں بلکہ ابھی تک واہب نے مانگا نہیں اور موہوب لہ کے پاس ہلاک ہو گئی تو تاوان واجب نہیں۔^(۶) (درمختار، بحر)

مسئلہ ۵۲ — قضائے قاضی یا طرفین کی^(۷) رضامندی سے جب اُس نے رجوع کر لیا تو عقد ہبہ بالکل فسخ ہو گیا اور واہب کی پہلی ملک عود کر آئی^(۸) یہ نہیں کہا جائے گا کہ جدید ملک حاصل ہوئی لہذا مالک ہونے کے لیے واہب کے قبضہ کی ضرورت نہیں اور مشاع میں بھی رجوع صحیح ہے مثلاً موہوب لہ نے نصف کو بیع کر دیا ہے نصف باقی ہے اس نصف کو واہب نے

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... الخ، ج ۴، ص ۳۸۶.

②..... کڑی کی جمع، شہتیر۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... الخ، ج ۴، ص ۳۸۶.

④..... ہبہ کرنے والا۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الخامس فی الرجوع... الخ، ج ۴، ص ۳۹۰.

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۷.

و "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۱.

⑦..... دونوں کی یعنی واہب اور موہوب لہ کی۔

⑧..... یعنی واہب پھر اسی طرح مالک ہو گیا جیسے پہلے مالک تھا۔

واپس لیا اگرچہ یہ شائع ہے مگر رجوع صحیح ہے۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۵۳ موہوب لہ جب تندرست تھا اُس وقت اُسے کسی نے کوئی چیز ہبہ کی اور جب وہ بیمار ہوا واہب نے چیز واپس کر لی اگر یہ واپسی حکم قاضی سے ہے تو صحیح ہے ورنہ یا قرض خواہ کو موہوب لہ کے مرنے کے بعد اُس چیز کے مطالبہ کا حق نہیں اور اگر بغیر حکم قاضی محض واہب کے مانگنے پر موہوب لہ نے چیز دیدی تو اس واپسی کو ہبہ جدید قرار دیا جائے گا کہ ایک ٹلٹ⁽²⁾ میں واپسی صحیح ہوگی وہ بھی جب کہ اُس پر دین مستغرق نہ ہو⁽³⁾ اور اگر اُس پر دین مستغرق ہو تو واہب سے چیز واپس لے کر قرض والوں کو دی جائے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۴ ایک چیز خرید کر ہبہ کر دی پھر موہوب لہ سے واپس لے لی اب اس میں عیب کا پتہ چلا تو بائع کو مطلقاً واپس دے سکتا ہے خواہ قاضی کے حکم سے واپس لیا ہو یا موہوب لہ کی رضامندی سے بخلاف بیع یعنی اگر مشتری⁽⁵⁾ نے چیز بیع کر دی اور مشتری دوم نے بوجہ عیب واپس کر دی اور اُس نے رضامندی سے واپس لے لی تو اپنے بائع پر واپس نہیں کر سکتا کہ یہ حق ثالث میں⁽⁶⁾ فتح نہیں۔⁽⁷⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۵۵ رجوع کرنے سے ہبہ بالکل اصل ہی سے فسخ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہبہ کا زمانہ مستقبل میں کچھ اثر نہ رہے گا یہ مطلب نہیں کہ زمانہ گزشتہ میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں رہا ایسا ہوتا تو شے موہوب⁽⁸⁾ سے جو زیادت⁽⁹⁾ بعد ہبہ کے پیدا ہوگئی ہے وہ بھی ملک واہب⁽¹⁰⁾ کی طرف منتقل ہو جاتی حالانکہ ایسا نہیں مثلاً بکری ہبہ کی تھی اور اُس کے بچے پیدا ہوا اسکے بعد واہب نے بکری واپس کر لی مگر یہ بچہ موہوب لہ ہی کا ہے⁽¹¹⁾ واہب کا نہیں ہے یا مثلاً بیج⁽¹²⁾ میں عیب ظاہر ہوا اور قاضی کے حکم سے مشتری نے بائع کو⁽¹³⁾ واپس کر دی یہ اصل سے فسخ ہے اور زمانہ گزشتہ میں اس کا اعتبار کیا جائے تو لازم آئے

①..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۱.

②..... ایک تہائی۔

③..... اتنا قرض نہ ہو جو اس کے چھوڑے ہوئے مال کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب العاشر فی ہبۃ المریض، ج ۴، ص ۴۰۱.

⑤..... خریدار۔

⑥..... تیسرے کے حق میں۔

⑦..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۱.

و"الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۷.

⑧..... ہبہ کی گئی چیز۔

⑨..... اضافہ، بڑھوتری۔

⑩..... ہبہ کرنے والے کی ملکیت۔

⑪..... جس کے لئے ہبہ کیا گیا اسی کا ہے۔

⑫..... بیج کی گئی چیز۔

⑬..... بیچنے والے کو۔

کہ مشتری نے بیع سے جو نفع حاصل کیا ہے حرام ہو حالانکہ ایسا نہیں۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۵۶ → ہبہ کرنے کے بعد واہب نے اُس چیز کو ہلاک کر دیا تاوان دے گا اور اگر غلام تھا اُسے واہب نے آزاد

کر دیا آزاد نہ ہوگا کیونکہ جب تک واہب نہ کرے گا اس کی ملک نہیں ہے۔⁽²⁾ (بحر)

مسئلہ ۵۷ → جو چیز ہبہ کی تھی وہ ہلاک ہوگئی اُس کے بعد مستحق⁽³⁾ نے دعویٰ کیا کہ چیز میری تھی اور موہوب لہ سے

اُس کا تاوان وصول کر لیا موہوب لہ واہب سے اُس تاوان میں سے کچھ وصول نہیں کر سکتا۔ یہی حکم عاریت کا ہے کہ مستعیر کے

پاس ہلاک ہو جائے اور مستحق اس سے ضمان⁽⁴⁾ وصول کرے تو یہ معیر سے کچھ نہیں لے سکتا اور اگر عقد معاوضہ کے ذریعہ سے⁽⁵⁾

چیز اس کے پاس آتی اور ہلاک ہو جاتی اور مستحق ضمان لیتا تو یہ دینے والے سے وصول کر سکتا۔ مثلاً مشتری کے پاس بیع ہلاک

ہوگئی اور مستحق نے اس سے ضمان لیا یہ بائع سے وصول کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس چیز کا ہونا دینے والے کے نفع کی

خاطر ہو تو یہ دینے والے سے ضمان وصول کر سکتا ہے مثلاً مودع⁽⁶⁾ یا مستاجر⁽⁷⁾ کے پاس چیز تھی اور ہلاک ہوگئی اور مستحق نے

تاوان لیا تو یہ مالک سے وصول کر سکتے ہیں۔⁽⁸⁾ (بحر)

مسئلہ ۵۸ → جن سات مواضع میں رجوع نہیں ہو سکتا جن کا بیان ابھی گزرا اگر واہب و موہوب لہ رجوع پر اتفاق

کر لیں تو یہ اُن کا اتفاق جائز ہے۔⁽⁹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۹ → ہبہ بشرط العوض کہ میں یہ چیز تم کو ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ فلاں چیز تم مجھ کو دو یہ ابتدا کے لحاظ سے ہبہ

ہے لہذا دونوں عوض پر قبضہ ضروری ہے اگر دونوں نے یا ایک نے قبضہ نہیں کیا تو ہر ایک رجوع کر سکتا ہے اور دونوں میں سے کسی

میں شیوع⁽¹⁰⁾ ہو تو باطل ہوگا مگر انتہا کے لحاظ سے یہ بیع ہے لہذا اس میں بیع کے احکام بھی ثابت ہونگے کہ اگر اس میں عیب ہے تو

واپس کر سکتا ہے خیار رویت بھی حاصل ہوگا اس میں شفعہ بھی جاری ہوگا۔⁽¹¹⁾ (درمختار)

①....."البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۱.

②.....المرجع السابق.

③.....حق دار۔ ④.....تاوان۔ ⑤.....یعنی تبادلہ کے طور پر۔

⑥.....جس کے پاس ودیعت (امانت) رکھی جائے۔ ⑦.....کرایہ دار۔

⑧....."البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۱.

⑨....."الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۷، ۵۹۸.

⑩.....ایسی شرکت جس میں شریکوں کے حصے ممتاز نہ ہوں۔

⑪....."الدر المختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۸.

مسئلہ ۶۰ — اگر ہبہ کے یہ الفاظ ہوں کہ میں نے یہ چیز فلاں چیز کے مقابل میں تم کو ہبہ کی یعنی عوض کا لفظ نہیں کہا تو یہ ابتداء و انتہا دونوں کے لحاظ سے بیع ہی ہے ہبہ نہیں ہے اور اگر عوض کو معین نہ کیا ہو بلکہ مجہول رکھا مثلاً یہ چیز تم کو ہبہ کرتا ہوں بشرطیکہ تم اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز دو تو یہ ابتداء و انتہا دونوں کے لحاظ سے ہبہ ہی ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۶۱ — موہوب لہ نے موہوب پر قبضہ کر لیا اس کے بعد واہب نے بلا اجازت موہوب لہ اُس چیز کو لیکر ہلاک کر ڈالا تو بقدر قیمت^(۲) تاوان دے اور اگر بکری ہبہ کی تھی واہب نے بغیر اجازت موہوب لہ اُسے ذبح کر ڈالا تو ذبح کی ہوئی بکری موہوب لہ لے لے گا اور تاوان نہیں اور کپڑا ہبہ کیا تھا واہب نے اُسے قطع کر ڈالا^(۳) تو یہ کپڑا دینا ہوگا اور قطع کرنے سے جو کمی ہوئی وہ دے۔^(۴) (عالمگیری)

مسائل متفرقة

مسئلہ ۱ — کنیز کو ہبہ کیا اور اس کے حمل کا استثنا کیا یا یہ شرط کی کہ تم اسے واپس کر دینا یا آزاد کر دینا یا مدبر کر دینا یا ام ولد بنانا یا مکان ہبہ کیا اور یہ شرط کی کہ اس میں سے کچھ جزو معین مثلاً یہ کمرہ یا غیر معین مثلاً اس کی تہائی چوتھائی واپس کر دینا یا ہبہ میں یہ شرط کی کہ اس کے عوض میں کوئی شے (غیر معین) مجھے دینا ان سب صورتوں میں ہبہ صحیح ہے اور استثنا یا شرط باطل۔^(۵) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۲ — کنیز کے شکم میں جو بچہ ہے اُسے آزاد کر کے کنیز کو ہبہ کیا صحیح ہے اور اگر حمل کو مدبر کر کے جاریہ کو ہبہ کیا صحیح نہیں۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۳ — بچوں کے معلمین کو عیدی دی جاتی ہے اگر معلم نے سوال و الجاح^(۷) نہ کیا ہو تو جائز ہے۔^(۸) (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۹.

②.....یعنی قیمت کے برابر۔ ③.....یعنی کاٹ دیا۔

④....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الحادی عشر فی المتفرقات، ج ۴، ص ۴۰۲.

⑤....."الہدایۃ"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۲، ص ۲۲۷.

و "الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۵۹۹.

⑥....."الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۸، ص ۶۰۰.

⑦.....اصرار۔

⑧....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الحادی عشر فی المتفرقات، ج ۴، ص ۴۰۴.

مسئلہ ۴ عمری جائز ہے۔ عمری کے معنی یہ ہیں کہ مثلاً مکان عمر بھر کے لیے کسی کو دیدیا کہ جب وہ مر جائے تو واپس لے لے گا یہ واپسی کی شرط باطل ہے اب وہ مکان اسی کا ہو گیا جس کو دیا جب تک وہ زندہ ہے اُس کا ہے اور مر جائے گا تو اسی کے ورثہ لیں گے جس کو دیا گیا ہے نہ دینے والا لے سکتا ہے نہ اس کے ورثہ۔ رقبے جائز نہیں اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی کو اس شرط پر دیا کہ اگر میں تجھ سے پہلے مر گیا تو مکان تیرا ہے مرنے کے بعد مالک کے ورثہ کا ہوگا، جس کو دیا ہے اُس کا نہیں ہوگا۔^(۱) (ہدایہ وغیرہا)

مسئلہ ۵ دین^(۲) کی معافی کو شرط محض پر معلق کرنا مثلاً مدیون^(۳) سے کہا جب کل آئے گا تو دین سے بری ہے یا وہ دین تیرے لیے ہے یا اگر تو نے نصف دین ادا کر دیا تو باقی نصف تیرا ہے یا وہ معاف ہے یا اگر تو مر جائے تیرا دین معاف ہے یا اگر تو اس مرض سے مر جائے تو دین معاف ہے یا میں اس مرض سے مر جاؤں تو دین مہر سے تو معافی میں ہے، یہ سب صورتیں باطل ہیں دین معاف نہیں ہوگا اور اگر وہ شرط ایسی ہے کہ ہو چکی ہے تو ابراہیم صحیح ہے مثلاً اگر تیرے ذمہ میرا دین ہے تو میں نے معاف کیا معاف ہو گیا۔ یوں اگر یہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو دین سے تو بری ہے یہ جائز ہے اور وصیت ہے۔^(۴) (بحر)

مسئلہ ۶ مدیون کو دین ہبہ کر دینا ایک وجہ سے تملیک^(۵) ہے اور ایک وجہ سے اسقاط^(۶) لہذا رد کرنے سے رد ہو جائے گا اور چونکہ اسقاط بھی ہے لہذا قبول پر موقوف نہ ہوگا۔ کفیل^(۷) کو دین ہبہ کر دینا یہ بالکل تملیک ہے یہاں تک کہ وہ مکفول عنہ^(۸) سے دین وصول کر سکتا ہے اور بغیر قبول کے تمام نہیں ہوگا اور کفیل سے دین معاف کر دینا بالکل اسقاط ہے کہ رد کرنے سے رد نہیں ہوگا۔^(۹) (بحر)

مسئلہ ۷ ابراہیم معاف کرنے میں قبول کی ضرورت نہیں ہوتی مگر بدل صرف^(۱۰) و بدل سلم^(۱۱) سے بری کر دیا یا

①..... "الهدایة"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۲، ص ۲۲۸، وغیرہا.

②..... قرض۔

③..... مقروض۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۴، ۵۰۳.

⑤..... مالک بنانا، ملکیت میں دینا۔

⑥..... اپنا مطالبہ چھوڑ دینا۔

⑦..... ضامن۔

⑧..... جس پر مطالبہ ہے۔

⑨..... "البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۴، ۵۰۳.

⑩..... بیع صرف کا عوض۔

⑪..... بیع سلم کا عوض۔

ہبہ کر دیا اس میں قبول کی ضرورت ہے۔⁽¹⁾ (بحر)

مسئلہ ۸ ایک شخص پر دین تھا وہ بغیر ادا کیے مر گیا دائن⁽²⁾ نے وارث کو وہ دین ہبہ کر دیا یہ ہبہ صحیح ہے یہ دین پورے ترکہ کو مستغرق ہو⁽³⁾ یا نہ ہو دونوں کا ایک حکم ہے، اور اگر وارث نے ہبہ کو رد کر دیا تو رد ہو گیا اور بعض ورثہ کو ہبہ کیا جب بھی گل ورثہ کے لیے ہبہ ہے۔ یو ہیں وارث سے ابرا کیا یعنی معاف کر دیا یہ بھی صحیح ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ دائن کے ایک وارث نے مدیون کو تقسیم سے قبل اپنے حصہ کا دین ہبہ کر دیا یہ صحیح ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ دائن نے مدیون کو دین ہبہ کر دیا اور اُس وقت نہ اُس نے قبول کیا نہ رد کیا دو تین دن کے بعد آ کر اُسے رد کرتا ہے صحیح یہ ہے کہ اب رد نہیں کر سکتا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ کسی سے یہ کہا کہ جو کچھ میری چیز کھا لو تمہارے لیے معافی ہے یہ کھا سکتا ہے جبکہ قرینہ سے یہ نہ معلوم ہوتا ہو کہ اس نے نفاق سے کہا ہے یعنی محض ظاہری طور پر کہہ دیا ہے دل سے نہیں چاہتا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ دائن کو خبر ملی کہ مدیون مر گیا اس نے کہا میں نے اپنا دین معاف کر دیا ہبہ کر دیا بعد میں پھر پتا چلا کہ وہ زندہ ہے اُس سے دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ معافی بلا شرط تھی۔⁽⁸⁾ (خانہ)

مسئلہ ۱۳ کسی سے یہ کہا کہ جو کچھ تمہارے حقوق میرے ذمہ ہیں معاف کر دو اُس نے معاف کر دیا صاحب حق کو اپنے جتنے حقوق کا علم ہے وہ تو معاف ہو ہی گئے اور جن کا علم نہیں قضاء⁽⁹⁾ وہ بھی معاف ہو گئے اور فتویٰ اس پر ہے کہ دیانہ بھی معاف ہو گئے۔⁽¹⁰⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ کسی سے یہ کہا کہ جو کچھ میرے مال میں سے کھا لویا لے لویا دے دو تمہارے لیے حلال ہے اُس کو کھانا

①....."البحر الرائق"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، ج ۷، ص ۵۰۴.

②.....قرض خواہ۔

③.....یعنی گھیرے ہوئے ہو۔

④....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الرابع فی ہبۃ الدین... إلخ، ج ۴، ص ۳۸۴.

⑤.....المرجع السابق.

⑥.....المرجع السابق.

⑦....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثالث فیما يتعلق بالتحلیل، ج ۴، ص ۳۸۱.

⑧....."الفتاویٰ الخانیۃ"، کتاب الہبۃ، فصل فی الرجوع فی الہبۃ، ج ۲، ص ۲۸۸.

⑨.....شرعی فیصلے کی رو سے۔

⑩....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثالث فیما يتعلق بالتحلیل، ج ۴، ص ۳۸۱.

حلال ہے مگر لینا یا کسی کو دینا حلال نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ یہ کہا میں نے تمہیں اس وقت معاف کر دیا یا دنیا میں معاف کر دیا تو ہر وقت کے لیے معافی ہوگئی اور دنیا و

آخرت دونوں میں معافی ہوگئی کہیں بھی اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ کسی کی چیز غصب کر لی ہے مالک سے معاف کرائی تو ضمان سے بری ہو گیا مگر چیز اب بھی مالک

ہی کی ہے غاصب کو اس میں تصرف کرنا جائز نہیں یعنی جو چیز ذمہ میں واجب ہے اُس کی معافی ہوتی ہے عین کی معافی نہیں ہوتی۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ مدیون⁽⁴⁾ سے دین⁽⁵⁾ وصول ہونے کی امید نہ ہو تو اُس پر دعویٰ کرنے سے یہ بہتر ہے کہ معاف کر دے

کہ وہ عذاب سے بچ جائے گا اور اس کو ثواب ملے گا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ جانور بیمار تھا اُس نے چھوڑ دیا کسی نے اُسے پکڑا اور علاج کیا وہ اچھا ہو گیا اگر مالک نے چھوڑتے

وقت یہ کہہ دیا ہے کہ فلاں قوم میں سے جو اسے لے لے اُس کا ہے تو اگر وہ پکڑنے والا اسی قوم سے ہے تو اُس کا ہو گیا اور اگر

کچھ نہ کہا یا یہ کہا کہ جو لے لے اُس کا ہے اور قوم یا جماعت کو معین نہیں کیا ہے تو وہ جانور مالک ہی کا ہے اُس شخص سے لے سکتا

ہے پر نہ چھوڑ دیا اس کا بھی یہی حکم ہے اور جنگلی پرند کو پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہ چاہیے جب تک یہ نہ کہے کہ جو پکڑ لے اُس کا

ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری) کیونکہ پکڑنے سے اُس کی ملک ہو گیا اور جب چھوڑ دیا تو شکار کرنے والوں کو کسی کی ملک ہونا معلوم نہ

ہوگا لہذا اجازت کی ضرورت ہے تاکہ شکار کرنے والوں کو اُس کا لینا ناجائز نہ ہو مگر ظاہر یہ ہے کہ اس میں قوم یا جماعت کی

تخصیص کی جائے۔

مسئلہ ۱۹ دین کا اُسے مالک کر دینا جس پر دین نہیں ہے یعنی مدیون کے سوا کسی دوسرے کو مالک کر دینا باطل

ہے مگر تین صورتوں میں اول حوالہ کہ اپنے دائن کو اپنے مدیون پر حوالہ کر دے دوسری وصیت کہ کسی کو وصیت کر دی کہ فلاں کے ذمہ

جو میرا دین ہے میرے مرنے کے بعد وہ دین فلاں کے لیے ہے تیسری صورت یہ ہے کہ جس کو مالک بنائے اُسے قبضہ پر مسلط

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثالث فیما یتعلق بالتحلیل، ج ۴، ص ۳۸۲.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق.

④..... مقروض۔

⑤..... قرض۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۱۵۷.

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الہبۃ، الباب الثالث فیما یتعلق بالتحلیل، ج ۴، ص ۳۸۲.

کردے⁽¹⁾۔ یوں عورت کا شوہر کے ذمہ جو دین تھا اُسے اپنے بیٹے کو جو اسی شوہر سے ہے ہبہ کر دیا یہ بھی صحیح ہے جبکہ اسے قبضہ پر مسلط کر دیا ہو۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۰۔ دائن نے یہ اقرار کیا کہ یہ دین فلاں کا ہے میرا نہیں ہے میرا نام فرضی طور پر کاغذ میں لکھ دیا گیا ہے اس کا اقرار صحیح ہے لہذا مقررہ⁽³⁾ اُس دین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یوں اگر یوں کہا کہ فلاں پر جو میرا دین ہے وہ فلاں کا ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۱۔ دو شخصوں نے اس بات پر صلح کی کہ رجسٹر میں ایک کا نام لکھا جائے تو جس کا نام لکھا گیا ہے عطا اسی کے لیے ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۲۔ واہب و موہب لہ میں اختلاف ہو واہب کہتا ہے ہبہ تھا دوسرا کہتا ہے صدقہ تھا واہب کا قول معتبر ہے۔⁽⁶⁾ (خانہ)

مسئلہ ۲۳۔ مرد نے عورت سے کچھ مانگا اس لیے کہ خرچ کی تنگی ہے اگر کچھ دیدے گی وسعت ہو جائے گی عورت نے شوہر کو دیا مگر قرض خواہوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس مال ہے انہوں نے لے لیا اگر عورت نے ہبہ کیا تھا یا قرض دیا تھا تو لینے والے سے واپس نہیں لے سکتی کیونکہ ان دونوں صورتوں میں شوہر کی ملک ہو گیا اور قرض خواہ اُسے لے سکتے ہیں اور اگر عورت نے شوہر کو اس طرح دیا تھا کہ ملک عورت ہی کی رہے گی اور شوہر اس میں تصرف کرے گا تو مال عورت کا ہے قرض خواہ سے واپس لے سکتی ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۴۔ کسی کے پاس برتن میں کھانا بھیجا یہ شخص اُس برتن میں کھا سکتا ہے یا نہیں اگر وہ کھانا ایسا ہے کہ دوسرے برتن میں لوٹنے سے لذت جاتی رہے گی جیسے شریذ⁽⁸⁾ تو اُس برتن میں کھا سکتا ہے، اسی طرح ہمارے یہاں شیر برنج⁽⁹⁾ ہے کہ

①..... یعنی اسے قبضے کا مکمل اختیار دیدے۔

②..... "الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۸، ص ۶۰۳.

③..... جس کے لئے اقرار کیا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۸، ص ۶۰۴.

⑤..... المرجع السابق، ص ۶۰۵.

⑥..... "الفتاویٰ الخانیۃ"، کتاب الہبۃ، فصل فی الرجوع فی الہبۃ، ج ۲، ص ۲۸۸.

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۸، ص ۶۰۶.

⑧..... ایک قسم کا کھانا جو شوربے وغیرہ میں روٹی کا مالیدہ بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ ⑨..... چاولوں کی کھیر۔

دوسرے برتن میں لوٹنے سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور اگر دوسرے برتن میں کرنے سے کھانا بدمزہ نہ ہو تو اگر دونوں میں انبساط (میل) ہو تو اُس میں کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار) اور اگر عرف یہ ہو کہ وہ ظرف بھی واپس نہ لیا جاتا ہو تو ظرف بھی ہدیہ ہے مثلاً میوے یا مٹھائیاں ٹوکریوں میں بھیجتے ہیں یہ ٹوکریاں واپس نہیں لی جاتیں یہ بھی ہدیہ ہیں اور جن ظروف کے واپس دینے کا رواج ہو اگر اُن کو واپس نہیں کیا ہے تو اس کے پاس امانت کے طور پر ہیں یعنی اُن کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں صرف اتنا کر سکتا ہے کہ ہدیہ کی چیز اُس میں کھا سکتا ہے جبکہ دونوں کے مابین انبساط ہو یا اُس ہدیہ کو دوسرے برتن میں لوٹنے سے چیز بدمزہ ہو جاتی ہو۔⁽²⁾ (عالمگیری) آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت لوگ دوسرے کے برتنوں کو جن میں کوئی چیز آئی اور اُس وقت برتن کسی وجہ سے واپس نہ گئے اپنے گھر کے کام میں لاتے ہیں اُن کو اس سے احتراز چاہیے۔

مسئلہ ۲۵ ہمارے ملک میں یہ بھی رواج ہے کہ مٹی کے پیالے میں کھیر بھیجا کرتے ہیں اور میلا دشریف اور فاتحہ یا کسی تقریب میں مٹھائی کے حصے مٹی کی طشتریوں⁽³⁾ میں بھیجتے ہیں اس میں تمام ملک کا یہی رواج ہے کہ وہ پیالے اور طشتریاں بھی دینا مقصود ہوتا ہے واپس نہیں لیتے لہذا موہوب لہ مالک ہے بلکہ بعض لوگ چینی یا تانبے کی طشتریوں میں حصے بانٹتے ہیں یعنی حصہ مع برتن کے دیدیتے ہیں مگر اس کا رواج نہیں ہے جب تک موہوب لہ سے کہا نہ جائے اس برتن کو نہیں لے سکتا ہے۔

مسئلہ ۲۶ بہت سے لوگوں کی دعوت کی اور ان کو متعدد دسترخوانوں پر بٹھایا ایک دسترخوان والے کسی چیز کو دوسرے دسترخوان والوں کو نہیں دے سکتے مثلاً بعض مرتبہ ایک پر روٹی ختم ہوگئی اور دوسرے پر موجود ہے یہ لوگ اس پر سے روٹی اٹھا کر اُن کو نہیں دے سکتے ان لوگوں کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ سائل و فقیر کو اس میں سے ٹکڑا دیدیں مثلاً بعض ناواقف ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کے مکان پر کھانا کھا رہے ہیں اور فقیر نے سوال کیا اُس کھانے میں سے سائل کو دے دیتے ہیں یہ ناجائز ہے کتے اور بلی کو بھی نہیں دے سکتے ہاں اگر بلی خود صاحب خانہ کی ہے تو اُسے دے سکتے ہیں اور کتا اگرچہ صاحب خانہ ہی کا ہو نہیں دے سکتے۔⁽⁴⁾ (درمختار) بلی کتے کا فرق وہاں کے عرف کے لحاظ سے ہے ہمارے یہاں نہ کتے کے دینے کا رواج ہے نہ بلی کے، ہاں دسترخوان پر جو ہڈیاں جمع ہو جاتی ہیں یا روٹی کے چھوٹے ٹکڑے یا گرے ہوئے چاول ان کی نسبت دیکھا ہے کہ کتے کو ڈال دیتے ہیں۔

مسئلہ ۲۷ بائع نے چیز بیع کر دی اور اُس کا ثمن بھی وصول کر لیا اس کے بعد بائع نے مشتری سے ثمن معاف کر دیا یہ

①..... "الدرالمختار"، کتاب الہبة، باب الرجوع فی الہبة، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۸، ص ۶۰۶.

②..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الہبة، الباب الثالث فیما يتعلق بالتحلیل، ج ۴، ص ۳۸۳.

③..... رکابوں، پلیٹوں۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الہبة، باب الرجوع فی الہبة، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۸، ص ۶۰۷.

معافی صحیح ہے اور مشتری نے جو کچھ شمن دیا ہے بائع سے واپس لے گا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۸ → ایک شخص نے دوسرے کے پاس خط لکھا اور اُس میں یہ بھی لکھا کہ اس کا جواب پشت پر لکھ دو اُس کا واپس کرنا لازم ہوگا اور اگر یہ نہیں لکھا تو وہ خط مکتوب الیہ کا ہے جو چاہے کرے۔⁽²⁾ (جوہرہ) بلکہ اس زمانہ میں یہ عرف ہے کہ خط دو ورقہ کاغذ پر لکھتے ہیں ایک ورق پر لکھنا عیب جانتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خط میں چند سطریں ہوتی ہیں باقی کاغذ سادہ رہتا ہے یہ کاغذ مکتوب الیہ کا ہے وہ جو چاہے کرے۔

مسئلہ ۲۹ → ایک شخص کا انتقال ہو گیا اُس کے بیٹے کے پاس کسی نے کفن بھیجا، اس کفن کا مالک بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی بیٹے کو یہ اختیار ہے یا نہیں کہ اس کپڑے کو خود رکھ لے اور دوسرے کا کفن دیدے اگر میت اُن لوگوں میں سے ہے کہ اُس کو کفن دینا اپنے لیے باعث برکت جانتے ہیں مثلاً وہ عالم فقیہ ہے یا پیر ہے تو بیٹے کو وہ کفن رکھ لینا اور دوسرا کفن دینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے اور پہلی صورت میں کہ اس کو دوسرے کپڑے میں کفن دینا جائز نہ تھا اس نے وہ کپڑا رکھ لیا اور دوسرا کفن دیا تو اس کپڑے کو واپس کرنا واجب ہوگا۔⁽³⁾ (جوہرہ)

اجارہ کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُكْرِمَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ ۚ فَإِنْ أَتَيْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ
عَلَيْكَ ۚ سَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝﴾⁽⁴⁾

”شعیب (علیہ السلام) کی دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اے والد انھیں (موسیٰ علیہ السلام کو) نوکر رکھ لیجئے کہ بہتر نوکر وہ ہے جو قوی و امین ہو (شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے) کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں اس پر کہ آٹھ برس تک تم میرا کام اجرت پر کرو اور اگر دس برس پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا ان شاء اللہ (عزوجل) تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔“

①.....”الدرالمختار“، کتاب الہبۃ، باب الرجوع فی الہبۃ، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۸، ص ۶۰۸.

②.....”الجوہرۃ النیرۃ“، کتاب الہبۃ، الجزء الاول، ص ۴۲۹.

③.....المرجع السابق، ص ۴۳۰.

④.....پ ۲۰، القصص: ۲۶، ۲۷.

حدیث ۱ صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”تین شخص وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں خصم ہوں (اُن سے مطالبہ کروں گا) ایک وہ جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر اُس عہد کو توڑ دیا اور دوسرا وہ جس نے آزاد کو بیچا اور اُس کا ثمن کھایا اور تیسرا وہ جس نے مزدور رکھا اور اس سے کام پورا لیا اور اُس کی مزدوری نہیں دی۔“^(۱)

حدیث ۲ ابن ماجہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔“^(۲)

حدیث ۳ صحیح بخاری شریف میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں صحابہ میں کچھ لوگ سفر میں تھے ان کا گزر قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر ہوا، انھوں نے ضیافت^(۳) کا مطالبہ کیا انھوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، اُس قبیلہ کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا اُس کے علاج میں انھوں نے ہر قسم کی کوشش کی مگر کوئی کارگر نہ ہوئی پھر انھیں میں سے کسی نے کہا یہ جماعت جو یہاں آئی ہے (صحابہ) ان کے پاس چلو شاید ان میں سے کسی کے پاس اس کا کچھ علاج ہو، وہ لوگ صحابہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور ہم نے ہر قسم کی کوشش کی مگر کچھ نفع نہ ہوا کیا تمہارے پاس اس کا کچھ علاج ہے؟ ایک صاحب بولے، ہاں میں جھاڑتا ہوں مگر ہم نے تم سے مہمانی طلب کی اور تم نے ہماری مہمانی نہیں کی تو اب اُس وقت میں جھاڑوں گا کہ تم اس کی اجرت دو، اجرت میں بکریوں کا ریوڑ دینا طے پایا (ایک روایت میں ہے تمیں بکریاں دینا طے ہوا) انھوں نے **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا، وہ شخص بالکل اچھا ہو گیا اور وہاں سے ایسا ہو کر گیا کہ اُس پر زہر کا کچھ اثر نہ تھا، اجرت جو مقرر ہوئی تھی انھوں نے پوری دے دی۔ ان میں بعض نے کہا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے مگر جنھوں نے جھاڑا تھا یہ کہا کہ ایسا نہ کرو بلکہ جب ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو لیں گے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے تمام واقعات عرض کر لیں گے پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اس کے متعلق جو کچھ حکم دیں گے وہ کیا جائے گا یعنی انھوں نے خیال کیا کہ قرآن پڑھ کر دم کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اجرت حرام ہو۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا، ارشاد

①.....”صحیح البخاری“، کتاب البیوع، باب اثم من باع حراً، الحدیث: ۲۲۲۷، ج ۲، ص ۵۲.

②.....”سنن ابن ماجہ“، کتاب الرہون، باب أجر الأجراء، الحدیث: ۲۴۴۳، ج ۳، ص ۱۶۲.

③.....ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب کسی قوم پر گزرو اور وہ تمہاری مہمانی کریں فیہا ورنہ تم ان سے وصول کر لو لہذا جب حکم شرع یہ تھا تو اپنے

حق کا یہ مطالبہ تھا اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ ۱۲ منہ حفظہ ربہ

فرمایا کہ ”تمہیں اس کا رقیہ (جھاڑ) ہونا کیسے معلوم ہوا؟ اور یہ فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا آپس میں اسے تقسیم کر لو اور (اس لیے کہ اس کے جواز کے متعلق اُن کے دل میں کوئی خدشہ نہ رہے یہ فرمایا کہ) میرا بھی ایک حصہ مقرر کرو۔“⁽¹⁾ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کی اجرت لینا جائز ہے جبکہ کہ قرآن سے ہو یا ایسی دُعاؤں سے ہو جن میں ناجائز و باطل الفاظ نہ ہوں۔

حدیث ۳ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں: ”اگلے زمانہ کے تین شخص کہیں جا رہے تھے، سونے کے وقت ایک غار کے پاس پہنچے اُس میں یہ تینوں شخص داخل ہو گئے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے گری جس نے غار کو بند کر دیا اُنہوں نے کہا: اب اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ تم نے جو کچھ نیک کام کیا ہو اُس کے ذریعہ سے اللہ (عزوجل) سے دُعا کرو۔ ایک نے کہا اے اللہ! (عزوجل) میرے والدین بہت بوڑھے تھے جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دوہ کر سب سے پہلے اُن کو پلاتا اُن سے پہلے نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا، نہ لونڈی نہ غلام کو دیتا، ایک دن میں جنگل میں دور چلا گیا رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت آیا کہ والدین سو گئے تھے میں دودھ لیکر اُن کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے بچے بھوک سے چلا رہے تھے، مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو پلانا پسند نہ کیا اور یہ بھی پسند نہ کیا کہ انہیں سوتے سے جگا دوں دودھ کا پیالہ ہاتھ پر رکھے ہوئے ان کے جاگنے کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ صبح چمک گئی اب وہ جاگے اور دودھ پیا، اے اللہ! (عزوجل) اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو کچھ ہٹا دے، اس کا کہنا تھا کہ چٹان کچھ سرک گئی مگر اتنی نہیں ہٹی کہ یہ لوگ غار سے نکل سکیں۔

دوسرے نے کہا: اے اللہ! (عزوجل) میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت محبوب رکھتا تھا، میں نے اُس کے ساتھ بُرے کام کا ارادہ کیا اُس نے انکار کر دیا، وہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئی میرے پاس کچھ مانگنے کو آئی میں نے اُسے ایک سو بیس اشرفیاں دیں کہ میرے ساتھ خلوت کرے⁽²⁾ وہ راضی ہو گئی، جب مجھے اُس پر قابو ملا⁽³⁾ تو بولی کہ ناجائز طور پر اس مہر کا توڑنا⁽⁴⁾ تیرے لیے حلال نہیں کرتی، اس کام کو گناہ سمجھ کر میں ہٹ گیا اور اشرفیاں جو دے چکا تھا وہ بھی چھوڑ دیں، الہی! اگر یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے میں نے کیا ہے تو اس کو ہٹا دے، اس کے کہتے ہی چٹان کچھ سرک گئی مگر اتنی نہیں ہٹی کہ نکل سکیں۔

تیسرے نے کہا، اے اللہ! (عزوجل) میں نے چند شخصوں کو مزدوری پر رکھا تھا، اُن سب کو مزدوریاں دیدیں ایک شخص

① ”صحیح البخاری“، کتاب الإجارة، باب ما يُعطى في الرقبة... إلخ، الحدیث: ۲۲۷۶، ج ۲، ص ۶۹.

و کتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب، الحدیث: ۵۰۰۷، ج ۳، ص ۴۰۴، ۴۰۵.

② یعنی مجھے ہم بستری کرنے دے۔ ③ یعنی اُس پر غالب ہوا۔ ④ پردہ بکارت کو زائل کرنا۔

اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اُس کی مزدوری کو میں نے بڑھایا یعنی اُس سے تجارت وغیرہ کوئی ایسا کام کیا جس سے اُس میں اضافہ ہوا اُس کو بڑھا کر میں نے بہت کچھ کر لیا وہ ایک زمانہ کے بعد آیا اور کہنے لگا: اے خدا کے بندہ! میری مزدوری مجھے دیدے۔ میں نے کہا: یہ جو کچھ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری ہی مزدوری کا ہے سب لے لے۔ بولا: اے بندہ خدا! مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا: مذاق نہیں کرتا ہوں یہ سب تیرا ہی ہے، لے جا، وہ سب کچھ لے کر چلا گیا، الہی! اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے ہٹا دے وہ پتھر ہٹ گیا، یہ تینوں اُس غار سے نکل کر چلے گئے۔“ (1)

حدیث ۵ → ابو داؤد ابن ماجہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ایک شخص کو میں قرآن پڑھاتا تھا اُس نے کمان ہدیہ دی ہے یہ کوئی مال نہیں ہے یعنی ایسی چیز نہیں ہے جسے اُجرت کہا جائے، جہاد میں اس سے تیرا اندازی کروں گا۔ ارشاد فرمایا: ”اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہارے گلے میں آگ کا طوق ڈالا جائے تو اسے قبول کر لو۔“ (2)

مسائل فقہیہ

کسی شے کے نفع کا عوض کے مقابل کسی شخص کو مالک کر دینا اجارہ ہے۔ (3) مزدوری پر کام کرنا اور ٹھیکہ اور کرایہ اور نوکری یہ سب اجارہ ہی کے اقسام ہیں۔ مالک کو آجر، موجر اور مواجر اور کرایہ دار کو مستاجر اور اُجرت پر کام کرنے والے کو اجیر کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱ جس نفع پر عقد اجارہ ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اُس چیز سے وہ نفع مقصود ہو اور اگر چیز سے یہ منفعت مقصود نہ ہو جس کے لیے اجارہ ہوا تو یہ اجارہ فاسد ہے مثلاً کسی سے کپڑے اور ظروف (4) کرایہ پر لیے مگر اس لیے نہیں کہ کپڑے پہنے جائیں گے ظروف استعمال کیے جائیں گے بلکہ اپنا مکان سجانا مقصود ہے یا گھوڑا کرایہ پر لیا مگر اس لیے نہیں کہ اس پر سوار ہوگا بلکہ کوتل چلنے کے لیے (5) یا مکان کرایہ پر لیا اس لیے نہیں کہ اس میں رہے گا بلکہ لوگوں کے کہنے کو ہوگا کہ یہ مکان فلاں کا ہے ان سب صورتوں میں اجارہ فاسد ہے اور مالک کو اُجرت بھی نہیں ملے گی اگرچہ مستاجر نے (6) چیز سے وہ کام لیے جس کے لیے اجارہ کیا تھا۔ (7) (درمختار)

①.....”صحیح البخاری“، کتاب الإجارة، باب من استاجر اجيراً... إلخ، الحدیث: ۲۲۷۲، ج ۲، ص ۶۶، ۶۷ وغیرہ۔

②.....”سنن ابی داؤد“، کتاب الإجارة، باب فی کسب المعلم، الحدیث: ۳۴۱۶، ج ۳، ص ۳۶۲۔

و”سنن ابن ماجہ“، کتاب التحوارات، باب الأجر علی تعلیم القرآن، الحدیث: ۲۱۵۷، ص ۱۶، ۱۷۔

③.....”الدر المختار“، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۷۰۶۔

④..... برتن وغیرہ۔ ⑤..... یعنی اپنے آگے بطور نمود و نمائش چلانے کیلئے۔ ⑥..... کرایہ پر لینے والے نے۔

⑦.....”الدر المختار“، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۷۔

مسئلہ ۲ - اجارہ کے ارکان ایجاب و قبول ہیں خواہ لفظ اجارہ ہی سے ہوں یا دوسرے لفظ سے۔ لفظ عاریت سے بھی اجارہ منعقد ہو سکتا ہے مثلاً یہ کہا میں نے یہ مکان ایک مہینے کو دس روپے کے عوض میں عاریت پر دیا دوسرے نے قبول کر لیا اجارہ ہو گیا۔ یوں اگر یہ کہا کہ میں نے اس مکان کے نفع اتنے کے بدلے میں تم کو بہہ کیے اجارہ ہو جائے گا۔^(۱) (بحر)

مسئلہ ۳ - جو چیز بیع کا ثمن ہو سکتی ہے وہ اجرت بھی ہو سکتی ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ جو اجرت ہو سکے وہ ثمن بھی ہو جائے مثلاً ایک منفعت دوسری منفعت کی اجرت ہو سکتی ہے جبکہ دونوں دو جنس کی ہوں اور منفعت ثمن نہیں ہو سکتی۔^(۲) (درمختار)

اجارہ کے شرائط

مسئلہ ۴ - اجارہ کے شرائط یہ ہیں: (۱) عاقل ہونا یعنی مجنون اور نا سمجھ بچہ نے اجارہ کیا وہ منعقد ہی نہ ہوگا۔ بلوغ اس کے لیے شرط نہیں یعنی نابالغ عاقل نے اپنے نفس کے متعلق اجارہ کیا یا مال کے متعلق کیا اگر وہ ماذون ہے یعنی اُس کے ولی نے اُسے اجازت دیدی ہے تو اجارہ منعقد ہے اور اگر ماذون نہیں ہے تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے جائز کر دے گا جائز ہو جائے گا۔ اور اگر نابالغ نے بغیر اجازت ولی کام کرنے پر اجارہ کیا اور اُس کام کو کر لیا مثلاً کسی کی مزدوری چار آنے روز پر کی تو اب ولی کی اجازت درکار نہیں بلکہ اجرت کا یہ مستحق ہو گیا۔ (۲) ملک و ولایت یعنی اجارہ کرنے والا مالک یا ولی ہو اجارہ کرنے کا اسے اختیار حاصل ہو فضولی نے^(۳) جو اجارہ کیا وہ مالک یا ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا اور وکیل نے عقد اجارہ کیا یہ جائز ہے۔ (۳) متاجر کو وہ چیز سپرد کر دینا جبکہ اُس چیز کے منافع پر اجارہ ہو اہو۔ (۴) اجرت کا معلوم ہونا۔ (۵) منفعت کا معلوم ہونا اور ان دونوں کو اس طرح بیان کر دیا ہو کہ نزاع کا^(۴) احتمال نہ رہے، اگر یہ کہہ دیا کہ ان دو مکانوں میں سے ایک کو کرایہ پر دیا یا دو غلاموں میں سے ایک کو مزدوری پر دیا یہ اجارہ صحیح نہیں۔ (۶) جہاں اجارہ کا تعلق وقت سے ہو وہاں مدت بیان کرنا مثلاً مکان کرایہ پر لیا تو یہ بتانا ضرور ہے کہ اتنے دنوں کے لیے لیا یہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس میں کیا کام کرے گا۔ (۷) جانور کرایہ پر لیا اس میں وقت بیان کرنا ہوگا یا جگہ مثلاً گھنٹہ بھر سواری لے گا یا فلاں جگہ تک جائے گا اور کام بھی بیان کرنا ہوگا کہ اس سے کون سا کام لیا جائے گا مثلاً بوجھ لادنے کے لیے یا سواری کے لیے۔ (۸) وہ کام ایسا ہو کہ اُس کا استیفا^(۵) قدرت میں ہو اگر حقیقتہً مقدور نہ ہو مثلاً غلام کو اجارہ پر دیا اور وہ بھاگا ہو ہے یا شرعاً غیر مقدور ہو مثلاً گناہ کی

①..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۰۶.

②..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۷.

③..... بلا اجازت تصرف کرنے والے نے۔ ④..... جھگڑے کا۔ ⑤..... پورا کرنا۔

باتوں پر اجارہ یہ دونوں اجارے صحیح نہیں۔ (۹) وہ عمل جس کے لیے اجارہ ہوا اُس شخص پر فرض و واجب نہ ہو۔ (۱۰) منفعت مقصود ہو۔ (۱۱) اسی جنس کی منفعت اُجرت نہ ہو۔ (۱۲) اجارہ میں ایسی شرط نہ ہو جو مقتضائے عقد^(۱) کے خلاف ہو۔

مسئلہ ۵ - اجارہ کا حکم یہ ہے کہ طرفین^(۲) بدلیں کے^(۳) مالک ہو جاتے ہیں مگر یہ ملک ایک دم نہیں ہوتی بلکہ وقتاً فوقتاً ہوتی ہے۔^(۴) (درمختار) مگر جبکہ تعجیل یعنی پیشگی لینا شرط ہو تو عقد کرتے ہی اُجرت کا مالک ہو جائے گا۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - اجارہ کبھی تعاطی سے بھی منعقد ہو جاتا ہے اگر مدت معلوم ہو مثلاً مکان کرایہ پر دیا اُس نے کرایہ دیدیا اور معلوم ہے کہ ایک ماہ کے لیے ہے صحیح ہے طویل مدت کا اجارہ تعاطی سے منعقد نہیں ہوتا۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۷ - منفعت کی مقدار کا علم مدت بیان کرنے سے ہوتا ہے مثلاً پانچ روپے میں ایک مہینہ کے لیے مکان کرایہ لیا یا ایک سال کے لیے کھیت اجارہ پر لیا۔ یہ اختیار ہے کہ جس مدت کے لیے اجارہ ہو وہ قلیل مدت ہو مثلاً ایک گھنٹہ یا ایک دن یا طویل دس برس، بیس برس، پچاس برس۔ اگر اتنی مدت کے لیے اجارہ ہو کہ عادتاً اتنے دنوں تک زندگی متوقع نہ ہو جب بھی اجارہ درست ہے۔ وقف کے اجارہ کی مدت تین سال سے زیادہ نہ ہونی چاہیے مگر جبکہ اتنے دنوں کے لیے کوئی کرایہ دار نہ ملتا ہو یا مدت بڑھانے میں زیادہ فائدہ ہے تو بڑھا سکتے ہیں۔^(۷) (بحر وغیرہ)

مسئلہ ۸ - کبھی عمل کا بیان خود اُس کا نام لینے سے ہوتا ہے مثلاً اس کپڑے کی رنگائی یا اس کی سلائی یا اس زیور کی بنوائی مگر کام کو اس طرح بیان کرنا ہوگا کہ جہالت باقی نہ رہے کہ جھگڑا ہو لہذا جانور کو سواری کے لیے لیا اس میں فقط فعل بیان کرنا کافی نہیں جب تک جگہ یا وقت کا بیان نہ ہو۔ کبھی اشارہ کرنے سے منفعت کا پتہ چلتا ہے مثلاً کہہ دیا یہ غلہ فلاں جگہ لیجانا ہے۔^(۸) (درمختار)

مسئلہ ۹ - اجارہ میں اُجرت محض عقد سے^(۹) ملک میں داخل نہیں ہوتی یعنی عقد کرتے ہی اُجرت کا مطالبہ درست

①..... تقاضہ عقد۔ ②..... یعنی مالک مکان اور کرایہ دار۔ ③..... یعنی مالک مکان کرایہ کا اور کرایہ دار منفعت کا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۹.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب الاول فی تفسیر الإجارة... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۱.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۱۰۰، ۹.

⑦..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۰۸، وغیرہ.

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۱۶، ۱۷.

⑨..... یعنی صرف عقد سے۔

نہیں یعنی فوراً اجرت دینا واجب نہیں اجرت ملک میں آنے کی چند صورتیں ہیں: ① اُس نے پہلے ہی سے عقد کرتے ہی اجرت دیدی دوسرا اس کا مالک ہو گیا یعنی واپس لینے کا اُس کو حق نہیں ہے، ② یا پیشگی لینا شرط کر لیا ہو اب اجرت کا مطالبہ پہلے ہی سے درست ہے، ③ یا منفعت کو حاصل کر لیا مثلاً مکان تھا اُس میں مدت مقررہ تک رہ لیا یا کپڑا درزی کو سینے کے لیے دیا تھا اُس نے سی دیا، ④ وہ چیز مستاجر کو سپرد کردی کہ اگر وہ منفعت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے نہ کرے یہ اُس کا فعل ہے مثلاً مکان پر قبضہ دے دیا یا اجیر⁽¹⁾ نے اپنے نفس کو تسلیم کر دیا کہ میں حاضر ہوں کام کے لیے طیار ہوں کام نہ لیا جائے جب بھی اجرت کا مستحق ہے۔⁽²⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۱۰ اجارہ کا جو کچھ زمانہ مقرر ہوا ہے اس میں سے تھوڑا زمانہ گزر گیا اور باقی، باقی ہے اس باقی زمانہ میں بھی مالک کو چیز دینا اور مستاجر کو لینا ضروری ہے یعنی کچھ زمانہ گزر جانا بازر رہنے کا سبب نہیں ہو سکتا ہاں جو زمانہ گزر گیا اگر اجارہ سے اصلی مقصود وہی زمانہ ہو یعنی وہی زمانہ زیادہ کارآمد ہو تو مستاجر کو اختیار ہے کہ باقی زمانہ میں لینے سے انکار کر دے جیسے مکہ معظمہ میں مکانات کا اجارہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے مگر موسم حج ہی ایک بہتر زمانہ ہے کہ معلمین⁽³⁾ حجاج کو ان مکانات میں ٹھہراتے ہیں اور اسی کی خاطر پورے سال کا کرایہ دیتے ہیں اگر موسم حج نکل گیا اور مکان تسلیم نہیں کیا⁽⁴⁾ تو کرایہ دار یعنی معلمین کو اختیار ہے کہ مکانات لینے سے انکار کر دیں۔⁽⁵⁾ (بحر الرائق) اسی طرح نینی تال⁽⁶⁾ وغیرہ پہاڑوں پر موسم گرما زیادہ مقصود ہوتا ہے اسی کے لیے ایک سال کا کرایہ دیتے ہیں بلکہ جاڑوں میں⁽⁷⁾ مکانات اور دکانیں چھوڑ کر لوگ عموماً وہاں سے چلے آتے ہیں اگر یہ موسم گرما ختم ہو گیا اور مکان یا دکان پر مالک نے قبضہ نہ دیا تو جاڑوں میں جبکہ وہاں رہنا نہیں ہے لیکر کیا کرے گا لہذا کرایہ دار کو اختیار ہے اگر لینا چاہے لے سکتا ہے نہ لینا چاہے انکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ بعض موسم میں بازار کا حال اچھا ہوتا ہے اسی کے لیے سال بھر تک دکانیں کرایہ پر رکھتے ہیں وہ زمانہ نہ ملے تو باقی میں اختیار ہے مثلاً اجمیر شریف میں دوکانداری کا پورا نفع زمانہ عرس میں ہوتا ہے بلکہ اس زمانہ میں مکانات کے کرایے بھی بہ نسبت دیگر زمانہ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس زمانہ میں

①..... ملازم، نوکر۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۱۔

و "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۱۷، ۱۸۔

③..... وہ لوگ جو حجاج کو زیارتیں و دعائیں اور دیگر ارکان بتاتے ہیں۔

④..... یعنی مکان پر قبضہ نہیں دیا۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۱۔

⑥..... ہند کے ایک پہاڑی علاقے کا نام۔

⑦..... سردیوں میں۔

مکان یا دکان پر قبضہ نہ ملنا کرایہ دار کے لیے نقصان کا سبب ہے لہذا اسے اختیار ہے۔

مسئلہ ۱۱ پیشگی اجرت شرط کرنے سے متاجر سے اُس وقت مطالبہ ہوگا کہ جب وہ اجارہ منجز ہو مثلاً یہ مکان ہم نے تم کو اتنے کرایہ پر دے دیا اور اگر اجارہ مضافہ ہو کہ فلاں مہینہ کے لیے مثلاً کرایہ پر دیا اس میں ابھی سے کرایہ کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اگرچہ پیشگی کی شرط ہو۔^(۱) (بحر)

مسئلہ ۱۲ منفعت حاصل کرنے پر قادر ہونے سے اجرت واجب ہو جاتی ہے اگرچہ منفعت حاصل نہ کی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مکان کرایہ دار کو سپرد کر دیا جائے اس طرح کہ مالک مکان کے متاع و سامان سے خالی ہو اور اُس میں رہنے سے کوئی مانع^(۲) نہ ہو نہ اُس کی جانب سے نہ اجنبی کی جانب سے اس صورت میں اگر وہ نہ رہے اور بیکار مکان کو خالی چھوڑ دے تو اجرت واجب ہوگی لہذا اگر مکان سپرد ہی نہ کیا یا سپرد کیا مگر اُس میں خود مالک مکان کا سامان و اسباب ہے یا مدت کے گزر جانے کے بعد سپرد کیا یا مدت ہی میں سپرد کیا مگر اُس سے کوئی عذر ہے یا اُس کو عذر بھی نہیں مگر حکومت کی جانب سے رہنے سے ممانعت ہے یا غاصب نے اُسے غصب کر لیا یا وہ اجارہ ہی فاسد ہے ان سب صورتوں میں مالک مکان اجرت کا مستحق نہیں۔ جانور کو کرایہ پر لیا اس میں بھی یہ صورتیں ہیں بلکہ اس میں ایک صورت یہ زائد ہے کہ مالک نے اسے جانور دیدیا مگر جہاں سوار ہونے کے لیے لیا تھا وہاں نہیں گیا بلکہ کسی دوسری جگہ جانور کو باندھ رکھا مثلاً لیا تھا اس لیے کہ شہر سے باہر فلاں جگہ سوار ہو کر جائے گا اور جانور کو مکان ہی میں باندھ رکھا وہاں گیا ہی نہیں کہ سوار ہوتا اس صورت میں بھی اجرت واجب نہیں اور اگر شہر میں سوار ہونے کے لیے لیا تھا اور مکان میں باندھ رکھا سوار نہیں ہوا تو اجرت واجب ہے۔^(۳) (طحطاوی)

مسئلہ ۱۳ غصب سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ اُس سے منفعت حاصل کرنے سے روک دے حقیقۃً غصب ہو یا نہ ہو غصب عام ہے کہ پوری مدت میں ہو یا بعض مدت میں اگر پوری مدت میں ہو تو پورا کرایہ جاتا رہا اور بعض مدت میں ہو تو حساب سے اتنے دنوں کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔^(۴) (بحر) اسی طرح اگر کوئی دوسرا مانع اندرون مدت پیدا ہو گیا کہ اُس چیز سے انتفاع نہ ہو سکے^(۵) تو بقیہ مدت کی اجرت ساقط ہے مثلاً زمین کاشت کے لیے لی تھی وہ پانی سے ڈوب گئی یا پانی نہ ہونے کی وجہ

①..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۲۔

②..... رکاوٹ۔

③..... "حاشیة الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۷۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۲۔

⑤..... یعنی نفع نہ اٹھایا جاسکے۔

سے کاشت نہ ہو سکی یا جانور سواری کے لیے کرایہ پر لیا تھا وہ بیمار ہو گیا یا بھاگ گیا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ مکان کرایہ پر دیا اور قبضہ بھی دیدیا مگر ایک کوٹھری میں مالک نے اپنا سامان رکھا یا ایک کوٹھری مالک نے

مستاجر سے خالی کرائی تو کرایہ میں سے اس کے کرایہ کی مقدار کم کر دی جائے گی۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ مستاجر نے کرایہ دے دیا ہے اور اندرون مدت اجارہ توڑ دیا گیا تو باقی زمانہ کا کرایہ واپس کرنا

ہوگا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ کپڑا کرایہ پر پہننے کے لیے لیا کہ ہر روز ایک پیسہ کرایہ دے گا اور زمانہ دراز تک اپنے مکان پر رکھ

چھوڑا پہنا ہی نہیں تو دیکھا جائے گا کہ روزانہ پہنتا تو کتنے روز میں پھٹ جاتا اتنے زمانہ تک کا کرایہ ایک پیسہ یومیہ اس کے ذمہ

واجب ہے اُس کے بعد کا کرایہ واجب نہیں مثلاً سال بھر تک اس کے یہاں رہ گیا اور پہنتا تو تین ماہ میں پھٹ جاتا صرف تین ماہ

کا کرایہ دینا ہوگا۔⁽⁴⁾ (طحطاوی) اسی طرح یومیہ یا ماہوار پر بہت سی چیزیں کرایہ پر دی جاتی ہیں مثلاً شامیانہ کا کرایہ یومیہ ہوتا

ہے کہ فی یوم اتنا کرایہ جتنے دنوں اس کے یہاں رہے گا کرایہ دینا ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہاں تو ایک ہی دن کا کام تھا اُسکے

بعد بیکار پڑا رہا۔ ایسا ہی گیس کے ہنڈے⁽⁵⁾ کرایہ پر لایا اس کا کرایہ ہر رات اتنا ہوگا جتنی راتیں اس کے یہاں ہنڈے رہے

اُن کا کرایہ دے یعنی جبکہ اجارہ کی کوئی مدت مقرر نہ ہوئی ہو۔

مسئلہ ۱۷ جانور کو کرایہ پر لیا کہ فلاں روز مجھے سوار ہو کر فلاں جگہ جانا ہے مالک نے اسے جانور دیدیا مگر جو دن

جانے کا مقرر کیا تھا اُس روز نہیں گیا دوسرے روز گیا اُجرت واجب نہیں مگر اگر جانور اسکے مکان پر ہلاک ہو گیا تاوان دینا ہوگا کہ

اس نے ناحق اُس کو روک رکھا ہے۔⁽⁶⁾ (طحطاوی)

مسئلہ ۱۸ اجارہ فاسدہ میں منفعت حاصل کرنے پر اُجرت واجب ہوتی ہے اگر منفعت حاصل کرنے پر قادر تھا اور

حاصل نہیں کی اُجرت واجب نہیں پھر اجارہ فاسد میں اگر اُجرت مقرر ہے تو اُجرت مثل واجب ہوگی جو مقرر سے زائد نہ ہو یعنی

اگر اُجرت مثل مقرر سے کم ہے تو اُجرت مثل دیں گے اور اگر مقرر کے برابر یا اُس سے زائد ہے تو جو مقرر ہے وہی دیں گے زیادہ

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الثانی فی بیان أنه متی تحب الأجرۃ... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۳.

②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق.

④..... "حاشیۃ الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارۃ، ج ۴، ص ۷.

⑤..... ہانڈی کی شکل کا بڑا فائوس۔

⑥..... "حاشیۃ الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارۃ، ج ۴، ص ۷.

نہیں دیں گے اور اگر اجرت کا تقرر نہیں ہوا ہے تو اجرت مثل واجب ہے اس کی مقدار جو کچھ ہو۔⁽¹⁾ (طحاوی)

مسئلہ ۱۹ زمین وقف اور زمین یتیم اور جو جائیداد کرایہ پر چلانے کے لیے ہے ان کا بھی یہی حکم ہے کہ محض انتفاع پر

قادر ہونے سے اجارہ فاسدہ میں اجرت واجب نہیں ہوگی بلکہ حقیقتہً انتفاع ضروری ہے یعنی وقف کی زمین زراعت کے لیے بطور اجارہ فاسدہ لی اگر زراعت کرے گا اجرت واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ یوں یتیم کی زمین زراعت کے لیے لی یا مکان کرایہ پر رہنے کے لیے بطور اجارہ فاسدہ لیا یا جائیداد کرایہ پر چلانے کے لیے ہے اس کو اجارہ فاسدہ کے طور پر لیا ان سب میں بھی جب تک منفعت حاصل نہ کرے اجرت واجب نہیں محض قادر ہونا اجرت کو واجب نہیں کرتا۔⁽²⁾ (طحاوی)

مسئلہ ۲۰ جس چیز کو کرایہ پر لیا تھا اس کو کسی نے غصب کر لیا کہ یہ انتفاع پر قادر نہیں ہے مگر سفارش کے ذریعہ سے وہ

چیز غاصب سے نکال سکتا ہے یا لوگوں کی حمایت سے غاصب کو جدا کر سکتا ہے اور اس نے ایسا نہیں کیا اجرت ساقط نہیں ہوگی اور اگر غاصب کو اس وجہ سے نہیں نکالا کہ علیحدہ کرنے میں کچھ خرچ کرنا پڑے گا تو اجرت ساقط ہے۔⁽³⁾ (درمختار، طحاوی)

مسئلہ ۲۱ موجر⁽⁴⁾ اور مستاجر⁽⁵⁾ میں اختلاف ہو اور مستاجر کہتا ہے کسی نے غصب نہیں کیا اور مستاجر کہتا ہے غصب کیا اگر

مستاجر کے پاس گواہ نہیں ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ فی الحال کیا ہے اگر فی الحال مکان میں مستاجر سکونت پذیر ہے تو موجر کی بات مانی جائے گی اور اجرت دلائی جائے گی اور اگر مستاجر کے سوا کوئی دوسرا ساکن ہے تو مستاجر کی بات مقبول ہے اجرت واجب نہیں۔⁽⁶⁾ (بحر)

مسئلہ ۲۲ مالک مکان نے مکان کی کنجی مستاجر کو دیدی مگر کنجی اس کے پاس سے جاتی رہی اگر مکان کو بلا تکلف کھول

سکتا ہے اور نہیں کھولا اجرت واجب ہے ورنہ نہیں اور اگر مستاجر اس کنجی سے قفل⁽⁷⁾ نہیں کھول سکتا ہے مکان کا تسلیم کر دینا اور قبضہ دینا نہیں پایا گیا اور اجرت واجب نہیں۔⁽⁸⁾ (درمختار)

①..... "حاشیة الطحطاوی" علی "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۷.

②..... المرجع السابق.

③..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۰، ۲۱.

و "حاشیة الطحطاوی" علی "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۸.

④..... کرایہ پر دینے والا، مالک۔ ⑤..... کرایہ پر لینے والا۔

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۲.

⑦..... تالا۔

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۳.

مسئلہ ۲۳ - اجارہ اگر مطلق ہے اُس میں یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ اجرت کب دی جائے گی تو مکان اور زمین کا کرایہ روزانہ وصول کر سکتا ہے اور سواری کا ہر منزل پر مثلاً یہ ٹھہرا ہے کہ ہم کو یہاں سے فلاں جگہ جانا ہے اُس کا یہ کرایہ ہے مگر یہ نہیں طے ہوا ہے کہ کرایہ پہنچ کر دیا جائے گا یا کب تو ہر منزل پر حساب سے جو کرایہ ہوتا ہے وصول کر سکتا ہے مگر سواری والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا جہاں تک ٹھہرا ہے وہاں تک پہنچانا اُس پر لازم ہے اور اگر بیان کر دیا گیا ہے کہ اتنے دنوں میں کرایہ لیا جائے گا مثلاً عموماً مکان کے کرایہ میں یہ ہوتا ہے کہ طے ہو جاتا ہے کہ ماہ بمآہ کرایہ دینا ہوگا تو ہر روز یا ہر ہفتہ میں مطالبہ نہیں کر سکتا۔^(۱) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ - درزی دھوبی سونا وغیرہم ان کاریگروں نے جب کام کر لیا اور مالک کو چیز سپرد کر دی اجرت لینے کے مستحق ہو گئے یہی حکم ہر اُس کام کرنے والے کا ہے جس کے کام کا اُس شے میں کوئی اثر ہو جیسے رنگریز^(۲) کہ اُس نے کپڑا رنگ کر مالک کو دیدیا اجرت کا مستحق ہو گیا اور اگر ان لوگوں نے کام تو کیا مگر ابھی تک چیز مالک کو سپرد نہیں کی، اجرت کے مستحق نہیں ہوئے لہذا اگر ان کے یہاں چیز ضائع ہو گئی اجرت نہیں پائیں گے اگرچہ چیز کا ان کو تاوان بھی دینا نہیں پڑے گا۔ اور اگر کام کا کوئی اثر اُس چیز میں نہیں ہوتا جیسے جمال^(۳) کہ چیز کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گیا یہ اجرت کے اُس وقت مستحق ہوں گے جب انہوں نے کام کر لیا اس کی ضرورت نہیں کہ مالک کو سپرد کر دیں جب استحقاق ہو لہذا وہاں پہنچا دینے کے بعد اگر چیز ضائع ہو گئی اجرت واجب ہے۔^(۴) (درمختار) بلکہ اگر جمال نے پہنچایا نہ ہو راستہ ہی میں اجرت مانگتا ہے تو یہاں تک کی جتنی اجرت حساب سے ہولے سکتا ہے مگر جہاں تک ٹھہرا ہے اُس پر وہاں تک پہنچانا لازم ہے اور پہنچانے پر باقی اجرت کا مستحق ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ - دھوبی نے کہا تمہارا کپڑا میں نے دھونے کے لیے لیا ہی نہیں ہے اس کے بعد کپڑے کا اقرار کر لیا اگر انکار سے پہلے دھو چکا ہے دھلائی کا مستحق ہے اور انکار کے بعد دھویا تو دھلائی کا مستحق نہیں اور رنگریز نے کپڑے سے انکار کر دیا پھر اقرار کیا اگر انکار سے پہلے رنگ چکا ہے اجرت کا مستحق ہے اور انکار کے بعد رنگ تو مالک کو اختیار ہے کہ کپڑا لے لے اور رنگ کی وجہ سے جو کچھ کپڑے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ دیدے اور چاہے تو سفید کپڑے کی قیمت تاوان لے۔ اور کپڑا بننے والے

①..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۴.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثانی فی بیان أنه متى تجب الأجرة... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۳.

②..... کپڑے رنگنے والا۔ ③..... بوجھ اٹھانے والا مزدور۔

④..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۴، ۲۵.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثانی فی بیان أنه متى تجب الأجرة... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۳.

نے سوت سے انکار کیا پھر اقرار کیا اور انکار سے قبل بن چکا ہے اُجرت ملے گی اور انکار کے بعد بنا ہے تو کپڑا اسی بننے والے کا ہے اور سوت والے کو اتنا ہی سوت دے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ درزی نے متاجر کے گھر پر کپڑا سیا تو کام کرنے پر اُجرت واجب ہو جائے گی مالک کو سپرد کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب اُس کے مکان پر ہی کام کر رہا ہے تو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی تسلیم کے حکم میں ہے لہذا کپڑا اسی رہا تھا چوری ہو گیا اُجرت کا مستحق ہے بلکہ اگر کچھ سیا تھا کچھ باقی تھا یعنی مثلاً پورا کرتہ سیا بھی نہیں تھا کہ جاتا رہا جتنا سیا لیا تھا اُس کی اُجرت واجب ہے۔⁽²⁾ (طحطاوی)

مسئلہ ۲۷ مزدور دیوار بنا رہا ہے کچھ بنانے کے بعد گر گئی تو جتنی بنا چکا ہے اُس کی اُجرت واجب ہوگی۔ درزی نے کپڑا سیا تھا مگر کسی نے یہ سلائی توڑ دی سلائی نہیں ملے گی ہاں جس نے توڑی ہے اُس سے تاوان لے سکتا ہے اور اب دوبارہ سینا بھی درزی پر واجب نہیں کہ کام کر چکا اور اگر خود درزی ہی نے سلائی توڑ دی تو دوبارہ سینا واجب ہے گویا اُس نے کام کیا ہی نہیں۔⁽³⁾ (بحر)

مسئلہ ۲۸ درزی نے کپڑا قطع کیا اور سیا نہیں بغیر سے مرگیا قطع کرنے کی کچھ اُجرت نہیں دی جائے گی کہ عادتاً سلائی کی اُجرت دیتے ہیں قطع کرنے کی اُجرت نہیں دی جاتی ہاں اگر اصل مقصود درزی سے کپڑا قطع کرانا ہی ہے سلوانا نہیں ہے تو اس کی اُجرت بھی ہو سکتی ہے۔⁽⁴⁾ (طحطاوی، بحر)

مسئلہ ۲۹ دھوبی کو دھونے کے لیے کپڑے دیے اور دُھلائی کا تذکرہ نہیں ہوا کہ کیا ہوگی اُجرت مثل واجب ہوگی کیونکہ اُس کا کام ہی یہ ہے کہ اُجرت پر کپڑا دھوتا ہے۔⁽⁵⁾ (بحر)

مسئلہ ۳۰ نانباہی⁽⁶⁾ اس وقت اُجرت لینے کا حقدار ہوگا جب روٹی تنور سے نکال لے کہ اب اُس کا کام ختم ہوا اور اگر

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثانی فی بیان أنه منی تجب الأجرة... إلخ، ج ۴، ص ۱۴۴.

②..... "حاشیۃ الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۹.

③..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۲، ۵۱۳.

④..... "حاشیۃ الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۹.

و "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۳.

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۳.

⑥..... روٹی پکانے والا۔

کچھ روٹیاں پکائی ہیں کچھ باقی ہیں تو جتنی پکا چکا ہے حساب کر کے انکی پکوائی لے سکتا ہے یہ اُس صورت میں ہے کہ مستاجر یعنی پکوانے والے کے مکان پر اُس نے روٹی پکائی اور اگر پکنے کے بعد یعنی تنور سے نکالنے کے بعد بغیر اس کے فعل کے کوئی روٹی تنور میں گر گئی اور جل گئی تو اس کی اجرت منہا نہیں کی جاسکتی کہ تنور سے نکال کر رکھنے کے بعد اجرت کا حقدار ہو چکا ہے اور اس روٹی کا اس سے تاوان بھی نہیں لیا جاسکتا کہ اس نے خود نقصان نہیں کیا ہے اور اگر تنور سے نکالنے کے پہلے ہی جل گئی تو اس کی اجرت نہیں ملے گی بلکہ تاوان دینا ہوگا یعنی اس روٹی کا جتنا آٹا تھا وہ تاوان دے اور اگر روٹی پکوانے والے کے یہاں نہیں پکائی ہے خواہ نانابائی نے اپنے گھر پکائی یا دوسرے کے مکان پر اور روٹی جل جائے یا چوری ہو جائے بہر حال اجرت کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے لیے تسلیم یعنی مستاجر کے قبضہ میں دینے کی ضرورت ہے پھر اگر چوری ہوگئی تو نانابائی پر تاوان نہیں کیوں کہ آٹا اس کے پاس امانت تھا جس میں تاوان نہیں ہوتا اور اگر جل گئی ہے تو تاوان دینا ہوگا کہ اس کے فعل سے نقصان ہوا اور مالک کو اختیار ہے کہ روٹی کا تاوان لے یا آنے کا اگر روٹی کا تاوان لے گا تو پکوائی دینی ہوگی اور آٹا لے تو نہیں۔ لکڑی، نمک، پانی ان میں سے کسی کا تاوان نہیں۔⁽¹⁾ (بحر، درمختار، طحطاوی)

مسئلہ ۳۱ باورچی جو گوشت یا پلاؤ وغیرہ پکاتا ہے اگر یہ کھانا اُس نے دعوت کے موقع پر پکایا ہے ولیمہ کی دعوت ہو یا ختنہ کی یا چھٹی کی یا عقیقہ کی یا قرآن مجید ختم کرنے کی، غرض کسی قسم کی دعوت ہو اس میں اجرت کا اُس وقت مستحق ہوگا جب سالن وغیرہ برتنوں میں نکال دے اور گھر کے لوگوں کے لیے پکایا ہے تو کھانا طیار کرنے پر اجرت کا حقدار ہو گیا۔⁽²⁾ (بحر، درمختار، بحر) مگر یہ وہاں کا عرف ہے کہ باورچی ہی کھانا نکالتے ہیں ہندوستان میں عموماً یہ طریقہ ہے کہ باورچی طیار کر دیتے ہیں جس نے دعوت کی اُس کے عزیز واقارب دوست احباب کھانا نکالتے ہیں کھلاتے ہیں باورچی سے اس کام کا کوئی تعلق نہیں رہتا لہذا یہاں کے عرف کے لحاظ سے کھانا طیار کرنے پر مزدوری کا مستحق ہو جائے گا نکالنے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ ۳۲ باورچی نے کھانا خراب کر دیا یا جلا دیا یا کچا ہی اوتا دیا اُسے کھانے کا ضمان دینا ہوگا۔ اور اگر آگ لے کر چلا کہ چولہا جلانے یا تنور روشن کرے چنگاری اوڑھی اور مکان میں آگ لگ گئی مکان جل گیا اس کا تاوان دینا نہیں

①..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۳.

و "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۶، ۲۸.

و "حاشیة الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۱۰، ۹.

②..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۸.

و "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۳.

ہوگا کہ اس میں اُس کے فعل کو دخل نہیں اسی طرح کرایہ دار سے اگر مکان جل جائے تو تاوان نہیں کہ اُس نے قصداً ایسا نہیں کیا ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۳ - اینٹ تھاپنے والا اجرت کا اُس وقت مستحق ہے جب اینٹ اُس نے کھڑی کر دی اس کے بعد اگر اینٹوں کا نقصان ہو تو مالک کا ہوا اس کا نہیں اور اگر اس سے پہلے نقصان ہوا تو اسی کا ہوا کہ ابھی تک یہ اجرت کا مستحق نہیں ہے یہ قول امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ صاحبین⁽²⁾ یہ فرماتے ہیں کہ اجرت کا مستحق اُس وقت ہوگا جب اینٹوں کا چٹا لگانا دے⁽³⁾ اسی پر فتویٰ ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار) یہاں کے عرف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ چٹا لگانے کے بعد اجرت ملے کیونکہ چٹا لگانا بھی انھیں تھاپنے والوں کا کام ہوتا ہے نہ اس کے لیے دوسرے مزدور رکھے جاتے ہیں نہ خود ان کو چٹا لگانے کی اجرت دی جاتی ہے بلکہ جہاں تک دیکھا گیا ہے یہی معلوم ہوا کہ اینٹوں کا شمار ہی اُس وقت کرتے ہیں جب چٹا لگ جائے پہلے ہی سے اجرت کیا دی جائے گی۔

مسئلہ ۳۴ - اینٹ تھاپنے کا سانچا⁽⁵⁾ تھیرے⁽⁶⁾ کے ذمہ ہے کہ یہ اُس کے کام کا آلہ ہے جیسے درزی کے لیے سوئی، بڑھی⁽⁷⁾ کے لیے بسولا⁽⁸⁾ وغیرہ ہر قسم کے اوزار، مٹی اور ریتا مستاجر کے ذمہ ہے۔ مکان کے اندر غلہ پہنچا دینا حمال⁽⁹⁾ کا کام ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ دروازہ تک میں نے پہنچا دیا اندر نہیں لے جاؤں گا۔ چھت یا دوسری منزل پر لیجانا حمال کا کام نہیں ہے جب تک اُس سے شرط نہ کر لیں وہ اوپر لیجانے سے انکار کر سکتا ہے۔ مٹکے، گولی⁽¹⁰⁾ اور برتنوں میں غلہ بھرنا حمال کا کام نہیں جب تک اس کی شرط نہ ہو۔ اونٹ یا گھوڑا یا کوئی جانور غلہ لادنے کے لیے کرایہ پر لیا تو غلہ لادنا اور اوتارنا جانور والے کے ذمہ ہے اور مکان کے اندر پہنچانا اس کے ذمہ نہیں مگر جبکہ اس کی شرط ہو یا وہاں کا یہی عرف ہو۔⁽¹¹⁾ (درمختار، بحر)

مسئلہ ۳۵ - بیل گاڑی بہت سی چیزیں لادنے کے لیے کرایہ کرتے ہیں گاڑی والے کے ذمہ وہاں تک پہنچا دینا ہے جہاں تک گاڑی جاتی ہو اُس کے بعد مالک کے ذمہ ہے مگر جبکہ یہ شرط ہو کہ مکان کے اندر پہنچانا ہو گا یا وہاں کا عرف ہو جس طرح

①..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۸.

②..... یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ۔

③..... سلیقے سے رکھ دے۔

④..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۸.

⑤..... اینٹیں بنانے کا آلہ، قالب۔

⑥..... اینٹیں تھاپنے والے۔

⑦..... لکڑی کا کام کرنے والا۔

⑧..... ایک اوزار جس سے بڑھی لکڑی چھیلے ہیں۔

⑨..... بوجھ اٹھانے والا مزدور

⑩..... مٹی سے بنایا ہوا ایک بڑا برتن جس میں پانی یا غلہ رکھتے ہیں۔

⑪..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۲۹.

و "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۴، ۵۱۵.

عموماً شہروں میں یہی طریقہ ہے کہ ٹھیلے والے جو چیزیں لاد کر لاتے ہیں وہ مکان کے اندر تک پہنچاتے ہیں۔

مسئلہ ۳۶ سیاہی کاتب کے ذمہ ہے یعنی لکھنے میں جو کچھ سیاہی صرف ہوگی لکھوانے والا نہیں دے گا اور کاتب کے ذمہ کاغذ شرط کر دینا اجارہ ہی کو فاسدہ کر دیتا ہے۔^(۱) (بحر) یوہیں قلم بھی کاتب ہی کے ذمہ ہے۔

مسئلہ ۳۷ جس کارگیر کے عمل کا اثر چیز میں پیدا ہوتا ہے جیسے رنگریز، دھوبی یہ اپنی اجرت وصول کرنے کے لیے چیز کو روک سکتے ہیں اگر انہوں نے چیز کو روکا اور ضائع ہوگئی تو چیز کا تاوان نہیں دینا ہوگا مگر اجرت بھی نہیں ملے گی۔ یہ روکنے کا حق اُس صورت میں ہے کہ اجرت ادا کرنے کے لیے کوئی میعاد^(۲) مقرر نہ کی ہو اور اگر کہہ دیا ہے کہ ایک ماہ بعد میں اجرت دوں گا اور کارگیر نے منظور کر لیا تو اب چیز کے روکنے کا حق جاتا رہا اور روکنے کا حق اُس وقت ہے کہ کارگیر نے اپنے مکان یا دکان میں کام کیا ہو اور اگر خود مستاجر کے یہاں کام کیا تو کام سے فارغ ہونا ہی مستاجر کو تسلیم کر دینا ہے اس میں روکنے کی صورت نہیں۔ درزی وغیرہ نے تعدی کی جس سے چیز میں نقصان ہوا تو مطلقاً ضامن ہیں اپنے مکان پر کام کیا ہو یا مستاجر کے مکان پر یا اور کہیں اور اگر کشتی میں سامان لدا ہے مالک بھی کشتی میں ہے ملاح^(۳) کشتی کو کھینچے لیجا رہا ہے اور کشتی ڈوب گئی ملاح ضمان نہیں دے گا۔^(۴) (بحر الرائق)

مسئلہ ۳۸ اثر ہونے کا کیا مطلب ہے بعض فقہا فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کام کرنے والے کی کوئی چیز اُس میں شامل ہو جائے جیسے رنگریز نے کپڑے میں اپنا رنگ شامل کر دیا اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی چیز جو نظر نہیں آتی تھی نظر آئے اس ثانی کی بنا پر دھوبی بھی داخل ہے کیونکہ پہلے کپڑے کی سپیدی نظر نہیں آتی تھی اب آنے لگی اور اگر دھوبی نے کلپ لگایا ہے جب تو پہلی صورت میں بھی داخل ہے۔ پستہ بادام کی گری نکالنے والا، لکڑیاں چیرنے والا، آٹا پیسنے والا، درزی اور موزہ سینے والا جبکہ یہ دونوں ڈورا اپنے پاس سے نہ لگائیں غلام کا سر موٹڈنے والا یہ سب اس میں داخل ہیں دونوں قولوں میں اصح قول ثانی^(۵) ہے۔^(۶) (در مختار)

مسئلہ ۳۹ جس کے کام کا اثر اُس چیز میں نہ رہے جیسے حمال کہ غلہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجاتا ہے یا ملاح کہ کسی

①..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۵.

②..... مدت۔ ③..... کشتی چلانے والا۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۵.

⑤..... یعنی صحیح ترین دوسرا قول ہے۔

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۰.

چیز کو کشتی پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے یا جس نے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے دھویا اُس کو سپید نہیں کیا یہ لوگ اُجرت وصول کرنے کے لیے چیز کو روک نہیں سکتے اگر روکیں گے غاصب قرار پائیں گے اور رمضان دینا ہوگا اور مالک کو اختیار ہے عمل کرنے کے بعد جو قیمت ہوئی اُس کا تاوان لے اور اس صورت میں اُجرت دینی ہوگی اور چاہے تو وہ قیمت تاوان میں لے جو عمل کے بغیر ہے اور اس وقت اُجرت نہیں ملے گی۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۰ - اجیر⁽²⁾ کے پاس چیز ہلاک ہوگئی مگر نہ تو اُس کے فعل سے ہلاک ہوئی اور نہ اُجرت لینے کے لیے اُس نے چیز روکی تھی اور اجیر وہ ہے جس کے عمل کا اثر پیدا ہوتا ہے جیسے خیاط⁽³⁾ و رنگریز تو ان کی اُجرت نہیں ملے گی اور اگر عمل کا اثر نہیں پیدا ہوتا جیسے حمال تو اسے اُجرت ملے گی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ - جس سے کام کرانا ہے اگر اُس سے یہ شرط کر لی ہے کہ تم کو خود کرنا ہوگا یا کہہ دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے کرنا اس صورت میں خود اُسی کو کرنا ضروری ہے اپنے شاگرد یا کسی دوسرے شخص سے کام کرانا جائز نہیں اور کرادیا تو اُجرت واجب نہیں اس صورت میں سے دایہ کا استثناء⁽⁵⁾ ہے کہ وہ دوسری سے بھی کام لے سکتی ہے۔ اور اگر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرے گا دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے اپنے شاگرد سے کرائے یا نوکر سے کرائے یا دوسرے سے اُجرت پر کرائے سب صورتیں جائز ہیں۔⁽⁶⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۳۲ - اجارہ مطلق تھا یعنی خود اُس کا ریگر کے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی شرط نہیں تھی کار ریگر نے دوسرے کو بغیر اُجرت چیز سپرد کر دی یعنی دوسرے کو کام کرنے کے لیے دیدی جو اجیر نہیں ہے اور وہاں سے چیز ضائع ہوگئی تو اجیر پر ضمان واجب ہے اور اگر یہ دوسرا شخص پہلے کا اجیر ہے مثلاً درزی کو کپڑا سینے کے لیے دیا درزی نے دوسرے کو اُجرت پر سینے کے لیے دیا اور ضائع ہو گیا تو تاوان واجب نہیں نہ اول پر نہ دوسرے پر۔⁽⁷⁾ (بحر)

①..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۰، ۳۱.

②..... مزدور۔ ③..... درزی۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثانی فی بیان أنه متى تحب الأجرة... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۴-۴۱۵.

⑤..... یعنی دایہ اس حکم سے خارج ہے۔

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۱.

⑦..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، ج ۷، ص ۵۱۶.

مسئلہ ۳۳ - اجیر سے کہہ دیا تم اتنی اجرت پر میرا یہ کام کر دو یہ اجارہ مطلق کی صورت ہے اور اگر یہ کہے تم اپنے ہاتھ سے کرو یا تم خود کرو تو مقید ہے اب دوسرے سے کرانا جائز نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۴ - ایک شخص کو اجیر مقرر کیا کہ میری عیال کو فلاں جگہ سے لے آؤ وہ لینے گیا مگر اُن میں سے بعض کا انتقال ہو گیا جو باقی تھے انھیں لے آیا اگر دونوں کو تعداد معلوم تھی تو اجرت اُسی حساب سے ملے گی یعنی مثلاً چار بچے تھے اور اجرت چار روپے تھی تین کو لایا تو تین روپے پائے گا اور اگر تعداد معلوم نہیں تھی تو پوری اجرت پائے گا اور اگر گیا اور وہاں سے کسی کو نہیں لایا تو کچھ بھی اجرت نہیں ملے گی کہ کام کیا ہی نہیں پہلی صورت میں حساب سے اجرت ملنا اُس صورت میں ہے کہ اُنکے کم، زیادہ ہونے سے محنت میں کمی بیشی ہو مثلاً چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ گود میں لانا ہوگا زیادہ ہوں گے تکلیف زیادہ ہوگی کم ہوں گے تکلیف کم ہوگی اور اگر کم زیادہ ہونے سے اس کی محنت میں کمی بیشی نہیں ہوگی مثلاً کشتی کرایہ پر لی ہے کہ اُس میں سب کو سوار کر کے لاؤ اگر سب آئیں گے یا بعض آئیں گے دونوں صورتوں میں محنت یکساں ہے اس صورت میں پوری اجرت ملے گی اور اگر بچوں کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ اجیر اُن کے ساتھ ساتھ آئے گا سواری کا خرچ مستاجر کے ذمہ ہے مثلاً کہہ دیاریل پر یا تانگہ گاڑی پر سوار کر کے لاؤ یا وہ جگہ قریب ہے سب پیدل چلے آئیں گے اس کو صرف ساتھ رہنا ہوگا یا جگہ دور ہے مگر وہ سب بڑے ہیں پیدل چلے آئیں گے اس کی محنت میں اُن کے کم و بیش ہونے سے کوئی فرق نہیں تو پوری اجرت پائے گا۔^(۲) (درمختار، طحطاوی)

مسئلہ ۳۵ - ایک شخص کو اجیر کیا کہ فلاں جگہ فلاں شخص کے پاس میرا خط لے جاؤ اور وہاں سے جواب لاؤ اگر یہ خط لے کر نہیں گیا اجرت کا مستحق نہیں ہے کہ صرف جانے آنے کے لیے اُس نے اجیر نہیں کیا تھا جب اُس نے کام نہیں کیا اجرت کس چیز کی لے گا اور اگر وہاں خط لیکر گیا مگر مکتوب الیہ^(۳) کا انتقال ہو گیا تھا خط واپس لایا اس صورت میں بھی اجرت کا مستحق نہیں اور اگر خط واپس نہیں لایا بلکہ وہیں چھوڑ آیا تو جانے کی اجرت پائے گا آنے کی نہیں۔ اور اگر مکتوب الیہ وہاں سے کہیں چلا گیا ہے جب بھی یہی صورتیں ہیں۔ اسی طرح اگر مٹھائی وغیرہ کوئی کھانے کی چیز بھیجی تھی جس کے پاس بھیجی تھی وہ مر گیا یا کہیں چلا گیا یہ واپس لایا جب بھی مزدوری کا مستحق نہیں۔^(۴) (درمختار، طحطاوی)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۱.

②....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۲.

و"حاشیة الطحطاوی" علی "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۱۲۰۱.

③.....جس کی طرف خط لکھا گیا اس کا۔

④....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۳، ۳۵.

و"حاشیة الطحطاوی" علی "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۱۲.

مسئلہ ۳۶ متولی وقف نے (۱) وقف کی جائیداد کو اجرت مثل سے کم پر دید یا مستاجر (۲) پر اجرت مثل واجب ہے۔

یوہیں نابالغ کے باپ یا وصی نے اس کی جائیداد کو کم کرایہ پر دید یا اس مستاجر پر اجرت مثل واجب ہے۔ (۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۷ ایک مکان خریدنا کچھ دنوں اُس میں رہنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ مکان وقف ہے یا کسی یتیم کا ہے مکان

تو واپس کرنا ہی ہوگا جتنے دنوں اُس میں رہا ہے اُس کا کرایہ بھی دینا ہوگا۔ (۴) (طحطاوی)

مسئلہ ۳۸ مکان کرایہ پر لیا تھا اور اس کی اجرت پیشگی دیدی تھی مگر مالک مکان مر گیا لہذا اجارہ فسخ ہو گیا کرایہ جو

پیشگی دے چکا ہے اُس کے وصول کرنے کے لیے کرایہ دار کو مکان روک لینے کا حق نہیں اور اگر مالک مکان پر دین تھا اور مر گیا

دین ادا کرنے کے لیے مکان فروخت کیا گیا تو، بہ نسبت دوسرے قرض خواہوں کے یہ اپنا زر پیشگی (۵) وصول کرنے میں زیادہ

حقدار ہے یعنی یہ اپنا پورا روپیہ ثمن سے وصول کر لے اس کے بعد کچھ بچے تو دوسرے قرض خواہ اپنے اپنے حصہ کے موافق اُس

سے لے سکتے ہیں اور کچھ نہیں بچا تو اس ثمن سے لینے کے حقدار نہیں۔ (۶) (طحطاوی)

مسئلہ ۳۹ مستاجر نے اجرت زیادہ کر دی مثلاً پانچ روپیہ ماہوار کرایہ کا مکان تھا کرایہ دار نے چھ روپے کر دیے اگر

اندرون مدت یہ اضافہ ہے تو اصل عقد کے ساتھ لاحق ہو جائے گا جیسے بیع میں ثمن کا اضافہ اور اگر مدت پوری ہونے کے بعد

اضافہ کیا جب بھی زیادہ دینا جائز ہے یعنی یہ ایک احسان ہے عقد باقی نہیں رہا اُس کے ساتھ کیوں کر لاحق ہوگا۔ اور آجر یعنی

مثلاً مالک مکان نے اُس شے میں اضافہ کر دیا جو کرایہ پر تھی مثلاً پہلے ایک مکان تھا اب اُسی کرایہ میں دوسرا مکان بھی دیدیا یہ بھی

جائز ہے اور اگر یتیم یا وقف کا مکان ہے تو اس کی اجرت مثل لی جائے گی۔ (۷) (درمختار، طحطاوی)

مسئلہ ۵۰ درخت خرید اور چار پانچ برس تک کاٹا نہیں اب یہ درخت پہلے سے بڑا اور موٹا ہو گیا مالک زمین کہتا ہے

تم نے اتنے دنوں تک درخت چھوڑ رکھا اس کا کرایہ ادا کرو اس مدت کا کرایہ نہیں لے سکتا۔ (۸) (عالمگیری)

①..... مال وقف کی نگرانی کرنے والے نے۔

②..... کرایہ دار۔

③..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۶، ۳۵۔

④..... "حاشیة الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۱۲۔

⑤..... ایڈوانس۔

⑥..... "حاشیة الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۱۲، ۱۳۔

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، ص ۳۷۔

و "حاشیة الطحطاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة، ج ۴، ص ۱۳۔

⑧..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب الثانی فی بیان أنه متى تحب الأجرة... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۴۔

مسئلہ ۵۱ جس کے ذمہ دین ہے اُس کے مکان کو اپنے دین کے عوض میں کرایہ پر لیا یہ جائز ہے اور اگر مالک مکان پر مستاجر کا دین ہے کچھ دین کرایہ میں مُجر کر دیا اور کچھ باقی ہے اور مدت اجارہ ختم ہوگئی تو مستاجر بقیہ دین میں مکان کو نہیں روک سکتا بلکہ بعد ختم مدت مکان خالی کرنا ہوگا۔^(۱) (عالمگیری)

اجارہ کی چیز میں کیا افعال جائز ہیں اور کیا نہیں

مسئلہ ۱ دکان اور مکان کو کرایہ پر دینا جائز ہے اگرچہ یہ بیان نہ کیا ہو کہ مستاجر اس میں کیا کرے گا کیونکہ یہ مشہور بات ہے کہ مکان رہنے کے لیے ہوتا ہے اور دکان میں تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون رہے گا کیونکہ سکونت^(۲) ایسی چیز ہے کہ ساکن^(۳) کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوتی۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۲ دکان یا مکان کو کرایہ پر لیا اُس میں خود بھی رہ سکتا ہے دوسرے کو بھی رکھ سکتا ہے مفت بھی دوسرے کو رکھ سکتا ہے کرایہ پر بھی اگرچہ مالک مکان یا دکان نے کہہ دیا ہو کہ تم اس میں تنہا رہنا۔ کپڑا پہننے کے لیے کرایہ پر لیا تو دوسرے کو نہیں پہنا سکتا اسی طرح ہر وہ کام کہ استعمال کرنے والے کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۳ مکان اور دکان میں تمام وہ کام کر سکتا ہے جو عادت کے جاتے ہیں اس کی دیواروں میں کیلیں گاڑ سکتا ہے زمین پر میخ اور کھونٹا^(۶) گاڑ سکتا ہے نہانا، دھونا، وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑے دھونا، پھینچنا^(۷) استنجا کرنا، لکڑیاں چیرنا یہ سب کچھ کر سکتا ہے ہاں اگر لکڑی چیرنے میں عمارت کمزور ہو یعنی بیچنے کے لیے چیرے یا مکان کی چھت پر چیرے تو جائز نہیں جب تک مالک مکان سے اجازت نہ لے لے۔ مکان کے دروازہ پر گھوڑا وغیرہ جانور باندھ سکتا ہے اور مکان کے اندر یہ نہیں کر سکتا کہ رہنے کے کمروں کو اصطلیل کر دے۔^(۸) (بجر، درمختار) بکری مکان کے اندر باندھنے کا عرف ہے اسے کر سکتا ہے، کرایہ کے مکان میں ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسا جا سکتا ہے کہ اس سے عمارت میں نقصان نہیں آتا اور اگر عمارت

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثانی فی بیان أنه متى تحب الإجرة... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۵.

②..... رہائش۔

③..... رہنے والے۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۶.

⑤..... المرجع السابق، ص ۴۷.

⑥..... گھوڑے مویشی وغیرہ باندھنے کی بڑی میخ۔

⑦..... کھگانا، نچوڑنا۔

⑧..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۱۷.

و "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۶، ۴۷.

کے لیے مضر⁽¹⁾ ہو تو بلا شرط یا بغیر اجازت مالک جائز نہیں، پن چکی⁽²⁾ یا مشین کی چکی یا جانوروں کی چکی کے لیے اجازت ضروری ہے کہ یہ عمارت کے لیے مضر ہیں۔⁽³⁾ (بحر، درمختار، طحاوی)

مسئلہ ۴ - کرایہ دار کرایہ کے مکان یا دکان میں لوہار اور دھوبی اور چکی والے کو نہیں رکھ سکتا یعنی یہ لوگ اسی مکان میں اپنا کام کریں مثلاً دھوبی اسی مکان میں کپڑا دھوئے یہ بغیر اجازت مالک درست نہیں اور کرایہ دار خود بھی یہ کام بغیر اجازت مالک نہیں کر سکتا اور اگر اجارہ ہی میں ان چیزوں کا کرنا طے پا گیا ہے تو کرنا جائز ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار) اور اگر دھوبی مکان میں کپڑا نہیں دھوتا بلکہ تالاب سے کپڑا دھو کر لاتا ہے اور مکان میں کلپ دیتا ہے⁽⁵⁾ استری کرتا ہے تو حرج نہیں کہ اس سے عمارت پر اثر نہیں پڑتا۔

مسئلہ ۵ - مالک اور کرایہ دار میں اختلاف ہو کہ ان چیزوں کا کرنا اجارہ میں مشروع تھا یا نہیں اس میں مالک کا قول معتبر ہے اور اگر دونوں نے گواہ پیش کیے تو مستاجر⁽⁶⁾ کے گواہ مقبول اور اصل اجارہ ہی میں اختلاف ہو جب بھی یہی صورت ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ - مستاجر نے ایک کام کو معین کیا تھا کہ یہ کروں گا اگر اس کا مثل یا اس سے کم درجہ کا فعل کرے اس کی اجازت ہے مثلاً لوہاری کے کام⁽⁸⁾ کے لیے مکان لیا تھا اور اس میں کپڑے دھونے کا کام کرتا ہے اگر دونوں سے عمارت کا یکساں نقصان ہے یا کپڑا دھونے میں کم نقصان ہے کر سکتا ہے۔ ایسا کام کیا جس کی اجازت نہ تھی کرایہ دینا ہوگا اور اگر مکان گر پڑا تو کرایہ نہیں بلکہ مکان کا تاوان دینا ہوگا۔⁽⁹⁾ (درمختار) یعنی مکان کا کرایہ نہیں دینا ہوگا مگر زمین کا کرایہ دینا ہوگا۔⁽¹⁰⁾ (ردالمحتار)

①..... نقصان دو۔ ②..... پانی کی قوت سے چلنے والی چکی۔

③..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۱۷.

و "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۶.

و "حاشية الطحاوی" علی "الدر المختار"، کتاب الإجارة... إلخ، باب ما يجوز، ج ۴، ص ۱۵.

④..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۶، ۴۷.

⑤..... کلف لگاتا ہے۔ ⑥..... کرایہ دار۔

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۷.

⑧..... یعنی لوہے کے اوزار وغیرہ بنانے کا کام۔

⑨..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۷.

⑩..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۷.

مسئلہ ۷ - مستاجر نے مکان یا دکان کو کرایہ پر دیدیا اگر اتنے ہی کرایہ پر دیا ہے جتنے میں خود لیا تھا یا کم پر جب تو خیر اور زائد پر دیا ہے تو جو کچھ زیادہ ہے اُسے صدقہ کر دے ہاں اگر مکان میں اصلاح کی ہو اُسے ٹھیک ٹھاک کیا ہو تو زائد کا صدقہ کرنا ضرور نہیں یا کرایہ کی جنس بدل گئی مثلاً لیا تھا روپے پر دیا ہوا شرفی پر اب بھی زیادتی جائز ہے۔ جھاڑو دیکر مکان کو صاف کر لینا یہ اصلاح نہیں ہے کہ زیادہ والی رقم جائز ہو جائے اصلاح سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو عمارت کے ساتھ قائم ہو مثلاً پلاسٹر کرایا یا موئڈیر بنوائی۔ خود مالک مکان کو مستاجر نے مکان کرایہ پر دیدیا قبضہ کے بعد ایسا کیا یا قبضہ سے قبل یہ جائز نہیں بلکہ اجارہ ہی فسخ ہو جائے گا۔⁽¹⁾ (بحر) مگر صحیح یہ ہے کہ اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ - زمین کو زراعت⁽³⁾ کے لیے اجرت پر دینا جائز ہے جبکہ یہ بیان ہو جائے کہ اُس میں کیا چیز بوئی جائے گی یا مزارع سے یہ کہہ دے کہ جو تو چاہے بولیا کر، اگر ان چیزوں کا بیان نہیں ہوگا تو منازعت ہوگی⁽⁴⁾ کیونکہ زمین کبھی زراعت کے لیے اجارہ پر دی جاتی ہے کبھی دوسرے کام کے لیے اور زراعت سب چیزوں کی ایک قسم نہیں کہ بیان کرنے کی حاجت نہ ہو بعض چیزوں کی زراعت زمین کے لیے مفید ہوتی ہے اور بعض کی مضر ہوتی ہے اگر ان چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا تو اجارہ فاسد ہے مگر جبکہ اُس نے زراعت بودی تو اب صحیح ہو گیا کہ کام کر لینے سے وہ جہالت جو پیدا ہو گئی تھی جاتی رہی اور مستاجر پر اجرت واجب ہو گئی۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - زراعت کے لیے کھیت لیا تو آمد و رفت کا راستہ⁽⁶⁾ اور پانی جہاں سے آتا ہے اور جس راستے سے آتا ہے یہ سب چیزیں مستاجر کو بغیر شرط بھی ملیں گی کیونکہ یہ نہ ہوں تو زراعت ہی ناممکن ہے اور کھیت بیج لیا⁽⁷⁾ تو یہ چیزیں بغیر شرط داخل نہیں۔⁽⁸⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۰ - کھیت ایک سال کے لیے لیا تو سال کی دونوں فصلیں ربیع⁽⁹⁾ و خریف⁽¹⁰⁾ اُس میں بوسکتا ہے اگر اس

①..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۱۸.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۱۵۳.

③..... کھیتی، باڑی۔

④..... یعنی جھگڑا ہوگا۔

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۸.

⑥..... یعنی آنے جانے کا راستہ۔

⑦..... یعنی خریدا۔

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۸.

⑨..... موسم بہار کی فصل۔

⑩..... موسم خزاں کی فصل۔

وقت زراعت نہیں ہو سکتی کیونکہ پانی نہیں ہے مگر مدت کے اندر زراعت ہو سکتی ہے لگان واجب ہے ورنہ نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار) اور وہ زمین جو پانی سے دور ہونے کی وجہ سے زراعت کے قابل نہیں اس کو یا بنجر زمین کو کاشت کے لیے اجارہ پر لینا درست نہیں۔⁽²⁾ (طحطاوی)

مسئلہ ۱۱ زمین زراعت کے لیے اجارہ پر دی اور زراعت کو کوئی آفت پہنچی مثلاً کھیت پانی سے ڈوب گیا تو جو حصہ لگان کا آفت پہنچنے سے پہلے کا ہے وہ دینا ہوگا اور آفت پہنچنے کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ساقط جبکہ دوسری زراعت کا موقع نہ رہے اور اگر پھر کھیت ہو سکتا ہے تو لگان ساقط نہیں اگرچہ کھیت نہ ہو یا کہ یہ اُس کا اپنا قصور ہے۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ زمین میں دوسرے کی زراعت لگی ہوئی ہے اور جس نے کھیت بو یا ہے جائز طور پر بو یا ہے مثلاً اُس کے پاس کھیت عاریت ہے یا اُس نے اجارہ پر لیا ہے اگرچہ یہ اجارہ فاسد ہی ہو یہ زمین دوسرے کو اجارہ پر دینا جائز نہیں، اور اگر اجارہ پر دیدی اور فصل کٹ گئی اور مالک زمین نے نئے مزارع⁽⁴⁾ کو زمین دیدی تو اجارہ صحیح ہو گیا ہاں ایک شخص نے جائز طور پر بو یا تھا اور فصل کٹنے کے وقت دوسرے کو دیدی یہ اجارہ جائز ہے مزارع اول سے کہا جائے گا کھیت کاٹ لے پھر یہ کھیت مزارع دوم کو دیدیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اجارہ کو زمانہ مستقبل کی طرف مضاف کیا مثلاً فلاں مہینہ سے یہ کھیت تم کو اتنے لگان پر دیا جبکہ معلوم ہو کہ اُس وقت تک کھیت خالی ہو جائے گا مثلاً بیساکھ⁽⁵⁾ سے یا جیٹھ⁽⁶⁾ سے یہ صورت مطلقاً جائز ہے مزارع اول نے جائز طور پر بو یا ہو یا نا جائز طور پر۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اُس کھیت کو بونے والے نے نا جائز طور پر بو یا ہو مالک نے دوسرے کو اجارہ پر دیدیا یہ اجارہ جائز ہے کیونکہ مزارع کو یہ کھیت دیدینا ممکن کہ ہے جس نے بو یا ہے اُسکو مجبور کیا جائے گا کہ اپنی زراعت فوراً کاٹ لے طیار ہو یا نہ ہو۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۳ مکان اجارہ پر دیا کچھ خالی ہے کچھ مشغول ہے اجارہ صحیح ہے مگر جو حصہ مشغول ہے اُس کی نسبت کہا جائے گا کہ خالی کر کے متاجر کے حوالہ کر دے اور اگر خالی کرنے میں ضرر ہو مثلاً کھیت اجارہ پر دیا ہے اس کے کچھ حصہ میں زراعت ہے

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يحوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۸.

②....."حاشية الطحطاوى" على "الدرالمختار"، كتاب الإجارة، باب ما يحوز، ج ۴، ص ۱۵.

③....."الدرالمختار" و"ردالمختار"، كتاب الإجارة، باب ما يحوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۱۲۸.

④.....کاشت کار۔ ⑤.....بکری سال کا مہینہ جو عموماً وسط اپریل سے وسط مئی تک ہوتا ہے۔

⑥.....بکری سال کا وہ مہینہ جو عموماً وسط مئی سے وسط جون تک ہوتا ہے۔

⑦....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يحوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۹.

جو ابھی طیار نہیں ہے تو اس کے خالی کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۳ مکان جس میں کوئی رہتا ہو وہ دوسرے کو کرایہ پر دینا جائز ہے جبکہ رہنے والا کرایہ پر نہ ہو اور مالک مکان کے

ذمہ مکان خالی کرا کر کرایہ دار کو دینا ہے اور کرایہ کی مدت اُس وقت سے شمار ہوگی، جب سے اس کے قبضہ میں آیا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۵ زمین کو مکان بنانے یا پیڑ لگانے یا زراعت کرنے اور اُن تمام منافع کے لیے اجارہ پر دے سکتے ہیں جو

حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مٹی کا برتن بنانے یا اینٹ اور ٹھیکرے بنانے جانوروں کو دوپہر میں یا رات میں وہاں ٹھہرانے کے

لیے لینا یہ سب اجارے جائز ہیں۔⁽³⁾ (درمختار، بحر)

مسئلہ ۱۶ زمین مکان بنانے کے لیے یا درخت لگانے کے لیے اُجرت پر لی اور مدت پوری ہوگئی اپنی عمارت کا ملکہ

اُٹھالے اور درخت کاٹ کر خالی زمین مالک کو سپرد کر دے کیونکہ ان دونوں چیزوں کی کوئی انتہا نہیں کہ مدت میں کچھ اضافہ کیا

جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُس عمارت کو توڑنے کے بعد ملکہ کی جو قیمت ہو یا درخت کاٹنے کے بعد اس کی جو کچھ قیمت ہو مالک

زمین اس شخص کو دیدے اور یہ اپنا مکان اور درخت مالک زمین کے لیے چھوڑ دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمارت اور درخت

جس کے ہیں اُسی کی ملک پر باقی رہیں یعنی مالک زمین اُس کو اجازت دیدے کہ تم اپنی عمارت و درخت رکھو زمین کا میں مالک اور

ان چیزوں کے تم مالک اس کی دو صورتیں ہیں اگر ان چیزوں کے چھوڑنے کی کوئی اُجرت ہے تو اجارہ ہے ورنہ اعارہ⁽⁴⁾ ہے مکان

والا اور مالک زمین تیسرے کو اجارہ پر دے سکتے ہیں اور اس تیسرے سے جو کچھ کرایہ ملے گا وہ زمین و مکان پر تقسیم ہوگا یعنی زمین

بغیر مکان کی قیمت کیا ہے اور صرف مکان کی بغیر زمین کیا قیمت ہے ان دونوں میں جو نسبت ہو، اُسی نسبت سے دونوں اُجرت کو

تقسیم کر لیں۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۷ زمین وقف کو اُجرت پر لیا اور اُس میں درخت لگائے یا مکان بنایا اور مدت اجارہ ختم ہوگئی مستاجر اُجرت

مثل کے ساتھ زمین کو رکھ سکتا ہے جبکہ اس میں وقف کا ضرر نہ ہو۔ جن لوگوں پر وہ جائداد وقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مکان کا ملکہ

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۱۵۶.

②.....المرجع السابق، ص ۴۹.

③....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۹.

و"البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۱۸.

④.....عاریت۔

⑤....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۴۹، ۵۰.

اٹھالیا جائے اس کے سوا دوسری بات پر راضی نہیں ہوتے ان کی ناراضی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ سبزی کے چھوٹے چھوٹے درخت جو اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ان کے پتے یا پھول سے انتفاع⁽²⁾

حاصل کیا جائے گا اور درخت باقی رہے گا جیسے گلاب، پیلا، جمیلی اور طرح طرح کے پھول کے درخت ان تمام سبزیوں کا وہی حکم ہے جو درخت کا ہے اور اگر درخت کی کچھ مدت ہے، جیسے موسمی پھول کہ بوئے جاتے ہیں اور کچھ زمانہ کے بعد پھول کر ختم ہو جاتے ہیں یا وہ سبزیاں جو جڑ ہی سے اکھاڑ لی جاتی ہیں جیسے گاجر، مولی، شلجم، گوبھی یا پھول پھل سے نفع اٹھاتے ہیں مگر اُس کا زمانہ محدود ہے جیسے بیگن، مرچیں یہ سب چیزیں زراعت کے حکم میں ہیں کہ اگر اجارہ کی مدت پوری ہوگئی اور ان کی فصل نہیں ختم ہوئی تو زمین اُس وقت تک کے لیے اجرت مثل پرکرایہ پر لے لی جائے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۹ مواجر و مستاجر میں سے کوئی مرگیا اور اجارہ فسخ ہو گیا مگر ابھی تک زراعت طیار نہیں ہے کہ کاٹی جائے تو پکنے

اور طیار ہونے تک کھیت میں رہے گی اور جو اجرت مقرر ہوئی تھی وہی دی جائے گی اور اگر مدت مقررہ ختم ہوگئی مگر زراعت طیار نہیں ہوئی تو اب جتنے دنوں کھیت میں رکھنے کی ضرورت ہو اُسکی اجرت مثل دی جائے گی۔ مستعیر نے کھیت عاریت لیکر بویا تھا اور معیر⁽⁴⁾ و مستعیر⁽⁵⁾ دونوں میں سے کوئی مرگیا تو طیاری تک زراعت کھیت میں رہے گی اور اجرت مثل دی جائے گی اجرت مثل پر زراعت کو کھیت میں رہنے دینے کا یہ مطلب ہے کہ قاضی نے ایسا حکم دیا ہو یا خود ان دونوں نے اس پر رضامندی کر لی ہو اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں یعنی دونوں میں لینے دینے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو یا یہاں تک کہ فصل طیار ہوگئی تو کچھ اجرت نہیں ملے گی۔⁽⁶⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۲۰ زمین غصب کر کے اُس میں زراعت بوئی اس کے لیے کوئی مدت نہیں دی جاسکتی نہ اجرت پر نہ بغیر اجرت

بلکہ یہ حکم دیا جائے گا کہ فوراً زراعت کاٹ کر کھیت خالی کر دے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

①..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۲.

②..... نفع۔

③..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۴.

④..... بطور عاریت چیز دینے والا۔

⑤..... عاریت پر (مانگ کر) چیز لینے والا۔

⑥..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۲.

و "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۴.

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۵.

مسئلہ ۲۱ چوپایہ، اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، بیل، بھینسا ان جانوروں کو کرایہ پر لے سکتے ہیں خواہ سواری کے لیے کرایہ پر لیں یا بوجھ لادنے کے لیے۔ اس لیے گھوڑے کو کرایہ پر نہیں لے سکتا کہ انھیں کوتل رکھے^(۱) یا ان جانوروں کو اپنے دروازہ پر باندھ رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے یہاں اتنے جانور ہیں۔ کپڑے کو پہننے کے لیے کرایہ پر لے سکتا ہے، اپنی دکان یا مکان سجانے کے لیے نہیں لے سکتا۔ مکان کو اس لیے کرایہ پر نہیں لے سکتا کہ اُس میں نماز پڑھے گا۔ خوشبو کو اس لیے کرایہ پر لیا کہ اُسے سوکھے گا۔ قرآن مجید یا کتاب کو پڑھنے کے لیے کرایہ پر لیا یہ ناجائز ہے۔ یوہیں شعرا کے دواوین^(۲) اور قصے کی کتابیں پڑھنے کے لیے اجرت پر لینا ناجائز ہے۔^(۳) (بحر، درمختار)

مسئلہ ۲۲ سواری کے لیے جانور کرایہ پر لیا اور مالک نے کہہ دیا کہ جس کو چاہو سوار کرو تو مستاجر کو اختیار ہے کہ خود سوار ہو یا دوسرے کو سوار کرائے جو سوار ہو اوہی متعین ہو گیا اب دوسرا نہیں سوار ہو سکتا اور اگر فقط اتنا ہی کہا ہے کہ سواری کے لیے جانور کرایہ پر لیا نہ سوار ہونے والے کی تعیین ہے نہ تعیم تو اجارہ فاسد ہے یعنی سواری اور کپڑے میں یہ ضرور ہے کہ سوار اور پہننے والے کو معین کر دیا جائے یا تعیم کر دی جائے کہ جس کو چاہو سوار کرو جس کو چاہو کپڑا پہنا دو اور یہ نہ ہو تو اجارہ فاسد مگر اگر کوئی سوار ہو گیا یعنی خود وہ سوار ہو یا دوسرے کو سوار کر دیا یا خود کپڑے کو پہنا یا دوسرے کو پہنا دیا تو اب وہ اجارہ صحیح ہو گیا۔^(۴) (بحر، درمختار)

مسئلہ ۲۳ سواری میں معین کر دیا تھا کہ فلاں شخص سوار ہوگا اور کپڑے میں معین کر دیا تھا کہ فلاں پہنے گا مگر ان کے سوا کوئی دوسرا شخص سوار ہو یا دوسرے نے کپڑا پہنا اگر جانور ہلاک ہو گیا یا کپڑا پھٹ گیا تو مستاجر کو تاوان دینا ہوگا اور اس صورت میں اجرت کچھ نہیں ہے اور اگر جانور اور کپڑا ضائع و ہلاک نہ ہوں تو نہ اجرت ملے گی نہ تاوان۔ اور اگر دکان کو کرایہ پر دیا تھا کرایہ دار نے اُس میں لوہار کو بٹھا دیا اگر دکان گر جائے تاوان دینا ہوگا اور دکان سالم رہی تو کرایہ واجب ہوگا۔^(۵) (بحر، درمختار)

مسئلہ ۲۴ تمام وہ چیزیں جو استعمال کرنے والوں کے اختلاف سے مختلف ہوں سب کا یہی حکم ہے کہ بیان کرنا ضرور

①..... یعنی نمائش کے طور پر اپنے آگے چلائے۔ ②..... یعنی شاعروں کے کلام کے مجموعے۔

③..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۲۔

و"الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۵۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۳۔

و"الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۷۔

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۳۔

و"الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۷۔

ہے کہ کون استعمال کرے گا جیسے خیمہ کہ اسے کون نصب کرے گا اور کس جگہ نصب کیا جائے گا اور اس کی میخیں کون گاڑے گا ان باتوں میں حالات مختلف ہیں۔⁽¹⁾ (درمختار، طحاوی)

مسئلہ ۲۵ - خیمہ کی طنائین⁽²⁾ مالک کے ذمہ ہیں جس نے کرایہ پر دیا ہے اور اس کی میخیں مستاجر یعنی کرایہ دار کے ذمہ ہیں۔⁽³⁾ (طحاوی)

مسئلہ ۲۶ - چھولداری⁽⁴⁾ یا خیمہ دھوپ یا مینھ⁽⁵⁾ میں بغیر اجازت مالک نصب کیا اور خراب ہو گیا تاوان دینا ہوگا اور اس صورت میں اجرت نہیں اور اگر سلامت ہے تو اجرت واجب ہوگی۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ - خیمہ کے سایہ میں دوسرے لوگ بھی آرام لے سکتے ہیں مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے دوسرے کو اس کے نیچے کیوں بیٹھنے دیا۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ - خیمہ کی چوبیس⁽⁸⁾ یا رسیاں ٹوٹ گئیں کہ نصب نہیں ہو سکا کرایہ واجب نہ ہوا۔⁽⁹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ - جن چیزوں کے استعمال میں اختلاف نہ ہو ان میں یہ قید لگانا کہ فلاں شخص استعمال کرے بیکار ہے جس کو متعین کر دیا ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے اور دوسرا بھی استعمال کر سکتا ہے مثلاً مکان میں یہ شرط لگانا کہ اس میں تم خود رہنا دوسرے کو نہ رہنے دینا یا تم تنہا رہنا یہ شرطیں باطل ہیں۔⁽¹⁰⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۰ - اگر اجارہ میں ایک نوع یا کسی خاص مقدار کی قید لگائی ہے اس کی مثل یا اس سے مفید استعمال جائز ہے اور اس سے مضر استعمال کی اجازت نہیں مثلاً ایک بوری گیہوں لادنے کے لیے جانور کو کرایہ پر لیا ایک بوری سے کم گیہوں یا

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۷.

و"حاشية الطحاوی" علی "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۴، ص ۱۸.

②.....خیمہ کی رسیاں۔

③....."حاشية الطحاوی" علی "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۴، ص ۱۸.

④.....چھوٹا خیمہ۔

⑤.....بارش۔

⑥....."ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: فی الأرض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۵۸.

⑦.....المرجع السابق.

⑧.....بانس۔

⑨....."ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: فی الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۵۸.

⑩....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۸.

ایک بوری بخلا دنا جائز ہے کہ یہ اُس سے زیادہ آسان اور ہلکا ہے اور ایک بوری نمک لادنا جائز نہیں کہ نمک گیہوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ عقد کے ذریعہ سے جب کسی خاص منفعت کا استحقاق ہو⁽¹⁾ تو وہ یا اُس کی مثل یا اُس سے کم درجہ کا حاصل کرنا جائز ہے اور زیادہ حاصل کرنا جائز نہیں مثلاً ایک من گیہوں لادنے کی اجازت ہے تو ایک من بخلا د سکتا ہے اور ایک من روئی یا لوہا یا پتھر یا لکڑی نہیں لاد سکتا یا ایک من روئی لادنے کے لیے کرایہ پر لیا اور ایک من گیہوں لادنا یہ بھی جائز نہیں۔⁽²⁾ (بحر)

مسئلہ ۳۱ جانور سواری کے لیے کرایہ پر لیا اُس پر خود سوار ہو اور ایک دوسرے شخص کو اپنے پیچھے بٹھالیا اگر دوسرا ایسا ہے کہ اپنے آپ سواری پر رک سکتا ہے اور جانور ہلاک ہو گیا تو نصف قیمت تاوان دے اس میں یہ نہیں لحاظ کیا جائے گا کہ اس کے سوار ہونے سے کتنا بوجھ زیادہ ہو اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ قیمت کو دونوں کے وزن پر تقسیم کر کے دوسرے کے وزن کے مقابل میں قیمت کا جو حصہ آئے وہ تاوان میں واجب ہو بلکہ نصف قیمت تاوان میں مطلقاً واجب ہوگی اور اگر اُس شخص نے اپنے پیچھے کسی بچہ کو بٹھالیا ہے جو خود اُس پر رک نہیں سکتا اور جانور ہلاک ہو گیا تو تاوان صرف اتنا ہوگا جتنا اس کے سوار کرنے سے وزن میں اضافہ ہوا۔ یہ تفصیل اُس صورت میں ہے کہ جانور دونوں کو اٹھا سکتا ہو اور اگر جانور میں اتنی طاقت نہ ہو کہ دونوں کو اٹھا سکے تو ہر صورت میں پوری قیمت کا تاوان دینا ہوگا۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۲ گھوڑے کی گردن پر دوسرا آدمی بیٹھ گیا اور جانور ہلاک ہو گیا تو پوری قیمت کا تاوان دے اور اگر جانور پر خود سوار ہو اور کوئی چیز بھی لاد لی اگرچہ یہ چیز مالک ہی کی ہو جبکہ اُس کی اجازت سے نہ لادی ہو اور جانور ہلاک ہو گیا تو وزن میں جتنا اضافہ ہوا اُس کا تاوان دے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۳ اس صورت میں کہ اپنے پیچھے دوسرے کو سوار کیا اگر وہ جانور منزل مقصود تک پہنچ کر ہلاک ہو پوری اجرت بھی دینی ہوگی اور تاوان بھی دینا پڑے گا اور اگر جانور سلامت رہا ہلاک نہ ہوا تو صرف اجرت ہی دینی ہوگی۔ پھر ضمان کی سب صورتوں میں مالک کو اختیار ہے کہ مستاجر سے ضمان لے یا اُس سے جو اُسکے ساتھ سوار ہوا ہے اگر مستاجر سے لیا تو وہ اپنے ساتھی سے رجوع نہیں کر سکتا اور دوسرے سے لیا تو دو صورتیں ہیں اگر مستاجر نے اُس کو کرایہ پر سوار کیا ہے تو یہ مستاجر سے رجوع

①..... یعنی حق حاصل ہو۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۳، ۵۲۴.

③..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۵۹.

④..... المرجع السابق، ص ۶۰.

کر سکتا ہے اور مفت بٹھایا ہے تو نہیں۔⁽¹⁾ (بحر، درمختار)

مسئلہ ۳۳ جانور کو بوجھ لادنے کے لیے کرایہ پر لیا اور جتنا لادنا ٹھہرا تھا اُس سے زیادہ لاد دیا تو جتنا زیادہ لادا ہے اُس کا تاوان دے مثلاً دو من ٹھہرا تھا اس نے تین من لاد دیا جانور کی ایک تہائی قیمت تاوان دے یہ اُس صورت میں ہے کہ اس نے خود لادا ہو اور اگر جانور کے مالک نے زیادہ لادا تو تاوان نہیں اور اگر دونوں نے مل کر لادا تو نصف تاوان یہ دے اور نصف جو مالک کے فعل کے مقابل میں ہے ساقط۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۵ مکہ معظمہ اور مدینہ مطیبہ کے لیے اونٹ کرایہ پر لیے جاتے ہیں اُن پر عموماً دو شخص سوار ہوتے ہیں اور اپنا سامان بھی لادتے ہیں اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اتنا ہی سامان لادیں جو متعارف ہے اُس سے زیادہ نہ لادیں اور اُس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اپنا پورا سامان جہاں کو⁽³⁾ دکھادیں۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۶ جانور کے مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ جانور کو کرایہ پر دینے کے بعد مستاجر کے ساتھ کچھ اپنا سامان بھی لاد دے مگر اُس نے اپنا سامان رکھ دیا اور جانور منزل مقصود تک پہنچ گیا تو مستاجر کو پورا کرایہ دینا ہوگا یہ نہ ہوگا کہ چونکہ اُس نے اپنا سامان بھی رکھ دیا ہے لہذا کرایہ سے اُس کی مقدار کم کی جائے۔ اور مکان میں یہ صورت ہو کہ مالک مکان نے ایک حصہ مکان میں اپنا سامان رکھا تو پورے کرایہ سے اُس حصہ کے کرایہ کی کمی کر دی جائے گی۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۷ ہل جوتنے کے لیے بیل کرایہ پر لیا ایک بیگہ⁽⁶⁾ جوتنا ٹھہرا تھا اُس نے ڈیڑھ بیگہ جوت لیا اور بیل ہلاک ہو گیا پوری قیمت کا تاوان دینا ہوگا۔ یوں چکی چلانے کے لیے بیل کرایہ پر لیا جتنے من پینا قرار پایا اُس سے زیادہ پیسا اور بیل ہلاک ہو پوری قیمت کا تاوان دینا ہوگا ان دونوں صورتوں میں صرف زیادتی کے مقابل میں تاوان نہیں بلکہ پورا تاوان ہے۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

①..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۴.

و "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۶۰.

②..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۶۱.

③..... اونٹ والے کو۔

④..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۱.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: فی الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۶۴.

⑥..... زمین کا ایک حصہ جس کی مقدار عموماً تین ہزار گز مربع ہوتی ہے۔

⑦..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: فی الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۶۳.

مسئلہ ۳۸ سواری کے جانور کو مارنے اور زور زور سے لگام کھینچنے کی اجازت نہیں ہے ایسا کرے گا تو ضامن دینا پڑے گا خصوصاً جانور کے چہرہ پر مارنے سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ چہرہ پر مارنے کی ممانعت ہے۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار) جب جانور کا یہ حکم ہے کہ اُس کے چہرہ پر نہ مارا جائے تو انسان کے چہرہ پر مارنا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔

مسئلہ ۳۹ گھوڑا کرایہ پر لیا کہ زین گس کر سوار ہوگا تو تنگی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا اور نہ اُس پر کوئی سامان لاد سکتا ہے اور اُس کی پیٹھ پر لیٹ نہیں سکتا بلکہ اُس طرح سوار ہونا ہوگا، جو عادت سوار ہونے کا قاعدہ ہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ ایک شخص نے کسی جگہ غلہ پہنچانے کے لیے اجیر کیا^(۳) اور راستہ معین کر دیا کہ اس راستہ سے لیجانا، اجیر دوسرے راستہ سے لے گیا اگر دونوں راستے یکساں ہیں یعنی دونوں کی مسافت میں بھی تفاوت نہیں ہے اور دونوں پر امن ہیں تو جس راستے سے چاہے لیجائے اور اگر دوسرا پر خطر ہے یا اس کی مسافت زیادہ ہے تو لے جانے والا ضامن ہے۔ یو ہیں اگر جانور کرایہ پر لیا اور مالک جانور نے راستہ معین کر دیا ہے اس میں بھی دونوں صورتیں ہیں۔ اور اگر مالک غلہ نے اجیر سے خشکی کے راستہ سے لیجانے کو کہہ دیا تھا وہ دریائی راستہ سے لے گیا تو ضامن ہے اور اگر خشکی کا راستہ معین نہیں کیا اور دریائی راستہ سے لے گیا تو ضامن نہیں اور منزل مقصود تک اجیر نے سامان پہنچا دیا تو اجرت کا مستحق ہے۔^(۴) (ہدایہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ گیہوں بونے کے لیے زمین اجارہ پر لی^(۵) اُس میں ترکاریاں بودیں جس سے زمین خراب ہوگئی اس کے متعلق متقدمین نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ شخص غاصب ہے اس کے فعل سے زمین میں جو کچھ نقصان پیدا ہوا اُس کا تاوان دے اور زمین کی جو کچھ اجرت قرار پائی تھی نہیں لی جائے گی مگر متاخرین یہ فرماتے ہیں کہ زمین وقف اور زمین یتیم میں اور وہ زمین جو منافع حاصل کرنے کے لیے ہے جیسے زمینداروں کے یہاں کی عموماً زمین اسی لیے ہوتی ہے کہ کاشتکاروں کو لگان پردی^(۶) جائے ان میں اجرت مثل لی جائے۔ اور اگر کاشتکار نے وہ بویا جس میں ضرر^(۷) کم ہے مثلاً ترکاری بونے کے لیے زمین لی تھی اور گیہوں بوئے تو اس صورت میں جو لگان قرار پایا ہے وہ دے۔^(۸) (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: في الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۶۴.

②..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: في الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۶۶.

③..... یعنی مزدور رکھا۔

④..... "الهداية"، کتاب الإجازات، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۲، ص ۲۳۶.

و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: في الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۶۷.

⑤..... یعنی کرایہ پر لی۔ ⑥..... ٹھیکے پردی۔ ⑦..... نقصان۔

⑧..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: في الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۶۸.

مسئلہ ۳۲ → درزی کو چکن^(۱) سینے کے لیے کپڑا دیا اُس نے کرتے سی دیا درزی سے اپنے کپڑے کی قیمت لے لے اور وہ سلا ہوا کپڑا اُسی کے پاس چھوڑ دے اور کپڑے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ کرتے لے لے اور اُس کی واجبی سلائی دیدے مگر یہ اجرت مثل اگر اُس سے زیادہ ہے جو مقرر ہوئی تو وہی دے گا جو مقرر ہوئی یہی حکم اُس صورت میں ہے کہ کرتے سینے کو کہا تھا اُس نے پا جامہ سی دیا۔^(۲) (بحر)

مسئلہ ۳۳ → درزی سے کہہ دیا کہ اتنا لبا اور اتنا چوڑا ہوگا اور اتنی آستین ہوگی مگر سی کر لایا تو اُس سے کم ہے جتنا بتایا اگر ایک آدھ اونگل کم ہے معاف ہے اور زیادہ کم ہے تو اُسے تاوان دینا پڑے گا۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۴ → درزی سے کہا اس کپڑے میں میری قمیص ہو جائے تو اسے قطع کر کے اتنے میں سی دو اُس نے کپڑا کاٹ دیا اب کہتا ہے کہ اس میں تمھاری قمیص نہیں ہوگی درزی کو تاوان دینا ہوگا۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۳۵ → درزی سے پوچھا اس کپڑے میں میری قمیص ہو جائے گی اُس نے کہا ہاں اس نے کہا اسے قطع کر دو قطع کرنے کے بعد درزی کہتا ہے قمیص نہیں ہوگی اس صورت میں درزی پر تاوان نہیں کہ مالک کی اجازت سے اس نے کاٹا اور اُس کی اجازت میں شرط بھی نہیں ہے کہ قمیص ہو سکے تب قطع کرو۔ اور اگر صورت مذکورہ میں درزی کے ہاں کہنے کے بعد مالک نے یوں کہا ہوتا کہ تو کاٹ دو یا تو اب قطع کر دو تو بیشک درزی کے ذمہ تاوان ہے کہ اس لفظ (تو) کے زیادہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قطع کرنے کی اجازت اس شرط سے ہے کہ قمیص ہو جائے۔^(۵) (بحر، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ → رنگریز^(۶) کو سُرخ رنگنے کے لیے کپڑا دیا اُس نے زرد رنگ دیا مالک کو اختیار ہے اُس سے سفید کپڑے کی قیمت لے یا وہی کپڑا لے لے اور رنگ کی وجہ سے جو کچھ زیادتی ہوئی ہے وہ دیدے اور اس صورت میں رنگنے کی اجرت نہیں ملے گی اور اگر وہی رنگ رنگا جس کو اس نے کہا تھا مگر خراب کر دیا اگر زیادہ خرابی نہیں ہے تو ضمان واجب نہیں اور بہت زیادہ خراب

①..... شروانی، ایک قسم کا مردانہ لباس۔

②..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۹.

③..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۶۹.

④..... المرجع السابق، ص ۷۰.

⑤..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۹.

و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة... إلخ، مطلب: فی الارض المحتكرة... إلخ، ج ۹، ص ۷۰.

⑥..... کپڑے رنگنے والا۔

کردیا ہے تو سفید کپڑے کی قیمت تاوان دے۔⁽¹⁾ (بحر الرائق)

مسئلہ ۳۷ → مہر کن⁽²⁾ کو انگوٹھی دی کہ اس پر میرا نام کھود دو⁽³⁾ اس نے دوسرا نام کھود دیا مالک کو اختیار ہے انگوٹھی

کا تاوان لے یا وہ اپنی انگوٹھی لے لے اور کھودائی کی اجرت⁽⁴⁾ مثل دیدے جو طے شدہ اجرت سے زیادہ نہ ہو۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ → بڑھئی⁽⁶⁾ کو دروازہ نقش کرنے کے لیے دیا جیسا نقش بتایا تھا ویسا نہیں کیا اگر تھوڑا فرق ہے تو کچھ نہیں اور

زیادہ فرق ہے تو مالک کو اختیار ہے اپنے دروازہ کی قیمت اس سے لے یا وہ دروازہ لے کر اجرت مثل دیدے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ → سواری کے لیے کرایہ پر جانور لیا اسے کھڑا کر کے نماز پڑھنے لگا وہ جانور بھاگ گیا یا کوئی لے گیا اس نے

جاتے یا لے جاتے دیکھا اور نماز نہیں توڑی ضمان دینا ہوگا۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۰ → کرایہ کی سواری پر جا رہا تھا راستہ میں خبر ملی کہ اس راستہ پر چوڑا کوہیں باوجود اس کے یہ اسی راستہ سے گیا

چوروں نے وہ جانور چھین لیا اگر باوجود اس خبر کے لوگ اس راستہ سے جا رہے تھے تو ضامن نہیں ورنہ ضامن ہے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۱ → جس جگہ کے لیے جانور کو کرایہ پر لیا تھا وہاں سے آگے لے گیا اور جانور ہلاک ہو گیا تاوان دینا

ہوگا۔⁽¹⁰⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۲ → کسی شخص کو اپنی دکان پر کام کرنے کے لیے رکھا یا کسی بازاری آدمی کو کوئی چیز بیچنے کے لیے دی یہ اجرت

مانگتے ہیں تو وہاں کا جو عرف⁽¹¹⁾ ہو اس کے موافق کیا جائے۔⁽¹²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۳ → اپنے لڑکے کو کاریگر کے پاس کام سکھانے کے لیے بٹھا دیا اور شرط کر لی کہ ماہوار اتنا دیا کرے گا یہ جائز

ہے اور اگر کچھ نہیں ملے ہو جب لڑکا کام سیکھ گیا تو استاد اپنی اجرت مانگتا ہے اور لڑکے کا باپ یہ کہتا ہے تمہارے یہاں لڑکے نے

اتنے دنوں کام کیا اس کی اجرت دو اس کے متعلق وہاں کا عرف دیکھا جائے گا اگر عرف یہ ہے کہ استاد کو اجرت دی جائے تو اس کو

①..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۷، ص ۵۲۹.

②..... انگوٹھی وغیرہ پر نام لکھنے والا۔ ③..... یعنی لکھو۔ ④..... لکھائی کی اجرت۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب السابع والعشرون فی مسائل الضمان بالخلاف... إلخ، ج ۴، ص ۴۹۵.

⑥..... لکڑی کا کام کرنے والا۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب السابع والعشرون فی مسائل الضمان بالخلاف... إلخ، ج ۴، ص ۴۹۵.

⑧..... المرجع السابق، ص ۴۹۷. ⑨..... المرجع السابق.

⑩..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۷۰.

⑪..... رواج۔

⑫..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۷۰.

أُجرت مثل دی جائے اور اگر عرف یہ ہے کہ اُستاد اُن بچوں کو دیا کرتے ہیں جو انکے یہاں کام سیکھتے ہیں تو اُستاد دے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۴ → کرایہ والا سامان لاد کر پہنچانے لے جا رہا تھا راستہ میں اسے لوگوں نے ڈرا دیا کہ ادھر جانے میں خطرہ

ہے وہاں سے واپس لایا اُسے مزدوری نہیں ملے گی بلکہ اس کو پہنچانے پر مجبور کیا جائے گا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۵ → بار برداری کے لیے⁽³⁾ جانور کرایہ پر لیا تھا وہ جانور بیمار ہو گیا اس وجہ سے اُتا بوجھ نہیں لادا جتنا لادنا

قرار پایا تھا بلکہ اُس سے کم لادا اس کی وجہ سے اُجرت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ جتنی ٹھہری تھی دینی ہوگی۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۶ → مکان کرایہ پر لیا تھا اُس میں سے کچھ حصہ گر گیا اگر اب بھی قابل سکونت⁽⁵⁾ ہے اجارہ کو فسخ نہیں کر سکتا

اور اگر قابل سکونت نہ رہا فسخ کر سکتا ہے مگر فسخ نہیں کیا تو کرایہ دینا ہوگا اور اجارہ فسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مالک مکان

کے سامنے فسخ کرے اور اگر مکان بالکل گر گیا تو اُس کی عدم موجودگی میں بھی فسخ کر سکتا ہے مگر بغیر فسخ کیے اپنے آپ فسخ نہیں

ہوگا۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۷ → مکان گر گیا تھا اور فسخ کرنے سے پہلے مالک مکان نے ویسا ہی بنا دیا تو مستاجر⁽⁷⁾ کو فسخ کرنے

کا اختیار باقی نہیں رہا اور اگر ویسا نہیں بنایا بلکہ کم درجہ کا بنایا تو اب بھی فسخ کرنے کا اختیار باقی ہے۔⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۸ → جو چیز اُجرت پر لی اور معلوم ہے کہ کچھ دن سال میں ایسے بھی ہیں کہ چیز بیکار رہے گی مثلاً حمام کو کرایہ

پر لیا جو گرمیوں میں چالو نہیں رہے گا اس میں یہ شرط کر دی کہ سال میں دو ماہ کا کرایہ نہیں ہوگا اس شرط سے اجارہ فاسد ہو جائے گا

اور اگر یہ شرط کی کہ جتنے دنوں بیکار رہے گا اُس کا کرایہ نہیں دیا جائے گا تو اجارہ صحیح ہے اور شرط بھی صحیح۔⁽⁹⁾ (درمختار)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۷۰.

②.....المرجع السابق، ص ۷۱.

③.....بوجھ لادنے کے لئے۔

④....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۷۱.

⑤.....رہائش کے قابل۔

⑥....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۷۲.

⑦.....کرایہ دار۔

⑧....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۷۲، ۷۳.

⑨....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة... إلخ، ج ۹، ص ۷۴.

دایہ کے اجارہ کا بیان

مسئلہ ۱ - دایہ یعنی دودھ پلانے والی کو اجرت پر رکھنا جائز ہے اور اس کے لیے وقت مقرر کرنا بھی ضروری ہوگا یعنی اتنے دنوں کے لیے یہ اجارہ ہے اور دایہ سے کھانے کپڑے پر اجارہ کیا جاسکتا ہے یعنی اُس سے کہا کہ کھانا کپڑا لیا کر اور بچہ کو دودھ پلا اور اس صورت میں متوسط درجہ کا کھانا دینا ہوگا اور کپڑے کی مقدار و جنس و صفت بیان کرنی ہوگی اور اُس کی مدت بھی بیان کرنی ہوگی کہ کب دیا جائے گا اس صورت میں اگرچہ جہالت ہے ^(۱) مگر یہ جہالت باعثِ نزاع ^(۲) نہیں ہے کیونکہ بچہ پر شفقت والدین کو مجبور کرتی ہے کہ دایہ کے کھانے کپڑے میں کمی نہ کی جائے۔ ^(۳) (ہدایہ)

مسئلہ ۲ - کسی جانور کو دودھ پینے کے لیے اجرت پر لیا یہ ناجائز ہے۔ یوہیں درخت کو پھل کھانے کے لیے اجرت پر لیا یہ بھی ناجائز ہے اس صورت میں جتنا دودھ دوہا ہے یا جتنے پھل کھائے ہیں اُن کی قیمت دینی ہوگی۔ ^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - اگر دایہ سے یہ شرط طے پاگئی ہے کہ بچہ کے والدین کے گھر میں وہ دودھ پلائے تو یہیں اُس کو پلانا ہوگا اپنے گھر نہیں لے جاسکتی مگر جبکہ کوئی عذر ہو مثلاً وہ بیمار ہوگئی کہ یہاں نہیں آسکتی اور اگر یہاں پلانے کی شرط نہیں ہے تو وہ بچہ کو اپنے گھر لے جاسکتی ہے ان کو یہ حق نہیں کہ یہاں رہنے پر اُسے مجبور کریں ہاں اگر وہاں کا یہی عرف ^(۵) ہے کہ دایہ بچہ کے باپ کے گھر آ کر دودھ پلاتی ہے یا یہیں رہتی ہے تو بغیر شرط بھی دایہ کو اس رواج کی پابندی کرنی ہوگی۔ ^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - دایہ کا کھانا بچہ کے باپ کے ذمہ نہیں ہے جبکہ اجارہ میں مشروط نہ ہو اور مشروط ہو تو دینا ہوگا کپڑے کا بھی یہی حکم ہے۔ ^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - دایہ کا شوہر اُس سے وطی ^(۸) کر سکتا ہے مستاجر ^(۹) اُسے اس اندیشہ سے منع نہیں کر سکتا کہ وطی سے حمل رہ

① یعنی اجرت متعین نہیں ہے۔ ② جھگڑے کا سبب۔

③ "الهدایة"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۲، ص ۲۳۹۔

④ "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ما يجوز... إلخ، مطلب: فی حدیث دخوله علیہ الصلوٰۃ والسلام الحمام، ج ۹، ص ۸۹۔

⑤ رواج۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب العاشر فی إجارة الظفر، ج ۴، ص ۴۳۱۔

⑦ المرجع السابق، ص ۴۳۲۔

⑧ ہمستری۔ ⑨ اجرت پر رکھنے والا۔

جائے گا تو دودھ کیوں کر پلائے گی مگر مستاجر کے گھر میں نہیں کر سکتا بلکہ اُس کے مکان میں بغیر اجازت داخل بھی نہیں ہو سکتا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ - دایہ کے شوہر کو مطلقاً یہ حق حاصل ہے کہ اس اجارہ کو فسخ کر دے خواہ اس اجارہ سے اُسکے شوہر کی بدنامی ہو مثلاً وہ شخص ذی عزت ہے اور اُس کی عورت کا اجارہ پر دودھ پلانا باعثِ ذلت ہے یا اس اجارہ میں اُس کی بدنامی نہ ہو کیونکہ اس صورت میں بھی شوہر کے بعض حقوق تلف⁽²⁾ ہوتے ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ اُس شخص کا اس عورت کا شوہر ہونا معلوم و مشہور ہو اور اگر محض دونوں کے اقرار سے ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ میاں بی بی ہیں اُن کا نکاح ظاہر نہ ہو تو اس شوہر کو فسخ اجارہ کا⁽³⁾ اختیار نہیں۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ - دایہ بیمار ہوگئی کہ اُس کا دودھ بچہ کو مضر ہوگا یا وہ حاملہ ہوگئی کہ اس کا بھی دودھ مضر ہے تو مستاجر اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے بلکہ یہ خود بھی اجارہ کو فسخ کر سکتی ہے کہ دودھ پلانا اسے بھی مضر ہے۔ یوہیں اگر بچہ کے گھر والے اسے ایذا دیتے ہوں یا اس کی عادت دوسرے کے بچہ کو دودھ پلانے کی نہیں ہے یا لوگ اسے عار دلاتے ہوں تو اجارہ کو فسخ کر سکتی ہے مگر جبکہ وہ بچہ نہ دوسری عورت کا دودھ پیتا ہو نہ غذا کھا سکتا ہو تو اسے اجارہ فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - دایہ اگر بدکار عورت ہے یا بدزبان ہے یا چوری کرتی ہے یا بچہ اس کا دودھ ڈال دیتا ہے یا اس کی چھاتی مونہ میں نہیں لیتا یا وہ لوگ سفر میں جانا چاہتے ہیں اور یہ اُن کے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے یا بہت دیر دیر تک غائب رہتی ہے ان سب وجوہ سے اجارہ کو فسخ کر سکتے ہیں۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - بچہ مر گیا یا دایہ مر گئی اجارہ فسخ ہو گیا بچہ کے باپ کے مرنے سے اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۰ - دایہ کے ذمہ یہ کام بھی ہیں۔ بچہ کا ہاتھ مونہ دھلانا، اُس کو نہلانا، کپڑے پر پیشاب پاخانہ لگا ہوا سے دھونا، بچہ کو تیل لگانا اور اُس کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ ایسی چیز نہ کھائے جس سے بچہ کو ضرر پہنچے۔⁽⁸⁾ (درمختار)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۹۰.

②.....ضائع۔

③.....یعنی اجارے کو ختم کرنے کا۔

④....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۹۰.

⑤....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: فی حدیث دخوله علیہ لفضلة و اسلام الحمام، ج ۹، ص ۹۰.

⑥.....المرجع السابق.

⑦....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۹۱.

⑧.....المرجع السابق.

مسئلہ ۱۱ دایہ نے بکری کا دودھ بچہ کو پلا دیا یا اُسے غذا کھلائی یعنی اپنا دودھ پلانے کی جگہ یہ کیا تو اُجرت کی مستحق نہیں ہوگی کہ اُس کا اصلی کام دودھ پلانا ہے۔^(۱) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۲ دایہ نے اپنی خادمہ سے دودھ پلویا یا کسی دوسری عورت کو اس بچہ کے دودھ پلانے کے لیے نوکر رکھا اس نے دودھ پلایا اس صورت میں اُجرت کی مستحق ہوگی کہ دوسری عورت کا اس کے حکم سے دودھ پلانا گویا اسی کا پلانا ہے مگر جبکہ اس کو نوکر رکھتے وقت یہ شرط ہو کہ خود تجھی کو دودھ پلانا ہوگا تو دوسری عورت کا نہیں پلوا سکتی اور ایسا کرے گی تو اُجرت کی مستحق نہیں ہوگی۔^(۲) (درمختار، بحر)

مسئلہ ۱۳ ایک جگہ بچہ کو دودھ پلانے کی نوکری کی اور ان لوگوں کی لاعلمی میں اُس نے دوسری جگہ بھی بچہ کو دودھ پلانے کی نوکری کر لی اور دونوں بچوں کو تا اختتام مدت دودھ پلاتی رہی اُس کو ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہے مگر دونوں جگہ سے اپنی پوری اُجرت جو مقرر ہوئی ہے لینے کی مستحق ہے یہ نہیں ہوگا کہ دونوں نصف نصف اُجرت دیں۔ ہاں اگر ناغے کیے ہیں تو ان دنوں کی اُجرت کم کی جاسکتی ہے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ ایک شخص کے دو بچے ہیں دونوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایہ کو نوکر رکھان میں سے ایک بچہ مر گیا تو دایہ اب سے نصف اُجرت کی مستحق ہوگی کہ جو بچہ مر گیا اُسکے حق میں اجارہ بھی نہ رہا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ دایہ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ بچہ کے والدین کا کام کرے بطور تبرع و احسان کر دے تو اُس کی خوشی اس عقد کی وجہ سے اُس پر لازم نہیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ دایہ کے عزیز و اقارب اُس سے ملنے کو آئیں تو صاحب خانہ اُن کو یہاں ٹھہرنے سے منع کر سکتا ہے۔ یو ہیں بغیر اجازت صاحب خانہ اُن لوگوں کو یہاں کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتی اور یہ اپنے عزیزوں کے یہاں جانا چاہتی ہو تو جانے سے منع کر سکتے ہیں جبکہ اس کا جانا بچہ کے لیے مضر ہو۔^(۶) (عالمگیری)

①..... "الهدایة"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۲، ص ۲۴۰.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۹۲.

و "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۸، ص ۴۱.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: فی حدیث دخوله علیہ الصلاة والسلام، ج ۹، ص ۹۲.

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب العاشر فی إجارة الظئر، ج ۴، ص ۴۳۳.

⑤..... المرجع السابق، ص ۴۳۲. ⑥..... المرجع السابق، ص ۴۳۳.

مسئلہ ۱۷ حاجت کے وقت دایہ یہاں سے وقتاً فوقتاً جاسکتی ہے مگر دیر دیر تک باہر نہیں رہ سکتی اس سے اُس کو روک دیا جائے گا کہ یہ بچہ کے لیے مضر ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ بچہ کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے اُجرت پر مقرر کیا اس کی دو صورتیں ہیں اگر وہ نکاح میں ہے تو یہ اجارہ ناجائز ہے اور طلاق دینے کے بعد یہ اجارہ ہوا اور طلاق بھی رجعی ہے تو یہ اجارہ بھی ناجائز ہے اور طلاق بائن کے بعد اجارہ ہوا تو جائز ہے اور اگر وہ بچہ اس شخص کا دوسری عورت سے ہے تو اپنی اُس عورت سے جو اس بچہ کی ماں نہیں ہے اُجرت پر دودھ پلوا سکتا ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ بچہ کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے اُجرت پر رکھا اُس نے کسی سے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ اپنے محارم میں سے کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجیر رکھنا جائز ہے مثلاً اپنی ماں یا بہن یا لڑکی کو اپنے بچہ کے دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ کہیں سے پڑا ہوا بچہ اٹھالایا اور اس کے لیے دایہ مقرر کی تو دایہ کی اُجرت خود اسی پر واجب ہوگی اور یہ شخص مُتَبَرِّع^(۵) ہے کہ اس کو رجوع نہیں کر سکتا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ یتیم بچہ کے لیے مال ہو تو رضاع کے مصارف^(۷) اُس کے اپنے مال سے دیے جائیں اور مال نہ ہو تو جس کے ذمہ اُس کا نفقہ^(۸) ہو اُسی کے ذمہ یہ بھی ہیں اور اگر کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جس پر اس کا نفقہ واجب ہو تو بیت المال سے دیے جائیں۔^(۹) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ دایہ کو سو روپے پر ایک سال دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا اور یہ شرط کر لی کہ بچہ اثناء سال میں^(۱۰) مر جائے گا جب بھی اُس کو سو ہی دیے جائیں گے اس شرط کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا لہذا اگر بچہ مر گیا تو جتنے دنوں اُس نے

①....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب العاشر فی إجارة الظفر، ج ۴، ص ۴۳۳.

②.....المرجع السابق، ص ۴۳۴. ③.....المرجع السابق. ④.....المرجع السابق.

⑤.....یعنی احسان کرنے والا۔

⑥....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب العاشر فی إجارة الظفر، ج ۴، ص ۴۳۴.

⑦.....دودھ پلانے کے اخراجات۔ ⑧.....کھانے پینے، کپڑے، رہائش وغیرہ کے اخراجات۔

⑨....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب العاشر فی إجارة الظفر، ج ۴، ص ۴۳۴.

⑩.....دوران سال۔

دودھ پلایا ہے اُس کی اُجرت مثلِ مٹے گی اور اگر سال بھر کے لیے اس شرط کے ساتھ مقرر کیا کہ صرف پہلے مہینہ کے مقابل میں یہ سو روپے ہیں اور اس کے بعد سے سال کی بقیہ مدت میں مفت پلائے گی یہ اجارہ بھی فاسد ہے اگر دو ڈھائی مہینہ دودھ پلانے کے بعد بچہ مر گیا تو اُجرت مثلِ مٹے دی جائے گی جو اس مقرر شدہ سے زائد نہ ہو۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ — مسلمان نے بچہ کے دودھ پلانے کے لیے کسی کافر کو مقرر کیا یا ایسی عورت کو مقرر کیا جو صحیح النسب نہ ہو یہ جائز ہے یعنی اجارہ صحیح ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری) مگر تجربہ سے یہ امر ثابت کہ دودھ کا اثر بچہ میں ضرور پیدا ہوتا ہے اور شرع مطہر نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ دودھ کی وجہ سے رشتہ قائم ہو جانا قرآن سے ثابت اور حدیث نے بھی بتایا کہ رضاعت سے ویسا ہی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے جس طرح نسب سے ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں لہذا دودھ پلانے کے لیے جو عورت اختیار کی جائے اُس کے صلاح و تقویٰ کا لحاظ کیا جائے تاکہ بچہ میں بد عورت کے بُرے اثرات نہ پیدا ہوں۔ دوسرا امر یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ دایہ کی صحبت میں بچہ رہتا ہے اور بچہ کی تربیت دایہ کے ذمہ ہوتی ہے اور تربیت و صحبت کے بد اثرات کا انکار بدیہی⁽³⁾ بات کا انکار ہے اور بچپن میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اُن کا زائل ہونا نہایت دشوار ہوتا ہے لہذا ان کو نظر انداز کرنا مصالح کے خلاف⁽⁴⁾ ہے اگرچہ اجارہ صحیح ہو جائے گا۔

مسئلہ ۲۵ — بچہ کو دودھ پلانے کے لیے بکری کو اجارہ پر لیا یا بکری کا بچہ ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے بکری کو اجارہ پر لیا یہ ناجائز ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

اجارہ فاسدہ کا بیان

مسئلہ ۱ — عقد فاسدہ ہے جو اپنی اصل کے لحاظ سے موافق شرع⁽⁶⁾ ہے مگر اُس میں کوئی وصف ایسا ہے جس کی وجہ سے نامشروع⁽⁷⁾ ہے اور اگر اصل ہی کے اعتبار سے خلاف شرع ہے تو وہ باطل ہے مثلاً مُردار یا خون کو اُجرت قرار دیا یا خوشبو کو سونگھنے کے لیے اُجرت پر لیا یا بُت بنانے کے لیے کسی کو اجیر رکھا کہ ان سب صورتوں میں اجارہ باطل ہے۔ اجارہ فاسدہ کی مثال یہ ہے کہ اجارہ میں کوئی ایسی شرط ذکر کی جس کو عقد اجارہ مقتضی نہ ہو اسی کی صورتیں یہاں ذکر کی جائیں گی۔⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب العاشر فی إجارۃ الظئر، ج ۴، ص ۴۳۴.

②..... المرجع السابق.

③..... روشن و واضح۔

④..... مصلحتوں کے خلاف۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب العاشر فی إجارۃ الظئر، ج ۴، ص ۴۳۴.

⑥..... شریعت کے مطابق۔

⑦..... ناجائز۔

⑧..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارۃ، باب الإجارۃ الفاسدۃ، ج ۹، ص ۷۵.

مسئلہ ۲ - اجارہ باطل میں اگر چیز کو استعمال کیا اور وہ کام کر دیا جس کے لیے اجارہ ہو واجب بھی اجرت واجب نہ ہوگی اگرچہ وہ چیز اسی لیے ہے کہ کرایہ پر دی جائے مگر مال وقف اور مال یتیم کو اگر اجارہ باطلہ کے طور پر دیا اور مستاجر نے منفعت حاصل کر لی تو اجرت مثل واجب ہوگی۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - اجارہ فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ اس استعمال کرنے پر اجرت مثل لازم ہوگی اور اس میں تین صورتیں ہیں اگر اجرت مقرر ہی نہیں ہوئی یا جو مقرر ہوئی معلوم نہیں ان دونوں صورتوں میں جو کچھ اجرت مثل ہو دینی ہوگی اور اگر اجرت مقرر ہوئی اور وہ معلوم بھی ہے تو اجرت مثل اسی وقت دی جائے گی جب وہ مقرر سے زیادہ نہ ہو اور اگر مقرر سے اجرت مثل زائد ہے تو جو مقرر ہے وہی دی جائے گی اُس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔^(۲) (بحر وغیرہ)

مسئلہ ۴ - اجارہ فاسدہ میں محض قبضہ کرنے سے منافع کا مالک نہیں ہوگا اور بیع فاسد میں قبضہ کرنے سے بیع^(۳) کا مالک ہو جاتا ہے مشتری^(۴) کے تصرفات قبضہ کے بعد نافذ ہو جاتے ہیں مستاجر^(۵) قبضہ کر کے اُسے اجارہ پر دیدے یہ نہیں کر سکتا اور اگر اس نے اجارہ پر دے ہی دیا تو اجرت مثل لازم ہوگی یعنی مستاجر اول مالک کو اجرت مثل دے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غاصب ہے اور انتفاع کے مقابل میں اس سے اجرت نہ لی جائے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۵ - جو شرطیں مقتضائے عقد کے خلاف ہیں اُن سے عقد اجارہ فاسد ہو جاتا ہے لہذا جو شرطیں بیع کو فاسد کرتی ہیں اجارہ کو بھی فاسد کرتی ہیں کیونکہ اجارہ بھی ایک قسم کی بیع ہے فرق یہ ہے کہ بیع میں چیز بیچی جاتی ہے اور اجارہ میں چیز کی منفعت بیچی جاتی ہے۔^(۷) (بحر)

مسئلہ ۶ - جہالت سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے اس کی چند صورتیں ہیں جو چیز اجرت پر دی جائے وہ مجہول ہو یا منفعت کی مقدار مجہول ہو یعنی مدت بیان میں نہیں آئی مثلاً مکان کتنے دنوں کے لیے کرایہ پر دیا یا اجرت مجہول ہو یعنی یہ نہیں بیان کیا کہ کرایہ ہو گا یا کام مجہول ہو یہ نہیں بیان کیا کہ کیا کام لیا جائے گا مثلاً جانور میں یہ نہیں بیان کیا کہ بار برداری کے لیے ہے یا سواری کے لیے۔^(۸) (عالمگیری)

۱..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۷۶.

۲..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۷، ص ۵۲۹-۵۳۱، وغیرہ.

۳..... بیچی گئی چیز۔ ۴..... خریدار۔ ۵..... کرایہ پر لینے والا۔

۶..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۷۶.

۷..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۷، ص ۵۳۰.

۸..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب الخامس عشر فی بیان ما یجوز، ج ۴، ص ۴۳۹.

مسئلہ ۷ جانور کرایہ پر لیا اور یہ شرط ہے کہ اس کو دانہ گھاس مستاجر دے گا یہ اجارہ فاسد ہے کہ جانور کا چارہ مالک کے ذمہ ہے اور مستاجر کے ذمہ کرنا مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔ یوں مکان کرایہ پر دیا اور شرط یہ ہے کہ اس کی مرمت مستاجر کے ذمہ ہے یا مکان کا ٹیکس مستاجر کے ذمہ ہے یہ اجارہ بھی فاسد ہے کہ ان چیزوں کا تعلق مالک سے ہے مستاجر کے ذمہ شرط کرنا مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۸ جو چیز اجارہ پر دی ہے وہ شائع ہے اس سے بھی اجارہ فاسد ہو جاتا ہے مثلاً اس مکان کا نصف حصہ کرایہ پر دیا کہ نصف مکان جزو شائع ہے یا ایک مکان مشترک ہے اس نے اپنا حصہ غیر شریک کو کرایہ پر دیا یا مکان میں تین شخص شریک ہیں اس نے اپنا حصہ ایک شریک کو کرایہ پر دیا سب صورتیں ناجائز ہیں اور اجارہ فاسد ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۹ اگر اجارہ کے وقت شیوع نہ تھا بعد میں آگیا تو اس سے اجارہ فاسد نہیں ہوگا مثلاً پورا مکان اجارہ پر دیا تھا پھر اس کے ایک جزو شائع میں فسخ کر دیا اس شیوع سے اجارہ فاسد نہیں ہوا۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ جو چیز اجرت میں ذکر کی گئی وہ مجہول ہے مثلاً اس کام کی اجرت ایک کپڑا ہے یا اس میں بعض مجہول ہے مثلاً اتنا کرایہ اور مکان کی مرمت تمہارے ذمہ کہ اس صورت میں مرمت بھی کرایہ میں داخل ہے اور چونکہ معلوم نہیں مرمت میں کیا صرف ہوگا لہذا پورا کرایہ مجہول ہو گیا۔^(۴) (درمختار)

اجارہ کے اوقات

مسئلہ ۱۱ اجارہ کی میعاد اگر یکم تاریخ سے شروع ہوتی ہو تو مہینہ میں چاند کا اعتبار ہوگا یعنی دوسرا چاند ہو گیا مہینہ پورا ہو گیا اور اگر درمیان ماہ سے مدت شروع ہوتی ہے تو تیس دن کا مہینہ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کئی ماہ کے لیے مکان یا کوئی چیز کرایہ پر لی تو پہلی صورت میں چاند سے چاند تک اور دوسری صورت میں ہر مہینہ تیس تیس دن کا لیا جائے گا بلکہ ایک سال کے لیے یا کئی سال کے لیے کرایہ پر لیا تو پہلی صورت میں ہلال (چاند) کے بارہ ماہ اور دوسری صورت میں تین سو ساٹھ دن کا سال شمار ہوگا۔^(۵) (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۷۸.

②..... المرجع السابق، ص ۷۹. ③..... المرجع السابق، ص ۷۹.

④..... المرجع السابق، ص ۸۰.

⑤....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثالث فی الأوقات... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۵، ۴۱۶.

مسئلہ ۱۲ یوں اجارہ پر لیا کہ ہر ماہ ایک روپیہ کرایہ اور یہ نہیں ٹھہرا کہ کتنے مہینوں کے لیے کرایہ پر لینا دینا ہوا تو صرف پہلے مہینہ کا اجارہ صحیح ہے اور باقی مہینوں کا فاسد پہلا مہینہ ختم ہوتے ہی پہلی ہی تاریخ میں ہر ایک اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے اور پہلی تاریخ میں فسخ نہیں کیا تو اب اس مہینہ میں خالی نہیں کر سکتا اور اگر مہینوں کی تعداد ذکر کر دی ہے مثلاً چھ ماہ کے لیے اجارہ ہوا تو اجارہ صحیح ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ ایک سال کے لیے مکان کرایہ پر لیا اور یہ ٹھہرا کہ ہر ماہ کا ایک روپیہ کرایہ ہے یہ جائز ہے اور اگر مہینہ کا کرایہ نہیں بیان کیا صرف یہ ٹھہرا کہ ایک سال کا کرایہ دس روپے یہ بھی جائز ہے دونوں صورتوں میں اندرون سال بلا عذر کوئی بھی اجارہ کو فسخ نہیں کر سکتا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ ایک دن کے لیے مزدور رکھا تو کس وقت سے کس وقت تک کام کرے گا اس کے متعلق وہاں کا عرف^(۳) دیکھا جائے گا اگر عرف یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب تک کام کرے تو اس کو بھی کرنا ہوگا اور اگر عرف یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے عصر تک کام کرے تو یہ لیا جائے گا اور اگر دونوں قسم کا رواج ہے تو غروب تک کام کرنا ہوگا کیونکہ اجارہ میں دن کہا ہے اور دن غروب پر ختم ہوتا ہے۔^(۴) (عالمگیری) ہندوستان میں اس کے متعلق مختلف قسم کے عرف ہیں معماروں^(۵) کے متعلق یہ عرف ہے کہ انھیں بارہ بجے سے دو بجے تک دو گھنٹے کی کھانے کے لیے اور کچھ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چھٹی دی جاتی ہے اور اسی وقت میں جو ان میں نمازی ہوتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور شام کو غروب آفتاب پر یا اس سے کچھ قبل کام ختم کیا جاتا ہے اور صبح کو گھنٹا پون گھنٹا دن نکلنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے بالجملہ مزدوروں کے کام کے اوقات وہی ہوں گے جو وہاں کا عرف ہے۔

مسئلہ ۱۵ دو دن چار دن دس دن کے لیے کسی کو کام پر رکھا تو وہی ایام مراد لیے جائیں گے جو عقد اجارہ سے متصل ہیں اور اگر دنوں کو معین نہیں کیا ہے کہہ دیا کہ مثلاً دو دن کا میرے یہاں کام ہے تم کسی دو دن میں کر دینا تو اجارہ صحیح نہیں کہ اس اجارہ میں وقت کا مقرر کرنا ضروری ہے۔^(۶) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الثالث فی الأوقات... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۶.

②..... المرجع السابق.

③..... رواج۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الثالث فی الأوقات... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۶.

⑤..... تعمیراتی کام کرنے والوں۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الثالث فی الأوقات... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۶.

جائز و ناجائز اجارے

مسئلہ ۱۶ - حمام کی اجرت جائز ہے اگرچہ یہاں یہ متعین نہیں ہوتا کہ کتنا پانی صرف کرے گا اور کتنی دیر تک حمام میں ٹھہرے گا۔ ہاں اگر حمام میں دوسروں کے سامنے اپنے ستر کو کھولے جیسا کہ عموماً حمام میں ایسا ہوتا ہے یا خود اپنا ستر نہیں کھولا تو دوسروں کے ستر پر نظر پڑتی ہے اس وجہ سے حمام میں جانا منع ہے خصوصاً عورتوں کو اس میں جانے سے بہت زیادہ احتیاط چاہیے اور اگر نہ اپنا ستر کھولے نہ دوسرے کے ستر کی طرف نظر کرے تو حمام میں جانے کی ممانعت نہیں۔^(۱) (ہدایہ، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ - حجامت یعنی کچھنے لگوانا جائز ہے اور کچھنے کی اجرت دینا لینا بھی جائز ہے کچھنے لگانے والے کے لیے وہ اجرت حلال ہے اگرچہ اس کو خون نکالنا پڑتا ہے اور کبھی خون سے آلودہ بھی ہو جاتا ہے مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کچھنے لگوائے اور لگانے والے کو اجرت بھی دی معلوم ہوا کہ اس اجرت میں خباثت^(۲) نہیں۔^(۳) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۸ - نرجانور کو جفتی کرنے کے لیے اجرت پر دینا ناجائز ہے اور اجرت بھی لینا ناجائز۔^(۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۹ - گناہ کے کام پر اجارہ ناجائز ہے مثلاً نوحہ کرنے والی^(۵) کو اجرت پر رکھا کہ وہ نوحہ کرے گی جس کی یہ مزدوری دی جائے گی۔ گانے بجانے کے لیے اجیر کیا^(۶) کہ وہ اتنی دیر تک گائے گا اور اس کو یہ اجرت دی جائے گی۔ ملاہی یعنی لہو و لعب پر اجارہ بھی ناجائز ہے۔ گانا یا باجا سکھانے کے لیے نوکر رکھتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔^(۷) (درمختار، عالمگیری) ان صورتوں میں اجرت لینا بھی حرام ہے اور لے لی ہو تو واپس کرے اور معلوم نہ رہا کہ کس سے اجرت لی تھی تو اسے صدقہ کر دے کہ خبیث مال کا یہی حکم ہے۔^(۸) (بحر)

①..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب الإجارة الفاسدة، ج ۲، ص ۲۳۸.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: فی حدیث دخوله... إلخ، ج ۹، ص ۸۷.

②..... خرابی۔

③..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب الإجارة الفاسدة، ج ۲، ص ۲۳۸.

④..... المرجع السابق.

⑤..... میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز کے ساتھ رونے والی عورت۔

⑥..... یعنی کرائے پر لایا۔

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۹۲.

⑧..... "البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۸، ص ۳۵.

مسئلہ ۲۰۔ طبلِ غازی^(۱) کہ اس سے لہو مقصود نہیں ہوتا جائز ہے اور اس کا اجارہ بھی جائز اسی طرح شادیوں میں دف بجانے کی اجازت ہے جس میں جھانج نہ ہوں اس کا اجارہ بھی ناجائز نہیں۔^(۲) (ردالمحتار) اس زمانہ میں ملاہی کے اجارات بکثرت پائے جاتے ہیں جیسے سینما، بائیسکوپ تھیٹر میں ملازمین گانے اور تماشے کرنے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں یہ اجارے ناجائز ہیں بلکہ تماشا دیکھنے والے اپنے تماشا دیکھنے کی اجرت دیتے ہیں یعنی اجرت دے کر تماشا کراتے ہیں یہ بھی ناجائز یعنی تماشا دیکھنا یا تماشا کرنا تو گناہ کا کام ہے ہی پیسے دے کر تماشے کرانا یہ ایک دوسرا گناہ ہے اور حرام کام میں پیسہ صرف کرنا ہے۔

مسئلہ ۲۱۔ مسلمان نے کسی کافر کو رہنے کے لیے مکان کرایہ پر دیا یہ اجارہ جائز ہے کوئی حرج نہیں۔ اب اُس گھر میں کافر نے شراب پی یا صلیب کی پرستش کی یہ اُس کافر کا ذاتی فعل ہے اس سے اُس مسلمان پر گناہ نہیں ہاں اگر اُس مکان میں کافر نے گھنٹہ^(۳) اور ناقوس^(۴) بجایا یا سنگھ^(۵) پھونکا یا علانیہ شراب بیچنا شروع کیا تو ضرور ان امور سے روکا جائے گا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲۔ کسی عورتوں کو^(۷) بازاروں میں بالا خانے کرایہ پر دینا کہ وہ اُن میں ناچ مجرا کریں یا زنا کرائیں، یہ ناجائز ہے۔

مسئلہ ۲۳۔ طاعت و عبادت کے کاموں پر اجارہ کرنا جائز نہیں مثلاً اذان کہنے کے لیے امامت کے لیے قرآن و فقہ کی تعلیم کے لیے حج کے لیے یعنی اس لیے اجیر کیا کہ کسی کی طرف سے حج کرے۔ متقدمین فقہاء کا یہی مسلک تھا مگر متاخرین نے دیکھا کہ دین کے کاموں میں سستی پیدا ہو گئی ہے اگر اس اجارہ کی سب صورتوں کو ناجائز کہا جائے تو دین کے بہت سے کاموں

①..... یعنی جنگ کے موقع پر جو نفاہ بجایا جاتا ہے۔

②..... "ردالمحتار"، کتاب الاجارۃ، باب الاجارۃ الفاسدۃ، مطلب فی الاستحجار علی المعاصی، ج ۹، ص ۹۲.

③..... کسی دھات کا تو اوغیرہ جسے موگری سے بجاتے ہیں۔

④..... وہ سنگھ جو ہندو یا دوسرے غیر مسلم پوجا کے وقت بجاتے ہیں۔

⑤..... ایک قسم کا بڑا ناقوس جو مندروں میں بجایا جاتا ہے۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الاجارۃ، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۰.

⑦..... یعنی طوائفوں کو۔

میں خلل واقع ہوگا (1) انہوں نے اس کلیہ سے بعض امور کا استثنا فرما دیا اور یہ فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن و فقہ اور اذان و امامت پر اجارہ جائز ہے کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو قرآن و فقہ کے پڑھانے والے طلبِ معیشت میں (2) مشغول ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے اور لوگ دین کی باتوں سے ناواقف ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح اگر مؤذن و امام کو نوکرنہ رکھا جائے تو بہت سی مساجد میں اذان و جماعت کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اس شعارِ اسلامی میں زبردست کمی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض علما نے وعظ پر اجارہ کو بھی جائز کہا ہے اس زمانہ میں اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں اہل علم نہیں ہیں ادھر ادھر سے کبھی کوئی عالم پہنچ جاتا ہے جو وعظ و تقریر کے ذریعہ انھیں دین کی تعلیم دے دیتا ہے اگر اس اجارہ کو ناجائز کر دیا جائے تو عوام کو جو اس ذریعہ سے کچھ علم کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کا انسداد ہو جائے گا (3)۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب اصل مذہب یہی ہے کہ یہ اجارہ ناجائز ہے ایک دینی ضرورت کی بنا پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو جس بندہ خدا سے ہو سکے کہ ان امور کو محض خالصاً لوجه اللہ (4) انجام دے اور اجرِ اخروی (5) کا مستحق بنے تو اس سے بہتر کیا بات ہے پھر اگر لوگ اس کی خدمت کریں بلکہ یہ تصور کرتے ہوئے کہ دین کی خدمت یہ کرتے ہیں ہم ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں تو دینے والا مستحق ثواب ہوگا اور اُس کو لینا جائز ہوگا کہ یہ اجرت نہیں ہے بلکہ اعانت و امداد ہے۔

مسئلہ ۲۳ فقہائے کرام نے اُس کلیہ سے جن چیزوں کا استثنا فرمایا وہ مذکور ہوئیں اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پر اجارہ جس طرح قدما کے نزدیک ناجائز ہے متاخرین کے نزدیک بھی ناجائز ہے لہذا سوم (6) وغیرہ کے موقع پر اجرت پر قرآن پڑھوانا ناجائز ہے دینے والا لینے والا دونوں گنہگار، اسی طرح اکثر لوگ چالیس روز تک قبر کے پاس یا مکان پر قرآن پڑھوا کر ایصالِ ثواب کراتے ہیں اگر اجرت پر ہو یہ بھی ناجائز ہے بلکہ اس صورت میں ایصالِ ثواب بے معنی بات ہے کہ جب پڑھنے والے نے پیسوں کی خاطر پڑھا تو ثواب ہی کہاں جس کا ایصال کیا جائے اس کا ثواب یعنی بدلہ پیسہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال جتنے ہیں نیت کے ساتھ ہیں جب اللہ (عزوجل) کے لیے عمل نہ ہو تو ثواب کی اُمید بیکار ہے۔ (7) (ردالمحتار) مقصد یہ ہے کہ ایصالِ ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے مگر اجرت پر تلاوت قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصالِ ثواب نہیں ہو سکتا بلکہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں اور ایصالِ ثواب کریں یہ جائز ہے۔

①..... حرج واقع ہوگا۔ ②..... روزی کی تلاش میں۔

③..... یعنی یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ④..... خالص اللہ عزوجل کی رضا کے لئے۔ ⑤..... آخرت کے اجر۔

⑥..... میت کی روح کو ایصالِ ثواب کے لیے تیسرے روز قرآن خوانی کی محفل۔

⑦..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: تحریر مهم فی عدم جواز الإستحجار... إلخ، ج ۹، ص ۹۶۔

مسئلہ ۲۵ - ختم پڑھنے کے لیے اجارہ کرنا ناجائز مثلاً کوئی آیہ کریمہ کا ختم کراتا کوئی ختم خواجگان پڑھواتا ہے کوئی کلمہ طیبہ کا ختم کراتا ہے یہ سب کام اجرت پر ناجائز ہیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ - کسی کو سانپ یا بچھو نے کاٹا ہو اُس کے جھاڑنے کی اجرت لینا جائز ہے اگرچہ قرآن مجید ہی کی آیت یا سورت پڑھ کر جھاڑنا ہو کہ یہ تلاوت نہیں بلکہ علاج کے قبیل سے ہے حدیث میں ایک صحابی کا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا اور اُس کا اچھا ہو جانا اور اُن کا پہلے ہی سے اجرت مقرر کر لینا اور اُس کے اچھے ہونے کے بعد لینا پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس معاملہ کو پیش کرنا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا انکار نہ فرمانا بلکہ جائز رکھنا، اس کے جواز کی صریح دلیل ہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ - بہت سے لوگ تعویذ کا معاوضہ لیتے ہیں یہ جائز ہے اس کو اجارہ کی حد میں داخل نہیں کیا جاسکتا بلکہ بیع میں شمار کرنا چاہیے یعنی اتنے پیسوں یا روپے میں اپنے تعویذ کو بیع کرتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ تعویذ ایسا ہو کہ اُس میں شرعی قباحت نہ ہو جیسے ادعیہ^(۳) اور آیات یا ان کے اعداد یا کسی اسم کا نقش مظہر^(۴) یا مضمّر^(۵) لکھا جائے اور اگر اُس تعویذ میں ناجائز الفاظ لکھے ہوں یا شرک و کفر کے الفاظ پر مشتمل ہو تو ایسا تعویذ لکھنا بھی ناجائز ہے اور اس کا لینا اور باندھنا سب ناجائز۔ صاحب درمختار نے ردِ مسح^(۶) کے تعویذ لکھنے پر اجارہ کو جائز فرمایا جبکہ مقدار کاغذ و مقدار تحریر معلوم ہو کہ اتنا کاغذ ہوگا اور اُس میں اتنی سطریں لکھی جائیں گی مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ اُس صورت میں ہوگا کہ جب اُس لکھوانے والے نے یہ کہا کہ فلاں چیز مجھے لکھ کر دے دو اور یہ طریقہ تعویذ دینے والوں کا نہیں ہے بلکہ ناقلین^(۷) کا ہو سکتا ہے کیوں کہ کاغذ کی مقدار اور تحریر کے لحاظ سے اگر اجرت ہوتی تو تعویذ کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے اجرت میں اختلاف ہوتا حالانکہ یہ نہیں بلکہ امراض اور تعویذ کے زودِ اثر^(۸) ہونے کے اعتبار سے اس کی قیمتوں میں اختلاف ہوتا ہے اسی وجہ سے پانچ پیسے اور پانچ روپے کے تعویذ میں تحریر و کاغذ کی مقدار میں فرق نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجارہ نہیں ہے البتہ بیع کی صورت میں ایک خرابی یہ نظر آتی ہے کہ عموماً اُس وقت تعویذ موجود نہیں ہوتا بعد میں لکھا جاتا ہے اور معدوم^(۹) کی بیع درست نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب اُس نے تعویذ کی فرمائش کی اُس وقت بیع نہیں بلکہ لکھ لینے کے بعد بطور تعاطی^(۱۰) بیع ہوگی اور یہ جائز ہے۔

①..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: تحریر مهم فی عدم جواز الاستحار... إلخ، ج ۹، ص ۹۵.

②..... المرجع السابق، ص ۹۶.

و "صحیح البخاری"، کتاب الإجارة، باب ما يُعطى فی الرقبة... إلخ، الحدیث: ۲۲۷۶، ج ۲، ص ۶۹.

و کتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب، الحدیث: ۵۰۰۷، ج ۳، ص ۴۰۴، ۴۰۵.

③..... دُعائیں۔ ④..... یعنی لفظوں میں۔ ⑤..... یعنی اعداد میں۔ ⑥..... جادو کا توڑ۔

⑦..... نقل کرنے والے۔ ⑧..... فوراً اثر کرنے والا۔ ⑨..... یعنی جو موجود نہ ہو۔ ⑩..... بغیر بولے صرف لینے دینے سے۔

مسئلہ ۲۸ - تعلیم پر جب اجرت لینا جائز ہے تو جو اجرت مقرر ہوئی مستاجر کو دینی ہوگی اور اُس سے جبراً^(۱) وصول کی جائیگی اور اگر اجارہ فاسد ہو مثلاً مدت نہیں مقرر کی تو اجرت مثل واجب ہوگی اسی طرح بعض سورتوں کے ختم یا شروع پر جو مٹھائی دی جاتی ہے جس کا وہاں عرف^(۲) ہے وہ بھی دینی ہوگی۔^(۳) (در مختار)

مسئلہ ۲۹ - لغت و نحو صرف و ادب وغیرہ علوم جن کا تعلق زبان سے ہے ان کی تعلیم پر اجرت لینا بالاجماع جائز ہے اسی طرح قواعد بغدادی پڑھانے یا ہجا کرانے کی اجرت بھی جائز ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ - علم طب اور ریاضی و حساب اور کتابت یا خوشنویسی سکھانے پر نوکر رکھنا جائز ہے منطق کی تعلیم بھی جائز ہے کہ فی نفسہ منطق میں دین کے خلاف کوئی چیز نہیں اسی وجہ سے متاخرین متکلمین نے منطق کو علم کلام کا ایک جز قرار دے دیا اور اصول فقہ میں بھی منطق کے مسائل کو بطور مبادی^(۵) ذکر کرتے ہیں۔ البتہ فلسفہ دین اسلام کے بالکل مخالف ہے مگر اُس کو اس لیے پڑھنا تا کہ فلاسفہ^(۶) کے خیالات معلوم ہوں اور اُن کے استدلالات^(۷) کا رد کیا جائے جائز ہے اسی طرح دیگر کفار کے اصول و فروع^(۸) کو جاننا تا کہ اُن کے مذاہب باطلہ کا ابطال کیا جائے^(۹) جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے مثلاً جب یہ لوگ اسلام پر حملہ کریں تو بہت سے مواقع پر الزامی جواب^(۱۰) کی ضرورت پڑتی ہے اور جب تک اُن کا مذہب معلوم نہ ہو یہ کیونکر ہو سکتا ہے تحقیقی جواب اگرچہ کتنا ہی قوی ہوتا ہے باطل پرست اس کو سُن کر خاموش نہیں ہوتے الزامی جواب کے بعد زبان بند ہو جاتی ہے جس طرح حقائق اشیاء کے منکرین کے متعلق علمائے فرمایا انھیں آگ میں ڈال دیا جائے کہ اپنے جلنے اور آگ کے وجود کا اقرار کریں گے یا جل کر ختم ہو جائیں گے۔

مسئلہ ۳۱ - بچوں کے پڑھانے کے لیے معلم کو نوکر رکھا اور یہ نہیں بیان کیا کہ کتنے بچے پڑھیں گے یہ جائز ہے۔^(۱۱) (عالمگیری)

①..... زبردستی۔

②..... رواج۔

③..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۹۴-۹۶۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع... إلخ، ج ۴، ص ۴۴۸۔

⑤..... ابتدائیات طور پر۔

⑥..... یعنی فلسفیوں۔

⑦..... دلائل۔

⑧..... عقائد و مسائل۔

⑨..... یعنی ان کے باطل مذہب کا رد کیا جائے۔

⑩..... مُعترض (اعتراض کرنے والے) کا اعتراض رفع کرنے کی بجائے ویسا ہی اعتراض اس پر وارد کرنا جیسا اُس نے کیا ہے۔

⑪..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع... إلخ، ج ۴، ص ۴۴۹۔

مسئلہ ۳۲ - مصحف شریف^(۱) کو تلاوت یا پڑھنے کے لیے اجرت پر لیا یہ اجارہ ناجائز ہے اُس میں پڑھنے سے اجرت واجب نہیں ہوگی اسی طرح تفسیر و حدیث و فقہ کی کتابوں کا اجرت پر لینا بھی ناجائز ہے ان میں بھی اجرت واجب نہیں ہوگی۔^(۲) (بج)

مسئلہ ۳۳ - قلم اجرت پر لیا کہ اُس سے لکھے گا اگر مدت مقرر کر دی ہے کہ اتنے دنوں کے لیے ہے تو یہ اجارہ جائز۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ - جنازہ اٹھانے یا میت کو نہلانے کی اجرت دینا وہاں جائز ہے جب ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کام کے کرنے والے ہوں اور اگر اس کے سوا کوئی نہ ہو تو اجرت پر یہ کام نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ شخص اس صورت میں اس کام کے لیے متعین ہے۔^(۴) (بج)

مسئلہ ۳۵ - اجارہ پر کام کرایا گیا اور یہ قرار پایا کہ اسی میں سے اتنا تم اجرت میں لے لینا یہ اجارہ فاسد ہے مثلاً کپڑا بُنے کے لیے سوت دیا اور یہ کہہ دیا کہ آدھا کپڑا اجرت میں لے لینا یا غلہ اٹھا کر لاؤ اُس میں سے دو سیر مزدوری لے لینا یا چکی چلانے کے لیے نیل لیے اور جو آٹا پیسا جائے گا اُس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا یوہیں بھاڑ^(۵) میں چنے وغیرہ بھنواتے ہیں اور یہ ٹھہرا کہ اُن میں سے اتنے بھنائی میں دیے جائیں گے یہ سب صورتیں ناجائز ہیں۔ ان سب میں جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ اجرت میں دینا ہے اُس کو پہلے سے علیحدہ کر دے کہ یہ تمہاری اجرت ہے مثلاً سوت کو دو حصہ کر کے ایک حصہ کی نسبت کہا کہ اس کا کپڑا اُن دو اور دوسرا دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے یا غلہ اٹھانے والے کو اسی غلہ میں سے نکال کر دیدیا کہ یہ مزدوری ہے اور یہ غلہ فلاں جگہ پہنچا دے۔ بھاڑ والے پہلے ہی اپنی بھنائی نکال کر باقی کو بھونتے ہیں اسی طرح سب صورتوں میں کیا جاسکتا ہے دوسری صورت جواز کی یہ ہے کہ مثلاً کہہ دے کہ دو سیر غلہ مزدوری دیں گے یہ نہ کہے کہ اس میں سے دیں گے پھر اگر اسی میں سے دیدے جب بھی حرج نہیں۔^(۶) (درمختار)

①.....قرآن پاک۔

②....."البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۸، ص ۳۴-۳۵.

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع... إلخ، ج ۴، ص ۴۹.

④....."البحر الرائق"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۸، ص ۳۴.

⑤.....اتاج کے دانے بھوننے والوں کی بھٹی یا چولہا۔

⑥....."الدر المختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۹۷.

مسئلہ ۳۶ کھیت کتنا ہے تو بالیس ٹوٹ کر گرتی ہیں کاشتکاروں کا قاعدہ ہے کہ اُن بالیوں کو چنواتے ہیں اور انھیں میں سے نصف مزدوری دیتے ہیں یا کپاس چنواتے ہیں اس کی مزدوری بھی اسی میں سے دی جاتی ہے بلکہ کھیت کاٹنے والے کو بھی اسی میں سے مزدوری دیتے ہیں یہ سب اجارے ناجائز ہیں۔

مسئلہ ۳۷ تل یا سوسوں تیلی کو (۱) تیل پلینے کے لیے دی اور یہ ٹھہرا کہ اجرت میں اس میں سے آدھا یا تہائی چوتھائی تیل لے لے گا یا بکری ذبح کرائی اور اُس میں کا کچھ گوشت اجرت قرار پایا یہ ناجائز ہے۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ زمین دی کہ اس میں درخت نصب کرے درخت اُن دونوں کے مابین نصف نصف ہونگے یہ اجارہ فاسد ہے درخت مالک زمین کے قرار پائیں گے اور پیڑ لگانے والے کو درختوں کی قیمت اور اُس کے کام کی اجرت مثل مالک زمین دے گا۔ (۳) (عالمگیری) اکثر جگہ دیہات میں یوں ہوتا ہے کہ کاشتکار اور رعایا کسی موقع سے درخت لگا لیتے ہیں اور اُس درخت میں نصف یا چہارم زمیندار لیتا ہے باقی وہ لیتا ہے جس نے لگایا اس کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے۔

مسئلہ ۳۹ کسی کو اپنا جانور دیدیا کہ اس سے کام لو اور اجرت پر چلاؤ جو کچھ خدا دے گا وہ ہم دونوں نصف نصف لیں گے اگر اُس نے لوگوں کو اجارہ پر دیا تو جو اجرت حاصل ہوگی مالک کی ہوگی اور اُس کو اپنے کام کی اجرت مثل ملے گی اور اگر جانور کو اجارہ پر نہیں دیا بلکہ لوگوں سے اجرت کا کام لے کر اس جانور کے ذریعہ کرتا ہے مثلاً بار برداری کا کام (۴) لیا اور اس جانور پر لا کر پہنچا دیا تو جو اجرت حاصل ہوگی اس کی ہوگی اور مالک کو اُس کے جانور کی اجرت مثل دے گا۔ (۵) (عالمگیری) بعض لوگ تانگہ یکہ خرید کرتا تگہ والوں کو اسی طرح دیتے ہیں کہ وہ خود چلاتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ اجرت حاصل ہوئی اس کی ہے مالک کو یہ تانگہ کی اجرت مثل دے گا۔

مسئلہ ۳۰ گائے بھینس خرید کر دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ اسے کھلائے پلائے جو کچھ دودھ ہوگا وہ دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا یہ اجارہ بھی فاسد ہے کل دودھ مالک کا ہے اور دوسرے کو اس کے کام کی اجرت مثل ملے گی اور جو کچھ اپنے پاس سے کھلایا ہے اُس کی قیمت ملے گی اور گائے نے جو کچھ چرا ہے اُس کا کوئی معاوضہ نہیں اور دوسرے نے جو کچھ دودھ

①..... تیل نکالنے والے کو۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس عشر فی بیان ما یجوز... إلخ، الفصل الثالث، ج ۴، ص ۴۴۵۔

③..... المرجع السابق۔

④..... یعنی بوجھ اٹھا کر لے جانے کا کام۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس عشر فی بیان ما یجوز... إلخ، الفصل الثالث، ج ۴، ص ۴۴۵۔

صرف کر لیا ہے اتنا ہی دودھ مالک کو دے کہ دودھ مثلی چیز ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ → کسی کو مرغی دی کہ جو کچھ انڈے دے گی دونوں نصف نصف تقسیم کر لیں گے یہ اجارہ بھی فاسد ہے انڈے

اُس کے ہیں جس کی مرغی ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ → بعض لوگ بکری بٹائی پر دیتے ہیں کہ جو کچھ بچے پیدا ہوں گے دونوں نصف نصف لیں گے یہ اجارہ بھی

فاسد ہے بچے اسی کے ہیں جس کی بکری ہے دوسرے کو اُس کے کام کی اجرت مثل ملے گی۔

مسئلہ ۳۳ → اجارہ میں کام اور وقت دونوں چیزیں مذکور ہوں تو اجارہ فاسد ہے یعنی دونوں کو معقود علیہ نہیں بنایا جاسکتا

بلکہ صرف ایک پر عقد کیا جائے یعنی اجارہ یا کام پر ہونا چاہیے وہ جتنے وقت میں ہو یا وقت پر ہونا چاہیے کہ اتنے وقت میں کام کرنا

ہے جتنا کام اُس وقت میں انجام پائے مثلاً نانباتی⁽³⁾ سے کہا من بھر آنا ایک روپیہ میں آج پکا دے یہ ناجائز ہے ہاں اگر وقت پر

اجارہ نہ ہو یعنی وقت معقود علیہ نہ ہو بلکہ وقت کو محض اس لیے ذکر کر دیا گیا ہوتا کہ جلدی سے وہ پکا دے یا اس لیے وقت کو ذکر کیا

تا کہ معلوم ہو کہ کام فلاں وقت میں کیا جائے گا تو اجارہ صحیح ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۴ → زمین زراعت کے لیے دی اور یہ شرط کی کہ کاشتکار اس میں کھات ڈالے یہ اجارہ فاسد ہے جبکہ یہ اجارہ

ایک سال کے لیے ہو کہ کھات کا اثر ایک سال سے زائد رہتا ہے اور اس شرط میں مالک زمین کا نفع ہے اور اگر کئی سال کے لیے

اجارہ ہو تو فاسد نہیں کہ اب یہ شرط مقتضائے عقد کے منافی نہیں۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ → کاشتکار سے یہ شرط کر دی کہ زمین کو جوت کر⁽⁶⁾ واپس کرے اس سے بھی اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔⁽⁷⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۳۶ → زمین زراعت کے لیے دی اور اس کے بدلے میں اس کی زمین زراعت کے لیے لی یہ اجارہ فاسد ہے

کہ دونوں منفعتیں ایک ہی قسم کی ہیں۔⁽⁸⁾ (ہدایہ)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس عشر فی بیان ما یجوز... إلخ، الفصل الثالث، ج ۴، ص ۴۴۵.

②..... المرجع السابق، ص ۴۴۶.

③..... روئی پکانے والا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارۃ، باب الإجارۃ الفاسدۃ، ج ۹، ص ۹۹.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارۃ، باب الإجارۃ الفاسدۃ، مطلب: یخص القیاس... إلخ، ج ۹، ص ۱۰۱.

⑥..... یعنی مل دے کر۔

⑦..... "الہدایۃ"، کتاب الإجارۃ، باب الإجارۃ الفاسدۃ، ج ۲، ص ۲۴۱.

⑧..... المرجع السابق.

مسئلہ ۳۷ دو شخصوں میں غلہ مشترک ہے اس مشترک غلہ کے اٹھانے کے لیے ایک نے دوسرے کو اجیر کیا (1)

دوسرے نے اٹھایا اس کو کچھ مزدوری نہیں ملے گی کہ جو کچھ یہ اٹھا رہا ہے اُس میں خود اس کا بھی ہے لہذا اس کا کام خود اپنے لیے ہوا مزدوری کا مستحق نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک شریک نے دوسرے کے جانور یا گاڑی کو غلہ لادنے کے لیے کرایہ پر لیا اور وہ مشترک غلہ اُس پر لادا کسی اجرت کا مستحق نہیں اور اگر اُس کی کشتی کرایہ پر لی کہ آدھی میں تمہارے حصہ کا غلہ لادا جائے گا اور آدھی میں میرا، یہ جائز ہے۔ (2) (ہدایہ، عالمگیری) اور اگر غلہ یا مال مشترک کو تقسیم کرنے کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا میرا حصہ میرے مکان پر پہنچا دو تم کو اتنی مزدوری دی جائے گی اب یہ اجارہ جائز ہے کہ دونوں کی چیزیں جدا جدا ہیں۔

مسئلہ ۳۸ راہن (3) نے مرتہن (4) سے اپنی چیز کرایہ پر لی جس کو مرتہن کے پاس رہن رکھا ہے مرتہن کو اس کی کچھ

اجرت نہیں ملے گی کہ راہن نے خود اپنی چیز سے نفع اٹھایا اجرت کس چیز کی دے صرف یہ بات ہوئی کہ راہن کو نفع حاصل کرنا ممنوع تھا اس وجہ سے کہ حق مرتہن اُس چیز کے ساتھ متعلق تھا اور مرتہن نے جب اجارہ پر دیدی تو خود اُسے اپنا حق باطل کر دیا راہن کا انتفاع (5) جائز ہو گیا۔ (6) (درمختار، ردالمحتار) اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ آجکل بعض لوگ اپنا مکان یا کھیت رہن رکھ دیتے ہیں پھر مرتہن سے کرایہ پر لیتے ہیں اور کرایہ ادا کرتے ہیں اول تو یہ سود ہے کہ یہ کرایہ زر رہن (7) میں محسوب (8) نہیں ہوتا بلکہ قرض کے طور پر جو روپیہ دیا اُس کا یہ سود ہے جو یقیناً حرام ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی ہی چیز کا کرایہ دینے کے کوئی معنی نہیں۔

مسئلہ ۳۹ حمام کرایہ پر دیا مالک حمام اپنے احباب کے ساتھ اُس میں نہانے گیا اس کے ذمہ کوئی اجرت واجب

نہیں اور کرایہ میں سے بھی اس کے نہانے کی وجہ سے کوئی جز کم نہیں کیا جائے گا۔ (9) (درمختار)

مسئلہ ۵۰ زمین کو اجارہ پر دیا اور یہ نہیں بیان کیا کہ اس میں زراعت کرے گا یا یہ کہ کس چیز کی کاشت کرے گا تو

اجارہ فاسد ہے کیونکہ زمین سے مختلف منافع حاصل کیے جاسکتے ہیں لہذا تعین ضروری ہے یا یہ کہ تعمیر کردے کہ تیرا جو جی چاہے کر

۱..... یعنی غلہ لے جانے کے لیے مزدور رکھا۔

۲..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب الإجارة الفاسدة، ج ۲، ص ۲۴۱.

و"الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب الثامن عشر فی الإجارة التی... إلخ، الفصل الثالث، ج ۴، ص ۴۵۷.

۳..... گروی رکھوانے والا۔ ۴..... جس کے پاس چیز گروی رکھی جائے۔ ۵..... نفع اٹھانا۔

۶..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: یخص القیاس... إلخ، ج ۹، ص ۱۰۲.

۷..... چیز گروی رکھ کر جو مال لیا جائے اسے زر رہن کہتے ہیں۔ ۸..... شمار۔

۹..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۱۰۲.

اور جب یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو فاسد ہے پھر مزارع⁽¹⁾ نے کاشت کی اور مدت پوری ہوگئی تو یہ اجارہ صحیح ہو گیا اور جو اجرت مقرر ہوئی تھی دینی ہوگی اور اگر مدت پوری نہ ہوئی تو اجر مثل واجب ہوگا اور کاشت کرنے سے پہلے دونوں میں نزاع⁽²⁾ پیدا ہو جائے تو اجارہ فسخ کر دیا جائے۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۱ شکار کرنے کے لیے یا جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے اجیر کیا اگر وقت مقرر کر دیا ہے جائز ہے اور وقت مقرر نہیں کیا ہے ناجائز ہے اور شکار اور لکڑیاں اس صورت میں اسی اجیر کی ہیں۔ اور اگر وقت مقرر نہیں کیا ہے مگر لکڑیاں معین کر دی ہیں یعنی بتا دیا ہے کہ ان لکڑیوں کو کاٹو تو اجارہ فاسد ہے لکڑیاں مستاجر کی⁽⁴⁾ ہوں گی اور اُس کے ذمہ اجرت مثل واجب ہوگی۔⁽⁵⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ جن لکڑیوں کے کاٹنے کے لیے اجیر کیا ہے وہ خود اسی مستاجر کی ملک ہیں تو اجارہ جائز ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۳ بی بی کو گھر کی روٹی پکانے کے لیے نوکر رکھا کہ روٹی پکائے ماہوار یا یومیہ اتنی اجرت دوں گا یہ اجارہ ناجائز ہے وہ کسی اجرت کی مستحق نہیں۔ یوہیں خانہ داری کے دوسرے کام جو عورتیں کیا کرتی ہیں ان کی اجرت نہیں لے سکتی کہ یہ کام اُس پر دیا نہ خود ہی واجب ہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۴ عورت نے اپنا مملوک مکان شوہر کو کرایہ پر دیا عورت بھی اُس مکان میں شوہر کے ساتھ رہتی ہے شوہر کے ذمہ کرایہ واجب ہوگا کہ عورت کی سکونت⁽⁸⁾ اُس میں تبعا ہے۔⁽⁹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۵ جو اجارہ استہلاکِ عین پر ہو کہ مستاجر عین شے لے لے وہ اجارہ ناجائز ہے مثلاً گائے بھینس کو اجارہ

①..... کاشکار۔ ②..... جھگڑا۔

③..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: يخص القياس... إلخ، ج ۹، ص ۱۰۲.

④..... یعنی اجیر رکھنے والے کی۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۱۰۵.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۱.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۱.

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: يجب الأجر... إلخ، ج ۹، ص ۱۰۵.

⑧..... رہائش۔

⑨..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج ۹، ص ۱۰۶.

پردیا کہ مستاجر اس کا دودھ حاصل کرے۔ نہر یا تالاب کو مچھلی پکڑنے کے لیے ٹھیکہ پردیا یہ ناجائز ہے۔ یوہیں چراگاہ کا ٹھیکہ بھی ناجائز ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار) گاؤں اور بازار اور جنگل کا ٹھیکہ بھی ناجائز ہے کہ ان سب میں استہلاک عین ہے۔

مسئلہ ۵۶ مکان اجارہ پردیا اور یہ شرط کر لی کہ رمضان کا کرایہ ہبہ کر دوں گا یا تمہارے ذمہ نہیں ہوگا یہ اجارہ فاسد ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۷ دکان جل گئی ہے اُس کو کرایہ پر لیا اس شرط پر کہ اسے بنوائے گا اور جو کچھ خرچ ہوگا وہ کرایہ میں محسوب ہوگا یہ اجارہ فاسد ہے اور اگر مستاجر اُس میں رہا تو اُس پر اجرت مثل واجب ہے اور جو کچھ خرچ کیا ہے وہ اور بنوانے کی اجرت مثل اسے ملے گی۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۸ مستاجر کے ذمہ یہ شرط کرنا کہ اس چیز کی واپسی تمہارے ذمہ ہے یعنی کام کرنے کے بعد تم اپنے صرفہ سے چیز کو واپس کر جانا اگر وہ چیز ایسی ہے جس میں بار برداری صرف ہوتی ہے جیسے دیگ شامیانہ تو اس شرط کی وجہ سے اجارہ فاسد ہے اور ایسی نہیں ہے تو فاسد نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۹ کوئی چیز اجرت پر لی تھی مثلاً دیگ اور اُس کی مدت دودن تھی اور مدت پوری ہونے کے بعد بھی چیز اسی کے یہاں پڑی رہی مالک نہیں لے گیا تو صرف اتنے ہی دنوں کا کرایہ واجب ہوگا جن کا ذکر اجارہ میں ہوا اگرچہ واپس کرنا مستاجر کے ذمہ قرار پایا ہو کہ یہ شرط فاسد ہے اور اگر اس طرح اجارہ ہوا کہ فی یوم اتنا کرایہ جیسا کہ شامیانوں اور دیگوں وغیرہا میں اسی طرح عموماً ہوتا ہے تو جب وہ چیز اس کے کام سے فارغ ہوگئی اجارہ ختم ہو گیا اس کے بعد کرایہ واجب نہیں ہوگا یہ چیز مالک کے یہاں پہنچادے یا اپنے ہی یہاں رہنے دے اور اگر دوپہر میں چیز خالی ہوگئی جب بھی پورے دن کا کرایہ دینا ہوگا۔ یوہیں ایک ماہ کے لیے کرایہ پر لی تھی اور پندرہ دن میں خالی ہوگئی پورے مہینہ بھر کا کرایہ دینا ہوگا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶۰ اجارہ کو دوسرے اجارہ کے منقطع کرنا یعنی ایک شخص سے اجارہ کرنے کے بعد دوسرے سے یوں اجارہ کیا کہ اگر وہ پہلا اجارہ منقطع ہو جائے تو تم سے اجارہ ہے، یہ باطل ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس عشر ما یحوز من الإجارۃ وما لا یحوز، الفصل الاول، ج ۴، ص ۴۴۲.

و"ردالمحتار"، کتاب الإجارۃ، باب الإجارۃ الفاسدۃ، مطلب: الإجارۃ اذا وقعت علی العین... إلخ، ج ۹، ص ۱۰۶.

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس فی الخیار فی الإجارۃ والشرط فیہا، ج ۴، ص ۴۲۰.

③..... المرجع السابق. ④..... المرجع السابق، ص ۴۲۱.

⑤..... المرجع السابق. ⑥..... المرجع السابق، ص ۴۲۲.

ضمان اجیر کا بیان

اجیر دو قسم کے ہیں: اجیر مشترک و اجیر خاص۔ اجیر مشترک وہ ہے جس کے لیے کسی وقت خاص میں ایک ہی شخص کا کام کرنا ضروری نہ ہو اُس وقت میں دوسرے کا بھی کام کر سکتا ہو، جیسے دھوبی، خیاط⁽¹⁾، جمام، جمال⁽²⁾ وغیرہم جو ایک شخص کے کام کے پابند نہیں ہیں اور اجیر خاص ایک ہی شخص کا پابند ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۔ کام میں جب وقت کی قید نہ ہو اگرچہ وہ ایک ہی شخص کا کام کرے یہ بھی اجیر مشترک ہے مثلاً درزی کو اپنے گھر میں کپڑے سینے کے لیے رکھا اور یہ پابندی نہ ہو کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک سے گا اور روزانہ یا ماہوار یہ اجرت دی جائے گی بلکہ جتنا کام کرے گا اسی حساب سے اجرت دی جائے گی تو یہ اجیر مشترک ہے۔ یوہیں اگر وقت کی پابندی ہے مگر دوسرے کا بھی اس وقت میں کام کرنے کی اجازت ہے مثلاً چرواہے کو بکریاں چرانے کو ایک روپیہ ماہوار پر رکھا مگر یہ نہیں کہا ہے کہ دوسرے کی بکریاں نہ چرانا تو یہ بھی اجیر مشترک ہے اور اگر یہ طے ہو جائے کہ دوسرے کی بکریاں نہیں چرائے گا تو اجیر خاص ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۔ اجیر مشترک میں اجارہ کا تعلق کام سے ہے لہذا وہ متعدد اشخاص کے کام لے سکتا ہے اور اجیر خاص میں اُس مدت کے منافع کا ایک شخص کو مالک کر چکا لہذا دوسرے سے عقد نہیں کر سکتا۔

مسئلہ ۳۔ اجیر مشترک اجرت کا اُس وقت مستحق ہے جب کام کر چکے مثلاً درزی نے کپڑے کے سینے میں سارا وقت صرف کر دیا مگر کپڑا اسی کر طیار نہیں کیا یا اپنے مکان پر سینے کے لیے تم نے اُسے مقرر کیا تھا دن بھر تمہارے یہاں رہا مگر کپڑا نہیں سیا اجرت کا مستحق نہیں ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴۔ جو کام ایسا ہے کہ محل کے مختلف ہونے سے اُس میں اختلاف ہوتا ہے یعنی بعض میں محنت کم ہے بعض میں زائد ایسے کاموں میں اجیر مشترک کو اختیار رویت حاصل ہوتا ہے دیکھنے کے بعد کام کرنے سے انکار کر سکتا ہے مثلاً دھوبی سے ٹھہرایا کہ گزی⁽⁵⁾ کا ایک تھان ایک آنہ⁽⁶⁾ میں دھوئے گا اُس نے تھان دیکھ کر دھونے سے انکار کر دیا یہ ہو سکتا ہے۔ یارنگریز سے رنگنا

①..... درزی۔

②..... بوجھ اٹھانے والا، مزدور۔

③..... "الدر المختار" کتاب الإجارة، باب ضمان الاجیر، ج ۹، ص ۱۰۸.

④..... المرجع السابق، ص ۱۰۹.

⑤..... ایک دیسی کپڑا جو موٹا اور گھنیا قسم کا ہوتا ہے۔

⑥..... روپے کا سو لہواں حصہ۔

طے ہو گیا تھا کپڑا دیکھ کر انکار کر سکتا ہے کہ بعض کپڑے کے رنگنے میں زیادہ محنت ہوتی ہے اور زیادہ رنگ خرچ ہوتا ہے۔ یوہیں درزی بھی کپڑا دیکھ کر سینے سے انکار کر سکتا ہے کیونکہ بعض کپڑوں کے سینے میں زیادہ محنت ہوتی ہے مگر دیکھنے کے بعد راضی ہو گیا تو اب انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اگر کام ایسا ہے کہ محل کے اختلاف سے اُس میں اختلاف نہ ہو تو انکار کی گنجائش نہیں مثلاً من بھر گے ہوں تو لنے کے لیے اجیر کیا یا حجامت بنانے کے لیے طے کیا دیکھنے کے بعد وہ انکار نہیں کر سکتا۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - اجیر مشترک کے پاس چیز امانت ہوتی ہے اگر ضائع ہو جائے ضمان واجب نہیں اگرچہ چیز دیتے وقت یہ شرط کردی ہو کہ ضائع ہوگی تو ضمان لوں گا کہ یہ شرط باطل ہے۔⁽²⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۶ - اجیر مشترک کے فعل سے اگر چیز ضائع ہوئی تو تاوان واجب ہے مثلاً دھوبی نے کپڑا پھاڑ دیا اگرچہ قصدانہ پھاڑا ہو چاہے اسی نے خود پھاڑا یا اُس نے دوسرے سے دھلوا یا اُس نے پھاڑا بہر حال تاوان واجب ہے اور اس صورت میں دھلائی کا بھی مستحق نہیں۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - جمال سامان لا دکر لار ہا ہے پاؤں پھسلا اور سامان ٹوٹ پھوٹ گیا اس پر بھی ضمان واجب ہے یا جانور پر سامان لا دکر لار ہا تھا جانور پھسلا اور سامان برباد ہوا اس میں بھی ضمان واجب ہے اور اگر رسی کے ٹوٹ جانے سے سامان گر کر ضائع ہوا اس میں بھی ضمان واجب مگر جبکہ رسی خود سامان والے کی ہو تو تاوان نہیں۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - کشتی پر سامان لدا ہوا ہے ملاح⁽⁵⁾ کشتی کھینچ کر لار ہا تھا کشتی اس کے کھینچنے سے ڈوب گئی ضمان واجب ہے اور اگر مخالف ہو یا موج دریا سے یا پہاڑی سے ٹکرا کر ڈوبی تو ضمان واجب نہیں۔⁽⁶⁾ (ہدایہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - چرواہا جانوروں کو تیزی سے ہانک کر لے جا رہا تھا پل پر جب جانور پہنچے آپس کے دھکے سے کوئی جانور گر گیا یا دریا کے کنارے ایک نے دوسرے کو دھکا دیا وہ پانی میں گر کر مر گیا چرواہے کو تاوان دینا ہوگا کہ اُس نے تیز نہ بھگایا ہوتا

①..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مبحث الأجير المشترك، ج ۹، ص ۱۰۹.

②..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب ضمان الأجير، ج ۲، ص ۲۴۲.

و"الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۰۹.

③..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب: یفتی بالقیاس علی قوله، ج ۹، ص ۱۱۲.

④..... المرجع السابق.

⑤..... کشتی چلانے والا۔

⑥..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب ضمان الأجير، ج ۲، ص ۲۴۲.

و"ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب: یفتی بالقیاس علی قوله، ج ۹، ص ۱۱۲.

تو ایسا نہ ہوتا۔ یوہیں اگر چرواہے کے مارنے یا ہانکنے سے جانور ہلاک ہو یا اُس کے مارنے سے آنکھ پھوٹ گئی یا کوئی عضو ٹوٹ گیا تو اس کا بھی تاوان واجب ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ کشتی میں آدمی سوار تھے اور ملاح کشتی کو کھینچ کر لیجا رہا تھا کشتی ڈوب گئی اور آدمی ہلاک ہو گئے یا جانور پر آدمی سوار ہے اور جانور کا مالک اُسے ہانک کر یا کھینچ کر لے جا رہا تھا آدمی گر کر ہلاک ہو گیا ان صورتوں میں ضمان واجب نہیں۔⁽²⁾ (ردمختار)

مسئلہ ۱۱ جمال برتن میں کوئی چیز لیے جا رہا تھا اور راستہ میں برتن ٹوٹا اور چیز ضائع ہوئی تو مالک کو اختیار ہے کہ جہاں سے لا رہا تھا وہاں اُس چیز کی جو قیمت تھی وہ تاوان لے اور اس صورت میں مزدوری کچھ نہیں یا جہاں ٹوٹا وہاں کی قیمت تاوان لے اور اس صورت میں یہاں تک کی مزدوری حساب کر کے دیدے۔⁽³⁾ (ردمختار)

مسئلہ ۱۲ راستہ میں آدمیوں کا ہجوم تھا مزدور کو دھکا لگا اور چیز ضائع ہوئی تو مزدور پر ضمان نہیں اور اگر مزدور ہی نے مزاحمت کی اس وجہ سے نقصان ہوا تو ضمان ہے۔⁽⁴⁾ (ردمختار)

مسئلہ ۱۳ مکان تک مزدور نے سامان پہنچا دیا مالک اُس کے سر سے اتر وارہا تھا چیز دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری اور ضائع ہوئی نصف قیمت مزدور سے تاوان میں لی جائے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ کشتی پر سامان لا کر وہاں تک پہنچا دیا جہاں لیجانا تھا مگر مخالف ہوا سے کشتی وہیں چلی آئی جہاں سے گئی تھی یا کہیں اور چلی گئی اگر سامان کا مالک یا اس کا وکیل کشتی میں موجود تھا تو کرایہ واجب ہے۔ اور ملاح کو اس پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ پھر وہاں پہنچائے کیونکہ اُس کا کام پورا ہو چکا ہاں اگر کشتی ایسی جگہ ہے جہاں چیز پر قبضہ نہیں کیا جاسکتا تو ملاح کو لوٹا کر لانا ہوگا اور اس کی بھی مزدوری دی جائے گی اور اگر مالک یا اس کا وکیل کشتی میں نہ تھا تو ملاح کو اسی پہلی اجرت میں چیز پہنچانی ہوگی کہ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

①..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب: يفتى بالقياس على قوله، ج ۹، ص ۱۱۲.

و"الفتاوى الهندية"، كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۵۰۱.

②..... "الدرالمختار"، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۱۵.

③..... المرجع السابق.

④..... المرجع السابق.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۵۰۱.

⑥..... المرجع السابق، ص ۵۰۳.

مسئلہ ۱۵ ملاح نے کشتی میں اپنی حاجت کے لیے آگ رکھی تھی اس سے سامان جل گیا ملاح پر تاوان واجب نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ کشتی اپنا سامان لادنے کے لیے کرایہ کی ملاح نے بغیر رضامندی مستاجر^(۲) اُس میں کچھ دوسرا سامان بھی لاد دیا اور کشتی اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے کشتی ڈوب گئی اگر مستاجر ساتھ تھا تاوان واجب نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ دھوبی کو کپڑا دیا تھا اور ایک شخص سے کہہ دیا تھا کہ تم دھوبی سے کپڑا لے لینا دھوبی نے اُسے دوسرا کپڑا دے دیا یہ کپڑا اُس کے ہاتھ میں امانت ہے ضائع ہو جائے تو دھوبی اس سے تاوان نہیں لے سکتا اور کپڑے والا دھوبی سے اپنا کپڑا وصول کرے گا۔ یہ اُس وقت ہے کہ وہ کپڑا خاص دھوبی ہی کا ہو اور اگر کسی دوسرے کا ہے تو جس کا ہے وہ تاوان لے گا اگر دھوبی سے اس نے تاوان لیا جب تو کچھ نہیں اور اُس شخص سے لیا تو وہ دھوبی سے تاوان کی قدر وصول کرے گا درزی کا بھی یہی حکم ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ دھوبی نے دوسرا کپڑا دے دیا اور اس نے اپنا سمجھ کر لے لیا یہ ضامن ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہ تھا کہ دوسرے کا ہے اور فرض کرو اس نے کپڑے کو قطع کر لیا اور سی لیا تو جس کا کپڑا ہے وہ دونوں میں سے جس سے چاہے ضمان لے سکتا ہے کاٹنے والے سے لیا تو کچھ نہیں اور دھوبی سے ضمان لیا تو وہ کاٹنے والے سے وصول کر سکتا ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ دھوبی نے ایک کا کپڑا دوسرے کو دیدیا مالک نے جب مانگا تو اُس نے کہا میں نے فلاں کو دیدیا یہ سمجھ کر کہ اسی کا ہے دھوبی کو تاوان دینا ہوگا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ دھوبی نے کپڑا دینا چاہا مالک نے کہا اپنے ہی پاس رکھ لے اس صورت میں مطلقاً ضامن نہیں۔ اجرت لے لی ہو یا نہ لی ہو اور اگر اجرت لینے کے لیے اُس نے کپڑے کو روک رکھا ہے تو ضامن ہے۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ دھوبی کو دوسرے کے کپڑے پہننا جائز نہیں کہ امانت میں تصرف کرنا خیانت ہے مگر پہننے کے بعد اُس نے اوتار کر رکھ دیا تو اب ضامن نہیں رہا جس طرح ودیعت کا حکم ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا۔^(۸) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون فی بیان حکم الاجیر... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۵۰۳.

②..... یعنی کرایہ پر لینے والے کی مرضی کے بغیر۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون فی بیان حکم الاجیر... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۵۰۳.

④..... المرجع السابق، ص ۵۰۶. ⑤..... المرجع السابق. ⑥..... المرجع السابق، ص ۵۰۷.

⑦..... المرجع السابق. ⑧..... المرجع السابق.

مسئلہ ۲۲ - چرواہا خود بھی بکریاں وغیرہ چرا سکتا ہے اور اُس کے بال بچے اور اجیر^(۱) بھی چرا سکتے ہیں، اگر کسی اجنبی شخص کو سپرد کر کے چلا گیا اور جانور ضائع ہو گیا تو ضمان واجب ہے مگر جبکہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا کیا ہو مثلاً پیشاب کرنے گیا یا کھانے کے لیے گیا تو معاف ہے، اس صورت میں تاوان واجب نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - چرواہے نے ایک کی بکریاں دوسرے کی بکریوں میں ملا دیں اگر امتیاز ممکن ہے تو کچھ حرج نہیں اور کس کی کون ہے کس کی کون ہے اس میں چرواہے کا قول معتبر ہے اور اگر امتیاز نہ رہا چرواہا کہتا ہے مجھے شناخت نہیں ہے تو تاوان واجب ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ - چرواہوں کا قاعدہ ہے کہ جانور اُس گلی میں چھوڑ جاتے ہیں جس میں مالک کا مکان ہے اُسکے مکان پر نہیں پہنچاتے نہ مالک کو سپرد کرتے ہیں۔ مکان پر پہنچنے سے پہلے اگر گائے یا بکری ضائع ہو گئی تو چرواہے پر ضمان واجب نہیں۔^(۴) (عالمگیری) مگر جبکہ مالک نے کہہ دیا ہو کہ میرے مکان پر پہنچا جایا کرنا تو ضمان واجب ہے کہ اُس نے شرط کے خلاف کیا۔

مسئلہ ۲۵ - گاؤں کے چرواہے گاؤں کے کنارے پر جانوروں کو لاکر چھوڑ دیتے ہیں اگر چرواہے نے یہ شرط کر لی ہے یا یہ متعارف ہے تو وہاں چھوڑ دینا جائز ہے، ضائع ہونے پر ضمان واجب نہیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ - جنگل میں جھاڑیاں ہیں جہاں جانور چرتے ہیں کہ سب جانور چرواہے کی پیش نظر نہیں ہوتے جیسا کہ اکثر جگہ ڈھاک^(۶) کے جنگل میں ہوتا ہے کوئی جانور اس صورت میں ضائع ہو گیا تو ضمان واجب نہیں۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ - چرواہا کہیں چلا گیا اور گائے نے کسی کا کھیت چر لیا کھیت والا چرواہے سے تاوان نہیں لے سکتا ہاں اگر اس نے خود کھیت میں چھوڑا یا یہ ہانک کر لیے جارہا تھا اور گائے نے اس حالت میں چر لیا تو تاوان واجب ہے۔^(۸) (عالمگیری)

①..... نوکر، ملازم۔

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون فی بیان حکم الأجير... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۵۰۸.

③..... المرجع السابق. ④..... المرجع السابق، ص ۵۱۰، ۵۱۱.

⑤..... المرجع السابق، ص ۵۱۱.

⑥..... ایک درخت کا نام جس کی ٹہنی کے سرے پر بڑے بڑے تین پتے ہوتے ہیں اس کے پھول سرخ ہوتے ہیں۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون فی بیان حکم الأجير... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۵۱۰.

⑧..... المرجع السابق، ص ۵۱۱.

مسئلہ ۲۸ فساد (۱) نے فصد کھولی یا پچھنا لگانے والے نے پچھنا لگایا جراح نے پھوڑا چیرا اور ان سب میں موضع معتاد سے تجاوز نہیں کیا (۲) تو ضمان واجب نہیں اور اگر جتنی جگہ پر ہونا چاہیے اُس سے تجاوز کیا اور ہلاک نہیں ہوا تو جتنی زیادتی کی ہے اُس کا تاوان دے اور ہلاک ہو گیا تو نصف دیت نفس واجب ہے۔ (۳) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۲۹ اجیر خاص جس کی تعریف پہلے ذکر ہو چکی اس کے ذمہ تسلیم نفس واجب ہے یعنی جو وقت اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اُس وقت میں اس کا حاضر رہنا ضروری ہے اس نے اگر کام نہیں کیا ہے جب بھی اجرت کا مستحق ہے جیسے کسی کو خدمت کے لیے نوکر رکھایا جانوروں کے چرانے کے لیے نوکر رکھا اور تنخواہ بھی متعین کر دی۔ (۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۳۰ اجیر خاص کے پاس جو چیز ہے وہ امانت ہے اگر تلف ہو جائے (۵) تو ضمان واجب نہیں اگرچہ اُس کے فعل کی وجہ سے تلف ہوئی مثلاً اجیر خاص نے کپڑا دھویا اور اُس کے پکنے (۶) یا نچوڑنے سے پھٹ گیا اُس پر ضمان واجب نہیں اور اجیر مشترک سے ایسا ہوتا واجب ہے جس کا ذکر مفصل گزرا ہاں اگر اجیر خاص نے قصداً اُس چیز کو فاسد و خراب کر دیا تو اُس پر تاوان واجب ہوگا۔ (۷) (درمختار)

مسئلہ ۳۱ اُس کے فعل سے کچھ نقصان ہو تو ضامن نہیں اس سے مراد وہ فعل ہے جس کی اُسے اجازت دی ہو اور اگر اُس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی اُس کو اجازت نہیں دی تھی اور اُس کے فعل سے نقصان ہوا تو تاوان اُسکے ذمہ واجب ہے مثلاً ایک کام پر وہ ملازم ہے اور دوسرا کام کیا جس کی مالک سے اجازت نہیں لی تھی اور اس کام میں چیز کا نقصان ہوا۔ (۸) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ جو چرواہا خاص ایک شخص کا ملازم ہے اُس نے جانوروں کو ہانکا اور اس کی وجہ سے ایک جانور نے دوسرے کو دھکا دیا اور یہ گر پڑا اور مر گیا چرواہے پر تاوان نہیں اور اگر وہ دو یا تین شخصوں کا ملازم ہے تو اگرچہ یہ بھی اجیر خاص ہے مگر

①..... رگ سے فاسد خون نکالنے والا۔ ②..... یعنی حد سے زیادہ چیرا پھاڑا نہیں۔

③..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب ضمان الأجير، ج ۲، ص ۲۴۳.

و "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۱۶.

④..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب ضمان الأجير، ج ۲، ص ۲۴۳.

⑤..... ضائع ہو جائے۔ ⑥..... بار بار پتھر یا تختے وغیرہ پر مارنے سے۔

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۱۹.

⑧..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب: ليس للأجير الخاص... إلخ، ج ۹، ص ۱۱۹.

اس صورت میں اس پر تاوان ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

۳۳ مسئلہ ۳۳ بچہ دایہ کے پاس تھا اُس کے زیور کوئی اوتار لے گیا دایہ پر اس کا تاوان واجب نہیں۔⁽²⁾ (درمختار)

۳۳ مسئلہ ۳۳ بازار کا چوکیدار اور مسافر خانہ و سہرا⁽³⁾ کے محافظ بھی اجیر خاص ہیں اگر بازار میں چوری ہوگئی یا سہرا اور

مسافر خانہ سے مال جاتا رہا تو ان لوگوں سے تاوان نہیں لیا جاسکتا۔⁽⁴⁾ (درمختار)

۳۵ مسئلہ ۳۵ اجیر خاص نے اگر دوسرے کا کام کیا تو جتنا کام کیا ہے اسی حساب سے اُس کی اجرت کم کر دی جائے

گی۔⁽⁵⁾ (درمختار)

۳۶ مسئلہ ۳۶ اگر کسی عذر کی وجہ سے اجیر خاص کام نہ کر سکا تو اجرت کا مستحق نہیں ہے مثلاً بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ

سے کام نہیں کیا اگرچہ حاضر ہوا اجرت نہیں پائے گا۔⁽⁶⁾ (ردالمختار)

۳۷ مسئلہ ۳۷ اجیر خاص اُس مدت مقرر میں اپنا ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا اور اوقات نماز میں فرض اور سنت مؤکدہ پڑھ

سکتا ہے نفل نماز پڑھنا اس کے لیے اوقات اجارہ میں جائز نہیں اور جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا مگر جامع مسجد

اگر دور ہے کہ وقت زیادہ صرف ہوگا تو اتنے وقت کی اجرت کم کر دی جائے گی اور اگر نزدیک ہے تو کچھ کمی نہیں کی جائے گی اپنی

اجرت پوری پائے گا۔⁽⁷⁾ (ردالمختار)

۳۸ مسئلہ ۳۸ چرواہا اگر اجیر خاص ہے اور جتنی بکریاں چرانے کے لیے اُسے سپرد کیں اُن میں سے کچھ کم ہو گئیں جب

بھی وہ پوری اجرت کا مستحق ہے بلکہ اگر ایک بکری بھی باقی نہ رہے جب بھی پوری اجرت کا مستحق ہے اور اگر بکریوں میں اضافہ

ہو گیا اور اتنی زیادہ ہوئیں جن کے چرانے کی اُسے طاقت ہے تو چرانی ہوں گی اس سے انکار نہیں کر سکتا اور اجرت وہی ملے گی جو

مقرر ہوئی ہے۔⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمختار) اسی طرح معلم کو بچے پڑھانے کے لیے سپرد کیے گئے کچھ لڑکوں کا اضافہ ہوا جن کو وہ

①..... "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب: ليس للأجير الخاص... إلخ، ج ۹، ص ۱۱۹.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۲۰.

③..... مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، ریسٹورنٹ، آرام گاہ۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۲۰.

⑤..... المرجع السابق، ص ۱۱۹.

⑥..... "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مبحث: الاجير الخاص، ج ۹، ص ۱۱۷.

⑦..... المرجع السابق، مطلب: ليس للأجير الخاص... إلخ، ج ۹، ص ۱۱۸.

⑧..... المرجع السابق، مطلب: ليس للأجير الخاص... إلخ، ج ۹، ص ۱۱۹.

پڑھا سکتا ہے تو انکار نہیں کر سکتا اور لڑکے کم ہو گئے جب بھی پوری تنخواہ کا مستحق ہے۔

مسئلہ ۳۹ گھوڑا کرایہ پر لیا راستہ میں وہ بھاگ گیا اگر غالب گمان یہ ہے کہ ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا اور نہ ڈھونڈا تو ضمان واجب نہیں۔ یوہیں ریوڑ سے بکری بھاگ گئی چرواہے کو غالب گمان ہے کہ اگر اُسے ڈھونڈنے جائے گا تو باقی بکریاں جاتی رہیں گی اس وجہ سے نہیں گیا تو ضمان واجب نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۴۰ کرایہ دار نے مکان میں چولہا بنایا یا تنور گاڑا اس سے آگ اوڑی اور یہ مکان یا پڑوسی کا مکان جل گیا تاوان واجب نہیں مالک مکان کی اجازت سے چولہا یا تنور بنایا ہو یا بغیر اجازت۔ ہاں اگر اس طرح آگ جلانی کہ چولھے اور تنور اُس طرح نہیں جلاتے تو تاوان دینا ہوگا۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۴۱ شاگرد اپنے اُستاد کے پاس کام سیکھتا ہے یا بڑے دوکاندار اور کارگیر اپنے یہاں کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نوکر رکھ لیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں ان شاگردوں اور نوکروں کا کام اُسی اُستاد اور دوکاندار کا کام سمجھا جاتا ہے اگر شاگردوں یا نوکروں سے کسی کی چیز میں نقصان پہنچا جو اُس دکان پر بننے کے لیے آئی تھی تو اس کا ذمہ دار وہ اُستاد اور دوکاندار ہے اُسی سے تاوان لیا جائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے نقصان نہیں ہوا مثلاً درزی کے پاس کپڑا سینے کو دیا اُسکے نوکر نے کوئی ایسی خرابی کر دی جس سے تاوان لازم آتا ہے تو اُسی درزی سے تاوان لیا جائے گا اور وہ اپنے نوکر سے تاوان نہیں لے سکتا کہ نوکر اجیر خاص ہے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴۲ ایک شخص سرا میں چند روز رہا یا ایسے مکان میں رہا جو کرایہ پر اُٹھانے کے لیے مالک نے کر رکھا ہے اس شخص سے کرایہ مانگا گیا تو کہنے لگا کہ میں بطور غصب اس مکان میں یا سرا میں رہا مجھ پر کرایہ واجب نہیں اوسکی بات نہیں مانی جائے گی اُس سے کرایہ وصول کیا جائے گا اگر چہ وہ شخص اسی طرح کے ظلم کرتا ہو کہ لوگوں کے مکانوں میں بغیر کرایہ زبردستی رہتا ہو اور یہ بات مشہور ہو کیونکہ ایسی جائداد جو کرایہ ہی کے لیے ہے اُس کا بہر حال کرایہ مثل دینا ہوگا اسی طرح جائداد موقوفہ^(۴) اور مال یتیم کا کرایہ مثل دینا ہی ہوگا اگر چہ استعمال کرنے والے نے غصب کے طور پر استعمال کیا ہو۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۲۳.

②.....المرجع السابق، ص ۱۲۲.

③....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مبحث: اختلاف المؤجر... إلخ، ج ۹، ص ۱۲۷.

④.....وقف شدہ جائداد۔

⑤....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مبحث: اختلاف المؤجر... إلخ، ج ۹، ص ۱۲۸.

دو شرطوں میں سے ایک پر اجارہ

مسئلہ ۱ درزی سے کہا اگر اس کپڑے کی اپکن^(۱) سیوگے تو ایک روپیہ سیلائی اور شیروانی سی تو دو روپے یہ صورت جائز ہے جو سی کر لائے گا اُس کی سیلائی پائے گا۔ یوہیں رنگریز^(۲) سے کہا کہ اس کپڑے کو کسم^(۳) سے رنگوگے تو ایک روپیہ اور زعفران سے رنگو تو دو روپے۔ اسی طرح اگر یہ کہا کہ اس مکان میں رہوگے تو پانچ روپے کرایہ کے ہیں اور اُس میں رہوگے تو دن روپے یہ بھی جائز ہے۔ اگر تا نگہ والے سے کہا کہ فلاں جگہ تک لے جاؤگے تو ایک روپیہ کرایہ اور فلاں جگہ تو دو روپے یہ بھی جائز ہے ان سب میں جو صورت پائی گئی اسی کی اجرت دی جائے گی۔^(۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۲ درزی سے کہا اگر آج سی کر دیا تو ایک روپیہ اور کل دیا تو آٹھ آنے۔ اُس نے آج ہی سی کر دے دیا تو ایک روپیہ دینا ہوگا دوسرے دن دے گا تو اجرت مثل واجب ہوگی جو آٹھ آنے سے زیادہ نہ ہوگی۔^(۵) (ہدایہ)

مسئلہ ۳ اگر درزی سے یہ کہا ہے کہ آج سی دے گا تو ایک روپیہ اور کل سیا تو کچھ اجرت نہیں اگر آج سیا تو ایک روپیہ ملے گا اور دوسرے دن سیا تو اجرت مثل ملے گی جو ایک روپیہ سے زائد نہ ہوگی۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ درزی سے کہا اگر تم نے خود سیا تو ایک روپیہ اور شاگرد سے سلوایا تو آٹھ آنے یہ بھی جائز ہے جس نے سیا اُس کے لیے جو مزدوری مقرر ہے وہ ملے گی۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ جس طرح دو چیزوں میں اختیار دیا جاسکتا ہے تین چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے چار چیزوں میں اختیار دیا یہ ناجائز ہے۔^(۸) (ہدایہ)

مسئلہ ۶ اس دکان یا مکان میں اگر تم نے عطار کو رکھا تو ایک روپیہ کرایہ اور لوہار کو رکھا تو دو روپے یہ بھی جائز ہے۔^(۹) (ہدایہ)

①..... ایک قسم کا مردانہ لباس۔ ②..... کپڑے رنگنے والا۔

③..... ایک قسم کا پھول جس سے گہرا سرخ رنگ نکلتا ہے اور اس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں۔

④..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب الإجارة علی أحد الشرطین، ج ۲، ص ۲۴۴۔

⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب السادس فی الإجارة... إلخ، ج ۴، ص ۴۲۳۔

⑦..... المرجع السابق، ص ۴۲۲۔

⑧..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب الإجارة علی أحد الشرطین... إلخ، ج ۲، ص ۲۴۴۔

⑨..... المرجع السابق۔

خدمت کے لیے اجارہ اور نابالغ کو نوکر رکھنا

مسئلہ ۱ - مرد اپنی خدمت کے لیے عورت کو نوکر رکھے یہ ممنوع ہے وہ عورت آزاد ہو یا کنیز دونوں کا ایک حکم ہے کہ کبھی دونوں تنہائی میں بھی ہوں گے اور اجنبیہ کے ساتھ خلوت (تنہائی) کی ممانعت ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - عورت نے ایسے شخص کی ملازمت کی جو بال بچوں والا ہے اس میں حرج نہیں جیسا کہ عموماً ہندوستان میں کھانا پکانے اور گھر کے کاموں کے لیے مائیں نوکر رکھی جاتی ہیں مگر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مرد کو اس کے ساتھ تنہائی نہ ہو۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - اپنی عورت کو اپنی خدمت کے لیے نوکر رکھے یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت پر، خود ہی اپنے شوہر کی خدمت واجب ہے پھر نوکری کے کیا معنی اسی وجہ سے گھر کے جتنے کام عورتیں عموماً کیا کرتی ہیں مثلاً پینا، پکانا، جھاڑ دینا، برتن دھونا، وغیرہ ان پر اپنی عورت سے اجارہ نہیں ہو سکتا۔^(۳) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۴ - (کوئی بدنصیب) اگر اپنے والدین یا دادا، دادی کو خدمت کے لیے نوکر رکھے یہ اجارہ ناجائز ہے مگر انہوں نے اگر کام کر لیا تو اجرت کے مستحق ہوں گے اور وہی اجرت پائیں گے جو طے ہو چکی ہے اگرچہ اجرت مثل اس سے کم ہو۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو مثلاً بھائی یا چچا وغیرہ کو خدمت کے لیے نوکر رکھنا جائز ہے، مگر بعض نے فرمایا کہ بڑے بھائی یا چچا کو جو عمر میں بڑا ہے، ملازم رکھنا جائز نہیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - مسلمان نے کافر کی خدمت گاری کی نوکری کی یہ منع ہے بلکہ کسی ایسے کام پر کافر سے اجارہ نہ کرے جس میں مسلم کی ذلت ہو۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - باپ اپنے نابالغ لڑکے کو ایسے کام کے لیے اجرت پردے سکتا ہے جس کے کرنے کی اُسے طاقت ہو اور باپ نہ ہو تو اُس کا وصی، یہ بھی نہ ہو تو دادا، اور دادا بھی نہ ہو تو اُس کا وصی نابالغ کو اجارہ پردے سکتا ہے اور اگر ان میں کوئی

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الحادی عشر فی الاستحجار للخدمة، ج ۴، ص ۴۳۴.

②..... المرجع السابق.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الحادی عشر فی الاستحجار للخدمة، ج ۴، ص ۴۳۴، ۴۳۵، وغیرہ.

④..... المرجع السابق، ص ۴۳۵. ⑤..... المرجع السابق. ⑥..... المرجع السابق.

نہ ہو تو ذورحم محرم⁽¹⁾ جس کی پرورش میں وہ بچہ ہے دے سکتا ہے۔⁽²⁾ (خانہ)

مسئلہ ۸ ذورحم محرم نے بچہ کو اجارہ پر دیا اور وہ بچہ اسی کی پرورش میں ہے تو جو کچھ مزدوری ملی ہے اُس بچہ پر خرچ نہیں

کر سکتا جس طرح بچہ کو کسی نے ہبہ کیا تو وہ رشتہ دار ہبہ کو قبول کر سکتا ہے مگر بچہ پر اُسے خرچ نہیں کر سکتا۔⁽³⁾ (خانہ)

مسئلہ ۹ قاضی نے اگر حکم دیدیا ہے کہ جو کچھ یہ بچہ کما کر لائے حسب ضرورت اس پر خرچ کیا جائے اُس وقت خرچ

کرنا جائز ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ باپ دادا یا ان کے وصی یا قاضی نے نابالغ کو اجارہ پر دیا اور مدت اجارہ ختم ہونے سے پہلے وہ بالغ ہو گیا تو

اس کو اختیار ہے کہ اجارہ کو باقی رکھے یا فسخ کر دے اور اگر نابالغ کی کسی چیز کو انھوں نے اجارہ پر دیدیا ہے اور مدت پوری ہونے

سے پہلے یہ بالغ ہو گیا تو اجارہ فسخ نہیں کر سکتا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ نابالغ کو اُس کے باپ نے کھانے کپڑے پر ایک سال کے لیے نوکر رکھوایا جب مدت پوری ہوئی تو

اُجرت مثل کا مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ جو اجارہ منعقد کیا تھا وہ بوجہ اُجرت مجہول⁽⁶⁾ ہونے کے فاسد ہے اور سال بھر تک جو

مستاجر نے⁽⁷⁾ کڑکے کو کھلایا ہے یہ تترع ہے اس کو منہا نہیں کیا جاسکتا⁽⁸⁾ البتہ جو کپڑے اُسکے پاس اس کے دیے ہوئے ہوں اُن کو

واپس لے سکتا ہے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ نابالغ لڑکا جس کو ولی نے منع کر دیا ہے اُس نے اُجرت پر کام کرنے کے لیے عقد کیا یہ اجارہ ناجائز ہے مگر

کام کرنے کے بعد پوری اُجرت کا مستحق ہوگا اور اگر اُس کام میں ہلاک ہو گیا تو دیت واجب ہوگی۔⁽¹⁰⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ مستاجر نے بچہ کو جس نے بغیر اذن ولی عقد اجارہ کیا ہے پیشگی اُجرت دیدی یہ اُجرت واپس نہیں لے سکتا

۱..... قرمی رشتہ دار۔

۲..... "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الإجازات، فصل فی اجارة الوقف و مال الیتیم، ج ۲، ص ۱۱۔

۳..... المرجع السابق، ص ۱۲۔

۴..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب الحادی عشر فی الاستئجار للخدمة، ج ۴، ص ۴۳۷۔

۵..... المرجع السابق۔

۶..... نامعلوم اُجرت۔

۷..... یعنی اپنا نوکر رکھنے والے نے۔

۸..... یعنی یہ ایک احسان ہے اسے اُجرت سے کانا نہیں جاسکتا۔

۹..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارة، الباب الحادی عشر فی الاستئجار للخدمة، ج ۴، ص ۴۳۷۔

۱۰..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مطلب: فی الحارس والخاناتی، ج ۹، ص ۱۲۴۔

کیونکہ اگرچہ یہ اجارہ اس وقت ناجائز ہے مگر کام کرنے کے بعد صحیح ہو جائے گا اسی وجہ سے اس صورت میں جو اجرت مقرر ہوئی ہے وہ پوری دلائی جاتی ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

موجر اور مستاجر کے اختلافات

مسئلہ ۱ پن چکی کرایہ پردی ہے مستاجر کہتا ہے نہر میں پانی تھا ہی نہیں اس وجہ سے پن چکی چل نہ سکی لہذا کرایہ دینا مجھ پر لازم نہیں اور چکی کا مالک کہتا ہے پانی تھا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر گواہ نہ ہوں تو اس وقت جو حالت ہو اسی کے موافق زمانہ گزشتہ کے متعلق حکم دیا جائے گا اگر پانی اس وقت ہے تو مالک کی بات مانی جائے گی اور نہیں ہے تو مستاجر کی بات معتبر ہے اور جس کی بات بھی معتبر ہوگی قسم کے ساتھ معتبر ہوگی۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ پن چکی کا پانی کچھ دنوں بند رہا مگر کتنے دنوں بند رہا اس میں موجر⁽³⁾ اور مستاجر⁽⁴⁾ دونوں کا اختلاف ہے مستاجر کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ پن چکی کرایہ پردی اور یہ شرط کر دی کہ پانی رہے یا نہ رہے ہر صورت میں کرایہ دینا ہوگا اس شرط کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوگا اور جن دنوں میں پانی نہ تھا اُن کا کرایہ واجب نہ ہوگا پانی جاری رہنے کے زمانے کی اجرت مثل واجب ہوگی۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ کپڑا سینے کو دیا تھا یہ کہتا ہے میں نے قمیص سینے کو کہا تھا درزی کہتا ہے اچکن سینے کو کہا تھا یا رنگنے کو دیا یہ کہتا ہے میں نے سُرخ رنگنے کو کہا تھا رنگریز کہتا ہے زرد رنگنے کے لیے کہا تھا تو کپڑے والے کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے اور جب اُس نے قسم کھائی تو اختیار ہے کہ اپنے کپڑے کا تاوان لے یا اسی کو لے لے اور اجرت مثل دیدے۔⁽⁷⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۵ اگر مالک کہتا ہے میں نے مفت سینے یا رنگنے کے لیے دیا تھا اور سینے والا یا رنگنے والا کہتا ہے اجرت پر دیا تھا

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۲۴.

②.....المرجع السابق، ص ۱۲۶.

③.....پن چکی کے مالک۔ ④.....پن چکی کو کرایہ پر لینے والے۔

⑤....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۲۶.

⑥....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الخامس فی الخیار... إلخ، ج ۴، ص ۴۲۱.

⑦....."الہدایۃ"، کتاب الإجازات، باب الإختلاف فی الإجارة، ج ۲، ص ۲۴۶.

تو اس میں بھی کپڑے والے کا قول معتبر ہے مگر جبکہ اُس شخص کا یہ پیشہ ہے اور اُجرت پر کام کرنا معروف و مشہور ہے اور اُس کا حال یہی بتاتا ہے کہ اُجرت پر کام کرتا ہے کہ دکان اُس نے اسی کام کے لیے کھول رکھی ہے تو ظاہر حال یہی ہے کہ اُجرت پر اس نے کام کیا ہے لہذا قسم کے ساتھ اسی کا قول معتبر ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶۔ ابھی کام کیا ہی نہیں ہے اور یہی اختلافات ہوئے تو دونوں پر حلف ہے⁽²⁾ اور پہلے مستاجر پر قسم دی جائے گی۔ قسم کھانے سے جو انکار کرے گا اُس کے خلاف فیصلہ ہوگا اور دونوں نے قسمیں کھالیں تو عقد فسخ کر دیا جائے گا۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷۔ ایک چیز اُجرت پر لی ہے اور ابھی اُس میں تصرف بھی نہیں کیا ہے کہ مالک اور مستاجر میں اختلاف ہو گیا مستاجر کہتا ہے اُجرت پانچ روپے ہے اور مالک دس روپے بتاتا ہے جو گواہ پیش کرے اُس کے موافق حکم ہوگا اور دونوں نے گواہ پیش کیے تو مالک کے گواہ پر فیصلہ ہوگا اور اگر کسی کے پاس گواہ نہیں تو دونوں پر حلف ہے اور مستاجر سے پہلے قسم کھلائی جائے اگر دونوں قسم کھا جائیں اجارہ کو فسخ کر دیا جائے۔⁽⁴⁾ (خانہ)

مسئلہ ۸۔ مدت اجارہ یا مسافت کے متعلق اختلاف ہے اس کا بھی وہی حکم ہے مگر اس صورت میں مالک کو پہلے قسم دی جائے اور دونوں گواہ پیش کریں تو مستاجر کے گواہ معتبر ہوں گے۔⁽⁵⁾ (خانہ)

مسئلہ ۹۔ مدت اور اُجرت دونوں باتوں میں اختلاف ہے مستاجر کہتا ہے دو مہینے کے لیے میں نے دس روپے کرایہ پر مکان لیا ہے اور مالک کہتا ہے ایک ماہ کے لیے بیس روپے پر اگر دونوں گواہ پیش کریں تو جس کے گواہ زیادہ بتاتے ہیں اُس کی بات معتبر ہے یعنی دو ماہ کے لیے بیس روپے پر اجارہ قرار دیا جائے اور اگر کچھ مدت تک انتفاع کے بعد⁽⁶⁾ اختلاف ہو یا کچھ مسافت طے کر لینے کے بعد اختلاف ہو تو دونوں پر حلف دیکر آئندہ کے متعلق اجارہ فسخ کر دیا جائے اور گزشتہ کے متعلق مستاجر کا قول مانا جائے۔⁽⁷⁾ (خانہ)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۲۷.

②.....قسم اٹھانا ہے۔

③....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، ج ۹، ص ۱۲۷.

④....."الفتاوی الخانیة"، کتاب الإجازات، فصل فی الاختلاف، ج ۳، ص ۴۲.

⑤.....المرجع السابق.

⑥.....نفع اٹھانے کے بعد۔

⑦....."الفتاوی الخانیة"، کتاب الإجازات، فصل فی الاختلاف، ج ۳، ص ۴۲، ۴۳.

مسئلہ ۱۰ - مالک مکان نے گواہوں سے ثابت کیا کہ یہ مکان تین ماہ کے لیے تین روپے مہینہ کرایہ پر دیا ہے اور مستاجر کہتا ہے چھ ماہ کے لیے ایک روپیہ مہینہ کرایہ پر لیا ہے اور یہ بھی گواہ پیش کرتا ہے تو تین مہینے کا کرایہ نو روپے دینا ہوگا اور تین مہینے کا کرایہ تین روپے ایک روپیہ ماہوار کرایہ دینا ہوگا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - کتنا حصہ مکان کا کرایہ پر دیا ہے اس میں اختلاف ہے اور مکان میں رہنے سے قبل یہ اختلاف ہوا تو دونوں پر حلف ہوگا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - اجرت کیا چیز تھی اس میں اختلاف ہے یا اجرت از قبیل نقد^(۳) ہے اس کی صفت میں اختلاف ہے دونوں پر حلف ہے اور اگر اجرت غیر نقد^(۴) سے ہو تو اس کی مقدار یا جنس میں اختلاف کی صورت میں دونوں پر قسم ہے اور اگر اس کی صفت میں اختلاف ہے تو مستاجر کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہے۔^(۵) (عالمگیری)

اجارہ فسخ کرنے کا بیان

مسئلہ ۱ - اجارہ میں خیار شرط ہو سکتا ہے لہذا مستاجر نے اجارہ میں تین دن کا خیار اپنے لیے رکھا تو اندرون مدت اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے۔ مکان کرایہ پر لیا تھا اور مدت کے اندر اس میں سکونت کی خیار جاتا رہا اب فسخ نہیں کر سکتا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - مالک مکان نے اپنے لیے خیار شرط رکھا تھا اور اندرون مدت مستاجر اس مکان میں رہا اس کا کرایہ اس کے ذمہ لازم نہیں۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - مستاجر کو تین دن کا خیار تھا اس نے تیسرے دن اجارہ کو فسخ کر دیا تو دو دن کا کرایہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوا۔^(۸) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - اجارہ میں خیار رویت بھی ہو سکتا ہے جس مکان کو کرایہ پر لیا اس کو کرایہ دار نے دیکھا نہیں ہے تو دیکھنے کے

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس والعشرون فی الاختلاف الواقع... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۴۷۷.

②..... المرجع السابق، ص ۴۷۸.

③..... یعنی سونے، چاندی وغیرہ کی قسم سے۔ ④..... یعنی سونے، چاندی اور کرنسی کے علاوہ دوسری چیزیں۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس والعشرون فی الاختلاف الواقع... إلخ، الفصل الأول، ج ۴، ص ۷۸.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الخامس فی الخیار... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۹.

⑦..... المرجع السابق.

⑧..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارۃ، باب فسخ الإجارۃ، ج ۹، ص ۱۲۹.

بعد اجارہ فسخ⁽¹⁾ کرنے کا اُسے اختیار حاصل ہے اور اگر پہلے کسی وقت میں اُس مکان کو دیکھ چکا ہے تو اختیار رویت نہیں مگر جبکہ اُس میں کوئی حصہ منہدم ہو گیا⁽²⁾ ہے جو سکونت کے لیے مضر ہے⁽³⁾ تو اب دیکھنے کے بعد اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری) یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جن کاموں میں محل کے اختلاف سے اختلاف ہوتا ہے اُن میں چیز کو دیکھنے کے بعد اجیر کو اختیار ہوتا ہے جیسے کپڑے کا دھونا یا سینا۔

مسئلہ ۵ روئی دھکنے⁽⁵⁾ کے لیے نذاف⁽⁶⁾ سے طے کیا کہ اتنی روئی کی یہ مزدوری ہوگی اس کو دیکھنے کے بعد نذاف کو اختیار نہیں ہوگا ہاں اگر طے کرنے کے وقت اس کے پاس روئی ہی نہیں ہے تو اجارہ صحیح ہی نہ ہو۔ یوہیں دھو بی سے تھان دھونے کے لیے طے کیا اور تھان اس کے پاس نہیں ہے تو اجارہ جائز نہیں ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ اجارہ میں مستاجر کو اختیار عیب بھی ہوتا ہے جس طرح بیع میں مشتری⁽⁸⁾ کو اختیار عیب ہوتا ہے مگر بیع میں اگر قبضہ کے بعد عیب ظاہر ہوا تو جب تک بائع⁽⁹⁾ راضی نہ ہو یا قاضی حکم نہ دیدے مشتری واپس نہیں کر سکتا اور قبضہ سے قبل تنہا مشتری واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اجارہ میں قبل قبضہ اور بعد قبضہ دونوں صورتوں میں مستاجر واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے نہ مالک کی رضامندی کی ضرورت ہے نہ قاضی کے حکم کی ضرورت۔⁽¹⁰⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ مکان کرایہ پر لیا اور اُس میں کوئی عیب ہے جو سکونت کے لیے ضرر رساں ہے مثلاً اُس کی کوئی کڑی⁽¹¹⁾ ٹوٹی ہوئی ہے یا عمارت کمزور ہے تو واپس کر سکتا ہے۔ یوہیں اگر قبضہ کرنے کے بعد اس قسم کا عیب پیدا ہو گیا تو اجارہ فسخ کر سکتا ہے۔⁽¹²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مستاجر نے باوجود عیب کے اُس چیز سے نفع اٹھایا تو پوری اجرت دینی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ نقصان کے مقابل میں کچھ اجرت کم کرے اور اگر مالک نے چیز میں جو کچھ نقصان تھا اُسے زائل کر دیا مثلاً مکان ٹوٹا پھوٹا تھا ٹھیک کر دیا

①..... ختم۔ ②..... گر گیا۔ ③..... رہنے کے لیے نقصان دہ ہے۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الخامس فی الخيار... إلخ، ج ۴، ص ۴۱۹۔

⑤..... دھکنے۔ ⑥..... روئی دھکنے والا۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الخامس فی الخيار... إلخ، ج ۴، ص ۴۲۰۔

⑧..... خریدار۔ ⑨..... بیچنے والا۔

⑩..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الخامس فی الخيار... إلخ، ج ۴، ص ۴۲۰۔

⑪..... شہتیر۔

⑫..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب الخامس فی الخيار... إلخ، ج ۴، ص ۴۲۰۔

تو اب مستاجر کو فسخ کرنے کا اختیار نہ رہا۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۹۔ بیل کرایہ پر لیا تھا کہ اس سے روزانہ اتنا کھیت جوتا جائے گا یا چکی میں اتنا آٹا پیسا جائے گا اب دیکھا تو اُس بیل سے اتنا کام نہیں ہو سکتا مستاجر کو اختیار ہے کہ اُسے رکھے یا واپس کر دے اگر رکھے گا تو پوری اجرت دینی ہوگی واپس کرے گا جب بھی اُس دن کا کرایہ پورا دینا ہوگا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰۔ چند قطعہ زمین (3) ایک عقد سے اجارہ پر لیے اور بعض کو دیکھنا پسند آیا سب کا اجارہ فسخ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں ایک ہی عقد ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱۔ جس اجارہ میں مستاجر کو اپنی کوئی چیز بغیر عوض ہلاک کرنا ہوتا ہے بغیر عذر بھی مستاجر کو ایسا اجارہ فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً کتابت یعنی لکھنے پر اجارہ کیا تو لکھوانے والے کو کاغذ اور کاتب کو روشنائی خرچ کرنی ہوگی یا زراعت کے لیے زمین کو اجارہ پر لیا ہے کھیت بونے میں غلہ زمین میں ڈالنا ہوگا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲۔ جس غرض کے لیے اجارہ ہوا اگر وہ غرض ہی باقی نہ رہی یا شرعاً ایسا عذر پیدا ہو گیا کہ عقد اجارہ پر عمل نہ ہو سکے تو ان صورتوں میں اجارہ بغیر فسخ کیے خود ہی فسخ ہو جائے گا مثلاً کسی عضو میں زخم ہے جو سرایت کر رہا ہے اندیشہ ہے کہ اگر اس عضو کو نہ کاٹا گیا تو زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی یا دانت میں درد تھا اور جراح (6) یا ڈاکٹر سے عضو کاٹنے یا دانت اوکھاڑنے کے لیے اجارہ کیا مگر اس کے عمل سے قبل زخم اچھا ہو گیا اور دانت کا درد جاتا رہا اجارہ فسخ ہو گیا کہ یہاں شرعاً عمل ناجائز ہے کیونکہ بلا وجہ عضو کاٹنا یا دانت اوکھاڑنا درست نہیں۔ یا کسی نے اپنے مدیون کی تلاش کرنے کے لیے جانور کرایہ پر لیا اُس کو خبر ملی تھی کہ وہ فلاں جگہ ہے یا کوئی لڑکا یا جانور بھاگ گیا ہے اُس کو تلاش کرنے کے لیے سواری کرایہ کی اور جانے سے پہلے مدیون یا وہ بھاگا ہو خود ہی آ گیا اجارہ فسخ ہو گیا کہ اب وہاں جانے کا سبب ہی باقی نہ رہا۔ یا اس کو گمان ہوا کہ مکان کی عمارت کمزور ہو گئی ہے کہیں گرنے پڑے کسی شخص کو گرانے کے لیے اجیر کیا پھر معلوم ہوا کہ عمارت میں کوئی خرابی نہیں ہے اجارہ فسخ ہو گیا۔

①..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب فسخ الإجارة، ج ۲، ص ۲۴۶، ۲۴۷.

②..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب الخامس فی الخیار... إلخ، ج ۴، ص ۴۲۱.

③..... زمین کے چند ٹکڑے۔

④..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۳۰.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب التاسع عشر فی فسخ الإجارة... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۸.

⑥..... زخموں کا علاج کرنے والا۔

یاد عوت ولیمہ کے لیے باورچی کو کھانا پکانے کے لیے مقرر کیا اور دو لہن کا انتقال ہو گیا اجارہ فسخ ہو گیا کہ ان صورتوں میں وہ غرض ہی باقی نہ رہی جس کے لیے اجارہ کیا تھا۔⁽¹⁾ (خانہ)

مسئلہ ۱۳ جس عقد اجارہ پر عمل کرنا شرع کے خلاف نہ ہو مگر اجارہ باقی رکھنے میں کچھ نقصان پہنچے گا تو وہ خود بخود فسخ نہیں ہوگا بلکہ فسخ کرنے سے فسخ ہوگا پھر اس میں دو صورتیں ہیں کہیں تو عذر ظاہر ہوگا اور کہیں مشتبہ حالت ہوگی اگر عذر بالکل ظاہر ہے جب تو وہ صاحب عذر خود ہی فسخ کر سکتا ہے اور مشتبہ حالت ہو تو رضامندی یا حکم قاضی سے فسخ ہوگا۔⁽²⁾ (ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ عیب کی وجہ سے اسی وقت اجارہ کو فسخ کیا جاسکتا ہے جب منفعت فوت ہوتی ہو مثلاً مکان منہدم ہو گیا پن چکی کا پانی ختم ہو گیا کھیت کے لیے پانی نہ رہا کہ زراعت ہو سکے اور اگر ایسا عیب ہے کہ بلا مضرت⁽³⁾ منفعت حاصل کی جاسکتی ہو تو فسخ کرنے کے لیے یہ عذر نہیں مثلاً خدمت گار کی ایک آنکھ جاتی رہی یا اس کے بال گر گئے یا مکان کی ایک دیوار گر گئی مگر سکونت کے لیے یہ مضرت نہیں۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ تھوڑا سا پانی ہے کہ تمام کھیتوں کی آب پاشی نہیں کر سکتا مزارع⁽⁵⁾ کو اختیار ہے اگر چاہے کل کا اجارہ فسخ کر دے اور نہیں فسخ کیا تو اس پانی سے جتنے کھیت کی آب پاشی کر سکتا ہے اُن کا لگان⁽⁶⁾ واجب ہے باقی کا نہیں۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ پن چکی کا پانی بند ہو گیا اور وہ پن چکی والا مکان سکونت کے قابل بھی ہے جس میں کرایہ دار کی سکونت رہی اور عقد اجارہ میں سکونت بھی داخل تھی تو اگر چہ چکی کا کرایہ نہیں دینا ہوگا مگر سکونت کا کرایہ دینا ہوگا یعنی کرایہ کا جتنا حصہ سکونت کے مقابل ہے وہ دینا ہوگا۔⁽⁸⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

①..... "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الإجازات، فصل فیما ینقص بہ الإجارۃ... إلخ، ج ۲، ص ۳۸.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب التاسع عشر فی فسخ الإجارۃ... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۸.

و"رد المحتار"، کتاب الإجارۃ، باب فسخ الإجارۃ، ج ۹، ص ۱۳۶.

③..... یعنی نقصان و تکلیف کے بغیر۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارۃ، باب فسخ الإجارۃ، ج ۹، ص ۱۳۰.

و"الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب التاسع عشر فی فسخ الإجارۃ... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۸.

⑤..... کا شکار۔ ⑥..... خراج، ٹھیکہ۔

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارۃ، باب فسخ الإجارۃ، ج ۹، ص ۱۳۱.

⑧..... "الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الإجارۃ، باب فسخ الإجارۃ، ج ۹، ص ۱۳۳.

مسئلہ ۱۷ مکان کی مرمت، اُس کی چھت پر مٹی ڈلوانا، کھیریل چھوانا^(۱)، پرنا لہ درست کرانا، زینہ درست کرانا، روشن دان میں شیشہ لگانا اور مکان کے متعلق ہر وہ چیز جو سکونت کے لیے نخل^(۲) ہو ٹھیک کرنا مالک مکان کے ذمہ ہے اگر مالک مکان ٹھیک نہ کرائے تو کرایہ دار مکان چھوڑ سکتا ہے ہاں اگر بوقت اجارہ مکان اسی حالت میں تھا اور دیکھ بھال کر کرایہ پر لیا تو فسخ نہیں کر سکتا کہ کرایہ دار ان عیوب پر راضی ہو گیا۔^(۳) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ کرایہ کے مکان میں کوآں ہے اُس میں سے مٹی نکلوانے کی ضرورت ہے مٹی پٹ جانے کی وجہ سے^(۴) پانی نہیں دیتا یا مرمت کرانے کی ضرورت ہے یہ بھی مالک کے ذمہ ہے مگر مالک کو ان کاموں پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور اگر کرایہ دار نے ان کاموں کو خود کر لیا تو مُتَبَرِّع ہے مالک سے معاوضہ نہیں لے سکتا نہ کرایہ سے یہ مصارف وضع کر سکتا ہے یہ البتہ ہے کہ اگر مکان والا ان کاموں کو نہ کرے تو یہ مکان چھوڑ سکتا ہے۔ چہ بچہ^(۵) یا نالیوں کو صاف کرانا کرایہ دار کے ذمہ ہے۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ کرایہ دار نے مکان خالی کر دیا دیکھا گیا تو مکان میں مٹی، خاک، دھول، راکھ، پڑی ہوئی ہے ان کو اٹھوانا اور صاف کرانا کرایہ دار کے ذمہ ہے اور چہ بچہ پٹا پڑا^(۷) ہے تو اس کو خالی کرانا کرایہ دار کے ذمہ نہیں۔^(۸) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ دو مکان ایک عقد میں کرایہ پر لیے تھے ان میں سے ایک گر گیا کرایہ دار دوسرے کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔^(۹) (درمختار)

مسئلہ ۲۱ مالک مکان کے ذمہ دین^(۱۰) ہے جس کا ثبوت گواہوں سے ہو یا خود اُس کے اقرار سے اور اُسکے پاس اس مکان کے سوا کوئی دوسرا مال نہیں جس سے دین ادا کیا جائے تو اجارہ فسخ کر کے اس مکان کو بیچ کر دین ادا کیا جائے گا۔ یوہں اگر مالک مکان مفلس ہو گیا اُس کے لیے اور بال بچوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہے اس مکان کو بیچ سکتا ہے قاضی اس بیع کے

①..... کھیریلوں سے چھت بنوانا۔

②..... رہائش کے لیے پریشانی کا باعث۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۳۴۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارة، الباب السابع عشر فیما یجب علی المستأجر... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۸۔

④..... یعنی مٹی، گرد و غبار وغیرہ سے بھر جانے کی وجہ سے۔

⑤..... گڑھا یا چھوٹا حوض جس میں پانی جمع کیا جائے۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۳۴۔

⑦..... یعنی مٹی، گرد و غبار وغیرہ سے بھرا ہوا۔

⑧..... "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۳۴۔

⑨..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۳۵۔

⑩..... قرض۔

نفاذ کا حکم دے گا اسی کے ضمن میں اجارہ بھی فسخ ہو جائے گا اس کے لیے دوسرے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲ مالک مکان بیٹگی کرایہ لے چکا ہے اور وہ اتنا ہے کہ مکان کی قیمت کو مستغرق⁽²⁾ ہے تو اگر چہ اُس کے ذمہ

دیون ہوں ان کے ادا کرنے کے لیے مکان نہیں بیچا جائے گا اور اجارہ فسخ نہیں کیا جائے گا۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۳ دکاندار مفلس ہو گیا کہ تجارت نہیں کر سکتا دکان کا اجارہ فسخ کرنے کے لیے یہ عذر ہے کہ دکان کو کرایہ پر

رکھ کر اب کیا کرے گا۔ اسی طرح جو درزی اپنا کپڑا سی کر بیچتا ہے جیسا کہ شہروں میں اس قسم کے درزی بھی ہیں جو صدی⁽⁴⁾

وغیرہ سی کر بیچا کرتے ہیں اس کا مفلس ہو جانا بھی دکان کا اجارہ فسخ کرنے کے لیے عذر ہے اور جو درزی دکان پر دوسروں کے

کپڑے سیتے ہیں اُن کے لیے سوئی اور قینچی کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ان کا مفلس ہو جانا فسخ اجارہ کے لیے عذر نہیں ہے ہاں

اگر لوگوں میں اس کی خیانت مشہور ہو گئی ہو اور کپڑے دینے سے لوگ گریز کرتے ہوں کہ اگر ہضم کر گیا تو اس کے پاس مال بھی

نہیں ہے جس سے تاوان وصول کریں تو اب دکان چھوڑنے کے لیے عذر ہو گیا۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ جس بازار میں دکان ہے وہ بازار بند ہو گیا کہ وہاں اب تجارت ہی نہیں ہو سکتی یہ بھی دکان چھوڑنے

کے لیے عذر ہے اور اگر بازار چالو ہے مگر یہ دکاندار دوسری دکان میں منتقل ہونا چاہتا ہے جو اس سے زیادہ کُشادہ ہے یا اُس

کا کرایہ کم ہے اور اُس دکان میں بھی یہی کام کرے گا جو یہاں کر رہا ہے تو دکان نہیں چھوڑ سکتا اور اگر دوسرا کام کرنا چاہتا ہے

اس لیے اس کو چھوڑ کر دوسری دکان میں جانا چاہتا ہے اور یہ کام پہلی دکان میں نہیں ہو سکتا تو عذر ہے اور پہلی میں بھی ہو سکتا ہے

تو عذر نہیں۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ نہ دکاندار مفلس ہو نہ بازار بند ہوا بلکہ وہ اب یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا کہ دکان کی ضرورت ہو یہ بھی

دکان چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، مطلب: فسق المستأجر... إلخ، ج ۹، ص ۱۳۷.

②..... گھیرے ہوئے۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۳۷.

④..... واسکٹ وغیرہ۔

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، مطلب: فسق المستأجر... إلخ، ج ۹، ص ۱۳۷.

⑥..... "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، مطلب: فسق المستأجر... إلخ، ج ۹، ص ۱۳۸.

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، مطلب: فسق المستأجر... إلخ، ج ۹، ص ۱۳۸-۱۳۹.

مسئلہ ۲۶ کرایہ دار اب دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے یہاں کی سکونت^(۱) ترک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ اکثر ملازمت پیشہ کو پیش آتا ہے کہ کبھی ایک شہر میں رہے پھر دوسرے شہر کو چلے گئے یہ فسخ اجارہ کے لیے عذر ہے اور مالک مکان اگر پردیس جانا چاہتا ہے تو اس کی جانب سے اجارہ کو فسخ نہیں کیا جاسکتا کہ اُس کی جانب سے یہ عذر نہیں ہے۔ اور اگر مالک مکان یہ کہتا ہے کہ کرایہ دار نے مکان چھوڑنے کا یہ حیلہ تراشا ہے وہ پردیس نہیں جانا چاہتا تو کرایہ دار پر یہ قسم دی جائے گی کہ اُس نے سفر میں جانے کا مستحکم ارادہ کر لیا ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۲۷ جن دو شخصوں نے عقد اجارہ کیا اُن میں ایک کی موت سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے جبکہ اُس نے اپنے لیے اجارہ کیا اور اگر دوسرے کے لیے اجارہ کیا مثلاً وکیل کہ یہ موکل کے لیے اجارہ کرتا ہے اور وصی^(۳) کہ یہ یتیم کے لیے یا متولی وقف ان کی موت سے اجارہ فسخ نہیں ہوتا۔^(۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۸ مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ یا کسی دوسری جگہ کرایہ کے جانور پر جارہا ہے اور سواری کا مالک مر گیا اگر اجارہ کے فسخ کا حکم دیا جائے تو یہ شخص بیابان اور جنگل میں کیوں کر سفر قطع کرے گا^(۵) اور وہاں قاضی یا حاکم بھی نہیں کہ وہ میت کا قائم مقام ہو کر اجارہ کا حکم دے تو جب تک ایسے مقام پر نہ پہنچ جائے جہاں قاضی وغیرہ ہوں اُس وقت تک اجارہ باقی رہے گا۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۲۹ عاقدین کے مجنوں ہو جانے سے اجارہ فسخ نہیں ہوتا اگرچہ جنون مطبق ہو۔ یوہیں مرتد ہونے سے فسخ نہیں ہوتا۔^(۷) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ جس چیز کو اجارہ پر لیا تھا مستاجر اُس کا مالک ہو گیا اجارہ جاتا رہا مثلاً مالک نے اسے چیز ہبہ کر دی یا اس نے خرید لی یا کسی طرح اس کی ملک میں آگئی۔^(۸) (ردالمحتار)

①..... رہائش۔

②..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۳۹۔

③..... مرنے والا جس شخص کو اپنی وصیت پوری کرنے کے لیے مقرر کرے۔

④..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، باب فسخ الإجارة، ج ۲، ص ۲۴۷۔

⑤..... طے کرے گا۔

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۴۰، ۱۴۱۔

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، مطلب: ارادة السفر... إلخ، ج ۹، ص ۱۴۰۔

⑧..... "ردالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، مطلب: ارادة السفر... إلخ، ج ۹، ص ۱۴۱۔

مسئلہ ۳۱ مالک کے مرنے کے بعد کرایہ دار مکان میں رہتا رہتا تو جب تک وارث مکان خالی کرنے کے لیے نہ کہے گا یا دوسری اجرت کا مطالبہ نہ کرے گا اجارہ کا فسخ ہونا ظاہر نہ ہوگا اگر وارث نے خالی کرنے کو کہا معلوم ہوا کہ اُس عقد پر راضی نہیں ہے اور اگر دوسری اجرت طلب کی جب بھی معلوم ہوا کہ عقد سابق کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے اور جدید عقد کرنا چاہتا ہے۔ لہذا وارث کے کہنے سے پہلے یا خالی کرنے کو جو کہا ہے اس سے پہلے جتنے دن رہا اسی حساب سے اجرت دے گا جو مورث سے طے ہوئی اور اس کہنے کے بعد جتنے دن رہے گا اُس کی اجرت مثل واجب ہوگی۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ مالک زمین مر گیا اور کھیت ابھی طیار نہیں ہے تو وہی اجرت دی جائے گی جو طے پا چکی ہے اور اگر مدت اجارہ ختم ہو چکی اور فصل طیار نہیں ہوئی تو جب تک کھیت نہ کٹے گا اُس وقت تک کی اجرت مثل دلائی جائے گی۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ مالک کے مرنے کے بعد وارث اور مستاجر اجارہ سابقہ کے باقی رہنے پر راضی ہو جائیں یہ جائز ہے یعنی تعاطی کے طور پر ان کے مابین اسی اجرت سابقہ پر جدید اجارہ قرار پائے گا یہ نہیں کہ وہی پہلا اجارہ باقی رہے کیونکہ وہ تو مالک کے مرنے سے ختم ہو گیا۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۴ دو موجر ہیں یا دو مستاجر، ان میں سے ایک مر گیا تو جو مر گیا اُس کے حصہ کا اجارہ فسخ ہے اور جو زندہ ہے اُس کے حصہ میں اجارہ باقی ہے اور اگر چہ یہاں شیوع پیدا ہو گیا مگر چونکہ طاری ہے اجارہ کے لیے مضرت نہیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۳۵ آج کل بعض لوگ دوامی اجارہ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجارہ موجر و مستاجر کے ورثہ میں منتقل ہوتا رہے گا موت سے بھی وہ فسخ نہ ہوگا یہ اجارہ فاسد ہے اسی طرح اجارہ میں ایسے شرائط ذکر کیے جاتے ہیں جو مقتضائے عقد^(۵) کے مخالف ہوتے ہیں وہ اجارے فاسد ہیں۔

مسئلہ ۳۶ اس زمانہ میں ایک صورت اجارہ کی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اجارہ کا ایک معتد بہ زمانہ^(۶) گزرنے کے بعد مستاجر اُس چیز پر زبردستی قابض ہو جاتا ہے کہ مالک چاہے بھی تو تخلیہ نہیں کرا سکتا^(۷)۔ اس کی مثال کاشتکاری کی زمین ہے کہ مالک زمین یعنی زمیندار کاشتکار سے اپنی زمین کو واپس نہیں لے سکتا نہ کسی کے مرنے سے یہ اجارہ فسخ ہوتا ہے^(۸) بلکہ اس

①....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، مطلب: ارادة السفر... إلخ، ج ۹، ص ۱۴۲.

②....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة، ج ۹، ص ۱۴۳.

③.....المرجع السابق، ص ۱۴۳. ④.....المرجع السابق، ص ۱۴۷.

⑤.....تفاضہ عقد۔ ⑥.....اک عرصہ دراز۔

⑦.....یعنی قبضہ نہیں چھڑا سکتا۔ ⑧.....ختم ہو جاتا ہے۔

اجارہ میں میراث جاری ہوتی ہے۔ یہ شرع کے خلاف ہے۔

مسئلہ ۳۷ - اجارہ کر لینے کے بعد دوسرا شخص بہت زیادہ اجرت دینے کو کہتا ہے یا مستاجر سے دوسرا شخص کم اجرت پر

چیز دینے کو کہتا ہے اجارہ فسخ کرنے کے لیے یہ عذر نہیں اگرچہ وہ بہت زیادہ دیتا ہو یا یہ بہت کم اجرت مانگتا ہو۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ - سواری کا جانور کرایہ کیا تھا اس کے بعد خود ایک جانور خرید لیا یہ عذر ہے اور اجارہ فسخ کیا جاسکتا ہے اور اگر

اُس سے بہتر سواری کرایہ پر لینا چاہتا ہے یہ فسخ کے لیے عذر نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ - کاشتکار نے زراعت کے واسطے کھیت لیے تھے اور بیمار ہو گیا کہ کھیتی نہیں کر سکتا اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے

کاشت کرتا ہے تو بیماری فسخ اجارہ کے لیے عذر ہے اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا تو عذر نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۴۰ - ایک شخص جو کام کرتا ہے اسی کام کے لیے کسی سے اجارہ کیا کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا اب وہ شخص اس

کام کو بالکل چھوڑ دینا چاہتا ہے اور دوسرا کام اختیار کرنا چاہتا ہے فسخ اجارہ کے لیے یہ عذر نہیں ہاں اگر وہ کام ایسا ہو جو اس کے

لیے معیوب سمجھا جاتا ہے مثلاً ایک عزت دار شخص نے خدمت گاری کی نوکری کی اور اب اس کام ہی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ عذر

ہے۔^(۴) (عالمگیری)

اجارہ کے متفرق مسائل

مسئلہ ۱ - موچی کو جوتے بنانے کے لیے اپنے پاس سے چمڑا دیا اور اُس کی پیمائش دیدی اور یہ بتا دیا کہ کیسا ہوگا اور کہہ

دیا کہ استر اور تلا اپنے پاس سے لگا دینا اور اجرت بھی طے ہوگئی یہ جائز ہے۔ اور درزی کو ابرے کا کپڑا دیدیا اور کہہ دیا کہ اپنے

پاس سے استر وغیرہ لگا دینا اس میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ جائز ہے دوسری یہ کہ ناجائز ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - کبھی بعض لوگ اجیر^(۶) سے یوں کام کراتے ہیں کہ تم یہ کام کرو اس کی اجرت جو کچھ دوسرے لوگ بتادیں

گے میں دیدوں گا یا فلاں کے یہاں جو اجرت ملی ہے میں دیدوں گا یہ اجارے فاسد ہیں کہ اجرت کا تعین نہیں ہوا پھر اگر کسی شخص

نے دونوں کے اتفاق سے اُسکی مزدوری جانچ کر بتائی جس پر اجیر راضی نہیں ہے تو اجرت مثل دی جائے۔^(۷) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب التاسع عشر فی فسخ الإجارۃ... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۹.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق، ص ۴۶۰.

④..... المرجع السابق، ص ۴۶۱. ⑤..... المرجع السابق، الباب الحادی والثلاثون فی الاستصناع... إلخ، ج ۴، ص ۵۱۹.

⑥..... مزدور۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الحادی والثلاثون فی الاستصناع... إلخ، ج ۴، ص ۵۲۰.

مسئلہ ۳ — زمین اجارہ میں سینٹھے وغیرہ ایسی چیزیں تھیں جن کو کاٹنے کے بعد جڑیں جو باقی رہ گئی ہیں ان میں آگ دیدی جاتی ہے اس نے آگ دیدی اور اس سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہوا مثلاً آگ اڑ کر کسی کے کھیت میں گئی اور اس کا کھیت جل گیا اگر اس وقت ہوا چل رہی تھی تو آگ دینے والے پر تاوان ہے اور اگر ہوا نہیں تھی اس وقت اس نے آگ دی بعد میں ہوا چل گئی اور دوسرے کی چیز کو نقصان پہنچا تو اس پر تاوان نہیں۔ عاریت کی زمین کا بھی یہی حکم ہے۔^(۱) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۴ — شبِ برات میں یا دوسرے موقع پر بعض لوگ مرے چھچھو ندر^(۲) یا اور قسم کی آتش بازیاں چھوڑتے ہیں یہ فعل حرام اور صرف بیجا^(۳) ہے اس سے کبھی کبھی یہ نقصان بھی پہنچ جاتا ہے کہ چھپروں میں آگ لگ جاتی ہے یا کسی کے کپڑے جل جاتے ہیں بلکہ کبھی جانیں بھی تلف^(۴) ہو جاتی ہیں اس شخص پر تاوان لازم ہوگا کہ جب وہ آتش بازی اڑنے والی ہے اور اس نے چھوڑی تو ویسا ہی ہے جیسا ہوا چلنے کے وقت کسی نے آگ دی۔

مسئلہ ۵ — اگر آگ اڑ کر اتنی دور پہنچی کہ اتنی دور عادیہ اڑ کر نہیں پہنچتی اور نقصان ہوا تو تاوان نہیں ہے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ — راستہ میں آگ کا انگار اڈال دیا یا ایسی جگہ ڈالا کہ وہاں ڈالنے کا اس کو حق نہ تھا اور نقصان ہوا تو تاوان ہے مگر جبکہ وہاں رکھنے سے نقصان نہیں ہوا بلکہ ہوا اڑا لے گئی اور کسی کو نقصان پہنچا تو تاوان نہیں۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۷ — لوہار نے بھٹی سے لوہا نکال کر کوٹا اس کے کوٹنے سے چنگاری اڑی اور راہ گیر^(۷) کا کپڑا جل گیا لوہار کو ضمان دینا ہوگا اور اس چنگاری سے کسی کی آنکھ پھوٹ گئی دیت واجب ہوگی اور اگر اس نے لوہا نکال کر رکھا تھا، ہوا سے چنگاری اڑی اور کسی چیز کو جلایا تو تاوان نہیں۔^(۸) (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، مسائل منشورہ، ج ۲، ص ۲۴۹.

و "الدر المختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۴۷.

②..... ایک وضع کی آتش بازی جو بہت تیز بارود سے بنائی جاتی ہے قلم کی شکل کی ہوتی ہے۔

③..... فضول خرچی۔ ④..... ضائع۔

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۴۹.

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۴۹.

⑦..... راہ چلتا شخص۔

⑧..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۰.

مسئلہ ۸ - اپنے کھیت میں پانی بہت زیادہ دیا کہ زمین برداشت نہ کر سکی وہ دوسرے کے کھیت میں پہنچا اور اُس کا نقصان ہو گیا تاوان دینا ہوگا۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۹ - درزی یا اور کسی کام کرنے والے نے اپنی دکان پر دوسرے کو بٹھالیا کہ جو کچھ کام میرے پاس آئے وہ تم کرو اور اجرت کو دونوں نصف نصف لے لیں گے یہ جائز ہے۔^(۲) (ہدایہ) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو بٹھایا ہے وہ ایک کام کرتا ہے اور خود یہ دوسرا کام کرتا ہے مثلاً رنگریز^(۳) نے اپنی دکان پر درزی کو بٹھالیا۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ - جمال (شتر بان) سے مکہ معظمہ یا کہیں جانے کے لیے اونٹ کرایہ کیا کہ اُس پر محمل^(۵) رکھا جائے گا اور دو شخص بیٹھیں گے یہ اجارہ جائز ہے ایسا محمل اونٹ پر رکھا جائے گا جو وہاں کا عرف^(۶) ہے اور اگر اجارہ کرتے وقت ہی اُسے محمل دکھا دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ بات جمال کے ذمہ ہے کہ محمل کو اونٹ پر لادے اور اتارے۔ اونٹ کو ہانکے یا ٹیکیل پکڑ کر لے چلے۔ پاخانہ پیشاب یا وضو اور نماز فرض کے لیے سوار کو اتروائے۔ عورت اور مریض اور بوڑھے کے لیے اونٹ کو بٹھائے۔^(۷) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ - توشہ وغیرہ سامان سفر کے لیے اونٹ کرایہ کیا اور راستہ میں سامان خرچ کیا تو جتنا خرچ کیا ہے اتنا ہی دوسرا سامان اُسی قسم کا اس پر رکھ سکتا ہے۔^(۸) (درمختار)

مسئلہ ۱۲ - غاصب سے کہہ دیا کہ میرا مکان خالی کر دے ورنہ اتنے روپے ماہوار اس کی اجرت دینی ہوگی اگر اُس نے خالی نہ کیا تو اس اجرت کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اُس کا سکوت کرنا^(۹) اجارہ کو قبول کر لینا ہے مگر جبکہ غاصب نے اُس کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ یہ مکان تمہارا نہیں ہے یا ملک کا اقرار کیا مگر اجرت دینے سے انکار کر دیا تو اجرت واجب نہیں ہوگی ہاں اگر وہ

①..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۰.

②..... "الهدایة"، کتاب الإجازات، مسائل منثورہ، ج ۲، ص ۲۴۹.

③..... کپڑے رنگنے والا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۰.

⑤..... ایک قسم کی ڈولی جو اونٹ پر باندھتے ہیں۔ ⑥..... رواج۔

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۱.

⑧..... المرجع السابق، ص ۱۵۲.

⑨..... خاموش رہنا۔

مکان وقف ہے یا یتیم کا ہے یا کرایہ ہی پر دینے کے لیے ہے تو غاصب^(۱) اگرچہ اجرت دینے سے انکار کرے اُسے کرایہ دینا ہوگا۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ زمین جو کاشتکار کے پاس ہے اور اُسے نہیں چھوڑتا اور مالک یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دے تو میں دوسرے کو زیادہ لگان^(۳) پر دیدوں مالک اُس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تو نے نہیں خالی کی تو اتنا لگان لوں گا اس صورت میں یہ اضافہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا

مسئلہ ۱۴ کام کرنے والے نے کہہ دیا کہ اس اجرت پر میں کام نہیں کروں گا میں تو اتنا لوں گا اور کام کرانے والا خاموش رہا وہی اجرت دینی ہوگی جو کارگیر نے بتائی۔ پھر اجرت دینے کے وقت جب اجیر نے زیادہ کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ میں کہہ چکا تھا کہ میں اتنے پر نہیں کروں گا اور کام لینے والا کہتا ہے میں نے نہیں سنا تھا کہ تو نے یہ کہا اگر یہ شخص بہرا ہے تو خیر ورنہ اسی مزدور کی بات مقبول ہوگی۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۱۵ مستاجر کرایہ کی چیز دوسرے کو کرایہ پر دے سکتا ہے مثلاً ایک مکان کرایہ پر لیا اور دوسرے کو کرایہ پر دیدے یہ ہو سکتا ہے یا زمین زراعت کے لیے لگان پر لی دوسرے کاشتکار کو لگان پر دیدے یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ اکثر بڑے شہروں میں ایک شخص پورا مکان کرایہ پر لے کر دوسرے لوگوں کو ایک ایک حصہ کرایہ پر دیتا ہے یا دیہات میں کاشتکار زمین دوسروں کو دیا کرتے ہیں۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۶ مستاجر خود مالک کو وہ چیز کرایہ پر دے یہ جائز نہیں اگرچہ بالواسطہ ہو مثلاً زید نے اپنا مکان عمرو کو کرایہ پر دیا عمرو نے بکر کو دیا بکر یہ چاہے کہ زید کو کرایہ پر دیدوں یہ نہیں ہو سکتا رہا یہ کہ مالک کو کرایہ پر دینے سے وہ پہلا اجارہ جو مالک اور مستاجر کے مابین ہے باقی رہے گا یا فسخ ہو جائے گا فتویٰ اس پر ہے کہ وہ اجارہ بدستور باقی رہے گا فسخ نہیں ہوگا مگر وہ چیز جتنے زمانہ تک اس صورت میں مالک کے پاس رہے گی اس مدت کا کرایہ مستاجر کے ذمہ واجب نہیں ہوگا۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ ایک شخص نے دوسرے کو اجارہ پر لینے کے لیے وکیل کیا وکیل نے اجارہ کیا اور مالک نے وہ مکان وکیل کو

①..... غصب کرنے والا۔

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۲۔

③..... خراج، ٹھیکے پر۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الإجارة، ج ۹، مسائل شتی، ص ۱۵۲۔

⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، مطلب: فی إجارة المستاجر للموحر... الخ، ج ۹، ص ۱۵۳۔

سپرد کر دیا مگر وکیل نے ایک مدت تک موکل کو نہیں دیا اور موکل نے وکیل سے مانگا بھی نہیں تو مالک مکان وکیل سے کرایہ وصول کرے گا کیونکہ عقد کے حقوق وکیل ہی کے ذمہ ہوتے ہیں اور وکیل موکل سے وصول کرے گا کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ ہے اور اگر موکل نے وکیل سے طلب کیا وکیل نے کہا کہ پیشگی اجرت دے دو تو مکان پر قبضہ دوں گا اور موکل نے نہ اجرت دی نہ وکیل نے قبضہ دیا تو اس صورت میں وکیل نے کرایہ جو دیا ہے موکل سے وصول نہیں کر سکتا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ مفتی فتویٰ لکھنے کی یعنی تحریر و کتابت کی اجرت لے سکتا ہے نفس فتویٰ کی اجرت نہیں لے سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ پر اتنی عبارت کسی دوسرے سے لکھو اور تو جو کچھ اس کی اجرت عرفاً دی جاتی ہے وہ مفتی بھی لے سکتا ہے کیونکہ مفتی کے ذمہ زبانی جواب دینا واجب ہے لکھ کر دینا واجب نہیں مگر اجرت تحریر لینے سے بھی اگر مفتی پر ہیز کرے تو یہی بہتر کہ خواہ مخواہ لوگوں کو چہ میگوئی⁽²⁾ کرنے کا موقع ملے گا۔⁽³⁾ (درمختار) لوگ یہ کہیں گے کہ فتوے کی اجرت لی اور فلاں شخص روپیہ لے کر فتوے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اس سے نظر عوام میں فتوے کی بے وقعتی ہوتی ہے اور مفتی کی بھی بے عزتی ہے اور علماء کو خصوصیت کے ساتھ ایسی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے خصوصاً اس زمانہ میں کہ جاہل مولویوں نے اس قسم کے رکیک⁽⁴⁾ افعال کر کے علماء کو بدنام کر رکھا ہے ان کے افعال کو علماء کے افعال قرار دیکر طبقہ علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۹ اجرت پر خط لکھوانا جائز ہے جبکہ کاغذ کی مقدار اور کتنا لکھا جائے گا یہ بیان کر دیا ہو۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۰ مستاجر پر یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے یہ چیز خریدی ہے یا اجارہ پر لی ہے یا ہمارے پاس رہن⁽⁶⁾ رکھی گئی ہے لہذا یہ چیز ہم کو ملنی چاہیے کیونکہ مستاجر مالک نہیں ہے کہ اُس پر عین کا دعویٰ ہو سکے۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۱ اجارہ یا فسخ اجارہ کی اضافت زمانہ مستقبل کی طرف ہو سکتی ہے کہہ سکتا ہے کہ آئندہ مہینہ کے شروع سے تم کو اجارہ پر دیا یا ختم ماہ سے اجارہ فسخ کر دیا۔⁽⁸⁾ (درمختار)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۴.

②.....نکتہ چینی، عیب جوئی۔

③....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۵.

④.....گھٹیا۔

⑤....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۵.

⑥.....گروی۔

⑦....."الدرالمختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۵.

⑧.....المرجع السابق، ص ۱۵۶.

مسئلہ ۲۲ → کرایہ پیشگی دیدیا ہے اور اجارہ فسخ کیا گیا تو مستاجر اُس چیز کو روک سکتا ہے جب تک اپنی کل رقم وصول نہ کر لے۔ اجارہ صحیح و فاسد دونوں کا یہی حکم ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۲۳ → کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی اُس نے کسی سے کہا کہ اگر تم مجھے بتا دو کہ کہاں ہے تو اتنا دوں گا اگر یہ شخص اُس کے ساتھ چل کر گیا اور بتا دیا تو اس کے وہاں تک جانے کی اجرت مثل ملے گی اور اگر یہیں سے بتا دیا کہ تمہاری چیز فلاں جگہ ہے اُس کے ساتھ گیا نہیں تو کچھ نہیں ملے گا اور اگر کسی خاص شخص سے نہیں کہا بلکہ عام طور پر کہا کہ جو کوئی مجھے بتا دے اُس کو اتنا دوں گا یہ اجارہ باطل ہے بتانے والا کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ اور اگر اُسے یہ معلوم ہے کہ میرا جانور یا میری چیز فلاں جگہ ہے مگر اُس جگہ کو نہیں پہچانتا اور اُس جگہ کے بتانے پر اجرت مقرر کی تو اس صورت میں بتانے والے کو وہ اجرت ملے گی جو مقرر کی ہے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ → جو چیز اجرت پردی گئی جب اُس کے اجارہ کی مدت پوری ہو جائے تو مستاجر کے یہاں سے چیز واپس لانا مالک کے ذمہ ہے مستاجر کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ چیز پہنچا جائے اور عاریت کے طور پر دی تو واپس کرنا مستعیر کا^(۳) کام ہے۔ چکی اجرت پر ایک مہینہ کو آنا پینے کے لیے لے گیا تو چکی کا مالک مستاجر کے گھر سے لائے گا اور اگر مستاجر بیرون شہر مالک کی اجازت سے لے گیا جب بھی مالک ہی وہاں سے واپس لائے گا۔^(۴) (عالمگیری) جیسا کہ گاؤں والے گڑ بنانے کے لیے شہر سے کڑھاؤ^(۵) اور کولو^(۶) کرایہ پر لے جاتے ہیں اور مالک سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں ہم لے جائیں گے ان کی واپسی اور اُس کے مصارف^(۷) مالک کے ذمہ ہیں۔

مسئلہ ۲۵ → گھوڑا سواری کے لیے کرایہ پر لیا اس کی واپسی بھی مالک کے ذمہ ہے اگر مالک اس کے یہاں سے نہیں لایا اور مستاجر کے یہاں ہلاک ہو گیا اُس کے ذمہ تاوان نہیں ہے اگر چہ مالک نے کہلا بھیجا ہو کہ اُسے واپس کر جاؤ۔ اور اگر کسی جگہ کی آمد و رفت کے لیے کرایہ پر لیا ہے تو مستاجر کو یہاں تک لانا ہوگا کیونکہ اُس کی مسافت یہاں پہنچنے پر پوری

①..... "الدر المختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، ج ۹، ص ۱۵۶.

②..... "الدر المختار" و "ردالمختار"، کتاب الإجارة، مسائل شتی، مطلب: ضل له شیء... إلخ، ج ۹، ص ۱۵۹.

③..... عاریت پر لینے والے کا۔

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الإجارة، الباب الثالث عشر فی المسائل... إلخ، ج ۴، ص ۴۳۸.

⑤..... بڑی کڑائی۔

⑥..... تیل نکالنے یا گنا پلینے کا آلہ۔

⑦..... اخراجات۔

ہوگی اس صورت میں اگر متاجر اپنے گھر لے کر چلا گیا اور باندھ دیا جانور ہلاک ہوا تو ضمان دینا ہوگا۔⁽¹⁾ (عالمگیری) **مسئلہ ۲۶** → اجیر مشترک مثلاً درزی، رنگریز، دھوبی کام کرنے کے بعد چیز کو دیجائیں کہ واپس کر جانا ان کے ذمہ ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ → جانور کرایہ پر لیا ہے تو اُس کا دانہ، گھاس، پانی پلانا مالک کے ذمہ ہے اور متاجر نے اگر جانور کو کھلایا پلایا تو تبرع ہے معاوضہ نہیں پاسکتا۔ کھیت کی مینڈھ⁽³⁾ درست کرانا مالک کے ذمہ ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ → گھوڑا سواری کے لیے کرایہ پر لیا تھا راستہ میں وہ تھک گیا کسی شخص کے سپرد کر دیا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اگر اُس کو معلوم ہے کہ گھوڑا اس کا نہیں ہے تو جو کچھ خرچ کرے گا تبرع ہے کسی سے نہیں لے سکتا اور اگر معلوم نہ ہو تو اس کہنے والے سے صرف⁽⁵⁾ وصول کر سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۹ → کسی کام پر اجارہ منعقد ہوا تو اُس کے توابع میں عرف⁽⁷⁾ کا اعتبار ہے مثلاً درزی کو کپڑا سینے کو دیا تو تاگا⁽⁸⁾ سوئی درزی کے ذمہ ہے اور اگر عرف یہ ہے کہ جس کا کپڑا ہے وہ تاگا دے تو درزی کے ذمہ نہیں چنانچہ ہندوستان میں بھی بعض جگہ کا یہی عرف ہے اور اکثر جگہ پہلا عرف ہے۔ اثیش بنوائیں تو مٹی متاجر کے ذمہ ہے اور سانچا اجیر کے ذمہ اور بعض جگہ سانچا بھی متاجر ہی دیتا ہے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ → کسی گاؤں یا محلہ یا شہر میں جانے کے لیے یکے، تا نگہ کرایہ پر لیا تو اُس کے ذمہ گھر تک پہنچانا ہے گاؤں یا محلہ یا شہر میں پہنچا دینے پر کام ختم نہیں ہوگا۔⁽¹⁰⁾ (عالمگیری) لاری⁽¹¹⁾ میں یہ عرف ہے کہ اڈے پر جا کر رک جاتی ہے اُس کے ذمہ مکان تک پہنچانا نہیں ہے ہاں اگر موٹر کار⁽¹²⁾ یا لاری پوری کرایہ پر لی ہے تو اُس کا کام اڈے تک یا گاؤں تک پہنچانا

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب الثالث عشر فی المسائل... إلخ، ج ۴، ص ۴۳۸.

②..... المرجع السابق.

③..... وہ دیوار یا بند جس سے کھیت کے اندر پانی روکتے ہیں، نیز باڑ۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب السابع عشر فیما یجب علی المستاجر... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۵.

⑤..... خرچہ۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب السابع عشر فیما یجب علی المستاجر... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۵.

⑦..... رواج۔

⑧..... دھاگہ۔

⑨..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإجارۃ، الباب السابع عشر فیما یجب علی المستاجر... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۶.

⑩..... "المرجع السابق، ص ۴۵۶.

⑪..... یعنی بس، کوچ وغیرہ۔

⑫..... یعنی ٹیکسی وغیرہ۔

نہیں ہے بلکہ گھر تک یا جہاں تک جاسکتی ہو اُسے لیجانا ہوگا کہ اس صورت میں یہی عرف ہے۔

مسئلہ ۳۱ کپڑے دھوئی کو دیے تو کلپ اور نیل دینا دھوئی کے ذمہ ہے کہ اس میں یہی عرف ہے۔ جلد ساز کو جلد بنانے کے لیے کتابیں دیں تو پٹھا^(۱)، چمڑا، اُبری^(۲)، لئی^(۳)، ڈورا^(۴) یہ سب چیزیں جلد ساز کے ذمہ ہیں اور جس قسم کا سامان لگانا اور جس قسم کی جلد بنانا ٹھہرا ہے وہی کرنا ہوگا۔

مسئلہ ۳۲ کسی کام کے لیے دو مزدور کیے مثلاً یہ لکڑیاں تم دونوں میرے مکان تک اتنے میں پہنچا دو وہ کل لکڑیاں ایک ہی مزدور نے پہنچائیں دوسرا بیٹھا رہا تو یہ مزدور نصف ہی اجرت کا مستحق ہے کہ دوسرے کی طرف سے کام کرنے میں مستبرع^(۵) ہے لہذا اُس کے حصہ کی مزدوری کا مستحق نہیں ہوا اور دوسرا بھی اپنے حصہ کی مزدوری نہیں لے سکتا کہ اجیر مشترک^(۶) جب تک کام نہ کرے اجرت کا مستحق نہیں ہوتا اور اگر ان دونوں میں پہلے یہ طے ہے کہ ہم دونوں شرکت میں کام کریں گے جو کچھ مزدوری ملے گی وہ دونوں بانٹ لیں گے تو دوسرا مزدور بھی اپنی نصف مزدوری کا مستحق ہے کہ اُس کے شریک کا کام کرنا ہی اُس کا کام کرنا ہے۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ چند مزدور گڑھا کھودنے کے لیے یا مٹی اوٹھانے کے لیے رکھے اور اس پورے کام کی ایک اجرت طے ہوگئی ان مزدوروں میں سے کسی نے کم کام کیا کسی نے زائد سب پر وہ اجرت برابر برابر تقسیم ہوگی ہاں اگر مزدوروں میں بہت تفاوت ہے مثلاً بعض جوان ہیں بعض بچے اور بچوں نے کم کام کیا ہے تو برابر برابر تقسیم نہیں ہوگی بلکہ اُس پوری اجرت کو اجرت مثل پر تقسیم کیا جائے گا مثلاً بچوں کو دو آنے یومیہ ملتے ہیں اور جوان کو چار آنے تو اُس اجرت کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ جوان کو بچے سے دو نی ملے اور اگر ان مزدوروں میں سے بعض نے مرض یا کسی عذر کی وجہ سے کام نہیں کیا تو یہ حصہ لینے کا حقدار نہیں ہے مگر جبکہ کام کرنے میں ان کی شرکت ہو تو نہ کام کرنے کی صورت میں بھی حصہ پائے گا۔^(۸) (عالمگیری)

①..... موٹا اور سخت کاغذ یا گتہ جو کتابوں کی جلد بنانے میں کام آتا ہے۔

②..... ایک قسم کا رنگدار کاغذ جسے کتابوں کی جلدوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

③..... ایک قسم کا لیس دار مادہ جو کاغذ وغیرہ جوڑنے کے کام آتا۔

④..... موٹا دھاگہ۔ ⑤..... احسان کرنے والا۔ ⑥..... ایک سے زائد لوگوں کا کام کرنے والا مزدور، نوکر۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإجارۃ، الباب الثامن عشر فی الإجارۃ... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۷.

⑧..... المرجع السابق.

مسئلہ ۳۳ کرایہ دار کے ساتھ مالک مکان بھی گھر میں رہتا رہتا تو کرایہ دار اُتے حصہ مکان کی اجرت کم کر سکتا ہے جتنے میں مالک مکان رہا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ مزدور سے کہا فلاں جگہ سے جا کر ایک بوری غلہ کی لے آتی مزدوری دوں گا مزدور وہاں گیا مگر غلہ وہاں تھا ہی نہیں جس کو لاتا تو اُس مزدوری کو جانے اور آنے اور بوجھ پر تقسیم کیا جائے جانے کی مقابل میں مزدوری کا جو حصہ پڑے وہ مزدور کو دیا جائے کیونکہ مزدور کے تین کام تھے وہاں جانا اور وہاں سے بوجھ لے کر آنا اس صورت میں صرف ایک کام یعنی جانا مزدور نے کیا اور آنا اُس کا خود اپنا کام ہے مستاجر کا کام نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ مزدور کو کہیں بھیجا کہ وہاں سے فلاں کو بلا لاؤ وہ گیا اور وہ شخص نہیں ملا اس کو اجرت ملے گی کیونکہ مزدور کو جو کچھ اس صورت میں کام کرنا ہے یہی ہے کہ وہاں تک جائے وہ کر چکا۔^(۳) (عالمگیری)

وَلَا^(۴) كَابِيَان

اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُومُمْ نَصِيْبُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ﴾^(۵)

”جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں اُن کا حصہ انھیں دو، بیشک اللہ (عزوجل) ہر چیز پر گواہ ہے۔“

حدیث ۱ ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: ”جس نے بغیر اجازت اپنے مولیٰ کے کسی قوم سے موالات کی، اوس پر اللہ (عزوجل) کی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اُس کے فرض قبول کرے گا، نہ نفل۔“^(۶)

①.....”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الإجارة، الباب الثامن عشر فی الإجارة... إلخ، ج ۴، ص ۴۵۸.

②.....”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الإجارة، الباب الحادی والعشرون فی الإجارة لا يوجد فيها... إلخ، ج ۴، ص ۴۷۰.

③.....المرجع السابق.

④.....کتاب المکاتب اور کتاب الولا کے مسائل یہاں کی ضرورت سے زائد ہیں اس لئے ہم نے ان کو نہیں لکھا صرف کتاب الولا کی ایک فصل جو

یہاں پائی جاسکتی ہے معرض تحریر میں لائی گئی ۱۲ منہ۔

⑤.....پ ۵، النساء: ۳۳.

⑥.....”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی الرجل ینتمی إلی غیر موالیہ، الحدیث: ۵۱۱۴، ج ۴، ص ۴۲۶.

حدیث ۲ — امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: ”جس شخص نے اپنے مولیٰ کے سوا دوسرے سے مولاۃ کی، اُس نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے نکال دیا۔“ (1)

حدیث ۳ — طبرانی وابن عدی ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: ”جو شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے، اُس کی وِلا اُسی کے لیے ہے۔“ (2)

حدیث ۴ — اصحاب سنن اربعہ و امام احمد و حاکم و غیر ہم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ فرمایا کہ ”وہ سب سے زیادہ حق دار ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔“ (3)

مسئلہ ۱ — ایک شخص عاقل بالغ کسی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا اس نو مسلم نے اُس سے یا کسی دوسرے سے مولاۃ کی یعنی یہ کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرا وارث تو ہے اور مجھ سے کوئی جنایت ہو تو دیت تجھے دینی ہوگی اُس نے قبول کر لیا یہ مولاۃ صحیح ہے اسکا نام مولی المولاۃ ہے اور دونوں جانب سے بھی مولاۃ ہو سکتی ہے یعنی ہر ایک دوسرے سے کہے کہ تو میرا وارث ہوگا اور میری جنایت کی دیت دے گا اور دوسرا قبول کرے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مولی عرب میں سے نہ ہو۔ (4) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۲ — نابالغ مشرف باسلام ہوا اور اُس نے مولاۃ کی یہ ناجائز ہے اگرچہ اپنے باپ یا وصی کی اجازت سے کی ہو اور بالغ عاقل نے نابالغ عاقل سے مولاۃ کی اور اس کے باپ یا وصی نے اجازت دیدی ہو تو مولاۃ جائز ہے۔ یوہیں اگر غلام نے مولاۃ کی تو اُس کے مولیٰ کی اجازت پر موقوف ہے، وہ جائز کر دیا جائز ہوگی، ورنہ نہیں۔ (5) (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۳ — جس شخص سے اس نے مولاۃ کی ہے اب یہ (مولی اسفل) اس وِلا کو فسخ کرنا چاہتا ہے تو اُس کی موجودگی میں فسخ کر سکتا ہے یعنی اُس کو علم ہو جانا ضروری ہے کیونکہ یہ عقد غیر لازم ہے تنہا فسخ کر سکتا ہے دوسرے کی رضامندی ضروری

①..... "المسند" للإمام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۴۵۶۸، ج ۵، ص ۸۷.

②..... "الکامل فی ضعفاء الرجال" لابن عدی، من اسمہ جعفر، ج ۲، ص ۳۶۳.

③..... "المسند" للإمام احمد بن حنبل، مسند الشامیین، حدیث تمیم الداری، الحدیث: ۱۶۹۴۲، ج ۶، ص ۳۴.

④..... "الهدایة"، کتاب الولاء، فصل فی وِلاء المولاۃ، ج ۲، ص ۲۷۰.

و "الدرالمختار"، کتاب الولاء، فصل فی وِلاء المولاۃ، ج ۹، ص ۲۱۱.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الولاء، فصل فی وِلاء المولاۃ، ج ۹، ص ۲۱۲.

نہیں۔ اور اگر دوسرے سے مولاۃ کر لی تو پہلی مولاۃ فسخ ہو گئی اس میں علم کی ضرورت نہیں کہ دوسرے سے عقد کرنے ہی سے پہلی مولاۃ خود بخود فسخ ہو گئی مگر شرط یہ ہے کہ اُس نے اسکی طرف سے دیت ادا نہ کی ہو اور اگر اُس نے کسی معاملہ میں دیت دیدی ہے تو اب نہ فسخ کر سکتا ہے نہ دوسرے سے مولاۃ کر سکتا ہے بلکہ اس کی اولاد کی طرف سے اگر اُس نے دیت دے دی جب بھی فسخ نہیں کر سکتا نہ دوسرے سے مولاۃ کر سکتا ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۳ - مولاۃ کرنے کے وقت جو اس کے نابالغ بچے ہیں یا اس عقد کے بعد جو پیدا ہوئے سب اس ولا میں داخل ہیں بالغ اولادوں سے اس عقد کا تعلق نہیں یعنی یہ دوسرے سے مولاۃ کر سکتے ہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - مولیٰ العتاقہ یعنی وہ غلام جسے مولیٰ (مالک) نے آزاد کر دیا ہے وہ دوسرے سے مولاۃ نہیں کر سکتا۔⁽³⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۶ - مولاۃ کا حکم یہ ہے کہ اگر جنایت کرے تو دیت لازم ہوگی اور اُن میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا وارث ہو جاتا ہے مگر اس کا مرتبہ تمام وارثوں سے مؤخر ہے جب کوئی وارث نہ ہو یعنی ذوی الارحام بھی نہ ہوں تو یہ وارث ہوگا۔⁽⁴⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۷ - عورت نے مولاۃ کی یا مولاۃ کا اقرار کیا اور اس کے ساتھ کوئی بچہ مجہول النسب ہے یا مولاۃ کے بعد پیدا ہوا یہ بچہ بھی عقد مولاۃ کے حکم میں داخل ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ - مرد نے اسلام قبول کر کے ایک شخص سے مولاۃ کی اور عورت نے اسلام لا کر دوسرے سے مولاۃ کی تو ان دونوں سے جو بچہ پیدا ہوگا اُس کا تعلق باپ کے مولیٰ سے ہوگا ماں کے مولیٰ سے نہیں ہوگا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

- ①..... "الهدایة"، کتاب الولاء، فصل فی ولاء المولاۃ، ج ۲، ص ۲۷۰، ۲۷۱.
- ②..... "ردالمحتار"، کتاب الولاء، فصل فی ولاء المولاۃ، ج ۹، ص ۲۱۳.
- ③..... "الهدایة"، کتاب الولاء، فصل فی ولاء المولاۃ، ج ۲، ص ۲۷۱.
- ④..... المرجع السابق، ص ۲۷۰.
- ⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الولاء، فصل فی ولاء المولاۃ، ج ۹، ص ۲۱۳.
- ⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الولاء، الباب الثانی فی ولاء المولاۃ، الفصل الثانی، ج ۵، ص ۳۳.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ ط

اکراہ کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اَكْرَهٍ وَوَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْمًا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱﴾ (۱)

”جس نے ایمان کے بعد کفر کیا (اس پر اللہ کا غضب ہو) مگر جو شخص مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے (وہ عذاب سے بری ہے) لیکن جس نے کفر کے لیے سینہ کو کھول دیا اور اللہ کا غضب ہے، اور اون کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“

ہدایہ میں ہے کہ یہ آیت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ مشرکین نے کلمہ کفر بولنے پر انہیں مجبور کیا اور انہوں نے زبان سے کہہ دیا پھر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے قلب کو کس حال پر پایا عرض کی میرا دل ایمان پر بالکل مطمئن تھا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم کو ایسا ہی کرنا چاہیے (۲) یعنی دل ایمان پر مطمئن رہنا چاہیے۔ تفسیر بیضاوی شریف میں ہے کہ کفار قریش نے عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ارتداد پر مجبور کیا ان کے والدین نے انکار کیا ان دونوں کو قتل کر ڈالا اور یہ دونوں پہلے دو شخص ہیں جو اسلام میں شہید کیے گئے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے وہ کہہ دیا جو کفار نے چاہا تھا۔ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! عمار کا فر ہو گیا فرمایا: ”ہرگز نہیں، بے شک عمار چوٹی سے قدم تک ایمان سے بھرپور ہے ایمان اس کے گوشت و خون میں سرایت کیے ہوئے ہے“، اس کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر خدمت اقدس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھا اور فرمایا کہ ”تمہیں کیا ہوا (جو روتے ہو) اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم ویسا ہی کرنا۔“ (۳)

① پ ۱۴، النحل: ۱۰۶۔

② ”الهدایة“، کتاب الإکراہ، فصل، ج ۲، ص ۲۷۴۔

③ ”تفسیر البیضاوی“، النحل، تحت الآیة: ۱۰۶، ج ۳، ص ۴۲۲۔

اور اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے :

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحَدِّثْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (1)

”مسلمان مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ (عزوجل) کے دین سے کسی شے میں نہیں ہے مگر یہ کہ بچاؤ کے طور پر (اکراہ کی صورت میں زبانی دوستی کا اظہار کر سکتے ہو) اور اللہ (عزوجل) تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ (عزوجل) ہی کی طرف لوٹنا ہے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَكْرَهُوا قِتَالَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْسِنُوا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (2)

”اور اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ پارسائی (3) کا ارادہ کریں تاکہ زندگی دنیا کی متاع حاصل کرو اور جس نے انھیں مجبور کیا تو اس کے بعد کہ وہ مجبور کی گئیں اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

مسئلہ ۱ - اکراہ جس کو جبر کرنا بھی لوگ بولتے ہیں اس کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ ناحق ایسا فعل کرنا کہ وہ شخص ایسا کام کرے جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکہ نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ سے مکہ اپنی مرضی کے خلاف کام کرے مگر مکہ جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم جابر ہے جو کچھ یہ کہتا ہے اگر میں نے نہ کیا تو مجھے مار ڈالے گا اس صورت میں بھی اکراہ ہے۔ (4) (درمختار، ردالمحتار) مجبور کرنے والے کو مکہ اور جس کو مجبور کیا اس کو مکہ کہتے ہیں پہلی جگہ رے کو زیر ہے دوسری جگہ زبر۔

مسئلہ ۲ - اکراہ کا حکم اس وقت متحقق (5) ہوتا ہے جب ایسے شخص کی جانب سے ہو کہ وہ جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کر ڈالنے پر قادر ہو جیسے بادشاہ یا ڈاکو کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر نہ کرے تو یہ وہ کام کر گزریں گے جس کی دھمکی دے رہے ہیں۔ (6) (ہدایہ)

① پ ۳، آل عمران: ۲۸.

② پ ۱۸، النور: ۳۳.

③ پاک دامنہ۔

④ ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۱۷.

⑤ ثابت۔

⑥ ”الهدایہ“، کتاب الإکراہ، ج ۲، ص ۲۷۲.

مسئلہ ۳ - اکراہ کی دو قسمیں ہیں ایک تام اور اس کو ملجی بھی کہتے دوسری ناقص اس کو غیر ملجی بھی کہتے ہیں۔ اکراہ تام یہ ہے کہ مار ڈالنے یا عضو کاٹنے یا ضرب شدید کی دھمکی دی جائے ضرب شدید کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جان یا عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو مثلاً کسی سے کہتا ہے کہ یہ کام کر، ورنہ تجھے مارتے مارتے بیکار کر دوں گا۔ اکراہ ناقص یہ ہے کہ جس میں اس سے کم کی دھمکی ہو مثلاً پانچ جوتے ماروں گا یا پانچ کوڑے ماروں گا یا مکان میں بند کر دوں گا یا ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دوں گا۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

اکراہ کے شرائط

مسئلہ ۴ - اکراہ کی شرائط یہ ہیں۔ (۱) مکروہ اس فعل کے کرنے پر قادر ہو جس کی وہ دھمکی دیتا ہو، (۲) مکروہ یعنی جس کو دھمکی دی گئی اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کام کو نہ کروں گا تو جس کی دھمکی دے رہا ہے اسے کر گزرے گا، (۳) جس چیز کی دھمکی ہے وہ جان جانا ہے یا عضو کاٹنا ہے یا ایسا غم پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ کام اپنی خوشی و رضامندی سے نہ ہو، (۴) جس کو دھمکی دی گئی وہ پہلے سے اس کام کو نہ کرنا چاہتا ہو اور اس کا نہ کرنا خواہ اپنے حق کی وجہ سے ہو مثلاً اس سے کہا گیا کہ تو اپنا مال ہلاک کر دے یا بیچ دے اور یہ ایسا کرنا نہیں چاہتا یا کسی دوسرے شخص کے حق کی وجہ سے اس کام کو نہیں کرنا چاہتا مثلاً فلاں شخص کا مال ہلاک کر۔ یا حق شرع کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہتا مثلاً شراب پینا، زنا کرنا۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۵ - شرط سوم میں بیان کیا گیا کہ ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے رضامندی سے کام کرنا نہ ہو یہ اکراہ کا ادنیٰ مرتبہ ہے اور اس میں سب لوگوں کی ایک حالت نہیں ہے شریف آدمی کے لیے سخت کلامی ہی سے یہ بات پیدا ہو جائے گی اور کمینہ آدمی ہو تو جب تک اسے ضرب شدید کی نوبت نہ آئے معمولی طور پر مارنے اور گالی دینے کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۶ - اکراہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایسا کرو ورنہ تمہارا مال لے لوں گا یا حاکم نے کہا یہ مکان میرے ہاتھ بیچ کر دو ورنہ تمہارے فریق کو دلا دوں گا۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۱۷.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۱۸.

③..... المرجع السابق، ص ۲۱۹.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الإکراہ، مطلب: بیع المکرہ فاسد... إلخ، ج ۹، ص ۲۳۹.

مسئلہ ۷ قتل یا ضرب شدید یا جس مدید کی دھمکی دی اس لیے کہ وہ اپنی کوئی چیز بیچ ڈالے یا فلاں چیز خریدے یا اجارہ کرے یا کسی چیز کا اقرار کرے اور اس دھمکی کی وجہ سے اس نے یہ سب کام کر لیے تو مکڑہ کو ان عقود کے فسخ کرنے کا حق باقی رہتا ہے یعنی اکراہ جاتے رہنے کے بعد ان چیزوں کو فسخ کر سکتا ہے اور یہ حق ان دونوں میں سے کوئی مرجائے جب بھی باقی رہتا ہے کہ اس کا وارث فسخ کر سکتا ہے اور مشتری (1) کے مرجانے سے بھی یہ حق باطل نہیں ہوتا نہ زیادت مفصلہ (2) یا زیادت مفصلہ متولدہ (3) سے یہ حق باطل ہوتا ہے بلکہ وہ چیز اگر یکے بعد دیگرے بہت سے ہاتھوں میں پہنچ گئی جب بھی یہ لے سکتا ہے۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۸ دو ایک کوڑا مارنا ضرب شدید نہیں ہے مگر آلات تناسل اور آنکھ پر مارنا کہ ان پر ایک کوڑا مارنا بھی ضرب شدید ہے۔ جس مدید یہ کہ ایک دن سے زیادہ ہو۔ ذی عزت آدمی کے لیے ضرب غیر شدید اور جس غیر مدید میں وہی صورت ہے جو اوروں کے لیے ضرب شدید میں ہے۔ (5) (درمختار)

مسئلہ ۹ اقرار میں مال قلیل و کثیر کا فرق ہے کہ مال قلیل کے اقرار میں ضرب غیر شدید سے بھی اکراہ پایا جائے گا اور مال کثیر میں ضرب شدید سے اکراہ ہوگا۔ (6) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ مکڑہ کی بیع نافذ ہے اگرچہ لازم نہیں لازم اس وقت ہوگی کہ رضامندی سے اجازت دے دے لہذا مشتری جو کچھ اس بیع میں تصرف کرے گا وہ تصرفات صحیح ہوں گے اور مکڑہ نے ثمن پر راضی خوشی قبضہ کیا یا بیع کو خوشی سے تسلیم کر دیا تو اب وہ بیع لازم ہوگئی یعنی اب بیع کو فسخ نہیں کر سکتا اور اگر قبض ثمن (7) و تسلیم بیع (8) بھی اکراہ کے ساتھ ہو تو حق فسخ باقی رہے گا، اور ہبہ میں اکراہ ہو تو سرے سے موہوب لہ چیز کا مالک ہی نہیں ہوگا اور اس کے تصرفات صحیح نہیں ہوں گے۔ (9) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۱ بائع نے اگر اکراہ کے ساتھ ثمن پر قبضہ کیا ہے تو فسخ بیع کی صورت میں ثمن واپس کر دے اگر اس کے

①..... خریدار۔ ②..... کسی شے میں ایسی زیادتی جو اس کے ساتھ متصل نہ ہو مثلاً غلام کا مال کمانا۔

③..... کسی شے میں ایسی زیادتی جو اس میں خود بخود پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ متصل بھی ہو مثلاً جانور کا بڑا ہونا، موٹا ہو جانا۔

④..... "الدر المختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۱۹، ۲۲۰۔

⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... "ردالمحتار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۱۹۔

⑦..... یعنی طے شدہ قیمت پر قبضہ کرنا۔ ⑧..... بیچی گئی چیز حوالہ کرنا۔

⑨..... "الہدایہ"، کتاب الإکراہ، ج ۲، ص ۲۷۲-۲۷۳۔

پاس موجود ہے اور ہلاک ہو گیا ہے تو اس پر رمضان واجب نہیں کہ ثمن بائع کے پاس امانت ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ، عنایہ)

مسئلہ ۱۲ - اکراہ کے ساتھ بیع اگرچہ بیع فاسد ہے مگر اس میں اور دیگر بیوع فاسدہ میں چند وجہ سے فرق ہے۔ یہ بیع اجازتِ قولی یا فعلی کے بعد صحیح ہو جاتی ہے دوسری بیعیں فاسد کی فاسد ہی رہتی ہیں۔ جس نے اس سے خریدایا ہے اس کے تصرفات توڑ دیے جائیں گے اگرچہ یکے بعد دیگرے کہیں سے کہیں پہنچی ہو۔ بیع غلام تھا اور مشتری نے اسے آزاد کر دیا تو بائع کو اختیار ہے کہ مشتری سے یوم القیمض کی قیمت لے یا یوم الحاق کی اگر بائع پر اکراہ ہو تو ثمن اس کے پاس امانت ہے اور مشتری پر اکراہ ہو تو بیع اس کے پاس امانت ہے اور دیگر بیوع فاسدہ میں یہ چاروں باتیں نہیں ہیں۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ - بیع اگر ہلاک ہو چکی ہے تو بائع اس کی قیمت لے گا یعنی چیز کی جو واجب قیمت ہوگی وہ مشتری سے وصول کرے گا۔⁽³⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۴ - بادشاہ کا کہہ دینا ہی اکراہ ہے اگرچہ وہ دھمکی نہ دے کہ اس کی مخالفت میں جان جانے یا اتلاف عضو کا اندیشہ ہے۔ یو ہیں جن لوگوں سے اس قسم کا اندیشہ ہو ان کا کہہ دینا ہی اکراہ ہے اگرچہ دھمکی نہ دیں بعض شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اون کا خلاف کرنے میں عورت کو اسی قسم کا اندیشہ ہوتا ہے ایسے شوہر کا کہنا ہی اکراہ ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۵ - معاذ اللہ شراب پینے یا خون پینے یا مردار کا گوشت کھانے یا سوز⁽⁵⁾ کا گوشت کھانے پر اکراہ کیا گیا اگر وہ اکراہ غیر ملجی ہے یعنی جس و ضرب کی دھمکی⁽⁶⁾ ہے تو ان چیزوں کا کھانا پینا جائز نہیں ہے البتہ شراب پینے میں اس صورت میں حد نہیں ماری جائے گی کہ شبہہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے اور اگر وہ اکراہ ملجی ہے یعنی قتل یا قطع عضو کی⁽⁷⁾ دھمکی ہے تو ان کاموں کا کرنا جائز بلکہ فرض ہے اور اگر صبر کیا ان کاموں کو نہیں کیا اور مار ڈالا گیا تو گنہگار رہا کہ شرع نے ان صورتوں میں اس کے لیے یہ چیزیں جائز کی تھیں جس طرح بھوک کی شدت اور اضطراب کی حالت میں یہ چیزیں مباح ہیں۔⁽⁸⁾ ہاں اگر اس کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ

①..... "الهدایة"، کتاب الإکراہ، ج ۲، ص ۲۷۳.

و "العنایة" علی "فتح القدیر"، کتاب الإکراہ، ج ۸، ص ۱۷۱.

②..... "الدر المختار" و "رد المختار"، کتاب الإکراہ، مطلب: بیع المکرہ فاسد... إلخ، ج ۹، ص ۲۲۲.

③..... "الهدایة"، کتاب الإکراہ، ج ۲، ص ۲۷۳.

④..... "الدر المختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۲۳.

⑤..... خنزیر۔ ⑥..... قید کرنے اور مارنے کی دھمکی۔

⑦..... یعنی عضو کاٹنے کی۔ ⑧..... یعنی شرعی مجبوری کی حالت میں یہ چیزیں جائز ہیں۔

اس حالت میں ان چیزوں کا استعمال شرعاً جائز ہے اور ناقصی کی وجہ سے استعمال نہ کیا اور قتل کر دیا گیا تو گناہ نہیں۔ یوہیں اگر استعمال نہ کرنے سے کفار کو غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہو تو گناہ نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ معاذ اللہ کفر کرنے پر اکراہ ہوا اور قتل یا قطع عضو کی دھمکی دی گئی تو اس شخص کو صرف ظاہری طور پر اس کفر کے کر لینے کی رخصت ہے اور دل میں وہی یقین ایمانی قائم رکھنا لازم ہے جو پہلے تھا اور اس شخص کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں تور یہ کرے یعنی اگرچہ اس فعل یا قول کا ظاہر کفر ہے مگر اس کی نیت ایسی ہو کہ کفر نہ رہے مثلاً اس کو مجبور کیا گیا کہ بت کو سجدہ کرے اور اس نے سجدہ کیا تو یہ نیت کرے کہ خدا کو سجدہ کرتا ہوں یا سرکار رسالت مآب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں گستاخی کرنے پر مجبور کیا گیا تو کسی دوسرے شخص کی نیت کرے جس کا نام محمد ہو اور اگر اس شخص کے دل میں تور یہ کا خیال آیا مگر تور یہ نہ کیا یعنی خدا کے لیے سجدہ کی نیت نہیں کی تو یہ شخص کافر ہو جائے گا اور اس کی عورت نکاح سے خارج ہو جائے گی اور اگر اس شخص کو تور یہ کا دھیان ہی نہیں آیا کہ تور یہ کرتا اور بت کو ہی سجدہ کیا مگر دل سے اس کا منکر ہے تو اس صورت میں کافر نہیں ہوگا۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ کفر کرنے پر مجبور کیا گیا اور کفر نہ کیا اس وجہ سے قتل کر دیا گیا تو ثواب پائے گا اسی طرح نماز یا روزہ توڑنے یا نماز نہ پڑھنے یا روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا گیا یا حرم میں شکار کرنے یا حالت احرام میں شکار کرنے یا جس چیز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہو اس کے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے اس کے خلاف کیا جو مکہ کرنا چاہتا تھا اور قتل کر ڈالا گیا سب میں ثواب کا مستحق ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ روزہ دار مسافر یا مریض ہے جس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یہ اگر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو روزہ توڑ دے اور نہ توڑا یہاں تک کہ قتل کر ڈالا گیا تو گنہگار ہوگا۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ رمضان میں دن کے وقت کھانے پینے یا بی بی سے جماع کرنے پر اکراہ ہوا اور روزہ دار نے ایسا کر لیا تو اس پر روزہ کی قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۲۵.

و"الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۸.

②....."الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الإکراہ، مطلب: بیع المکرہ فاسد... إلخ، ج ۹، ص ۲۲۶.

③....."الدرالمختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۲۷.

④....."ردالمختار"، کتاب الإکراہ، مطلب: بیع المکرہ فاسد... إلخ، ج ۹، ص ۲۲۸.

⑤....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۹.

مسئلہ ۲۰ اگر اکراہ غیر ملجی ہو تو کفر کا اظہار نہیں کر سکتا اس صورت میں اظہار کفر کی رخصت نہیں ہے کہ غیر ملجی اس کے حق میں اکراہ ہی نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۲۱ اس پر مجبور کیا گیا کہ کسی مسلم یا ذمی کے مال کو تلف کرے اور دھمکی بھی قتل یا قطع عضو کی ہے تو تلف کرنے کی اس کے لیے رخصت ہے اور اگر اس نے تلف نہ کیا اور اس کے ساتھ وہ کر ڈالا گیا جس کی دھمکی دی گئی تھی تو ثواب کا مستحق ہے اور اگر اس نے مال تلف کر ڈالا تو مال کا تاوان مجبور کرنے والے کے ذمہ ہے کہ یہ شخص اس کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۲۲ اس پر مجبور کیا گیا کہ فلاں شخص کو قتل کر ڈال یا اس کا عضو کاٹ ڈال یا اس کو گالی دے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے مار ڈالوں گا یا تیرا عضو کاٹ ڈالوں گا تو اس کو ان کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اس کے کہنے کے موافق کرے گا گنہگار ہوگا اور قصاص مجبور کرنے والے سے لیا جائے گا کہ مکڑہ اس کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہے۔ جس کے عضو کاٹنے پر اسے مجبور کیا گیا اس نے اس کو اجازت دے دی کہ ہاں تو ایسا کر لے اب بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۲۳ اگر اس کو مجبور کیا گیا کہ تو اپنا عضو کاٹ ڈال ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا تو اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے اور اگر اس پر مجبور کیا گیا کہ تو خودکشی کر لے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا اس کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ اکراہ ہوا کہ تو اپنے کو تلوار سے قتل کر ورنہ میں تجھے اتنے کوڑے ماروں گا کہ تو مر جائے یا نہایت بری طرح سے قتل کروں گا تو اس صورت میں خودکشی کرنے میں گناہ نہیں کہ اس سختی اور تکلیف سے بچنے کے لیے خودکشی کرتا ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ زنا پر اکراہ ہوا خواہ اکراہ ملجی ہو یا غیر ملجی، زنا کی اجازت نہیں مگر اس زانی پر اکراہ ملجی میں حد نہیں اور عورت کو مجبور کیا گیا اور اکراہ ملجی ہے تو اسے رخصت ہے اور غیر ملجی ہے تو رخصت نہیں اور عورت سے اکراہ غیر ملجی میں بھی حد ساقط ہے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۲۶ لواطت پر اکراہ ہوا اکراہ ملجی ہو یا غیر ملجی بہر صورت اس کی اجازت نہیں۔^(۷) (ردالمحتار)

①..... "الدر المختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۲۸.

②..... المرجع السابق، ص ۲۲۹. ③..... المرجع السابق.

④..... "ردالمحتار"، کتاب الإکراہ، مطلب: بیع المکرہ فاسد... إلخ، ج ۹، ص ۲۳۰.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۰.

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۳۰.

⑦..... "ردالمحتار"، کتاب الإکراہ، مطلب: بیع المکرہ فاسد... إلخ، ج ۹، ص ۲۳۱.

مسئلہ ۲۷ → عورت کو زنا کرانے پر مجبور کیا اور اس نے مرد کو قابو دے دیا تو عورت بھی گنہگار ہے اور قابو نہ دیا اور اس کے ساتھ کر لیا گیا تو عورت گنہگار نہیں۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ → زنا پر اکراہ ہو اس نے زنا نہیں کیا اور قتل کر دیا گیا اس کو ثواب ملے گا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۹ → نکاح و طلاق و عتاق پر اکراہ ہو یعنی دھمکی دے کر ایجاب یا قبول کرالیا یا طلاق کے الفاظ کہلوائے یا غلام کو آزاد کرایا تو یہ سب صحیح ہو جائیں گے اور غلام کی قیمت مکہرہ سے وصول کر سکتا ہے اور طلاق کی صورت میں اگر عورت غیر مدخولہ ہے تو نصف مہر وصول کر سکتا ہے اور مدخولہ ہے تو کچھ نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ → خود زوجہ نے شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کیا اور اکراہ ملجی ہے تو عورت شوہر سے کچھ نہیں لے سکتی اور غیر ملجی ہے تو نصف مہر لے سکتی ہے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ → نکاح میں مہر ذکر نہیں کیا گیا اور اکراہ کے ساتھ طلاق دلوائی گئی تو شوہر پر متعہ واجب ہے جس کا بیان کتاب الطلاق میں گزرا اور مکہرہ سے اس کو وصول کرے گا۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ → ایک طلاق دینے پر اکراہ ہو اور اس نے تین طلاقیں دے دیں اور عورت غیر مدخولہ ہے تو مکہرہ سے نصف مہر واپس نہیں لے سکتا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ → اس پر اکراہ ہو کہ زوجہ کو تفویض طلاق کر دے^(۷) یا اس کی طلاق فلاں شخص کے اختیار میں دے دے اس نے ایسا ہی کر دیا اور زوجہ یا اس شخص نے طلاق دے دی طلاق ہو جائے گی اور غیر مدخولہ ہے، تو نصف مہر مکہرہ سے وصول کرے گا۔^(۸) (عالمگیری)

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۸.

②.....المرجع السابق.

③....."الدرالمختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۳۱.

④....."ردالمحتار"، کتاب الإکراہ، مطلب: بیع المکہرہ فاسدٌ... إلخ، ج ۹، ص ۲۳۲.

⑤.....المرجع السابق.

⑥....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۲.

⑦.....یعنی طلاق سپرد کر دے۔

⑧....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۲.

مسئلہ ۳۳ - مرد مریض نے اپنی عورت کو مجبور کیا کہ وہ اس سے طلاق بائن کی درخواست کرے عورت نے اس سے کہا کہ تو مجھے طلاق بائن دے دے اس نے دے دی اور عدت ہی میں وہ شخص مر گیا عورت وارث ہوگی اور اگر عورت نے دو طلاق بائن کی درخواست کی تو وارث نہیں ہوگی۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ - عورت کو مجبور کیا گیا کہ ایک ہزار کے بدلے میں شوہر کی طلاق قبول کرے اس نے قبول کر لی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور اس پر روپے واجب نہیں ہوں گے اور اگر ایک ہزار پر خلع کے لیے عورت پر اکراہ ہوا اور اس نے خلع کرایا تو طلاق بائن واقع ہوگی اور مال واجب نہیں ہوگا۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ - ایک شخص کو مجبور کیا گیا کہ فلانی عورت سے دس ہزار مہر پر نکاح کرے اور اس عورت کا مہر مثل ایک ہزار ہے اس نے دس ہزار مہر پر نکاح کیا نکاح صحیح ہے مگر مہر ایک ہی ہزار واجب ہوگا۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ - ایک شخص ہزار روپے پر خلع کرنے میں مجبور کیا گیا اور اس کی عورت کا مہر چار ہزار ہے اس نے خلع کر لیا اور عورت خلع کرانے پر مجبور نہیں کی گئی ہے تو ایک ہزار پر خلع ہو گیا عورت کے ذمہ یہ روپے لازم ہوں گے اور مرد مجبور کرنے والے سے کچھ نہیں لے سکتا۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ - اکراہ کے ساتھ یہ سب چیزیں صحیح ہیں نذر، یمین، ظہار، رجعت، ایلا، فہ یعنی اس کو منت ماننے پر مجبور کیا کہ نماز یا روزہ یا صدقہ یا حج کی منت مانے اور اس نے مان لی تو منت پوری کرنی ہوگی۔ یوہن ظہار کیا تو بغیر کفارہ عورت سے قربت جائز نہ ہوگی اور ایلا کیا تو اس کے احکام بھی جاری ہوں گے اور رجعت کر لی تو رجعت ہوگئی اور ایلا کیا تھا فہ کرنے پر مجبور کیا گیا فہ ہوگئی۔ (5) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۳۹ - عورت سے ظہار کیا تھا اس کو مجبور کیا گیا کہ ظہار کے کفارہ میں اپنا غلام آزاد کرے اس نے آزاد کیا اگر یہ غلام غیر معین ہے جب تو کچھ نہیں کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا اور اگر معین غلام کو آزاد کرایا تو دو صورتیں ہیں وہی سب میں گھٹیا اور کم

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۳.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق، ص ۴۴.

④..... المرجع السابق، ص ۴۶.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۳۲.

درجہ کا ہے جب بھی مکہ پر رمضان واجب نہیں اور اگر دوسرے غلام اس سے گھٹیا ہیں تو مکہ پر اس کی قیمت واجب ہے اور کفارہ ادا نہ ہوا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ قسم کے کفارہ دینے پر مجبور کیا گیا اور یہ معین نہیں کیا ہے کہ کونسا کفارہ دے اور اس نے کفارہ دے دیا کفارہ صحیح ہے اور اگر معین کر دیا ہے اور اس سے کم درجہ کا کفارہ دے سکتا تھا تو مکہ پر رمضان واجب ہے اور کفارہ صحیح نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ اکراہ کے ساتھ اسلام صحیح ہے۔⁽³⁾ (درمختار) یعنی اگر اس نے اکراہ کی وجہ سے اپنا اسلام ظاہر کیا تو جب تک اس سے کفر ظاہر نہ ہو اس کو کافر نہ کہیں گے۔ اس لیے کہ یہ کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے کہ اس نے محض خوف سے ہی اسلام ظاہر کیا ہے دل میں اس کے اسلام نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک کافر نے مسلمان پر حملہ کیا اور جب مسلمان نے حملہ کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا انھوں نے یہ خیال کر کے کہ محض تلوار کے خوف سے اسلام ظاہر کیا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر ڈالا، جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو اس کی اطلاع ہوئی تو نہایت شدت سے انکار فرمایا⁽⁴⁾۔ اسلام صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ محض مونہ سے کہہ دینے سے ہی وہ حقیقہً مسلمان ہے کہ اسلام حقیقی تو دل سے تصدیق کا نام ہے صرف مونہ سے بولنا کیا مفید ہو سکتا ہے جبکہ دل میں تصدیق نہ ہو۔

مسئلہ ۳۲ اکراہ کے ساتھ اس سے ذین معاف کرایا گیا یا کفیل⁽⁵⁾ کو بیری کرایا گیا یا شفع کو⁽⁶⁾ طلب شفعہ سے روک دیا گیا یا کسی کو جبراً مرتد بنانا چاہا یہ سب چیزیں اکراہ سے نہیں ہو سکتیں۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۳ قاضی نے مجبور کر کے کسی سے چوری یا قتل عمد کا اقرار کرایا اور اس اقرار پر اس کا ہاتھ کاٹا گیا یا قصاص لیا گیا اگر وہ شخص نیک ہے تو قاضی سے قصاص لیا جائے گا اور اگر چوری و قتل میں متہم ہے مشہور ہے کہ چور ہے، قاتل ہے تو قاضی سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔⁽⁸⁾ (درمختار)

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الإکراہ، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۶.

②..... المرجع السابق، ص ۴۷.

③..... "الدر المختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۳۳.

④..... "سنن أبی داؤد"، کتاب الجہاد، باب علی ما یقاتل المشرکون، الحدیث: ۲۶۴۳، ج ۳، ص ۶۳.

⑤..... کفالت کرنے والا یعنی ضامن۔

⑥..... حق شفعہ رکھنے والے کو۔

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الإکراہ، ج ۹، ص ۲۳۴.

⑧..... المرجع السابق، ص ۲۳۶.

مسئلہ ۳۴ شوہر نے عورت کو دھمکی دی کہ مہر معاف کر دے یا ہبہ کر دے (۱) ورنہ تجھے ماروں گا اس نے ہبہ کر دیا یا معاف کر دیا اگر شوہر اس کے مارنے پر قادر ہے تو ہبہ اور معاف کرنا صحیح نہیں اور اگر یہ دھمکی دی کہ ہبہ کر دے ورنہ طلاق دے دوں گا یا دوسرا نکاح کر لوں گا تو یہ اکراہ نہیں اس صورت میں ہبہ کرے گی تو صحیح ہو جائے گا۔ (۲) (درمختار)

مسئلہ ۳۵ شوہر نے عورت کو اس کے باپ ماں کے یہاں جانے سے روک دیا کہ جب تک مہر نہ بخشے گی جانے نہیں دوں گا یہ بھی اکراہ کے حکم میں ہے کہ اس حالت میں بخشنا صحیح نہیں۔ (۳) (درمختار)

مسئلہ ۳۶ ایک شخص کو دھمکی دی گئی کہ وہ اپنی فلاں چیز زید کو ہبہ کر دے اس نے زید و عمر و دونوں کو ہبہ کر دی عمر و کے حق میں ہبہ صحیح ہے اور زید کے حق میں صحیح نہیں۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ ایک شخص کو کھانا کھانے پر اکراہ کیا گیا اور وہ کھانا بھی خود اسی کا ہے اگر وہ بھوکا ہے تو کچھ نہیں کہ اپنی چیز کا فائدہ خود اسی کو پہنچا اور اگر آسودہ تھا (۵) تو مکرہ سے تاوان لے گا۔ (۶) (درمختار)

مسئلہ ۳۸ بہت سے مسلمان کافروں نے گرفتار کر لیے ہیں ان کافروں کا جو سرغنہ (۷) ہے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی لونڈی زنا کے لیے دے دو تو ایک ہزار قیدی رہا کیے دیتا ہوں قیدی چھوڑانے کے لیے اس کو لونڈی دینا حلال نہیں اللہ تعالیٰ ان اسیروں کے لیے کوئی سبب پیدا کر دے گا یا انھیں اس مصیبت پر صبر و اجر دے گا۔ (۸) (درمختار) اس سے اسلام کی نظافت و پاکیزگی کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اپنے ایک ہزار آدمی کفار کے ہاتھ سے چھوڑانے کے لیے بھی اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا کہ مسلمان اپنی لونڈی کو بھی زنا کے لیے دے بخلاف دیگر مذاہب کہ انھوں نے بہت معمولی باتوں کے لیے اپنی بی بیوں اور لڑکیوں پیش کر دیں چنانچہ تاریخ عالم اس پر شاہد ہے معلوم ہوا کہ کفار کو جب کبھی کامیابی ہوئی تو اسی قسم کی حرکات سے۔

①..... یعنی بطور تحفہ دیدے۔

②..... "الدر المختار"، کتاب الاکراہ، ج ۹، ص ۲۳۷.

③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الاکراہ، الباب الاول فی تفسیرہ شرعاً... الخ، ج ۵، ص ۳۸.

⑤..... یعنی بھوکا نہ تھا۔

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الاکراہ، ج ۹، ص ۲۳۹.

⑦..... یعنی سردار۔

⑧..... "الدر المختار"، کتاب الاکراہ، ج ۹، ص ۲۳۹.

مسئلہ ۴۹ چوروں نے کسی کو مجبور کیا کہ تمہارا مال کہاں ہے بتاؤ ورنہ ہم قتل کر ڈالیں گے اس نے نہیں بتایا انہوں نے قتل کر ڈالا یہ شخص گنہگار نہ ہوا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۰ مرد و عورت دونوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک ہزار پر طلاق دوں گا اور طلاق دینا مقصود نہ ہوگا محض لوگوں کے دکھانے کے لیے ایسا کیا جائے گا چنانچہ لوگوں کے سامنے ایک ہزار پر طلاق دے دی۔ طلاق واقع ہو جائے گی اور مال لازم نہ ہوگا۔^(۲) (عالمگیری)

حجر کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝۷۰
ابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ﴾^(۳)

”اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں جن کو اللہ (عزوجل) نے تمہاری بسراوقات کیا ہے اور انہیں اسی میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو اور یتیموں کو آزما تے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو۔“

حدیث ۱ امام احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارقطنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص خرید و فروخت میں دھوکا کھا جاتے تھے ان کے گھر والوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ان کو مجبور کر دیجئے^(۴) ان کو بلا کر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے بیع سے منع فرمایا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں بیع سے صبر نہیں کر سکتا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”اگر بیع کو تم نہیں چھوڑتے تو جب بیع کرو یہ کہہ دیا کرو کہ دھوکا نہیں ہے۔“^(۵)

①.....”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الإکراه، الباب الثانی فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۴۹.

②.....المرجع السابق، ص ۵۱.

③.....پ ۴، النساء: ۶۰۵.

④.....یعنی ان کو خرید و فروخت سے روک دیجئے۔

⑤.....”المسند“، للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک بن النضر، الحدیث: ۱۳۲۷۵، ج ۴، ص ۴۳۳.

و”سنن ابی داؤد“، کتاب الإجارة، باب فی الرجل یقول... إلخ، الحدیث: ۳۵۰۱، ج ۳، ص ۳۹۱.

حدیث ۲ دوسری حدیث میں فرمایا: ”تین شخصوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے سوتے سے یہاں تک کہ بیدار ہو اور بچہ سے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور مجنون سے یہاں تک کہ ہوش میں آئے۔“ (1)

مسئلہ ۱ کسی شخص کے تصرفات قولیہ روک دینے کو حجر کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مراتب پر پیدا فرمایا ہے کسی کو سمجھ بوجھ اور دانائی و ہوشیاری عطا فرمائی اور بعض کی عقلوں میں فتور (2) اور کمزوری رکھی جیسے مجنون اور بچے کہ ان کی فہم و عقل میں جو کچھ قصور ہے وہ مخفی نہیں اگر ان کے تصرفات نافذ ہو جایا کریں اور بسا اوقات یہ اپنی کم فہمی سے (3) ایسے تصرفات کرتے ہیں جو خود ان کے لیے مضر ہیں تو انہیں کو نقصان اٹھانا پڑے گا لہذا اس کی رحمتِ کاملہ نے ان کے تصرفات کو روک دیا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے پائے۔ باندی غلام کی عقل میں فتور نہیں ہے مگر یہ خود اور جوان کے پاس ہے سب ملکِ موٹی ہے لہذا ان کو پرانی ملک میں تصرف کرنے کا کیا حق ہے۔

مسئلہ ۲ حجر کے اسباب تین ہیں۔ نابالغی، جنون، رقیقیت نتیجہ یہ ہوا کہ آزاد عاقل بالغ کو قاضی مجبور نہیں کر سکتا ہاں اگر کسی شخص کے تصرفات کا ضرر عام لوگوں کو پہنچتا ہو تو اس کو روک دیا جائے گا مثلاً طبیب جاہل کہ فن طب میں مہارت نہیں رکھتا اور علاج کرنے کو بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو دوائیں دے کر ہلاک کرتا ہے۔ آج کل بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے یا مدرسہ میں طب پڑھ لیتے ہیں اور علاج و معالجہ سے سابقہ بھی نہیں پڑتا دو تین برس کے بعد سند طب حاصل کر کے مطب کھول لیتے ہیں اور ہر طرح کے مریض پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں مرض سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو نسخے پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس کہنے کو کسر شان (4) سمجھتے ہیں کہ میری سمجھ میں مرض نہیں آیا ایسوں کو علاج کرنا کب جائز و درست ہے۔ علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مدت دراز تک استاد کامل کے پاس بیٹھے اور ہر قسم کا علاج دیکھے اور استاد کی موجودگی میں علاج کرے اور طریق علاج کو استاد پر پیش کرتا رہے جب استاد کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص اب علاج میں ماہر ہو گیا تو علاج کی اجازت دے۔ آج کل تعلیم اور امتحان کی سندوں کو علاج کے لیے کافی سمجھتے ہیں مگر یہ غلطی ہے اور سخت غلطی ہے، اسی کی دوسری مثال جاہل مفتی ہے کہ لوگوں کو غلط فتوے دے کر خود بھی گمراہ و گنہگار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے طبیب ہی کی طرح آج کل مولوی بھی ہو رہے ہیں کہ جو کچھ اس زمانہ میں مدارس میں تعلیم ہے وہ ظاہر ہے اول تو درس نظامی جو ہندوستان کے مدارس میں عموماً جاری ہے اس کی تکمیل کرنے والے بھی بہت قلیل افراد ہوتے ہیں عموماً کچھ معمولی طور پر پڑھ کر سند حاصل کر لیتے ہیں اور اگر پورا درس بھی پڑھا تو اس پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب اتنی

①.....”المسند“، للإمام أحمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۱۱۸۳، ج ۱، ص ۲۹۵.

و”سنن ابی داؤد“، کتاب الحدود، باب فی المجنون یسرق... إلخ، الحدیث: ۴۴۰۳، ج ۴، ص ۱۸۸.

②..... خرابی، نقص۔ ③..... نادانی سے۔ ④..... بے عزتی، توہین۔

استعداد ہوگئی کہ کتابیں دیکھ کر محنت کر کے علم حاصل کر سکتا ہے ورنہ درس نظامی میں دینیات کی جتنی تعلیم ہے ظاہر کہ اس کے ذریعہ سے کتنے مسائل پر عبور ہو سکتا ہے مگر ان میں اکثر کو اتنا بیباک (1) پایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو یہ کہنا ہی نہیں جانتے کہ مجھے معلوم نہیں یا کتاب دیکھ کر بتاؤں گا کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے ہیں انکل پچو (2) جی میں جو آیا کہہ دیا۔ صحابہ کبار و ائمہ اعلام کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پایہ اجتہاد رکھنے کے بھی وہ کبھی ایسی جرات نہیں کرتے تھے جو بات نہ معلوم ہوتی اس کی نسبت صاف فرما دیا کرتے کہ مجھے معلوم نہیں۔ ان نو آموز مولویوں کو (3) ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکمیل درس نظامی کے بعد فقہ و اصول و کلام و حدیث و تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں اور دین کے مسائل میں جسارت (4) نہ کریں جو کچھ دین کی باتیں ان پر منکشف و واضح ہو جائیں ان کو بیان کریں اور جہاں اشکال پیدا ہو (5) اس میں کامل غور و فکر کریں خود واضح نہ ہو تو دوسروں کی طرف رجوع کریں کہ علم کی بات پوچھنے میں کبھی عار (6) نہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ ۳ جنون قوی ہو یا ضعیف حجر کے لیے سبب ہے۔ معنویہ جس کو بوہرا کہتے ہیں وہ ہے جو کم سمجھ ہو اس کی باتوں میں اختلاط ہو اوٹ پٹانگ باتیں (7) کرتا فاسد التذہیر ہو (8) مجنون کی طرح لوگوں کو مارتا گالی دیتا نہ ہو یہ معنویہ اس بچہ کے حکم میں ہے جس کو تمیز ہے۔ (9) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴ مجنون نہ طلاق دے سکتا ہے نہ اقرار کر سکتا ہے اسی طرح نابالغ کہ نہ اس کی طلاق صحیح نہ اقرار، مجنون اگر ایسا ہے کہ کبھی کبھی اسے افاقہ ہو جاتا ہے اور افاقہ بھی پوری طور پر ہوتا ہے تو اس حالت میں اس پر جنون کا حکم نہیں ہے اور اگر ایسا افاقہ ہے کہ عقل ٹھکانے پر نہیں آئی ہو تو نابالغ عاقل کے حکم میں ہے۔ (10) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ غلام طلاق بھی دے سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے مگر اس کا اقرار اس کی ذات تک محدود ہے لہذا اگر مال کا اقرار کرے گا تو آزاد ہونے کے بعد اس سے وصول کیا جاسکتا ہے اور حدود و قصاص کا اقرار کرے گا تو فی الحال قائم کر دیں گے آزاد ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ (11) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۶ نابالغ نے ایسا عقد کیا جس میں نفع و ضرر دونوں ہوتے ہیں جیسے خرید و فروخت کہ نہ ہمیشہ اس میں نفع ہی

- ① بے پرواہ، دلیر۔
- ② یعنی بے جانے بوجھے۔
- ③ نئے نئے مولویوں کو۔
- ④ جرات۔
- ⑤ کسی مسئلہ میں مشکل پیش آئے۔
- ⑥ شرم۔
- ⑦ بیہودہ باتیں۔
- ⑧ یعنی سوچ و بچار میں درستگی نہ ہو۔

⑨..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۴۳ و کتاب الطلاق، مطلب: فی الحشیشة... الخ، ج ۴، ص ۴۳۸.

⑩..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۴۴.

⑪..... "الدرالمختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۴۵، وغیرہ.

ہوتا ہے نہ ہمیشہ ضرر، اگر وہ خریدنے اور بیچنے کے معنی جانتا ہو کہ خریدنا یہ ہے کہ دوسرے کی چیز ہماری ہو جائے گی اور بیچنا یہ کہ اپنی چیز اپنی نہ رہے گی دوسرے کی ہو جائے گی تو اس کا عقد ولی کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے جائز کر دے گا جائز ہو جائے گا رد کر دے گا باطل ہو جائے گا اور اگر اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ بیچنا اور خریدنا اسے کہتے ہیں تو اس کا عقد باطل ہے ولی کے جائز کرنے سے بھی جائز نہیں ہوگا مجنون کا بھی یہی حکم ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۷ فعل میں حجر نہیں ہوتا یعنی ان کے افعال کو کالعدم نہیں سمجھا جائے گا بلکہ ان کا اعتبار کیا جائے گا لہذا نابالغ یا مجنون نے کسی کی کوئی چیز تلف کر دی تو ضمان واجب ہے فی الحال تاوان وصول کیا جائے گا یہ نہیں کہ جب وہ بالغ ہو یا مجنون ہوش میں آئے اس وقت تاوان وصول کریں یہاں تک کہ اگر ایک دن کے بچہ نے کروٹ لی اور کسی شخص کی شیشہ کی کوئی چیز تھی وہ ٹوٹ گئی اس کا بھی تاوان دینا ہوگا۔⁽²⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۸ بچہ نے کسی سے قرض لیا یا اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی یا اس کو کوئی چیز عاریت دی گئی یا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیع کی گئی اور یہ سب کام ولی کی بغیر اجازت ہوئے اور بچہ نے وہ چیز تلف کر دی تو ضمان واجب نہیں۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۹ آزاد عاقل بالغ پر حجر نہیں کیا جاسکتا کہ مثلاً وہ سفیہ ہے مال کو بیجا خرچ کرتا ہے عقل و شرع کے خلاف وہ اپنے مال کو برباد کرتا ہے۔ گانے بجانے والوں کو دے دیتا ہے تماشہ کرنے والوں کو دیتا ہے کبوتر بازی میں مال اڑاتا ہے پیش قیمت کبوتروں کو خریدتا ہے پتنگ بازی میں آتش بازی میں اور طرح طرح کی بازیوں میں مال ضائع کرتا ہے۔ خرید و فروخت میں بے محل ٹوٹے میں پڑتا ہے⁽⁴⁾ کہ ایک روپیہ کی چیز ہے دس پانچ میں خرید لی دس کی چیز ہے بلا وجہ ایک روپیہ میں بیع کر ڈالی۔ غرض اسی قسم کے بیوقوفی کے کام جو شخص کرتا ہے اس کو ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجر نہیں کیا جاسکتا اسی طرح فسق یا غفلت کی وجہ سے یا مدیون ہے اس وجہ سے اس پر حجر نہیں ہو سکتا مگر صاحبین⁽⁵⁾ کے نزدیک ان صورتوں میں بھی حجر کیا جاسکتا ہے اور صاحبین ہی کے قول پر یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الهدایة"، کتاب الحجر، ج ۲، ص ۲۷۷.

و "الدر المختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۴۵.

②..... "الدر المختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۴۶.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الحجر، الباب الاول فی تفسیرہ شرعاً... الخ، ج ۵، ص ۵۴.

③..... "الدر المختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۴۷.

④..... خسارے میں پڑتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ ⑤..... یعنی حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔

⑥..... "الدر المختار" و "رد المختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۴۷.

مسئلہ ۱۰ - سفیہ یعنی جس آزاد عاقل بالغ پر حجر ہو اس کے وہ تصرفات (۱) جو فسخ کا احتمال رکھتے ہیں اور ہزل سے باطل ہو جاتے ہیں انہیں میں حجر کا اثر ہوتا ہے کہ یہ شخص نابالغ عاقل کے حکم میں ہوتا ہے اور جو تصرفات ایسے ہیں کہ نہ فسخ ہو سکیں اور نہ ہزل سے (۲) باطل ہوں ان میں حجر کا اثر نہیں ہوتا لہذا نکاح، طلاق، عتاق، استیلاء (۳)، تدبیر (۴)، وجوب زکوٰۃ و فطرہ و حج و دیگر عبادات بدنئیہ، باپ دادا کی ولایت کا زائل ہونا، نفقہ میں خرچ کرنا یعنی اپنے اور اہل و عیال پر اور ان لوگوں پر خرچ کرنا جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، نیک کاموں میں ایک تہائی تک وصیت کرنا، عقوبات (۵) کا اقرار کرنا یہ چیزیں وہ ہیں کہ باوجود حجر بھی صحیح ہیں اور ان کے علاوہ جن میں ہزل کا اعتبار ہے وہ قاضی کی اجازت سے کر سکتا ہے یعنی قاضی اگر نافذ کر دے گا تو نافذ ہو جائیں گے۔ (۶) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ - نابالغ جس کا مال ولی یا وصی کے قبضہ میں تھا وہ بالغ ہوا اور اس کی حالت اچھی معلوم ہوتی ہے اور چال چلن ٹھیک ہیں (یہاں نیک چلنی کے صرف یہ معنی ہیں کہ مال کو موقع سے خرچ کرتا ہو اور بے موقع خرچ کرنے سے رکتا ہو جس کو رشد کہتے ہیں) تو اس کے اموال اسے دے دیے جائیں اور اگر چال چلن اچھے نہ ہوں تو اموال نہ دیے جائیں جب تک اس کی عمر پچیس سال کی نہ ہو جائے اور اس کے تصرفات پچیس سال سے قبل بھی نافذ ہوں گے اور اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی اس میں رشد ظاہر نہ ہو تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اب مال دے دیا جائے وہ جو چاہے کرے مگر صاحبین فرماتے ہیں کہ اب بھی نہ دیا جائے جب تک رشد ظاہر نہ ہو مال سپرد نہ کیا جائے اگرچہ اس کی عمر ستر سال کی ہو جائے۔ (۷) (ہدایہ وغیرہا)

مسئلہ ۱۲ - بالغ ہونے کے بعد نیک چلن تھا اور اموال دے دیے گئے اب اس کی حالت خراب ہو گئی تو امام اعظم کے نزدیک حجر نہیں ہو سکتا مگر صاحبین کے نزدیک مجبور کر دیا جائے گا جیسا اوپر مذکور ہوا۔ (۸) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۳ - کسی شخص پر کثرت سے دین ہو گئے قرض خواہوں کو اندیشہ ہے کہ اگر اس نے اپنے اموال کو ہبہ کر دیا یا صدقہ کر دیا یا اور کسی طرح خرچ کر ڈالا تو ہم اپنے دین کیوں وصول کریں گے انہوں نے قاضی سے مجبور کرنے کی درخواست کی تو

①..... معاملات۔ ②..... مذاق سے۔ ③..... لونڈی کو اُم ولد بنانا۔

④..... غلام یا لونڈی کو مدبر یا مدبرہ بنانا۔ ⑤..... جرائم۔

⑥..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۵۰-۲۵۳۔

⑦..... "الہدایہ"، کتاب الحجر، باب الحجر للفساد، ج ۲، ص ۲۷۹، وغیرہا۔

⑧..... "الہدایہ"، کتاب الحجر، باب الحجر للفساد، ج ۲، ص ۲۷۹۔

ایسے شخص کو قاضی مجبور کر دے گا اب اس کے تصرفات ہبہ وغیرہ نافذ نہیں ہوں گے اور قاضی اس کے اموال کو بیع کر کے دین ادا کر دے گا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۴ — ایک شخص مفلس (دیوالیا) ہو گیا اور اس کے پاس کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے خریدا ہے اور ثمن بائع کو نہیں دیا ہے تو یہ چیزیں بائع کو نہیں ملے گی بلکہ اس میں دیگر قرض خواہ بھی شریک ہیں جتنی بائع کے حصہ میں آئے اتنی ہی لے سکتا ہے اور اگر اس نے اب تک اس چیز پر قبضہ ہی نہیں کیا ہے یا بغیر اجازت بائع قبضہ کر لیا ہے تو تنہا بائع اس کا حقدار ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۵ — مدیون کا دین نقد سے⁽³⁾ ادا کیا جائے گا ان سے نہ ادا ہو تو دیگر سامان سے اور ان سے بھی نہ ہو تو جائیداد غیر منقولہ سے اور صرف ایک جوڑا کپڑے کا اس کے لیے چھوڑ دیا جائے باقی سب اموال ادائے دین میں صرف کر دیے⁽⁴⁾ جائیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

بلوغ کا بیان

مسئلہ ۱ — لڑکے کو جب انزال ہو گیا وہ بالغ ہے وہ کسی طرح ہو سوتے میں ہو جس کو احتلام کہتے ہیں یا بیداری کی حالت میں ہو۔ اور انزال نہ ہو تو جب تک اس کی عمر پندرہ سال کی نہ ہو بالغ نہیں جب پورے پندرہ سال کا ہو گیا تو اب بالغ ہے علامات بلوغ پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، لڑکے کے بلوغ کے لیے کم سے کم جو مدت ہے وہ بارہ سال کی ہے یعنی اگر اس مدت سے قبل وہ اپنے کو بالغ بتائے اس کا قول معتبر نہ ہوگا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۲ — لڑکی کا بلوغ احتلام سے ہوتا ہے یا حمل سے یا حیض سے ان تینوں میں سے جو بات بھی پائی جائے تو وہ بالغ قرار پائے گی اور ان میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو جب تک پندرہ سال کی عمر نہ ہو جائے بالغ نہیں اور کم سے کم اس کا بلوغ نو سال میں ہوگا اس سے کم عمر ہے اور اپنے کو بالغ کہتی ہو تو معتبر نہیں۔⁽⁷⁾ (درمختار وغیرہ)

①..... "الدر المختار"، کتاب الحجر، ج ۹، ص ۲۵۴.

②..... المرجع السابق.

③..... یعنی جو رقم نقدی کی صورت میں موجود ہے اُس سے۔

④..... یعنی قرض کی ادائیگی میں خرچ کیے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الحجر، الباب الثالث فی الحجر بسبب الدین، ج ۵، ص ۶۲.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الحجر، الباب الثانی فی الحجر للفساد، الفصل الثانی، ج ۵، ص ۶۱.

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الحجر، فصل، ج ۹، ص ۲۵۹، ۲۶۰.

⑧..... "الدر المختار"، کتاب الحجر، فصل، ج ۹، ص ۲۶۰، وغیرہ.

مسئلہ ۳ لڑکے کی عمر بارہ سال یا لڑکی کی نو سال کی ہو اور وہ اپنے کو بالغ بتاتے ہیں اگر ظاہر حال ان کی تکذیب نہ کرتا ہو (۱) کہ ان کے ہم عمر بالغ ہوں تو ان کی بات مان لی جائے گی۔ (۲) (درمختار)

مسئلہ ۳ جب ان کا بالغ ہونا تسلیم کر لیا گیا تو بالغ کے جتنے احکام ہیں ان پر جاری ہوں گے اور اس کے بعد وہ اپنے بالغ ہونے سے انکار کرے بھی تو معتبر نہ ہوگا اگرچہ یہ احتمال ہے کہ وہ نابالغ ہو اس کی بیع و تقسیم نہیں توڑی جائیں گی۔ (۳) (درمختار)

مسئلہ ۵ جس لڑکے کی عمر بارہ سال کی ہو اور اس کے ہم عمر بالغ ہوں اس نے اپنی عورت سے جماع کیا اور عورت کے بچہ پیدا ہوا تو اس کے بلوغ کا حکم دیا جائے گا اور بچہ ثابت النسب ہوگا۔ (۴) (عالمگیری)

ماذون کا بیان

حجر سے تصرفات نہیں کر سکتا تھا جس کا بیان گزرا اس حجر کے دور کرنے کو اذن کہتے ہیں یہاں صرف ان مسائل کو بیان کرنا ہے جن کا تعلق نابالغ یا معتوہ سے ہے غلام ماذون کے مسائل ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

مسئلہ ۱ نابالغ کے تصرفات تین قسم ہیں۔ نافع محض یعنی وہ تصرف جس میں صرف نفع ہی نفع ہے جیسے اسلام قبول کرنا۔ کسی نے کوئی چیز ہبہ کی اس کو قبول کرنا اس میں ولی کی اجازت درکار نہیں۔ ضار محض جس میں خالص نقصان ہو یعنی دنیوی مضرت ہو اگرچہ آخرت کے اعتبار سے مفید ہو جیسے صدقہ و قرض، غلام کو آزاد کرنا۔ زوجہ کو طلاق دینا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ولی اجازت دے تو بھی نہیں کر سکتا بلکہ خود بھی بالغ ہونے کے بعد اپنی نابالغی کے ان تصرفات کو نافذ کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اس کا باپ یا قاضی ان تصرفات کو کرنا چاہیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ بعض وجہ سے نافع بعض وجہ سے ضار جیسے بیع، اجارہ، نکاح یہ اذن ولی پر موقوف ہیں۔ (۵) (درمختار وغیرہ) نابالغ سے مراد وہ ہے جو خرید و فروخت کا مطلب سمجھتا ہو جس کا بیان اوپر گزر چکا اور جو اتنا بھی نہ سمجھتا ہو اس کے تصرفات ناقابل اعتبار ہیں۔ معتوہ کے بھی یہی احکام ہیں جو نابالغ سمجھ وال کے ہیں۔

مسئلہ ۲ جب ولی نے بیع کی اجازت دے دی تو اس نے جس قیمت پر بھی خرید و فروخت کی ہو جائز ہے اور اذن

①..... جھٹلاتا نہ ہو۔

②..... "الدرالمختار"، کتاب الحجر، فصل، ج ۹، ص ۲۶۰.

③..... المرجع السابق، ۲۶۱.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الحجر، الباب الثانی فی الحجر للفساد، الفصل الثانی، ج ۵، ص ۶۱.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الماذون، ج ۹، ص ۲۹۱، وغیرہ.

سے قبل جو عقد کیا ہے وہ اذن پر موقوف ہے ولی کے نافذ کرنے سے نافذ ہوگا اور اذن کے بعد وہ ان تصرفات میں آزاد بالغ کی مثل ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - نابالغ غیر ماذون نے بیع کی تھی اور ولی نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا یہاں تک کہ یہ خود بالغ ہو گیا تو اب اجازت ولی پر موقوف نہیں ہے یہ خود نافذ کر سکتا ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ - ولی باپ ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کا وصی پھر وصی کا وصی پھر دادا پھر اس کا وصی پھر اس کا وصی پھر بادشاہ یا قاضی یا وہ جس کو قاضی نے وصی مقرر کیا ہو ان تینوں میں تقدیم و تاخیر نہیں ان تینوں میں سے جو تصرف کر دے گا نافذ ہوگا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - چچا اور بھائی اور ماں یا اس کے وصی کو ولایت نہیں ہے تو بہن پھوپھی خالہ کو کیا ہوتی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار)

یہاں مال کی ولایت کا ذکر ہے نکاح کا ولی کون ہے اس کو ہم کتاب النکاح میں⁽⁵⁾ بیان کر چکے ہیں وہاں سے معلوم کریں۔

مسئلہ ۶ - ولی نے نابالغ یا معتوہ کو بیع کرتے دیکھا اور منع نہ کیا خاموش رہا تو یہ سکوت⁽⁶⁾ بھی اذن ہے اور قاضی نے ان کو بیع و شراء⁽⁷⁾ کرتے دیکھا اور خاموش رہا تو اس کا سکوت اذن نہیں۔⁽⁸⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ - نابالغ و معتوہ کے لیے ولی نہ ہو یا ولی ہو مگر وہ بیع وغیرہ کی اجازت نہ دیتا ہو تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اجازت دیدے۔⁽⁹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ - قاضی نے اجازت دے دی اس کے بعد وہ قاضی مر گیا یا معزول ہو گیا تو باپ وغیرہ اب بھی اسے نہیں روک سکتے اور وصی نے اجازت دی تھی پھر وہ مر گیا تو حجر ہو گیا یعنی اس کے بعد جو ولی ہے اس کی اجازت درکار ہے۔⁽¹⁰⁾ (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الماذون، الباب الثانی عشر فی الصبی او المعتوہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۱۰.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الماذون، ج ۹، ص ۲۹۱.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الماذون، الباب الثانی عشر فی الصبی او المعتوہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۱۰.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الماذون، الباب الثانی عشر فی الصبی او المعتوہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۱۰.

و "الدرالمختار"، کتاب الماذون، ج ۹، ص ۲۹۳.

⑤..... بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۷ میں۔ ⑥..... خاموشی۔ ⑦..... خرید و فروخت۔

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب الماذون، ج ۹، ص ۲۶۴، ۲۶۶، ۲۹۴.

⑨..... المرجع السابق، ص ۲۹۴.

⑩..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الماذون، الباب الثانی عشر فی الصبی او المعتوہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۱۲، ۱۱۳.

مسئلہ ۹ ان دونوں یعنی نابالغ و معتوہ کے پاس جو چیز ہے اس کے متعلق یہ اقرار کیا کہ یہ فلاں کی ہے خواہ یہ چیز ان کے کسب کی ہو یا میراث میں ملی ہو ان کا اقرار صحیح ہے اور اگر باپ نے ہی ان کو اذن دیا اور اسی کے لیے اقرار کیا تو یہ اقرار صحیح نہیں۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ باپ نے اپنے دو نابالغ لڑکوں کو اجازت دی ان میں سے ایک نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی یہ بیع جائز ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ لڑکا مسلمان ہے اور اس کا باپ کافر ہے تو یہ باپ ولی نہیں اور اس کو اذن دینے کا اختیار نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ نابالغ ماذون پر دعویٰ ہو اور وہ انکار کرتا ہے تو اس پر حلف^(۴) دیا جائے گا۔^(۵) (عالمگیری)

غصب کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾^(۶)

”ایک کا مال دوسرا شخص ناحق طور پر نہ کھائے۔“

حدیث ۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتنا حصہ طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔“^(۷)

حدیث ۲ صحیح بخاری شریف میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا قیامت کے دن سات زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔“^(۸)

①....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الماذون، مبحث: فی تصرف الصبی... إلخ، ج ۹، ص ۲۹۵.

②....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الماذون، الباب الثانی عشر فی الصبی او المعتوہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۱۰.

③.....المرجع السابق، الباب التاسع فی الشهادة علی العبد الماذون... إلخ، ج ۵، ص ۱۰۳.

④.....قسم۔

⑤....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الماذون، الباب الثالث عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۱۱۵.

⑥.....پ ۲، البقرة: ۱۸۸.

⑦....."صحیح البخاری"، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی سبع ارضین، الحدیث: ۳۱۹۸، ج ۲، ص ۳۷۷.

⑧.....المرجع السابق، باب ماجاء فی سبع ارضین، الحدیث: ۳۱۹۶، ج ۲، ص ۳۷۶.

حدیث ۳ و ۴

امام احمد نے یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے ناحق زمین کی قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدانِ حشر میں لائے۔“ (1) دوسری روایت امام احمد کی انھیں سے یوں ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”جس نے ایک باشت زمینِ ظلم کے طور پر لی۔ اللہ عزوجل اسے یہ تکلیف دے گا کہ اس حصہ زمین کو کھودتا ہوا سات زمین تک پہنچے پھر یہ سب اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور یہ طوق اس وقت تک اس کے گلے میں رہے گا کہ تمام لوگوں کے مابین فیصلہ ہو جائے۔“ (2)

حدیث ۵

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی شخص دوسرے کا جانور بغیر اجازت نہ دو ہے (3) کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بالا خانہ پر کوئی آ کر خزانہ کی کوٹھری توڑ کر جو کچھ اس میں کھانے کی چیزیں ہیں اٹھالے جائے۔ ان لوگوں یعنی اعراب اور بدویوں کے کھانے کے خزانے جانوروں کے تھن ہیں“ (4) یعنی جانوروں کا دودھ ہی ان کی غذا ہے۔

حدیث ۶

صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں آفتاب میں گہن لگا اور اسی روز حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے گہن کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد یہ فرمایا: ”تمام وہ چیزیں جن کی تمہیں خبر دی جاتی ہے سب کو میں نے اپنی اس نماز میں دیکھا میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی اور یہ اس وقت کہ تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا کہ کہیں اس کی لپٹ نہ لگ جائے میں نے اس میں صاحبِ منحجن کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں جہنم میں گھیٹ رہا ہے۔ (منحجن اس چھڑی کو کہتے ہیں جس کی مونٹھ (5) ٹیڑھی ہوتی ہے جاہلیت میں ایک شخص عمرو بن لُحی نامی تھا، جو اسی قسم کی چھڑی رکھتا اس کو صاحبِ منحجن کہتے تھے) وہ حاجیوں کی چیز چھڑی کی مونٹھ سے کھینچ لیا کرتا تھا اگر حاجی کو پتا چل جاتا کہ میری چیز کسی نے کھینچ لی تو کہہ دیتا کہ تمہاری چیز میری چھڑی کی مونٹھ سے لگ گئی اور اسے پتانہ چلتا تو یہ چیز اٹھالے جاتا۔ اور میں نے جہنم میں بلی والی عورت کو دیکھا جس نے بلی پکڑ کر باندھ رکھی تھی نہ اسے کچھ کھلایا نہ چھوڑا کہ وہ کچھ کھا لیتی وہ بلی اسی حالت میں بھوک سے مر گئی پھر اس کے بعد جنت میرے سامنے پیش کی گئی۔ یہ اس وقت

①..... "المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، حدیث یعلیٰ بن مرہ الثقفی، الحدیث: ۱۷۵۶۹، ج ۶، ص ۱۷۷.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۷۵۸۲، ج ۶، ص ۱۸۰.

③..... یعنی دودھ نہ نکالے۔

④..... "صحیح مسلم"، کتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مالکها، الحدیث: ۱۳- (۱۷۲۶)، ص ۹۵۰.

⑤..... چھڑی کا سرا، قبضہ۔

کہ تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا یہاں تک کہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے ہاتھ بڑھایا تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ جنت کے پھلوں میں سے کچھ لے لوں کہ تم بھی انھیں دیکھ لو پھر میری سمجھ میں آیا کہ ایسا نہ کروں۔“ (1)

حدیث ۷ — بیہقی نے شعب الایمان اور دارقطنی نے مجتبیٰ میں ابو حرہ رقاشی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خبردار تم لوگ ظلم نہ کرنا سن لو کسی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔“ (2)

حدیث ۸ — ترمذی و ابوداؤد نے سائب بن یزید سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے بھائی (مسلمان) کی چھڑی ہنسی مذاق میں واقعی طور پر نہ لے لے یعنی ظاہر تو یہ ہے کہ مذاق کر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ لینا ہی چاہتا ہے اور جس نے اس طرح لی ہو وہ واپس کر دے۔“ (3)

حدیث ۹ — امام احمد و ابوداؤد و نسائی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنا بیعینہ مال کسی کے پاس پائے تو وہی حقدار ہے اور وہ شخص جس کے پاس مال تھا اگر اس نے کسی سے خریدا ہے تو وہ اپنے بائع سے مطالبہ کرے۔“ (4)

حدیث ۱۰ — ابوداؤد نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص جانوروں میں پنچے (اور دو دھدو ہنا چاہے) اگر مالک وہاں ہو تو اس سے اجازت لے لے اور وہاں نہ ہو تو تین مرتبہ مالک کو آواز دے اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت لے کر دوہے اور جواب نہ آئے تو دوہ کر پی لے وہاں سے لے لے جائے۔“ (5) (یہ حکم اس وقت ہے کہ یہ شخص مضطر ہو)

حدیث ۱۱ — ترمذی و ابن ماجہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص باغ میں جائے تو کھائے، جھولی میں رکھ کر لے نہ جائے۔“ (6) (یہ بھی اضطرار کی صورت میں ہے یا وہاں کا ایسا عرف ہوگا)۔

حدیث ۱۲ — ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ رافع بن عمرو و غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں میں لڑکا تھا انصار

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الکسوف، باب ماعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم... إلخ، الحدیث: ۱۰- (۹۰۴)، ص ۴۵۱.

②..... ”شعب الایمان“، الباب الثامن والثلاثون... إلخ، باب فی قبض الید... إلخ، الحدیث: ۵۴۹۲، ج ۴، ص ۳۸۷.

و ”المسند“ للامام احمد بن حنبل، مسند البصریین، حدیث عم ابی حرة الرقاشی، الحدیث: ۲۰۷۲۰، ج ۷، ص ۳۷۶.

③..... ”جامع الترمذی“، کتاب الفتن، باب ماجاء لایحل لمسلم... إلخ، الحدیث: ۲۱۶۷، ج ۴، ص ۶۵.

④..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب البیوع، باب فی الرجل یجد عین مالہ... إلخ، الحدیث: ۳۵۳۱، ج ۳، ص ۴۰۳.

⑤..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الجہاد، باب فی ابن السبیل یا کل من التمر... إلخ، الحدیث: ۲۶۱۹، ج ۳، ص ۵۵.

⑥..... ”جامع الترمذی“، کتاب البیوع، باب ماجاء فی الرخصة فی أكل الثمرة... إلخ، الحدیث: ۱۲۹۱، ج ۳، ص ۴۴.

کے پیڑوں سے کھجوریں جھاڑ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: ”اے لڑکے پیڑوں پر کیوں ڈھیلے پھینکتا ہے میں نے عرض کی جھاڑ کر کھاتا ہوں فرمایا جھاڑومت جو نیچے گری ہیں انھیں کھا لو پھر ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کی الہی (عزوجل) تو اسے آسودہ کر دے۔“ (1)

حدیث ۱۳ طبرانی نے اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: ”جو شخص پر ایامال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑھی ہو کر ملے گا۔“ (2)

مال مقوم محترم منقول (3) سے جائز قبضہ کو ہٹا کر ناجائز قبضہ کرنا غصب ہے جبکہ یہ قبضہ خفیہ نہ ہو اس ناجائز قبضہ کرنے والے کو غاصب اور مالک کو مغضوب منہ اور چیز کو مغضوب کہتے ہیں جس چیز پر ناجائز قبضہ ہو مگر کسی جائز قبضہ کو ہٹا کر نہیں ہو وہ غصب نہیں مثلاً جو چیز غصب کی تھی اس میں کچھ زائد چیزیں پیدا ہو گئیں، جیسے جانور غصب کیا تھا اس سے بچہ پیدا ہوا۔ گائے غصب کی تھی اس کا دودھ دوہا ان زوائد کو غصب کرنا نہیں کہا جائے گا۔ غیر مقوم چیز پر قبضہ کیا یہ بھی غصب نہیں مثلاً مسلمان کے پاس شراب تھی اس نے چھین لی اور مال محترم نہ ہو جیسے حربی کافر کا مال چھین لیا یہ بھی غصب نہیں۔ غیر منقول پر قبضہ ناجائز کیا یہ بھی غصب نہیں۔ (4) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اگرچہ وہ غصب نہیں ہیں مگر ان میں غصب کا حکم جاری ہوتا ہے یعنی ضمان کا حکم دیا جاتا ہے اس وجہ سے ان کو بھی غصب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً مودع (5) نے ودیعت سے انکار کر دیا یا ہلاک کر دیا کہ یہاں تاوان لازم ہے۔ پڑا مال اٹھایا اور اس پر گواہ نہیں بنایا، پرانی ملک میں کو آں کھودا اور اس میں کسی کی چیز گر کر ہلاک ہو گئی اور ان کے علاوہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن میں تاوان کا حکم ہے اور وہاں غصب نہیں کہ ان سب صورتوں میں تعدی کی وجہ سے (6) ضمان لازم آتا ہے۔ (7) (ردالمحتار)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الجهاد، باب من قال إنه يأكل مما سقط، الحديث: ۲۶۲۲، ج ۳، ص ۵۵.

②..... ”المعجم الكبير“، الحديث: ۶۳۷، ج ۱، ص ۲۳۳.

③..... منقول وہ مال ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہو۔

④..... ”الدر المختار“، كتاب الغصب، ج ۹، ص ۲۹۸، ۳۰۱، وغیرہ.

⑤..... جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔

⑥..... یعنی اپنی طرف سے قصد زیادتی کی وجہ سے۔

⑦..... ”ردالمحتار“، كتاب الغصب، ج ۹، ص ۲۹۸.

مسئلہ ۲ جانور کو غضب کر لایا اس کے ساتھ لگا ہوا بچہ چلا آیا یا غضب کے بعد بچہ پیدا ہوا بچہ کا تاوان غاصب پر نہیں یا بچہ کو غضب کر لایا اور اسے ہلاک کر دیا اس کے جدا ہونے سے گائے کا دودھ سوکھ گیا یہاں بچہ کا ضمان ہے اور گائے میں جو کچھ کی ہوئی اس کا نقصان دینا ہوگا یہ نقصان تعدی کی وجہ سے ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ کسی شخص کا مٹی کا ڈھیلا یا ایک قطرہ پانی لے لیا اگرچہ بغیر اجازت ایسا کرنا جائز نہیں مگر یہ غضب نہیں کہ مال منقوم نہیں۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ چھپا کر کسی کی چیز لے لی جس کو چوری کہتے ہیں اگر دس درہم قیمت کی ہے جس میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہ غضب نہیں کہ ہلاک ہونے سے یہاں تاوان لازم نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ دوسرے کے جانور پر بغیر اجازت مالک بوجھ لادنا یا سوار ہونا بلکہ مشترک جانور پر بغیر اجازت شریک بوجھ لادنا یا سوار ہونا غضب ہے ہلاک ہونے سے تاوان دینا ہوگا دوسرے کے بچھونے پر بغیر اجازت بیٹھنا غضب نہیں اگر وہ ہلاک ہو جائے تو تاوان نہیں جب تک اس کے فعل سے ہلاک نہ ہو۔^(۴) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۶ غضب کا حکم یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ دوسرے کا مال ہے تو غاصب گنہگار ہے اور چیز موجود ہو تو مالک کو واپس کر دے موجود نہ ہو تو تاوان دے اور معلوم نہ ہو کہ پر ایسا مال ہے تو اس کا حکم واپس کرنا یا چیز موجود نہ ہو تو تاوان دینا ہے اور اس صورت میں گنہگار نہیں ہوا۔^(۵) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۷ غاصب سے دوسرا شخص چھین لے گیا تو مغضوب منہ کو یعنی جس کی چیز غضب کی گئی اسے اختیار ہے کہ غاصب سے ضمان لے یا غاصب الغاصب سے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۸ شے موقوف^(۷) غضب کی جس کی قیمت ایک ہزار ہے پھر غاصب سے کسی نے غضب کر لی اور اس وقت

①..... "ردالمحتار"، کتاب الغضب، ج ۹، ص ۲۹۸، ۲۹۹.

②..... المرجع السابق، ص ۳۰۰. ③..... المرجع السابق، ص ۳۰۱.

④..... "الهدایة"، کتاب الغضب، ج ۲، ص ۲۹۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الغضب، ج ۹، ص ۳۰۱.

⑤..... "الهدایة"، کتاب الغضب، ج ۲، ص ۲۹۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الغضب، ج ۹، ص ۳۰۲.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الغضب، ج ۹، ص ۳۰۲.

⑦..... وقف شدہ چیز۔

اس کی قیمت دو ہزار ہے تو اگر غاصب دوم غاصب اول سے زیادہ مالدار ہے اسی غاصب دوم سے تاوان لے ورنہ متولی کو اختیار ہے جس سے چاہے لے اور جس ایک سے لے گا دوسرا بری ہو جائے گا۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ — پرائی دیوار گرا دی تو مالک کا جو کچھ نقصان ہوا لے لے۔ اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دیوار کی قیمت اس سے وصول کرے اور گرا ہوا ملبہ اسے دے دے یا ملبہ خود لے لے اور دیوار کی قیمت سے ملبہ کی قیمت کم کر کے باقی اس سے وصول کرے اس کو یہ حق نہیں کہ اس سے دیوار بنوانے کا مطالبہ کرے۔ ہاں اگر مسجد یا کسی عمارت موقوفہ^(۲) کی دیوار کسی نے گرائی ہے تو اسے دیوار بنوانی ہوگی۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ — دیوار گرانے والے نے اگر ویسی ہی دیوار بنوادی تو ضمان سے بری ہو جائے گا اور اگر دیوار میں نقش و نگار پھول پتے ہیں تو ان کا بھی تاوان دینا ہوگا اور اگر تصویریں بنی ہیں تو رنگ کا ضمان ہے تصاویر کا ضمان نہیں۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ — جس چیز کو جہاں سے غصب کیا وہیں واپس کرنا ہوگا غاصب اگر دوسرے شہر میں دینا چاہتا ہے مالک اس سے کہہ سکتا ہے کہ جہاں سے لائے ہو وہیں چل کر دینا۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۱۲ — غاصب کے واپس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح واپس کرے کہ مالک کو علم ہو جائے اگر اس کی لاعلمی میں چیز واپس کر دی بری ہو گیا مثلاً اس کے صندوق یا تھیلی میں سے روپے نکال لے گیا تھا پھر اس میں رکھ آیا اور مالک کو پتہ نہ چلا یہ واپسی بھی صحیح ہے۔ یوں اگر کسی دوسرے نام سے مالک کو دے دی جب بھی بری ہو جائے گا مثلاً مالک کو ہبہ کیا یا ودیعت کے نام سے اسے دے آیا بلکہ اگر وہ چیز کھانے کی تھی مالک کو کھلا دی اس صورت میں بھی بری ہو جائے گا مگر اس چیز میں اگر تغیر^(۶) کر دی ہے اور مالک کو دے آیا تو بری نہیں مثلاً کپڑے کو قطع کر کے اس کو سی کر مالک کو دیا یا گیہوں^(۷) کو پسوا کر اس کی روٹی مالک کو کھلا دی یا شکر کا شربت بنا کر پلا دیا۔^(۸) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ — گیہوں غصب کیے تھے مالک کو یہ گیہوں پینے کو دے آیا پینے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ تو میرے ہی

①..... "ردالمحتار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۰۳.

②..... وقف شدہ عمارت۔

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۰۴.

④..... "ردالمحتار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۰۴.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۰۵، ۳۰۶.

⑥..... کسی قسم کی تبدیلی۔ ⑦..... گندم۔

⑧..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۰۶.

گیہوں ہیں آٹے کو روک سکتا ہے۔ یوہیں سوت غصب کیا تھا اور مالک کو کپڑا بننے کے لیے دے آیا کپڑا بننے کے بعد مالک کو معلوم ہوا کہ یہ سوت میرا ہی تھا کپڑا رکھ سکتا ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ سوتے میں انگوٹھی یا جوتے یا ٹوپی اوتار لی اگر وہاں سے لے نہیں گیا اور پہنا دی تو ضامن نہیں اور وہاں سے لے گیا تو اب بیداری میں دینے سے ضمان سے بری ہوگا اور سوتے میں پہنا دے گا تو بری نہ ہوگا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ غاصب نے مغضوب کو مالک کی گود میں رکھ دیا اس کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ میری چیز ہے اس کی گود میں سے کوئی دوسرا اٹھا لے گیا غاصب بری ہو گیا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ جو چیز غصب کی اور وہ ہلاک ہو گئی اس کی دو صورتیں ہیں اگر وہ چیز قیمتی ہے تو قیمت تاوان دے اور مثلی ہے تو اس کی مثل تاوان میں دے اور مثلی ہے مگر اس وقت موجود نہیں ہے یعنی بازار میں نہیں ملتی اگر چہ گھروں میں اس کا وجود ہے تو اس صورت میں بھی قیمت تاوان میں دے سکتا ہے۔⁽⁴⁾ (ہدایہ وغیرہا)

مسئلہ ۱۷ مثلی چیز اگر دوسری جنس کے ساتھ مخلوط ہو جائے اور تمیز دشوار ہو جیسے گیہوں کو جو میں ملا دیا یا تمیز نہ ہو سکے جیسے تل کا تیل کہ اس کو روغن زیتون⁽⁵⁾ میں ملا دیا یا پاک تیل کو ناپاک تیل میں ملا دیا اب یہ مثلی نہیں ہے بلکہ قیمتی ہے۔ یوہیں اگر اس میں صنعت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے مثلاً تانبے وغیرہ کے برتن کہ یہ بھی قیمتی ہیں اگر چہ تانبہ مثلی تھا۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ بعض ذوات اقیم اور ذوات الامثال کی تفصیل۔ پیر ضمان کے بارے میں قیمتی ہے اور دیگر امور میں مثلاً سلم کے باب میں مثلی ہے کہ اس میں سلم صحیح ہے۔ کونلا، گوشت اگر چہ کچا ہو، اینٹ، صابون، گوبر، درخت کے پتے، سوئی، چمڑا کچا ہو یا پکایا ہوا، نجس تیل، نصف صاع سے کم غلہ، روٹی، پانی، کسم⁽⁷⁾، تانبے، پیتل، مٹی کے برتن، انار، سیب، کھیرا، لکڑی، خربزہ، تربز، سگنجبین⁽⁸⁾، سوختی لکڑی⁽⁹⁾، لکڑی کے تختے، چٹائی، کپڑے، تازہ پھول، ترکاریاں⁽¹⁰⁾، دہی، چربی، دنبے کی چکی⁽¹¹⁾

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب السادس فی إستراداد المغضوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۳۵.

②..... المرجع السابق، ص ۱۳۵، ۱۳۶. ③..... المرجع السابق، ص ۱۳۶.

④..... "الہدایۃ"، کتاب الغصب، ج ۲، ص ۲۹۶، وغیرہا.

⑤..... زیتون کا تیل۔

⑥..... "الدر المختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۰۷.

⑦..... ایک پھول جس سے شہاب یعنی گہرا سرخ رنگ نکلتا ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں۔

⑧..... لیموں کے رس کا مشروب۔ ⑨..... جلانے کے قابل لکڑی۔

⑩..... ہبزیاں۔ ⑪..... دنبے کی چوڑی چمچی دم۔

ان سب کی نسبت قیمی ہونا مُصرَح ہے۔ تانبا، پیتل، لوہا، سیسہ (1)، کھجور کی سب قسمیں ایک ہی جنس ہیں، سرکہ، آٹا، روئی، اون، کاتی ہوئی اون، ریشم، چونا، روپیہ، اشرفی، پیسہ، بھوسہ، مہندی، وسمہ (2)، خشک پھول، کاغذ، دودھ ان چیزوں کے مثلی ہونے کی تصریح ہے۔ (3) (عالمگیری، درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۱۹ مثلی اور قیمی کے متعلق قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کی مثل بازار میں پائی جاتی ہو اور اس کی قیمتوں میں معتد بہ (4) فرق نہ ہو وہ مثلی ہے جیسے انڈے اخروٹ اور جن کی قیمتوں میں بہت کچھ تفاوت ہوتا ہے جیسے گائے، بھینس، آم، امرود وغیرہ یا یہ سب قیمی ہیں۔ (5) (درمختار)

مسئلہ ۲۰ کپڑے جو گزروں سے بکتے ہیں جیسے ململ، لٹھا وغیرہ کہ اس کی سب تمہیں ایک سی ہوتی ہیں یہ مثلی ہیں اور جو کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ گزروں سے نہ بکیں وہ قیمی ہیں۔ (6) (ردالمختار)

مسئلہ ۲۱ غاصب یہ کہتا ہے کہ شے مغضوب ہلاک ہو گئی تو اسے حاکم قید کرے جب اتنا زمانہ گزر جائے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اس کے پاس چیز ہوتی تو ضرور ظاہر کر دیتا قید خانہ میں پڑا نہ رہتا تو اب اس کے متعلق تاوان کا حکم ہوگا خواہ مثل تاوان دلائی جائے یا قیمت۔ (7) (ہدایہ وغیرہ)

مسئلہ ۲۲ غاصب کہتا ہے کہ میں نے چیز مالک کو واپس کر دی تھی اس کے یہاں ہلاک ہوئی اور مالک کہتا ہے غاصب کے پاس ہلاک ہوئی اور دونوں نے ثبوت کے گواہ پیش کیے غاصب کے گواہوں کو ترجیح دی جائے گی اور قیمت میں اختلاف ہو تو مالک کے گواہ معتبر ہیں اور اگر خود مغضوب میں اختلاف ہو غاصب کہتا ہے میں نے یہ چیز غصب کی اور مالک کہتا ہے وہ چیز غصب کی تو قسم کے ساتھ غاصب کا قول معتبر ہے۔ (8) (درمختار)

①..... ایک قسم کی دھات۔ ②..... نیل کے پتے جن سے خضاب تیار کیا جاتا ہے۔

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الغصب، الباب الأول فی تفسیر الغصب... إلخ، ج ۵، ص ۱۱۹.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الغصب، مطلب: فی رد المغضوب... إلخ، ج ۹، ص ۳۰۸.

④..... عام طور پر۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۱۰.

⑥..... "ردالمختار"، کتاب الغصب، مطلب: الصابون... إلخ، ج ۹، ص ۳۱۱.

⑦..... "الہدایہ"، کتاب الغصب، ج ۲، ص ۲۹۷، وغیرہا.

⑧..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۱۱.

مسئلہ ۲۳ کسی کی جائیداد غیر منقولہ (۱) چھین لی (یہ حقیقہ غصب نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا) اگر یہ چیز موجود ہے تو مالک کو دلا دی جائے گی اور اگر ہلاک ہوگئی مثلاً مکان تھا گر گیا اور ہلاک ہونا آفت سماویہ (۲) سے ہو مثلاً زمین دریا برد ہوگئی، مکان بارش کی کثرت یا زلزلہ یا آندھی سے گر گیا تو ضمان واجب نہیں اور اگر ہلاک ہونا کسی کے فعل سے ہو تو اس پر ضمان واجب ہے۔ غاصب نے ہلاک کیا ہو تو غاصب تاوان دے کسی اور نے کیا ہو تو وہ دے اور اگر وہ چیز مثلاً مکان موجود ہے مگر غاصب کے رہنے استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں نقصان پیدا ہو گیا ہے یا کھیت میں زراعت کرنے کی وجہ سے زمین کمزور ہوگئی تو اس نقصان کا تاوان دینا ہوگا۔ اور نقصان کا اندازہ یوں کیا جائے گا کہ اس زمین کا اس حالت میں کیا لگان (۳) ہوتا اور اب کیا ہے، مکان کی اس حالت میں کیا قیمت ہوتی اور اس حالت میں کیا ہے۔ (۴) (ہدایہ، عالمگیری وغیرہما)

مسئلہ ۲۴ زمین غصب کی اور کاشت کی جس کی وجہ سے اسے زمین کا نقصان دینا پڑا تو بیج اور یہ نقصان کی مقدار پیداوار میں سے لے لے باقی جو کچھ غلہ ہے اسے تصدق کر دے مثلاً من بھرنج ڈالے تھے اور ایک من کی قیمت کی قدر ضمان دینا پڑا اور کھیت میں چار من غلہ پیدا ہوا تو دو من خود لے لے اور دو من صدقہ کر دے۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ جائیداد موقوفہ مکان یا زمین کو غصب کیا اس کا تاوان دینا ہوگا اگرچہ اس نے خود ہلاک نہ کی ہو بلکہ اس سے جو کچھ منفعت حاصل کی ہے اس کا بھی تاوان دینا ہوگا مکان میں سکونت کی تو واجبی کرایہ (۶) لیا جائے گا زمین میں زراعت کی تو لگان وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح نابالغ کی جائیداد غیر منقولہ پر قبضہ کیا تو اس کا ضمان لیا جائے گا اور منافع حاصل کیے تو اجرت مثل بھی لی جائے گی۔ (۷) (درمختار)

مسئلہ ۲۶ چیز میں نقصان کی چار صورتیں ہیں۔ ۱۔ ترخ کا کم ہو جانا۔ ۲۔ اس کے اجزا کا جاتا رہنا مثلاً غلام کی آنکھ جاتی رہی۔ ۳۔ وصف مرغوب فیہ کا فوت ہو جانا مثلاً بہرا ہو گیا، آنکھ کی روشنی جاتی رہی، گیہوں خشک ہو گیا، سونے چاندی کے زیور تھے ٹوٹ کر سونا چاندی رہ گئے۔ معنی مرغوب فیہ جاتے رہے مثلاً غلام کوئی کام کرنا جانتا تھا غاصب کے پاس جا کر وہ کام بھول گیا۔ پہلی صورت میں اگر مغصوب چیز دے دی تو ضمان واجب نہیں اور دوسری صورت میں مطلقاً ضمان واجب ہے۔ اور تیسری صورت

①..... وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جاسکتی ہو۔ ②..... قدرتی آفت۔ ③..... زمین کا خرچ، سرکاری محصول۔

④..... "الهدایة"، کتاب الغصب، ج ۲، ص ۲۹۷۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الأول فی تفسیر الغصب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۰، وغیرہما۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الأول فی تفسیر الغصب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۰۔

⑥..... راجح کرایہ۔

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۱۲۔

میں اگر مغضوب اموالِ ربا میں سے نہ ہو تو ضمان واجب ہے اور وہ مغضوب اموالِ ربا میں سے ہو تو ضمان نہیں مثلاً گیہوں غصب کیے تھے وہ خراب ہو گئے یا چاندی کا برتن یا زیور غصب کیے تھے اور غاصب نے توڑ ڈالے اس میں مالک کو اختیار ہے کہ وہی خراب لے لے یا اس کا مثل لے لے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز بھی لے اور نقصان کا معاوضہ بھی لے۔ اور چوتھی صورت میں اگر معمولی نقصان ہے تو نقصان کا ضمان لے سکتا ہے اور زیادہ نقصان ہے تو مالک کو اختیار ہے کہ وہ چیز لے لے اور جو کچھ نقصان ہوا وہ لے یا چیز کو نہ لے بلکہ اس کی پوری قیمت وصول کرے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ مغضوب شے کو اجرت پر دیا اور اس سے اجرت حاصل کی اور فرض کروا اجرت پر دینے سے اس چیز میں نقصان پیدا ہو گیا تو جو کچھ نقصان کا معاوضہ دینے کے بعد اس اجرت میں سے بچے اس کو صدقہ کر دے یوں اگر مغضوب ہلاک ہو گیا تو اس اجرت سے تاوان دے سکتا ہے اور اس کے بعد کچھ بچے تو تصدق کر دے اور اگر غاصب غنی⁽²⁾ ہو تو کل آمدنی تصدق⁽³⁾ کر دے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ مغضوب⁽⁵⁾ یا ودیعت⁽⁶⁾ اگر معین چیز ہو اسے بیچ کر نفع حاصل کیا تو اس نفع کو صدقہ کر دینا واجب ہے مثلاً ایک چیز کی قیمت سو روپے تھی اور غاصب نے اسے سو سو میں بیچا سو روپے تاوان کے دینے ہوں گے اور پچیس روپے کو صدقہ کر دینا ہوگا اور اگر وہ چیز غیر متعین یعنی از قبیل نقد ہو⁽⁷⁾ تو اس میں چار صورتیں ہیں۔ (۱) عقد و نقد دونوں اسی حرام مال پر مجتمع ہوں مثلاً یوں کہا کہ اس روپیہ کی فلاں چیز دو پھر وہی روپیہ اسے دے دیا تو یہ چیز جو خریدی ہے یہ بھی حرام ہے یا بائع کو پہلے سے وہ حرام روپیہ دے دیا تھا پھر اس سے چیز خریدی یہ چیز حرام ہے۔ (۲) عقد ہونقد نہ ہو یعنی حرام روپیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی فلاں چیز دو مگر بائع کو یہ روپیہ نہیں دیا بلکہ دوسرا دیا۔ (۳) عقد نہ ہونقد ہو بائع سے حرام کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا کہ اس روپیہ کی چیز دو بلکہ مطلقاً کہا کہ ایک روپیہ کی چیز دو مگر ثمن میں یہی حرام روپیہ دیا۔ (۴) حلال روپیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی چیز دو مگر ثمن میں حرام روپیہ ادا کیا ان تین صورتوں میں تصدق واجب نہیں ہے اور بعض فقہا ان صورتوں میں بھی تصدق کو واجب کہتے ہیں اور یہ قول بھی باقوت ہے مگر زمانہ کی حالت دیکھتے ہوئے کہ حرام سے بچنا بہت دشوار ہو گیا قول اول پر بعض علماء نے فتوے دیا ہے۔⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: شری داراً... إلخ، ج ۹، ص ۳۱۶.

②..... مالدار یعنی صاحب نصاب ہو۔ ③..... صدقہ۔

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: شری داراً... إلخ، ج ۹، ص ۳۱۶.

⑤..... غصب کی گئی چیز۔ ⑥..... امانت۔ ⑦..... یعنی سونے چاندی، روپے پیسے کی قسم سے ہو۔

⑧..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: شری داراً... إلخ، ج ۹، ص ۳۱۷.

مغصوب چیز میں تغیر

مسئلہ ۱ - مغصوب میں ایسی تبدیل کردی کہ وہ دوسری چیز ہوگئی یعنی پہلا نام بھی باقی نہ رہا اور اُس کے اکثر مقاصد بھی جاتے رہے یا اُس کو اپنی چیز یا دوسرے کی چیز میں اس طرح ملا دیا کہ تمیز نہ ہو سکے مثلاً گیہوں کو گیہوں میں ملا دیا یا دشواری سے جدا ہو سکے مثلاً جو میں گیہوں ملا دیے تو غاصب تاوان دے گا اور اُس چیز کا مالک ہو جائے گا مگر غاصب اُس چیز سے نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک تاوان نہ دیدے یا مالک اسے معاف نہ کر دے یا قاضی اُس کے تاوان کا حکم نہ کر دے یعنی مالک کی رضامندی درکار ہے اور وہ ان تینوں صورتوں سے ہوتی ہے۔^(۱) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۲ - روپیہ^(۲) غصب کر کے گلا دیا^(۳) تو اگر چہ اب وہ نام باقی نہ رہا اور سے روپیہ نہیں کہا جائے گا مگر اس کے اکثر مقاصد اب بھی باقی ہیں کہ اب بھی وہ ٹمن ہے اس کا زیور وغیرہ بن سکتا ہے لہذا مالک کو واپس لینے کا حق باقی ہے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۳ - مالک موجود نہیں ہے پر دیس چلا گیا ہے غاصب چاہتا ہے کہ اس کی چیز واپس کر دے مگر مالک کے انتظار میں چیز خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو لوگوں کو گواہ بنا لے کہ میں اُسے ضمان دے دوں گا اب اُس سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - کھانے کی چیز غصب کی اور اُس کو چبایا کہ چیز اس قابل نہ رہی کہ مالک کو واپس دی جائے مگر چونکہ ضمان دیا نہیں لہذا حلق سے اوتارنا لقمہ حرام نکلنا ہے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۵ - بکری غصب کر کے ذبح کر ڈالی اُس کا گوشت بھونا یا پکایا یا گیہوں غصب کر کے آٹا پسوایا یا کھیت میں بو دیے یا لوہا غصب کر کے اُس کی تلوار، ٹھہری وغیرہ بنوالی یا تانبا، پیتل غصب کر کے ان کے برتن بنا لیے ان سب صورتوں میں غاصب کے ذمہ ضمان لازم ہوگا اور چیز غاصب کی ملک ہو جائے گی مگر بے رضامندی مالک اِنتفاع حلال نہیں۔^(۷) (ہدایہ، درمختار)

①..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل فیما یتغیر... إلخ، ج ۲، ص ۲۹۹.

و "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۱۹.

②..... یعنی سونے، چاندی یا کسی دھات کا سکہ۔ ③..... یعنی پکھلا دیا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۲۰.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب شری داراً... إلخ، ج ۹، ص ۳۲۱.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۲۱.

⑦..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل فیما یتغیر... إلخ، ج ۲، ص ۲۹۹.

و "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۲۲.

مسئلہ ۶ بکری ذبح کر ڈالی بلکہ بوٹی بھی بنا لی تو اب بھی مالک ہی کی ملک ہے مالک کو اختیار ہے کہ بکری کی قیمت لے کر بکری غاصب کو دیدے یا بکری خود لے لے اور غاصب سے نقصان کا معاوضہ لے اگر بکری کا آگے کا پاؤں کاٹ لیا جب بھی یہی حکم ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ جو جانور حلال نہیں ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے تو کاٹنے والے پر قیمت واجب ہے۔ جانور کے کان یا دم کاٹ ڈالی نقصان کا تاوان دینا ہوگا۔ گھوڑا خچر گدھا اور وہ جانور جس سے کام لیا جاتا ہے جیسے نیل، بھینسا ان کی آنکھ پھوڑ دی تو چوتھائی قیمت تاوان دے اور جن سے کام نہیں لیا جاتا جیسے گائے، بکری ان کی آنکھ پھوڑ دی تو جو کچھ نقصان ہو وہ تاوان دے۔ گدھے کو ذبح کر ڈالا تو پوری قیمت واجب ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مغصوب چیز موجود ہے مگر اُس کے لینے میں غاصب کا نقصان ہوگا مثلاً شہتیر (3) غصب کر کے مکان میں لگالی کہ اب اس کے نکالنے میں غاصب کا مکان توڑنا ہوگا اس صورت میں غاصب سے اُس کی قیمت دلوائی جائے گی یا اینٹیں غصب کر کے عمارت چنوائی (4) تو غاصب کو قیمت دینی ہوگی۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ بلا قصد ایک شخص کی چیز دوسرے کی چیز میں اس طرح چلی گئی کہ بغیر نقصان اس چیز کو حاصل نہ کیا جاسکے تو جس کی چیز زیادہ قیمت کی ہو وہ کم قیمت والے کو نقصان دے مثلاً ایک شخص کی اشرفی (6) دوسرے کی دوات (7) میں چلی گئی اور جب تک دوات نہ توڑی جائے اشرفی نہ نکل سکے تو دوات توڑی جائے گی اور اُس کی قیمت اشرفی والا دے گا یا مرغی نے موتی نکل لیا یا گائے نے دیگ میں سر ڈال دیا اور کسی طرح باہر نہیں نکلتا اور اگر آدمی نے موتی نکل لیا تو موتی کی قیمت تاوان دے اور آدمی نکل کر مر گیا تو پیٹ چاک کر کے موتی نکالا جاسکتا ہے۔ (8) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ سونا یا چاندی غصب کر کے روپیہ، اشرفی یا برتن بنا لیا تو مالک کی ملک بدستور قائم ہے مالک ان چیزوں کو لے لے گا اور بنانے کا کوئی معاوضہ نہ دے گا۔ (9) (ہدایہ)

1..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی احکام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۲.

2..... المرجع السابق، ص ۱۲۲، ۱۲۳.

3..... بڑی کڑی۔

4..... یعنی عمارت تعمیر کی۔

5..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی احکام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۴.

6..... سونے کا سکہ۔

7..... سیاہی کی بوتل وغیرہ۔

8..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب شری داراً... إلخ، ج ۹، ص ۳۲۳.

9..... "الہدایہ"، کتاب الغصب، فصل فیما یتغیر... إلخ، ج ۲، ص ۳۰۰.

مسئلہ ۱۱ غاصب (۱) نے کپڑا غصب کیا تھا اور اسے پھاڑ ڈالا اس میں تین صورتیں ہیں۔ (۱) اگر اس طرح پھاڑا کہ کام کا نہ رہا تو پوری قیمت تاوان دے۔ (۲) اور اگر زیادہ پھاڑا کہ اس کے بعض منافع فوت ہو گئے مگر کام کا ہے تو مالک کو اختیار ہے کہ کپڑا غاصب کو دیدے اور پوری قیمت وصول کر لے یا کپڑا خود ہی رکھ لے اور جو کمی ہو گئی اس کا تاوان لے۔ (۳) اور اگر تھوڑا پھاڑا ہے کہ اس کے منافع بدستور باقی ہیں مگر اس میں عیب پیدا ہو گیا تو مالک کو کپڑا رکھ لینا ہوگا اور نقصان کا تاوان لے سکتا ہے۔ اور اگر پھاڑ کر اس نے کچھ صنعت کی مثلاً اُس کا کرتا وغیرہ بنا لیا تو مالک کی ملک جاتی رہی صرف قیمت تاوان میں لے سکتا ہے۔ (۲) (ہدایہ وغیرہ)

مسئلہ ۱۲ کپڑا غصب کر کے رنگ دیا مالک کو اختیار ہے کہ کپڑا لے لے اور رنگ کی قیمت دیدے یعنی رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت میں جو کچھ زیادتی ہوئی وہ دیدے اور چاہے تو سفید کپڑے کی قیمت تاوان لے اور کپڑا غاصب ہی کو دیدے یا چاہے تو کپڑا بیع کر کے کپڑے کی قیمت کے مقابل میں ٹمن کا جو حصہ ہے خود لے اور رنگ کی زیادتی کے مقابل میں ٹمن کا جو حصہ ہے وہ غاصب کو دیدے۔ (۳) (ہدایہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ اگر کپڑا دوسرے کے رنگ میں گر گیا اور اس پر رنگ آ گیا تو مالک کو اختیار ہے کہ کپڑا لے کر رنگ کی قیمت دیدے یا کپڑا بیچ کر ٹمن کو قیمت پر تقسیم کر دے۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ رنگ غصب کر کے اپنا کپڑا رنگ لیا تو رنگ کا تاوان دینا ہوگا۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ ایک شخص کا کپڑا غصب کیا دوسرے کا رنگ غصب کیا اور کپڑا رنگ لیا تو کپڑے کا مالک کپڑا لے لے اور رنگ والے کو رنگ یا اُس کی قیمت دیدے یا چاہے تو کپڑا بیچ کر ٹمن دونوں پر تقسیم کر دیا جائے اور اگر ایک ہی شخص کے کپڑے اور رنگ دونوں کو غصب کیا اور رنگ دیا تو مالک کو اختیار ہے کہ رنگا ہوا کپڑا لے لے اور اس صورت میں غاصب کو کچھ نہیں دیا جائے گا اور چاہے تو غاصب کو وہی وہ کپڑا دیدے اور کپڑے اور رنگ دونوں کا تاوان لے۔ (۶) (عالمگیری)

①..... غصب کرنے والے۔

②..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل فیما یتغیر... إلخ، ج ۲، ص ۳۰۱، وغیرہا.

③..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل فیما یتغیر... إلخ، ج ۲، ص ۳۰۱، ۳۰۲.

و"الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی أحكام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۱.

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی أحكام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۱.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... المرجع السابق.

مسئلہ ۱۶ کپڑا غصب کر کے دھویا یا اُس میں پھنسنے (۱) بنائے جس طرح رومال، تولیا میں بناتے ہیں تو مالک اپنا کپڑا لے لے اور غاصب کو دھونے یا پھنسنے بٹنے کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا ہاں اگر جھال لگائی تو اُس کا حکم وہی ہے جو رنگ کا ہے۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ ستوغصب کر کے اُس میں گھی مل دیا تو مالک کو اختیار ہے کہ ستوکا تاوان لے اور یہ ستوغاصب کو دیدے یا یہ ستوغود لے لے اور اتنا ہی گھی غاصب کو دیدے۔ (۳) (درمختار)

مسئلہ ۱۸ چاندی یا سونے کے زیور یا برتن غصب کر کے توڑ پھوڑ ڈالے تو مالک کو اختیار ہے کہ وہی ٹوٹا پھوٹا لے اور توڑنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ کچھ نہیں مل سکتا کہ سود ہوگا اور چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ چاندی کے زیور یا برتن کی قیمت سونے سے لگا کر اتنا سونا لے لے اور سونے کے برتن یا زیور کی قیمت چاندی سے لگا کر اتنی چاندی لے لے کہ جنس بدل جانے کی صورت میں سود نہ ہوگا۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ چاندی کی چیز پر سونے کا طمع تھا غاصب نے طمع دور کر دیا مالک کو اختیار ہے کہ اپنی یہی چیز لے لے اور نقصان کا معاوضہ کچھ نہیں لے سکتا اور چاہے تو غیر جنس سے اُس طمع شدہ چیز کی قیمت کا تاوان لے اور اگر بیع میں یہی صورت ہوتی کہ طمع شدہ چیز خرید کر مشتری (۵) نے اُس کے طمع کو دور کر دیا پھر اُس کے بعد اس چیز کے کسی عیب سابق پر (۶) مطلع ہوا تو نہ چیز کو واپس کر سکتا کہ اُس نے اُس میں ایک جدید عیب پیدا کر دیا اور نہ نقصان لے سکتا کہ سود ہوگا۔ (۷) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ تانبے لوہے پتیل کی چیزیں اگر اپنی صنعت کی وجہ سے حدود زن سے خارج نہ ہوئی ہوں یعنی اب بھی وہ وزن سے بکتی ہوں اور اُن کو غاصب نے خراب کر ڈالا تو مالک کو اختیار ہے کہ اُسی جنس کو تاوان میں لے لے اور اس صورت میں کچھ زیادہ نہیں لے سکتا اور چاہے تو روپے پیسے سے اُس کی قیمت لے لے خرابی تھوڑی ہو یا زیادہ سب کا ایک حکم ہے۔ اور اگر حدود زن سے خارج ہو کر گنتی سے بکتی ہوں تو اگر تھوڑا نقصان ہے مالک یہی کر سکتا ہے کہ چیز اپنے پاس رکھ لے اور نقصان کا معاوضہ لے،

①..... دھاگے یا ریشم کا پھول یا گچھا۔

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی احکام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۲۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۲۹۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی احکام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۳۔

⑤..... خریدار۔ ⑥..... یعنی خریدنے سے پہلے جو عیب تھا اُس پر۔

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الغصب، مطلب: شری داراً... إلخ، ج ۹، ص ۳۲۶۔

چیز غاصب کو دے کر قیمت نہیں لے سکتا اور اگر زیادہ عیب پیدا ہو گیا ہے تو اختیار ہے کہ چیز دیدے اور قیمت لے لے یا چیز رکھ لے اور نقصان وصول کرے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ جانور غصب کیا غاصب کے یہاں وہ مدت تک رہا بڑھ گیا اور اُس کی قیمت زیادہ ہو گئی مالک اپنا جانور لے لے گا اور غاصب کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ کھیت یا باغ کو چھین کر اُس کو پانی دیا زراعت بڑھ گئی درخت میں پھل آگئے مالک اپنا کھیت اور باغ لے لے گا اور کوئی معاوضہ نہیں دے گا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ روئی غصب کر کے کتوالی یا سوت غصب کر کے کپڑا بنو الیا مالک کپڑے یا سوت کو نہیں لے سکتا بلکہ روئی یا سوت کا تاوان لے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ زمین غصب کر کے اُس میں عمارت بنالی یا درخت لگائے غاصب کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی عمارت اٹھالے جا اور درخت کاٹ لے اور اگر عمارت و درخت کے نکالنے میں زمین خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو مالک زمین درخت یا عمارت کی قیمت دیدے اور یہ اس کے ہو جائیں گے۔ قیمت اس طرح دلائی جائے گی کہ دیکھا جائے تہا زمین کی کیا قیمت ہے اور زمین کی مع عمارت یا درخت کے کیا قیمت ہے جو کچھ زیادتی ہو وہ غاصب کو دلا دی جائے۔⁽⁴⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۲۴ زمین غصب کر کے اُسی زمین کی مٹی سے دیوار بنوائی تو یہ دیوار بھی مالک زمین کی ہے اس کا معاوضہ غاصب کو نہیں ملے گا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ لکڑی غصب کر کے چیر ڈالی وہ اب تک مالک ہی کی ملک ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۶ لکڑی چیرنے کے لیے آ رہ عاریت لیا وہ ٹوٹ گیا اور اس نے بلا اجازت مالک اُسے جوڑوایا ٹوٹے ہوئے آ رہ کی قیمت مالک کو دے اور یہ آ رہ اسی کا ہو گیا۔⁽⁷⁾ (درمختار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی احکام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۳.

②..... المرجع السابق، ص ۱۲۴.

③..... المرجع السابق.

④..... "الہدایۃ"، کتاب الغصب، فصل فیما یتغیر... إلخ، ج ۲، ص ۳۰۱.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی احکام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۵.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۳۲.

⑦..... المرجع السابق، ص ۳۳۳.

مسئلہ ۲۷ → مردار کا چمڑا غصب کر کے اُسے پکالیا اگر ایسی چیز سے پکایا جس کی کوئی قیمت نہیں جب تو مالک چمڑے کو مفت لے لے گا اور اگر ایسی چیز سے پکایا جس کی کوئی قیمت ہے تو جو کچھ پکانے سے چمڑے کی قیمت میں زیادتی ہوئی غاصب کو مالک دے گا یعنی اگر یہ چمڑا مذبح کا ہوتا تو کیا قیمت ہوتی اور اب پکنے پر کیا قیمت ہے جو کچھ قیمت میں اضافہ ہو غاصب کو دے اور اگر غاصب کے پاس وہ چمڑا بغیر کسی کے فعل کے ضائع ہو گیا تو غاصب سے تاوان نہیں لیا جائے گا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ → دروازے کا ایک بازو تلف کر دیا یا موزے یا جوتے میں سے ایک کو تلف کر دیا تو مالک کو اختیار ہے کہ دوسرا بھی اسی کو دے کر دونوں بازو یا دونوں موزے یا دونوں جوتے کی قیمت اس سے وصول کرے اگر انگوٹھی کا حلقہ خراب کر ڈالا گمینہ باقی ہے تو صرف حلقہ ہی کا تاوان لے سکتا ہے۔^(۲) (عالمگیری)

اتلاف سے کہاں ضمان واجب ہے کہاں نہیں

مسئلہ ۱ → انڈا توڑ دیا اندر سے گندہ نکلا یا اخروٹ توڑ دیا اندر سے خالی نکلا ضمان واجب نہیں کہ یہ مال نہیں ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ → چٹائی کی بناوٹ^(۴) کھول ڈالی یا دروازہ کی چوکھٹ الگ کر دی یا اسی طرح کسی اور شے کی ترکیب^(۵) اور بناوٹ خراب کر دی اگر اس کو پہلی حالت پر لایا جاسکتا ہے تو اُس کو حکم دیا جائے گا کہ اُسی طرح ٹھیک کر دے اور ٹھیک نہ کیا جاسکتا ہو تو اُس سے قیمت وصول کی جائے اور یہ ٹوٹی ہوئی چیز اسے دے دی جائے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ → دیوار گرا دی اور ویسی ہی بنادی تو ضمان سے بری ہو گیا اور لکڑی کی دیوار تھی اُسی لکڑی کی بنائی بری ہو گیا اور دوسری لکڑی کی بنائی تو بری نہ ہو یا اُس سے بہتر ہے تو بری ہو جائے گا۔^(۷) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۴ → دوسرے کی زمین سے مٹی اٹھائی اگر وہاں مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور مٹی لے لینے سے زمین میں کوئی

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثانی فی احکام المغصوب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۶.

②..... المرجع السابق، ص ۱۲۸.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثالث فیما لایجب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۸.

④..... سلائی۔

⑤..... شے کی مختلف اجزاء کو ملانا۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثالث فیما لایجب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۸.

⑦..... "الدر المختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۰۴.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثالث فیما لایجب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۹.

نقصان بھی پیدا نہیں ہوا تو کچھ نہیں اور زمین میں نقصان ہو گیا تو نقصان کا حمان دے اور اگر مٹی کی وہاں قیمت ہے تو تاوان بہر حال ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ دوسرے کا گوشت بغیر اُس کے حکم کے پکا ڈالا حمان دینا ہوگا اور اگر مالک نے گوشت کو دیکھی میں رکھ کر چولہے پر چڑھا دیا اور چولہے میں لکڑیاں بھی رکھ دی تھیں اس نے اُس کے بغیر کہے لکڑیوں میں آگ دیدی اور گوشت پک گیا اس پر تاوان نہیں اسی کی مثل چار صورتیں اور ہیں۔ اول یہ کہ کسی شخص کے گےہوں بغیر اُس کے حکم کے پیس دیے تاوان دینا ہوگا اور اگر گےہوں والے نے گےہوں پینے کے لیے چکی میں ڈالے تھے اور چکی میں بیل جوڑ دیا تھا اس نے بیل کو چلا دیا اور گےہوں پس گئے تاوان نہیں۔ دوم یہ کہ دوسرے کا گھڑ اٹھایا اور ٹوٹ گیا تاوان دینا ہوگا اور گھڑے والے نے گھڑ اچھا کیا اور اٹھانا چاہتا تھا اس نے ہاتھ لگا دیا اور گھڑ دونوں سے چھوٹ کر گرا تاوان نہیں۔ سوم کسی کے جانور پر بوجھ لا دیا اور جانور ہلاک ہو گیا تاوان ہے اور اگر مالک نے بوجھ لا دیا تھا اور وہ بوجھ راستہ میں گر پڑا اس نے اٹھا کر لا دیا اور جانور ہلاک ہو گیا تاوان نہیں۔ چہارم کسی کے قربانی کا جانور ایام قربانی کے سوا دوسرے دنوں میں ذبح کیا تاوان ہے اور قربانی کے دنوں میں ذبح کر ڈالا جائز ہے اور تاوان نہیں۔ جن صورتوں میں تاوان نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ صراحتہً اجازت نہیں ہے مگر دلالتہً اجازت ہے اور دلالت بھی اعتبار کی جاتی ہے جبکہ صراحت کے خلاف نہ ہو۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ ایک شخص نے دیوار گرانے کے لیے مزدور اکٹھے کیے تھے اس کی دیوار بلا اجازت گرا دی تاوان نہیں کہ یہاں بھی دلالتہً اجازت ہے۔ اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو کام ایسا ہے کہ اُس میں جس سے بھی مدد لے لیں فرق نہیں ہوتا اُس میں دلالت کافی ہے اور اگر ہر شخص یکساں نہ کر سکتا ہو تو ہر شخص کے لیے اجازت نہیں ہے مثلاً بکری ذبح کر کے کھال کھینچنے کے لیے لٹکا دی تھی کوئی آیا اور اُس نے بغیر اجازت کھال کھینچی ضامن ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ قصاب نے بکری خریدی تھی اور بغیر اجازت کسی نے ذبح کر ڈالی حمان دینا ہوگا اور اگر قصاب نے بکری کو گرا کر اس کے ہاتھ پاؤں ذبح کرنے کے لیے باندھ رکھے تھے اور اس نے ذبح کر دی تاوان نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ دوسرے کے مال کو بغیر اجازت خرچ کرنا چند موقعوں پر جائز ہے۔ مریض کے مال یعنی نقود کو اُس کا باپ یا بیٹا اوس کی ضروریات میں بغیر اجازت صرف کر سکتا ہے۔ سفر میں کوئی شخص بیمار ہو گیا یا وہ بیہوش ہو گیا اُس کے ساتھ والے اُس کی

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثالث فیمالایجب... إلخ، ج ۵، ص ۱۲۹.

②.....المرجع السابق.

③.....المرجع السابق.

④.....المرجع السابق.

ضروریات میں اُس کا مال صرف کر سکتے ہیں۔ مودع مودع کے مال کو اُس کے والدین پر خرچ کر سکتا ہے جبکہ ایسی جگہ ہو کہ قاضی سے اجازت حاصل نہ کر سکے۔ سفر میں کوئی شخص مر گیا اُس کے سامان کو بیچ کر تجہیز و تکفین میں صرف کر سکتے ہیں اور باقی جو رہ جائے وہ ورثہ کو دے دیں۔ مسجد کا کوئی متولی نہیں ہے اہل محلہ مسجد کی آمدنی کو لوٹے چٹائی وغیرہ ضروریات مسجد میں صرف کر سکتے ہیں۔ میت نے کسی کو وصی نہیں کیا ہے بڑے ورثہ چھوٹوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ (1) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ جانور چھوٹ گیا اور اُس نے کسی کا کھیت چر لیا تاوان واجب نہیں۔ بلی نے کسی کا کبوتر کھا لیا تو تاوان نہیں اور اگر کبوتر یا مرغی پر بلی چھوڑی اور اُس نے اُسی وقت پکڑ لیا تاوان ہے اور کچھ دیر بعد پکڑا تو تاوان نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ مسلمان کے پاس شراب تھی اُسے کسی نے تلف کر دیا (3) اس پر تاوان نہیں تلف کرنے والا مسلم ہو یا کافر اور ذمی کی شراب کسی نے تلف کی تو اُس پر تاوان ہے۔ مسلم نے تلف کی ہے تو قیمت دے اور ذمی نے تلف کی تو اُس کی مثل شراب دے۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۱۱ مسلمان نے کافر سے شراب خرید کر پی لی تو نہ ضمان واجب ہے نہ ثمن۔ (5) (درمختار)

مسئلہ ۱۲ مسلمان کی شراب غصب کر کے سرکہ بنا لیا اگر ایسی چیز ڈال کر بنایا جس کی کچھ قیمت نہیں ہے مثلاً تھوڑا سا نمک یا تھوڑے سے گیہوں تو یہ سرکہ اُسی کا ہے جس کی شراب تھی اور اگر زیادہ نمک وغیرہ ڈالا جس کی کچھ قیمت ہے تو سرکہ غاصب کا ہے اور غاصب پر تاوان بھی نہیں۔ (6) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ کسی نے دوسرے کی چیز تلف کر دی مالک نے اس کو جائز رکھا کہہ دیا کہ میں نے جائز کر دیا یا میں اس پر راضی ہوں وہ ضمان سے بری نہیں ہوگا یعنی مالک چاہے تو اس کہنے کے بعد بھی ضمان لے سکتا ہے۔ (7) (تنویر)

مسئلہ ۱۴ غاصب کے پاس سے کوئی دوسرا غصب کر کے لے گیا مالک کو اختیار ہے غاصب اول سے تاوان لے یا غاصب دوم سے، اگر غاصب اول سے ضمان لیا تو وہ غاصب دوم سے رجوع کرے گا اور غاصب دوم سے لیا تو وہ اول سے رجوع

①..... "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: فیما یجوز من التصرف... إلخ، ج ۹، ص ۳۳۴.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثالث فیما لایجب... إلخ، ج ۵، ص ۱۳۰.

③..... ضائع کر دیا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۴۹.

⑤..... المرجع السابق، ص ۳۵۰. ⑥..... المرجع السابق، ص ۳۵۱.

⑦..... "تنویر الأبصار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۳۱.

نہیں کر سکتا۔ یوں اگر غاصب نے مغضوب کو کسی کے پاس ودیعت رکھا تو مالک اس مودع سے تاوان لے سکتا ہے ایک سے ضمان لے گا تو دوسرا بری ہو جائے گا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ غاصب الغاصب نے مغضوب چیز غاصب اول کے پاس واپس کر دی تاوان سے بری ہو گیا اور مغضوب چیز غاصب دوم نے ہلاک کر دی اور اُس کی قیمت غاصب اول کو دیدی اب بھی بری ہو گیا اب مالک اس سے تاوان کا مطالبہ نہیں کر سکتا مگر یہ ضرور ہے کہ مغضوب کا واپس کرنا یا اُس کی قیمت ادا کرنا معروف ہو قاضی نے اس کے متعلق فیصلہ کیا ہو یا گواہوں سے ثابت ہو یا خود مالک نے تصدیق کی ہو۔ اور اگر یہ باتیں نہ ہوں بلکہ غاصب اول نے اقرار کیا ہو کہ اُس نے چیز یا اُس کی قیمت مجھ کو دیدی ہے تو یہ اقرار محض غاصب اول کے حق میں معتبر ہے یعنی اُس کو لینے والا اقرار دیا جائے گا اصل مالک کے حق میں وہ اقرار بے کار ہے یعنی وہ اب بھی غاصب دوم سے مطالبہ کر کے ضمان وصول کر سکتا ہے مگر چونکہ غاصب اول اقرار کر چکا ہے لہذا غاصب دوم اُس سے رجوع کرے گا اور اگر غاصب اول سے مالک نے ضمان لیا تو وہ دوم سے نہیں لے سکتا کہ مغضوب یا اُس کی قیمت پانے کا اقرار کر چکا ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ غاصب نے مغضوب کو بطور عاریت دے دیا ہے تو مالک معیر و مستعیر جس سے چاہے ضمان لے سکتا ہے جس سے لے گا وہ دوسرے سے نہیں لے سکتا ہاں اگر مستعیر نے اس چیز کو تلف کر دیا ہے اور مالک نے معیر سے ضمان لیا تو وہ مستعیر سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور غاصب نے ہبہ کر دیا ہے اور موہوب لہ کے پاس ہلاک ہو گئی اور مالک نے اس سے ضمان لیا تو یہ واہب سے رجوع نہیں کر سکتا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ غاصب نے مغضوب کو بیچ ڈالا اور مشتری کو تسلیم کر دیا اور مالک نے غاصب سے ضمان لے لیا تو بیچ صحیح ہو گئی اور ثمن غاصب کا ہو گیا اور مشتری سے ضمان لیا تو بیچ باطل ہو گئی مشتری غاصب سے ثمن واپس لے لے اور اگر بیچ مشتری کو نہیں دی ہے تو مشتری سے ضمان نہیں لے سکتا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ غاصب نے مغضوب کو رہن رکھ دیا ہے یا اجرت پر دے دیا ہے اور مالک نے مرتہن یا مستاجر سے تاوان لیا تو یہ غاصب پر رجوع کریں گے، یوں مودع سے تاوان لیا تو وہ غاصب سے وصول کرے گا۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثانی عشر فی غاصب الغاصب... إلخ، ج ۵، ص ۱۴۶.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: فی ابحاث غاصب الغاصب، ج ۹، ص ۳۳۰.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثانی عشر فی غاصب الغاصب... إلخ، ج ۵، ص ۱۴۶.

④..... المرجع السابق، ص ۱۴۷.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: فی ابحاث غاصب الغاصب، ج ۹، ص ۳۳۱.

مسئلہ ۱۹ مالک کو اختیار ہے کہ کچھ حصہ ضمان کا غاصب سے لے اور باقی غاصب الغاصب سے اور ایک سے ضمان کو اختیار کر لیا تو اب دوسرے سے نہیں لے سکتا۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۲۰ غاصب سے مغضوب کو کسی نے اس لیے لیا ہے کہ مالک کو دیدے گا مالک کے یہاں گیا وہ نہیں ملا تو یہ شخص غاصب الغاصب کے حکم میں ہے جب تک مالک کو دے نہ دے بری الذمہ نہ ہوگا۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱ ایک شخص نے گھوڑا غصب کیا اس سے دوسرے نے غصب کیا دوسرے کے یہاں سے مالک چورا لے گیا پھر غاصب دوم اس مالک سے زبردستی چھین لے گیا اور مالک کو اس سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے مالک یہ چاہتا ہے کہ غاصب اول سے مطالبہ کرے اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اُس کی چیز اُس کو مل گئی کسی طرح سے بھی ملی غاصب بری ہو گیا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ غاصب نے مغضوب کو بیع کر دیا اور مالک نے اس بیع کو جائز کر دیا بیع صحیح ہو جائے گی بشرطیکہ وقت اجازت بائع یعنی غاصب اور مشتری و مغضوب سب موجود ہوں ہلاک نہ ہوئے ہوں اور یہ اجازت مقدمہ دائر کرنے سے قبل ہو۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ غاصب نے مغضوب کو بیع کر دیا پھر خود غاصب اس چیز مغضوب کا مالک ہو گیا کہ مالک سے خرید لی یا اُس نے اسے ہبہ کر دی یا میراث میں یہ چیز اسے ملی تو وہ پہلی بیع جو اس نے کی تھی باطل ہو گئی۔^(۵) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۴ شہر یا گاؤں میں آگ لگ گئی بجھانے کے لیے کسی کی دیوار یا مکان پر چڑھا اور اس کے چڑھنے سے عمارت کو نقصان پہنچا کوئی چیز ٹوٹ گئی یا دیوار گر گئی اس کا تاوان واجب نہیں۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۲۵ کسی کے مکان میں بغیر اجازت مالک داخل ہونا جائز نہیں مگر بضرورت مثلاً اس کا کپڑا اڑ کر اُس مکان میں چلا گیا اور معلوم ہے کہ اگر مالک مکان سے کہہ دے گا تو وہ لے لے گا اسے نہیں دے گا مگر اچھے لوگوں سے یہ کہہ دے کہ محض اس غرض سے مکان میں گھسنا چاہتا ہے اور اگر مالک سے اندیشہ نہیں ہے تو جانے کی ضرورت نہیں مالک سے کہہ دے کہ کپڑا لاکر

①....."الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۳۰.

②....."ردالمختار"، کتاب الغصب، مطلب: فی اباحت غاصب الغاصب، ج ۹، ص ۳۳۱.

③....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الثانی عشر فی غاصب الغاصب... إلخ، ج ۵، ص ۱۴۸.

④....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۱۴۹، ۱۵۰.

⑤....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب البیوع، الباب التاسع فیما یجوز بیعہ... إلخ، الفصل الثالث، ج ۳، ص ۱۱۱.

⑥....."الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۳۳.

دیدے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اچکا اس کی چیز لے کر کسی کے مکان میں گھس گیا یہ اُس سے لینے کے لیے اُس کے پیچھے جاسکتا ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ — ایک شخص نے قبر کھودوائی تھی دوسرے نے اپنی میت اُس میں دفن کر دی اگر یہ زمین پہلے شخص کی مملوک ہے تو وہ قبر کھود کر میت نکلا سکتا ہے یا زمین کو برابر کر کے اُس کو کام میں لاسکتا ہے اور میت کی توہین کرنے والا یہ نہیں ہے۔ بلکہ حقیقتاً میت کی توہین اُس نے کی کہ بغیر اجازت پر ائی زمین میں دفن کر دی۔ اور اگر وہ زمین مباح یا وقف ہے تو نہ میت کو نکال سکتا ہے نہ زمین کو برابر کر سکتا ہے قبر کھودنے کی اجرت لے سکتا ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۷ — غاصب⁽³⁾ نے مغضوب چیز کو غائب کر دیا پتا نہیں چلتا کہ کہاں ہے مالک کو اختیار ہے کہ صبر کرے اور چیز ملنے کا انتظار کرے اور چاہے تو غاصب سے ضمان لے اگر غاصب سے ضمان لے لیا تو چیز غاصب کی ہوگئی اور غاصب کی یہ ملکِ مستند ہے یعنی اگر چہ ملک کا حکم اس وقت دیا جائے گا مگر یہ ملک وقتِ غصب سے شمار ہوگی اور اس چیز میں جو زوائد متصّل ہوئے غاصب ان کا بھی مالک ہے⁽⁴⁾ اور زوائد متفصلہ⁽⁵⁾ کا مالک نہیں جیسے درخت میں پھل اور جانوروں میں بچے۔⁽⁶⁾ (ہدایہ، عنایہ)

مسئلہ ۲۸ — اُس چیز کی قیمت کیا ہے اگر اس میں اختلاف ہے تو گواہ مالک کے معتبر ہیں اور گواہ نہ ہوں تو غاصب جو کہتا ہے قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے۔⁽⁷⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۲۹ — غاصب اگر یہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے میں نہیں جانتا تو اُسے مجبور کیا جائے گا کہ بتائے اور نہیں

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: فیما يجوز فيه... إلخ، ج ۹، ص ۳۳۳.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، ج ۹، ص ۳۳۳.

③..... غصب کرنے والا۔

④..... یعنی ایسی زیادتیاں جو اس چیز کے ساتھ متصل ہوں وہ بھی غاصب کی ملکیت شمار ہوں گی۔

⑤..... چیز میں ایسی زیادتی جو اس کے ساتھ متصل نہ ہو۔

⑥..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل، ج ۲، ص ۳۰۲.

و "العناية" علی "فتح القدير"، کتاب الغصب، فصل، ج ۸، ص ۲۷۲.

⑦..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل، ج ۲، ص ۳۰۲.

و "الدرالمختار"، کتاب الغصب، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۹، ص ۳۳۷.

بتاتا تو جو کچھ مالک کہتا ہے اُس پر غاصب کو قسم دی جائے یعنی قسم کھائے کہ یہ قیمت نہیں ہے جو مالک کہتا ہے اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو مالک جو کچھ کہتا ہے دینا ہوگا اور قسم کھا گیا تو مالک کو قسم کھانی ہوگی کہ جو کچھ میں نے قیمت بیان کی وہی ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۰ شے مغضوب ضمان لینے کے بعد ظاہر ہوگئی تو مالک کو اختیار ہے کہ ضمان جو لے چکا ہے واپس کر دے اور اپنی چیز لے لے اور چاہے تو ضمان کو نافذ کر دے یہ اُس صورت میں ہے کہ قیمت وہ لی گئی جو غاصب نے بتائی ہے اور غاصب کو اختیار نہیں ہے اور اگر قیمت وہ دلائی گئی ہے جو مالک نے بتائی یا مالک نے گواہوں سے ثابت کی ہے یا غاصب پر قسم دی گئی اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا ہے تو ان صورتوں میں مالک اس چیز کو نہیں لے سکتا۔⁽²⁾ (ہدایہ، عنایہ)

مسئلہ ۳۱ مغضوب میں جو زیادت منفصلہ پیدا ہوئی مثلاً جانور کا دودھ، درخت کے پھل، یہ غاصب کے پاس بمنزلہ امانت ہے اگر غاصب نے اُس میں تعدی کی، ہلاک کر ڈالی، خرچ کر ڈالی یا مالک نے طلب کی اور غاصب نے نہیں دی جب تو ضمان واجب ہوگا ورنہ ان کا ضمان واجب نہیں۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۲ طبلہ، سارنگی، ستار،⁽⁴⁾ یکتارا،⁽⁵⁾ ستار،⁽⁶⁾ یکتارا،⁽⁷⁾ دو تارا،⁽⁸⁾ ڈھول اور ان کے علاوہ دوسری قسم کے باجے کسی نے توڑ ڈالے توڑنے والے کو تاوان دینا ہوگا مگر تاوان میں باجے کی قیمت نہیں دی جائے گی بلکہ اس قسم کی لکڑی گھدی ہوئی باجے کے سوا اگر کسی جائز کام میں آئے اُس کی جو قیمت ہو وہ دی جائے یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مگر صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے وہ یہ کہ توڑنے والے پر کچھ بھی تاوان واجب نہیں بلکہ ان کی بیع بھی جائز نہیں اور یہ اختلاف اسی صورت میں ہے جب وہ لکڑی کسی کام میں آسکتی ہو ورنہ بالاتفاق تاوان نہیں اور اگر امام کے حکم سے توڑے ہوں تو بالاتفاق تاوان واجب نہیں اور یہ اختلاف اُس میں ہے کہ وہ باجے ایسے شخص کے نہ ہوں جو گاتا بجاتا ہو

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الغصب، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۹، ص ۳۳۸.

②..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل، ج ۲، ص ۳۰۲، ۳۰۳.

و "العناية"، علی "فتح القدير"، کتاب الغصب، فصل، ج ۸، ص ۲۷۳.

③..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۹، ص ۳۴۱.

④..... ایک قسم کا ایک رُخا ڈھول۔ ⑤..... ایک قسم کا ساز جس میں تار لگے ہوئے ہوتے ہیں اسے گز سے بجایا جاتا ہے۔

⑥..... ایک قسم کا ساز جسے مضراب (ستار بجانے کے لئے استعمال ہونے والا ایک چھوٹا سا آلہ) سے بجایا جاتا ہے۔

⑦..... ایک قسم کا باجا جس میں ایک تار لگا ہوتا ہے۔ ⑧..... ایک قسم کی چھوٹی سارنگی جس میں دو تار ہوتے ہیں۔

اور گویے کے ہوں تو بھی بالاتفاق تاوان واجب نہیں۔⁽¹⁾ (ہدایہ، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۳ شطرنج، گنجفہ⁽²⁾، چوسر⁽³⁾، تاش وغیرہ ناجائز کھیل کی چیزیں تلف کر دیں ان کا بھی تاوان واجب نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ طبل غازی کو توڑ ڈالا یا وہ دف جس کو شادیوں میں بجانا جائز ہے اسے توڑا یا چھوٹے بچوں کے تاشے باجے توڑ ڈالے تو ان کا تاوان ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ بولنے والے کبوتر یا فاختہ کو تلف کیا تو تاوان میں وہ قیمت لی جائے گی جو بولنے والے کی ہے اسی طرح بعض کبوتر خوبصورت ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو تاوان میں یہی قیمت لی جائے گی اور اڑنے والے کبوتروں میں وہ قیمت لگائی جائے گی جو نہ اڑنے والے کی ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ سینگ والا مینڈھا جو لڑایا جاتا ہے یا اصیل مرغ جس کو لڑاتے ہیں ان میں وہ قیمت لگائی جائے گی جو نہ لڑنے والوں کی ہے کیونکہ ان کا لڑانا حرام ہے قیمت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری) یوہیں تیر، بیئر وغیرہ لڑاتے ہیں اور اس کی وجہ سے انھیں بہت داموں میں خریدتے بیچتے ہیں ان کے اتلاف میں وہی قیمت لی جائے گی جو گوشت کھانے کے تیر بیئر کی ہو۔

مسئلہ ۳۷ درخت میں چھوٹے چھوٹے پھل ہیں جو اس وقت کسی کام کے نہیں جیسے امرود کے ابتدائی پھل وہ تلف کر ڈالے تو یہ نہیں خیال کیا جائے گا کہ ان کی کچھ قیمت نہیں ہے بلکہ تاوان لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ تنہا درخت کی کیا قیمت ہے اور درخت مع پھل کی کیا قیمت ہے جو زیادتی قیمت میں ہو وہ نقصان کرنے والے سے لی جائے۔ یوہیں اگر درخت میں

①..... "الهدایة"، کتاب الغصب، فصل فی غصب مالا یتقدم، ج ۲، ص ۳۰۷.

و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، کتاب الغصب، مطلب: فی ضمان... إلخ، ج ۹، ص ۳۵۲.

②..... ایک قسم کا کھیل جس میں 96 گول پتے اور تین کھلاڑی ہوتے ہیں۔

③..... ایک قسم کا کھیل جو سات کوڑیوں سے کھیلا جاتا ہے اس کی بساط کے چار حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے میں نو خانے ہوتے ہیں۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع فی کیفیۃ الضمان، ج ۵، ص ۱۳۱.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الغصب، فصل فی مسائل متفرقة، ج ۹، ص ۳۵۴.

و"الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع فی کیفیۃ الضمان، ج ۵، ص ۱۳۱.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع فی کیفیۃ الضمان، ج ۵، ص ۱۳۱.

⑦..... المرجع السابق.

کلیاں نکلی ہیں اور کسی نے ان کو جھاڑ کر گرا دیا تو یہاں بھی اسی صورت سے تاوان لیا جائے گا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ کسی شخص نے خاص کوئیں میں نجاست ڈالی تو اس سے تاوان لیا جائے گا۔ اور عام کوئیں میں ڈالی تو اسے حکم ہوگا کہ کوئیں کو پاک کرے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ علی بن عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایک شخص کا ایک روپیہ دوسرے کے دو روپے میں مل گیا اُس کے پاس سے دو روپے جاتے رہے ایک باقی ہے اور معلوم نہیں یہ کس کا روپیہ ہے اس کا کیا حکم ہے امام نے فرمایا وہ جو باقی ہے اُس میں سے ایک تہائی ایک روپیہ والے کی ہے اور دو تہائیاں دو روپے والے کی۔ علی بن عاصم کہتے ہیں اس کے بعد میں ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملا اور ان سے بھی یہی سوال کیا انھوں نے کہا تم نے اس کو کسی اور سے بھی پوچھا ہے میں نے کہا ہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا ہے ابن شبرمہ نے کہا انھوں نے یہ جواب دیا ہوگا میں نے کہا ہاں۔ ابن شبرمہ نے کہا انھوں نے غلط جواب دیا اس لیے کہ دو روپے جو گم ہو گئے اون میں ایک تو یقیناً اُس کا ہے جس کے دو روپے تھے اور ایک میں احتمال ہے کہ اُس کا ہو یا ایک روپیہ والے کا ہو اور جو باقی ہے اس میں بھی احتمال ہے کہ دو روپے والے کا ہو یا ایک والے کا دونوں برابر کا احتمال رکھتے ہیں لہذا نصف نصف دونوں بانٹ لیں۔ کہتے ہیں مجھے ابن شبرمہ کا جواب بہت پسند آیا پھر میں امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ملا اور ان سے کہا کہ اس مسئلہ میں آپ کے خلاف جواب ملا ہے امام (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کیا تم ابن شبرمہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کے پاس گئے تھے میں نے کہا ہاں۔ فرمایا انھوں نے تم سے یہ کہا ہے وہ سب باتیں بیان کر دیں میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ جب تینوں روپے مل گئے اور امتیاز باقی نہ رہا تو ہر روپیہ میں دونوں شریک ہو گئے ایک والے کی ایک تہائی اور دو روپے والے کی دو تہائیاں پھر جب دو گم ہو گئے تو دونوں کی شرکت کے دو روپے گم ہوئے اور جو باقی ہے یہ بھی دونوں کی شرکت کا ہے کہ ایک تہائی ایک کی اور دو تہائیاں دوسرے کی۔⁽³⁾ (جوہرہ)

مسئلہ ۴۰ ایک شخص نے دوسرے سے کہا اس بکری کو ذبح کر دو اس نے ذبح کر دی اور بکری اس کی نہ تھی جس نے ذبح کرنے کو کہا تھا تو ذبح کرنے والے کو تاوان دینا ہوگا اسے یہ بات کہ بکری دوسرے کی ہے معلوم ہو یا نہ ہو دونوں کا ایک حکم ہے ہاں یہ فرق ہے کہ اگر معلوم نہیں ہے تو کہنے والے سے رجوع کر سکتا ہے اور معلوم ہو تو رجوع بھی نہیں کر سکتا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع فی کیفیۃ الضمان، ج ۵، ص ۱۳۱.

②..... المرجع السابق، ص ۱۳۲.

③..... "الجوہرۃ النیرۃ"، کتاب الغصب، الجزء الأول، ص ۴۴۶.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب التاسع فی الأمر بالاتلاف... إلخ، ج ۵، ص ۱۴۲.

مسئلہ ۳۱ — کسی نے کہا میرے اس کپڑے کو پھاڑ کر پانی میں ڈال دو اُس نے ایسا ہی کیا تو اُس پر تاوان نہیں مگر گنہگار ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ — زمین غصب کر کے اُس میں کوئی چیز بوئی مالک نے کھیت جوت کر کوئی اور چیز بودی مالک کو تاوان نہیں دینا ہوگا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ — دوسرے کی زمین میں بغیر اجازت کاشت کی مالک نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا میرا کھیت واپس دو بونے والے نے کہا اتنے ہی بیج مجھے دے دو اور میں اجرت کے طور پر کام کروں گا یا یہ کہ جو کچھ کھیت میں ہوں نصف میرا اور نصف تمہارا مالک زمین نے بیج دے دیے پیداوار مالک زمین لے گا اور اس کو اجرت مثل دے گا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ — درخت کی شاخ دوسرے کی دیوار پر آگئی اس کو اپنی دیوار کے نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہے مالک درخت سے کہہ دے کہ شاخ کاٹ ڈالو ورنہ میں خود کاٹ ڈالوں گا اگر مالک نے کاٹ دی فبہا ورنہ یہ کاٹ ڈالے اس پر تاوان واجب نہیں کہ مالک کا خاموش رہنا رضامندی کی دلیل ہے اور اگر مالک درخت سے بغیر کہے کاٹ ڈالی تو تاوان واجب ہوگا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ — دو انڈے غصب کئے ایک کو مرغی کے نیچے رکھ دیا اور دوسرے کو اس نے نہیں رکھا بلکہ مرغی آپ سیتی رہی^(۵) اور دونوں سے بچے ہوئے تو دونوں غاصب کے ہیں اور غاصب سے دو انڈے تاوان میں لیے جائیں گے اور اگر غصب نہ کیے ہوتے بلکہ اس کے پاس ودیعت ہوتے تو جس انڈے کو مرغی نے خودی کر بچہ نکالا وہ مودع کا ہوتا اور جس کو مرغی کے نیچے رکھا وہ مودع کا ہوتا اور اس انڈے کا تاوان دینا ہوتا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ — تنور میں اتنی لکڑیاں ڈال دیں کہ تنور اُن کا متحمل نہ تھا شعلہ اٹھا اور وہ مکان جلا اور پروس کا مکان بھی جل گیا اس مکان کا تاوان دینا ہوگا۔^(۷) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب التاسع فی الأمر بالاتلاف... إلخ، ج ۵، ص ۱۴۳.

②..... المرجع السابق، الباب العاشر فی زراعة الأرض المغصوبة، ج ۵، ص ۱۴۴. ③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۱۵۰.

⑤..... مرغی خود انڈوں پر بچے نکالنے کے لیے پیٹھتی رہی۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الغصب، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۱۵۱.

⑦..... المرجع السابق، ص ۱۵۲.

مسئلہ ۳۷ → ایک شخص کا دامن دوسرے شخص کے نیچے دبا ہوا تھا دامن والے کو خبر نہ تھی وہ اوٹھا اور دامن پھٹ گیا آدھا تاوان اس پر واجب ہے جس نے دبا رکھا تھا۔^(۱) (خانہ)

مسئلہ ۳۸ → دلال کو بیچنے کے لیے چیز دی تھی دلال کو معلوم ہوا کہ یہ چیز چوری کی ہے، جس نے دی اُسے واپس کر دی مالک نے دلال سے اپنی چیز مانگی اس نے کہا جس نے مجھے دی تھی اُس کو دے دی دلال بری ہو گیا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ → دائن نے مدیون کے سر سے پگڑی اوتار لی اور یہ کہا کہ جب میرا روپیہ لاؤ گے تمہاری پگڑی دے دوں گا وہ جب روپیہ لایا تو پگڑی ضائع ہوئی تھی تو اس کے لیے غضب کا حکم نہیں ہے بلکہ رہن کا حکم ہے کہ مرہون چیز ہلاک ہونے پر جو کیا جاتا ہے یہاں بھی کیا جائے گا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۰ → ایک جانور دوسرے کے گھر میں گھس گیا گھر میں سے نکالنا جانور کے مالک کا کام ہے۔ اور پرند کسی کے کونے میں گر کر مر گیا تو کونے سے اُس کو نکالنا پرند کے مالک کا کام ہے کو آں صاف کرانا اُس کے ذمہ نہیں۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۱ → تریز غضب کیا اور اُس میں سے ایک کھانپ کاٹ لی تو تریز مالک ہی کا ہے اور سب کھانپیں کاٹ ڈالیں تو مالک کی ملک جاتی رہی۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ → ایک مکان میں بہت لوگ جمع تھے صاحب خانہ کا آئینہ اوٹھا کر ایک نے دیکھا اُس نے دوسرے کو دے دیا یکے بعد دیگرے سب دیکھتے رہے اور آئینہ ٹوٹ گیا کسی سے تاوان نہیں لیا جائے گا کہ ایسی چیزوں کے استعمال کی عادت اجازت ہو کرتی ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۵۳ → ایک نے کسی کی ٹوپی اوتار کر دوسرے کے سر پر رکھ دی اُس نے اپنے سر سے اوتار کر ڈال دی پھر وہ ٹوپی ضائع ہوئی اگر اُس نے ٹوپی والے کے سامنے پھینکی ہے کہ اگر وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے تو کسی پر تاوان نہیں ورنہ تاوان ہے دونوں میں سے جس سے چاہے تاوان وصول کر سکتا ہے۔ یوہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اُس کے سر سے ٹوپی گر گئی اُس کو کسی نے وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں سے چور لے گیا اگر ایسی جگہ ہٹا کر رکھی کہ مُصلتی لینا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہے تو ہٹانے والے پر تاوان نہیں اور اگر دور رکھی تو تاوان ہے۔^(۷) (عالمگیری)

①....."الفتاویٰ الخانیة"، کتاب الغصب، فصل فیما یصیر بہ المرء غاصباً و ضامناً، ج ۲، ص ۲۶۲.

②....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الغصب، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۱۵۴.

③.....المرجع السابق، ص ۱۵۵. ④.....المرجع السابق. ⑤.....المرجع السابق.

⑥.....المرجع السابق، ص ۱۵۸. ⑦.....المرجع السابق، ص ۱۵۹.

شفعہ کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری میں ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پروسی کو شفعہ کرنے کا حق ہے۔“ (1)

حدیث ۲ امام احمد و ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و دارمی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پروسی کو شفعہ کرنے کا حق ہے اس کا انتظار کیا جائے گا اگرچہ وہ غائب ہو جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔“ (2)

حدیث ۳ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شریک شفع ہے اور شفعہ ہر شے میں ہے۔“ (3)

حدیث ۴ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا کہ شفعہ ہر شرکت کی چیز میں ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو مکان ہو یا باغ ہو۔ اُسے یہ حلال نہیں کہ شریک کو بغیر خبر کیے بیچ ڈالے خبر کرنے پر وہ چاہے تو لے لے اور چاہے چھوڑ دے اور اگر بغیر خبر کیے اُس نے بیچ ڈالا تو وہ حقدار ہے۔ (4)

حدیث ۵ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ شفعہ ہر غیر منقسم چیز میں ہے اور جب حد و واقع ہو گئے اور راستے پھیر دیے گئے یعنی تقسیم کر کے ہر ایک کا راستہ جدا کر دیا گیا تو اب شفعہ نہیں یعنی شرکت کی وجہ سے جو شفعہ تھا وہ اب نہیں۔ (5)

حدیث ۶ صحیح بخاری میں عمرو بن شرید سے مروی ہے کہتے ہیں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا اتنے میں ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہ کہا کہ سعد تمہارے دار میں جو میرے دو مکان ہیں انھیں خرید لو انھوں نے کہا میں نہیں خریدوں گا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ تم کو خریدنا ہوگا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ میں چار ہزار درہم سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی باقسط ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ مجھے پانسوا شرفیاں مل رہی ہیں

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الشفعة... إلخ، باب عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیع، الحدیث: ۲۲۵۸، ج ۲، ص ۶۱.

②..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأحکام، باب ماجاء فی الشفعة للغائب، الحدیث: ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۸۳.

③..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأحکام، باب ماجاء ان الشریک شفیع، الحدیث: ۱۳۷۶، ج ۳، ص ۸۴.

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب المساقاة... إلخ، باب الشفعة، الحدیث: ۱۳۳، ۱۳۴، (۱۶۰۸)، ص ۸۶۸.

⑤..... ”صحیح البخاری“، کتاب الشفعة... إلخ، باب الشفعة فیما لم یقسم... إلخ، الحدیث: ۲۲۵۷، ج ۲، ص ۶۱.

اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا نہ ہوتا کہ پروسی کو قرب کی وجہ سے حق ہوتا ہے تو چار ہزار میں نہیں دیتا جبکہ پانسو دینار مجھے مل رہے ہیں یہ کہہ کر ان کو چار ہزار میں دے دیا۔⁽¹⁾

مسائل فقہیہ

غیر منقول جائیداد کو کسی شخص نے جتنے میں خریدا اتنے ہی میں اُس جائیداد کے مالک ہونے کا حق جو دوسرے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو شفعہ کہتے ہیں۔ یہاں اس کی ضرورت نہیں کہ مشتری اس پر راضی ہو جب ہی شفعہ کیا جائے وہ راضی ہو یا ناراض بہر صورت جو حق دار ہے لے سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ حق حاصل ہے اس کو شفعہ کہتے ہیں۔ مشتری نے مثلی چیز کے عوض میں جائیداد خریدی ہے مثلاً روپے اثرنی پیسے کے عوض میں ہے تو اُس کی مثل دے کر شفعہ لے لے گا اور اگر قیمتی چیز ثمن ہے تو اُس کی جو کچھ قیمت ہے وہ دے گا۔

مسئلہ ۱ شفعہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کی ملک جائیداد مبیعہ سے متصل ہے خواہ اُس جائیداد میں شفعہ کی شرکت ہو یا اس کا جوار (پروس) ہو۔⁽²⁾ (در مختار)

مسئلہ ۲ شفعہ کے شرائط حسب ذیل ہیں۔ (۱) جائیداد کا انتقال عقد معاوضہ کے ذریعہ سے ہو یعنی بیع یا معنی بیع میں ہو۔ معنی بیع مثلاً جائیداد کو بدل صلح قرار دیا یعنی اُس کو دے کر صلح کی ہو اور اگر انتقال میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو شفعہ نہیں ہو سکتا مثلاً ہبہ، صدقہ، میراث، وصیت کی رو سے جائیداد حاصل ہوئی تو اُس پر شفعہ نہیں ہو سکتا۔ ہبہ بشرط العوض میں اگر دونوں جانب سے تقابض بدلیں ہو گیا تو شفعہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہبہ میں عوض کی شرط نہ تھی مگر موہوب لہ نے عوض دے دیا مثلاً زید نے عمرو کو ایک مکان ہبہ کر دیا اور عمرو نے زید کو اُس کے عوض میں مکان ہبہ کیا تو دونوں میں سے کسی پر شفعہ نہیں ہو سکتا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

(۲) بیع عقار یعنی جائیداد غیر منقولہ ہو منقولات میں شفعہ نہیں ہو سکتا۔ (۳) بائع کی ملک زائل ہوگئی ہو لہذا اگر بائع کو اختیار شرط ہو تو شفعہ نہیں ہو سکتا جب وہ اپنا اختیار شرط ساقط کر دے گا تب ہو سکے گا۔ اور مشتری کو اختیار ہو تو شفعہ ہو سکتا ہے۔ (۴) بائع کا حق بھی زائل ہو گیا ہو یعنی بیع کے واپس لینے کا اُسے حق نہ ہو لہذا مشتری نے بیع فاسد کے ذریعہ سے جائیداد بیچی تو شفعہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مشتری نے اس جائیداد کو بیع صحیح کے ذریعہ فروخت کر ڈالا تو اب شفعہ ہو سکتا ہے اور اس شفعہ کو اگر بیع ثانی پر بنا کرے تو بیع ثانی

①..... "صحیح البخاری"، کتاب الشفعة... إلخ، باب عرض الشفعة... إلخ، الحدیث: ۲۲۵۸، ج ۲، ص ۶۱.

②..... "الدر المختار"، کتاب الشفعة، ج ۹، ص ۳۶۲.

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعة، الباب الأول فی تفسیرہا... إلخ، ج ۵، ص ۱۶۰.

کا جو کچھ ثمن ہے اُس کے ساتھ لے گا اور اگر بیع اول پر بنا کرے تو مشتری کے قبضہ کرنے کے دن جو اُس کی قیمت تھی وہ دینی ہوگی۔ (۵) جس جائداد کے ذریعہ سے اس جائداد پر شفعہ کرنے کا حق حاصل ہوا ہے وہ اس وقت شفعہ کی ملک میں ہو یعنی جبکہ مشتری نے اس شفعہ والی جائداد کو خریدا لہذا اگر وہ مکان شفعہ کے کرایہ میں ہو یا عاریت کے طور پر اوس میں رہتا ہے تو شفعہ نہیں کر سکتا یا اس مکان کو اس نے پہلے ہی بیع کر دیا ہے تو اب شفعہ نہیں کر سکتا۔ (۶) شفعہ نے اوس بیع سے نہ صراحتاً رضامندی ظاہر کی ہونہ دلالت۔ (۱)

مسئلہ ۳ دو منزلہ مکان ہے اُس کی دونوں منزل میں شفعہ ہو سکتا ہے مثلاً اگر صرف بالا خانہ فروخت ہوا تو شفعہ ہو سکتا ہے اگرچہ اوس کا راستہ نیچے کی منزل میں نہ ہو۔ (۲) (درمختار)

مسئلہ ۴ نابالغ اور مجنون کے لیے بھی حق شفعہ ثابت ہوتا ہے ان کا وصی یا ولی اس کا مطالبہ کرے گا۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ شفعہ کے ذریعہ سے جو جائداد حاصل کی گئی وہ اُسی کی مثل ہے جس کو خریدا ہے یعنی اس جائداد میں شفعہ کو اختیار و ریت خیار عیب حاصل ہوگا جس طرح مشتری کو ہوتا ہے۔ (۴) (درمختار)

مسئلہ ۶ شفعہ کا حکم یہ ہے کہ جب اس کا سبب پایا جائے یعنی جائداد بیچی گئی تو طلب کرنا جائز ہے اور بعد طلب و اشہاد یہ مؤکد ہو جاتا ہے اور قاضی کے فیصلہ یا مشتری کی رضامندی سے شفعہ اُس چیز کا مالک ہو جاتا ہے۔ (۵) (درمختار)

مسئلہ ۷ مکان موقوف کے متصل کوئی مکان فروخت ہوا تو نہ واقف شفعہ کر سکتا ہے نہ متولی نہ وہ شخص جس پر یہ مکان وقف ہے کہ شفعہ کے لیے یہ ضرورت تھی کہ جس کے ذریعہ سے شفعہ کیا جائے وہ مملوک ہو اور مکان موقوف مملوک نہیں۔ (۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ زمین موقوف میں کسی نے مکان بنایا ہے اور اُس کے جوار میں کوئی مکان فروخت ہوا تو یہ شفعہ نہیں کر سکتا اور اپنی عمارت بیع کرے تو اس پر بھی شفعہ نہیں ہو سکتا۔ (۷) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الأول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۱۶۰، ۱۶۱.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، ج ۹، ص ۳۶۲.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الأول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۱۶۱.

④..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، ج ۹، ص ۳۶۴.

⑤..... المرجع السابق، ص ۳۶۴، ۳۶۵.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الأول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۱۶۱.

⑦..... المرجع السابق.

مسئلہ ۹۔ جس جائیداد موقوفہ کی بیع نہیں ہو سکتی اگر کسی نے ایسی جائیداد بیع کر دی تو اس پر شفیعہ نہیں ہو سکتا کہ شفیعہ کے لیے بیع ہونا ضرور ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۱۰۔ اگر وقف ایسا ہو جس کی بیع جائز ہو اور وہ فروخت ہو تو اس پر شفیعہ ہو سکتا ہے اور اگر اُس کے جوار میں کوئی جائیداد فروخت ہوئی تو وقف کی جانب سے شفیعہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی مالک نہیں جو شفیعہ کر سکے۔ یو ہیں اگر جائیداد کا ایک جز وقف ہے اور ایک جز ملک اور جو حصہ ملک ہے وہ فروخت ہو تو وقف کی جانب سے اُس پر شفیعہ نہیں ہو سکتا۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۱۱۔ مکان کو نکاح کا مہر قرار دیا یا اُس کو اجرت مقرر کیا تو اُس پر شفیعہ نہیں ہو سکتا اور اگر مہر کوئی دوسری چیز ہے مکان کو اُس کے بدلے میں بیع کیا یا نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہو اور مہر مثل واجب ہو اُس کے بدلے میں عورت کے ہاتھ مکان بیع دیا تو شفیعہ ہو سکتا ہے۔^(۳) (عالمگیری)

شفعہ کے مراتب

مسئلہ ۱۔ شفیعہ کے چند اسباب مجتمع ہو جائیں تو اُن میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا جو سبب قوی ہو اُس کو مقدم کیا جائے۔ شفیعہ کے تین سبب ہیں۔ (۱) شفیعہ کرنے والا شریک ہے یا (۲) خلیط ہے یا (۳) جارِ ملاصق۔ شریک وہ ہے کہ خود بیع میں اُس کی شرکت ہو مثلاً ایک مکان دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شریک نے بیع کی تو دوسرے شریک کو شفیعہ پہنچتا ہے۔ خلیط کا یہ مطلب ہے کہ خود بیع میں شرکت نہیں ہے اس کا حصہ بائع کے حصہ سے ممتاز ہے مگر حق بیع میں شرکت ہے مثلاً دونوں مکانوں کا ایک ہی راستہ ہے اور راستہ بھی خاص ہے یا دونوں کے کھیت میں ایک نالی سے پانی آتا ہو۔ جارِ ملاصق یہ ہے کہ اس کے مکان کی پچھیت^(۴) دوسرے کے مکان میں ہو۔ ان سب میں مقدم شریک ہے پھر خلیط اور جارِ ملاصق کا مرتبہ سب سے آخر میں ہے۔^(۵) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۲۔ شریک نے مشتری کو تسلیم کر دی یعنی شفیعہ کرنا نہیں چاہتا ہے تو خلیط کو شفیعہ کا حق حاصل ہو گیا کہ اُس کے بعد اسی کا مرتبہ ہے یا اُس جائیداد میں کسی کی شرکت ہی نہیں ہے تو خلیط کو شفیعہ کا حق ہے اور خلیط نے بھی مشتری سے

①....."الدرالمختار"، کتاب الشفعة، ج ۹، ص ۳۷۱.

②.....المرجع السابق، ص ۳۷۲.

③....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعة، الباب الأول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۱۶۱.

④.....مکان کے پیچھے کی دیوار۔

⑤....."الہدایۃ"، کتاب الشفعة، ج ۲، ص ۳۰۸.

و"الدرالمختار"، کتاب الشفعة، ج ۹، ص ۳۶۵-۳۶۸.

نہیں لینا چاہا تسلیم کر دی یا کوئی خلیط ہی نہیں ہے تو جار کو حق ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - نہر عظیم اور راستہ عام میں شرکت سبب شفعہ نہیں ہے بلکہ اس صورت میں جار ملاصق کو شفعہ کا حق ملے گا۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۴ - نہر عظیم وہ ہے جس میں کشتی چل سکتی ہو اور اگر کشتی نہ چل سکے تو نہر صغیر ہے۔ (3) (درمختار)

مسئلہ ۵ - کوچہ سربستہ (4) میں جن لوگوں کے مکانات ہیں وہ سب خلیط ہیں کہ خاص راستہ میں شرکت ہوگئی۔ کوچہ سربستہ سے دوسرا راستہ نکلا کہ آگے چل کر یہ بھی بند ہو گیا اس میں بھی کچھ مکانات ہیں اگر اس میں کوئی مکان فروخت ہو تو اس کوچہ والے حقدار ہیں پہلے کوچہ والے نہیں اور پہلے کوچہ میں مکان فروخت ہو تو دونوں کوچہ والے برابر کے حقدار ہیں۔ (5) (ہدایہ)

مسئلہ ۶ - کوچہ سربستہ میں ایک مکان ہے جس میں ایک حصہ ایک شخص کا ہے اور ایک حصہ میں دو شخص شریک ہیں اور جس کوچہ میں یہ مکان ہے اس میں دوسروں کے بھی مکانات ہیں ایک شریک نے اپنا حصہ بیچ کیا تو اس کا شریک شفعہ کر سکتا ہے وہ نہ کرے تو دوسرا شخص کرے جو شریک نہ تھا مگر اسی مکان میں اس کا مکان بھی ہے اور یہ بھی نہ کرے تو اس کوچہ کے دوسرے لوگ کریں۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - بیچ میں شرکت کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ پوری بیچ میں شرکت ہے مثلاً پورا مکان دو شخصوں میں مشترک ہو۔ دوم یہ کہ بعض بیچ میں شرکت ہو یعنی مکان کا ایک جز مشترک ہے اور باقی میں شرکت نہیں مثلاً پردہ کی دیوار دونوں کی ہو اور ایک نے اپنا مکان بیچ کر دیا تو پردہ کی دیوار جو مشترک ہے اس کی بھی بیچ ہوگئی یہ شخص شریک کی حیثیت سے شفعہ کرے گا لہذا دوسرے شفیعوں پر مقدم ہوگا مگر جو شخص پورے مکان میں شریک ہے وہ اس شریک پر مقدم ہوگا۔ (7) (درمختار، عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثانی فی بیان مراتب الشفعۃ، ج ۵، ص ۱۶۶.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، ج ۹، ص ۳۶۷.

③..... المرجع السابق، ص ۳۶۶.

④..... بندگی۔

⑤..... "الہدایہ"، کتاب الشفعۃ، ج ۲، ص ۳۰۹.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثانی فی بیان مراتب الشفعۃ، ج ۵، ص ۱۶۶.

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، ج ۹، ص ۳۶۶.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثانی فی بیان مراتب الشفعۃ، ج ۵، ص ۱۶۶.

مسئلہ ۸ دیوار میں شرکت سے یہ مراد ہے کہ دیوار کی زمین میں شرکت ہو اور اگر زمین میں شرکت نہ ہو صرف دیوار میں شرکت ہو تو اس کو شریک نہیں شمار کیا جائے گا۔ دونوں کی صورتیں یہ ہیں ایک مکان کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی گئی پھر تقسیم یوں ہوئی کہ ایک شخص نے دیوار سے ادھر کا حصہ لیا اور دوسرے نے ادھر کا اور دیوار تقسیم میں نہیں آئی لہذا دونوں کی ہوئی۔ اور اگر مکان کو تقسیم کر کے ایک خط کھینچ دیا پھر بیچ میں دیوار بنانے کے لیے ہر ایک نے ایک ایک باشت زمین دے دی اور دونوں کے پیسوں سے دیوار بنی تو یہاں زمین میں بالکل شرکت نہیں ہے اگر شرکت ہے تو دیوار میں ہے اور دیوار و عمارت میں شرکت موجب شفعہ نہیں لہذا اس شرکت کا اعتبار نہیں بلکہ یہ شخص جارِ ملاصق ہے اور اسی حیثیت سے شفعہ کر سکتا ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ بیچ کی دیوار پر دونوں کی کڑیاں ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ یہ دیوار دونوں میں مشترک ہے صرف اتنی بات سے کہ دونوں کی کڑیاں ہیں دیوار کا مشترک ہونا معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک کا مکان فروخت ہو اور دوسرے نے گواہوں سے دیوار کا مشترک ہونا ثابت کر دیا تو اس کو شریک قرار دیا جائے گا اور شفعہ میں اس کا مرتبہ جار سے مقدم ہوگا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ یہ جو کہا گیا کہ شریک کے بعد جارِ ملاصق کا مرتبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کی خبر سن کر اس نے شفعہ طلب کیا ہو اور اگر اُس وقت اس نے شفعہ طلب نہ کیا اور شریک نے شفعہ تسلیم کر دیا یعنی بذریعہ شفعہ لینا نہیں چاہتا تو اب اُس جار کو شفعہ کرنے کا حق نہ رہا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ دو منزلہ مکان ہے نیچے کی منزل زید و عمرو کی شرکت میں ہے اور اوپر کی منزل میں زید و بکر شریک ہیں اگر زید نے نیچے کی منزل بیچ کی تو عمرو و شفعہ کر سکتا ہے، بکر نہیں اور اوپر کی منزل بیچی تو بکر شفعہ کر سکتا ہے عمرو نہیں۔^(۴) (بدائع)

مسئلہ ۱۲ ایک مکان کی چھت پر بالا خانہ ہے مگر اس بالا خانہ کا راستہ دوسرے مکان میں ہے اُس مکان میں نہیں ہے جس کی چھت پر بالا خانہ ہے۔ یہ بالا خانہ^(۵) فروخت ہو تو وہ شخص شفعہ کرے گا جس کے مکان میں اس کا راستہ ہے وہ نہیں کر سکتا جس کے مکان کی چھت پر بالا خانہ ہے۔ اور اگر پہلے شخص نے تسلیم کر دیا نہ لینا چاہا تو دوسرا شخص شفعہ کر سکتا ہے مگر بالا خانہ کا کوئی جارِ ملاصق ہے تو شفعہ میں یہ بھی شریک ہے اور اگر نیچے کی منزل فروخت ہوئی تو بالا خانہ والا شفعہ کر سکتا ہے

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثانی فی بیان مراتب الشفعۃ، ج ۵، ص ۱۶۶.

②.....المرجع السابق، ص ۱۶۷. ③.....المرجع السابق.

④....."بدائع الصنائع"، کتاب الشفعۃ، باب بیان کیفیۃ سبب الشفعۃ، ج ۴، ص ۱۰۵.

⑤.....اوپری منزل۔

اور وہ مکان جس میں بالا خانہ کا راستہ ہے فروخت ہو تو اُس میں بھی بالا خانہ والا شفیعہ کر سکتا ہے۔⁽¹⁾ (بدائع)

مسئلہ ۱۳ کوچہ سربستہ میں چند اشخاص کے مکانات ہیں ان میں سے کسی نے اپنا مکان یا کوئی کمرہ بیع کر دیا اور راستہ مشتری کے ہاتھ نہیں بیچا بلکہ مشتری سے یہ طے پایا کہ اس مکان کا دروازہ شارع عام⁽²⁾ میں کھول لے اس صورت میں بھی اس کوچے کے رہنے والے شفیعہ کر سکتے ہیں کیونکہ بوقت بیع یہ لوگ راستہ میں شریک ہیں اور اگر اس وقت ان لوگوں نے شفیعہ نہ کیا اور مشتری نے دروازہ کھولنے کے بعد اس کو بیع کر ڈالا تو اب شفیعہ نہیں کر سکتے کہ راستہ کی شرکت دوسری بیع کے وقت نہیں ہے بلکہ اب وہ شخص شفیعہ کر سکتا ہے جو جارملاصق ہو۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ مکان کے دو دروازے ہیں ایک دروازہ ایک گلی میں ہے دوسرا دوسری گلی میں ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ پہلے دو مکان تھے ایک کا دروازہ ایک گلی میں تھا دوسرے کا دوسری گلی میں تھا ایک شخص نے دونوں کو خرید کر ایک مکان کر دیا اس صورت میں ہر گلی والے اپنی جانب کا مکان شفیعہ کر کے لے سکتے ہیں ایک گلی والوں کو دوسری جانب کے حصہ کا حق نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ مکان بنا تھا اسی وقت اُس میں دو دروازے رکھے گئے تھے تو دونوں گلی والے پورے مکان میں شفیعہ کا برابر حق رکھتے ہیں۔ یو ہیں اگر دو گلیاں تھیں دونوں کے بیچ کی دیوار نکال کر ایک گلی کر دی گئی تو ہر ایک کو چہ والے اپنی جانب میں شفیعہ کا حق رکھتے ہیں۔ دوسری جانب میں انھیں حق نہیں۔ اسی طرح کوچہ سربستہ تھا⁽⁴⁾ اُس کی دیوار نکال دی گئی کہ سربستہ نہ رہا بلکہ کوچہ نافذ ہو گیا تو اب بھی اس کے رہنے والے شفیعہ کا حق رکھیں گے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ باپ کا مکان تھا اُس کے مرنے کے بعد بیٹوں کو ملا اور اُن میں سے کوئی لڑکا مر گیا اور اُس نے اپنے بیٹے وارث چھوڑے ان میں سے کسی نے اپنا حصہ بیع کیا تو اُس کے بھائی اور چچا سب شفیعہ کر سکتے ہیں بھائیوں کو چچا پر ترجیح نہیں ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ مکان کے دو پروسی ہیں ایک موجود ہے دوسرا غائب ہے موجود نے شفیعہ کا دعویٰ کیا مگر قاضی ایسے شفیعہ کا

①..... "بدائع الصنائع"، کتاب الشفیعہ، باب بیان کیفیت سبب الشفیعہ، ج ۴، ص ۱۰۵.

②..... عام راستہ۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفیعہ، الباب الثانی فی بیان مراتب الشفیعہ، ج ۵، ص ۱۶۸.

④..... بندگی تھی یعنی ایسی گلی تھی جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفیعہ، الباب الثانی فی بیان مراتب الشفیعہ، ج ۵، ص ۱۶۹.

⑥..... المرجع السابق، ص ۱۷۰.

قابل نہ تھا اُس نے دعوے کو خارج کر دیا کہ شفعہ کا تجھے حق نہیں ہے پھر وہ غائب آیا اور اُس نے دوسرے قاضی کے پاس دعویٰ کیا جس کے مذہب میں پروسی کے لیے بھی شفعہ ہے یہ قاضی پورا مکان اسی شفعہ کرنے والے کو دلوائے گا۔⁽¹⁾ (بدائع)

مسئلہ ۱۷ کسی کے مکان کا پرنا لہ دوسرے کے مکان میں گرتا ہے یا اُس مکان کی نالی اس مکان میں ہے تو اُس کو اس مکان میں جواری⁽²⁾ کی وجہ سے شفعہ کا حق ہے شرکت کی وجہ سے نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ شفعہ کا دعویٰ کیا اور قاضی نے اس کا حکم دے دیا اس کے بعد شفیع نے⁽⁴⁾ جائداد لینے سے انکار کر دیا تو دوسرے لوگ جو اس کے بعد شفعہ کر سکتے تھے اُن کا حق باطل ہو گیا یعنی وہ لوگ اب شفعہ نہیں کر سکتے کہ بعد قضاے قاضی⁽⁵⁾ اس کی ملک مُتَقَرَّر ہو گئی اور اگر قاضی کے حکم سے قبل ہی اپنے حق سے دست بردار ہو گیا تو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ بعض حقدار موجود ہیں بعض غائب ہیں جو موجود ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تو ان کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا اس کا انتظار نہ کیا جائے گا کہ وہ غائب بھی آجائے کیونکہ آجانے کے بعد وہ مطالبہ کرے یا نہ کرے کیا معلوم لہذا اُس کے آنے تک فیصلہ کو مؤخر نہ کیا جائے۔ پھر اس غائب نے آنے کے بعد اگر مطالبہ کیا تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ اگر اس کا مرتبہ اُس سے کم ہے جس کے لیے فیصلہ ہوا تو اس کا مطالبہ ساقط۔ اور برابر کا ہے یعنی اگر وہ شریک ہے تو یہ بھی شریک ہے یا دونوں خلیط ہیں یا دونوں پروسی ہیں تو اس صورت میں دونوں کو برابر برابر جائداد ملے گی اور اگر اس کا مرتبہ اُس سے اونچا ہے یعنی مثلاً وہ خلیط یا پروسی تھا اور یہ شریک ہے تو کل جائداد اسی کو ملے گی۔⁽⁷⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۰ شفیع چاہتا ہے کہ جائداد مبیعہ⁽⁸⁾ میں سے ایک حصہ لے لے اور باقی مشتری کے لیے چھوڑ دے اس کا حق شفیع کو نہیں یعنی مشتری کو اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جائداد کا یہ جز لینے میں مشتری اپنا ضرر تصور کرتا ہو۔⁽⁹⁾ (درمختار)

①..... "بدائع الصنائع"، کتاب الشفعة، باب بیان کیفیت سبب الشفعة، ج ۴، ص ۱۰۳۔

②..... پڑوس۔

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعة، الباب الثانی فی بیان مراتب الشفعة، ج ۵، ص ۱۷۰۔

④..... شفعہ کرنے والے نے۔ ⑤..... قاضی کے فیصلے کے بعد۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، مطلب: فی الکلام علی الشفعة... إلخ، ج ۹، ص ۳۶۹۔

⑦..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، ج ۹، ص ۳۶۹۔

⑧..... بیچی گئی جائداد۔

⑨..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، ج ۹، ص ۳۷۰۔

مسئلہ ۲۱ - ایک شفیع نے اپنا حق شفعا دوسرے کو دے دیا مثلاً تین شخص شفیع تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو اپنا حق دے دیا یہ دینا صحیح نہیں بلکہ اس کا حق ساقط ہو گیا اور اس کے سوا جتنے شفیع ہیں وہ سب برابر کے حقدار ہیں بلکہ اگر دو شخص حقدار ہیں ان میں سے ایک نے یہ سمجھ کر کہ مجھے نصف ہی جائداد ملے گی نصف ہی کو طلب کیا تو اس کا شفعا ہی باطل ہو جائے گا یعنی ضروری ہے کہ ہر ایک پورے کا مطالبہ کرے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۲۲ - دو شخصوں نے اپنا مشترک مکان بیع کیا شفیع یہ چاہتا ہے کہ فقط ایک کے حصہ میں شفعا کرے یہ نہیں ہو سکتا اور اگر دو شخصوں نے ایک مکان خرید اور شفیع فقط ایک مشتری کے حصہ میں شفعا کرنا چاہتا ہے یہ ہو سکتا ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - ایک شخص نے ایک عقد میں دو مکان خریدے اور شفیع دونوں میں شفعا کر سکتا ہو تو دونوں میں شفعا کرے یا دونوں کو چھوڑے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک میں کرے اور ایک کو چھوڑے اور اگر ایک ہی میں وہ شفیع ہے تو ایک میں شفعا کر سکتا ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ - مشتری^(۴) کے وکیل نے جائداد خریدی اور وہ ابھی اسی وکیل کے ہاتھ میں ہے تو شفعا کی طلب وکیل سے ہو سکتی ہے اور وکیل نے موکل کو دے دی تو وکیل سے طلب نہیں کر سکتا بلکہ اس سے طلب کرنے پر شفعا ہی ساقط ہو جائے گا کہ جس سے طلب کرنا چاہیے تھا باوجود قدرت شفیع نے اُس سے طلب کرنے میں دیر کی۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

طلب شفعا کا بیان

طلب کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) طلب مواجبہ، (۲) طلب تقریر اس کو طلب اشہاد بھی کہتے ہیں، (۳) طلب تملیک۔ طلب مواجبہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو اُس جائداد کے فروخت ہونے کا علم ہو فوراً اُسی وقت یہ ظاہر کر دے کہ میں طالب شفعا ہوں اگر علم ہونے کے بعد اس نے طلب نہ کی تو شفعا کا حق جاتا رہا اور بہتر یہ ہے کہ اپنے اس طلب کرنے پر لوگوں کو گواہ بھی بنالے تاکہ یہ نہ کہا جاسکے کہ اس نے طلب مواجبہ نہیں کی ہے۔^(۶) (ہدایہ)

①..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعا، ج ۹، ص ۳۷۰.

②..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الشفعا، الباب الرابع فی استحقاق الشفیع... إلخ، ج ۵، ص ۱۷۵.

③..... المرجع السابق، ص ۱۷۵، ۱۷۶.

④..... خریدار۔

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الشفعا، مطلب: فی الکلام علی الشفعا... إلخ، ج ۹، ص ۳۷۱.

⑥..... "الہدایة"، کتاب الشفعا، باب طلب الشفعا... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۰، ۳۱۱.

مسئلہ ۱ جانکد کی بیع کا علم کبھی تو خود مشتری (1) ہی سے ہوتا ہے کہ اس نے خود سے خبر دی اور کبھی مشتری کے قاصد کے ذریعہ سے (2) ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی معرفت اس کے پاس کہلا بھیجا اور کبھی کسی اجنبی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ وہ مخبر (3) عادل ہو یا خبر دہندہ (4) میں عدد شہادت پایا جائے یعنی دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ خبر دینے والا ایک ہی شخص ہے اور وہ بھی فاسق ہے مگر شفیع (5) نے اس خبر میں اس کی تصدیق کر لی تو بیع کا علم ہو گیا یعنی اگر طلب مواہبہ نہ کرے گا شفعہ باطل ہو جائے گا اور اگر اس کی تکذیب کی (6) تو شفیع کے نزدیک بیع کا ثبوت نہ ہو یعنی طلب نہ کرنے پر حق شفعہ باطل نہ ہوگا اگرچہ واقع میں اُس کی خبر صحیح ہو۔ (7) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ طلب مواہبہ میں ادنیٰ تاخیر بھی شفعہ کو باطل کر دیتی ہے مثلاً کسی خط کے ذریعہ سے اسے بیع کی خبر دی گئی اور اس خط میں بیع کا ذکر مقدم ہے اور اس کے بعد دوسرے مضامین ہیں یا بیع کا ذکر درمیان میں ہے اس نے پورا خط پڑھ کر طلب مواہبت کی شفعہ باطل ہو گیا کہ اتنی تاخیر بھی یہاں نہ ہونی چاہیے۔ (8) (ہدایہ)

مسئلہ ۳ خطبہ ہو رہا ہے اور اس کو بیع کی خبر دی گئی اور نماز کے بعد اس نے طلب مواہبت کی اگر ایسی جگہ ہے کہ خطبہ سن رہا ہے تو شفعہ باطل نہیں ہو اور اگر خطبہ کی آواز اس کو نہیں پہنچتی تو شفعہ باطل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ نفل نماز پڑھنے میں اسے خبر ملی اسے چاہیے کہ دو رکعت پر سلام پھیر دے اور طلب مواہبت کرے اور چار پوری کر لی یعنی دو رکعتیں اور ملائیں تو باطل ہو گیا اور قبل ظہر یا بعد ظہر کی سنتیں پڑھ رہا تھا اور چار پوری کر کے طلب کیا تو باطل نہ ہوا (9)۔ (10) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ بیع کی خبر سن کر سُبْحَانَ اللَّهِ يَا لِحَمْدِ اللَّهِ يَا اللَّهُ أَكْبَرُ يَا لِحَوْلِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہا تو شفعہ باطل نہ ہوا کہ ان الفاظ کا کہنا اعراض (11) کی دلیل نہیں بلکہ خدا کا شکر کرتا ہے کہ اُس کے پروردگار سے نجات ملی یا تعجب کرتا ہے کہ

①..... خریدار۔ ②..... یعنی خریدار کے پیغام رساں کے ذریعے سے۔ ③..... خبر دینے والا۔

④..... خبر دینے والا۔ ⑤..... حق شفعہ کا دعویٰ کرنے والا۔ ⑥..... یعنی اسے جھٹلایا۔

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۷۳۔

⑧..... "الهدایہ"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۴، ص ۳۱۰۔

⑨..... بہار شریعت کے نسخوں میں اس مقام پر "باطل ہو گیا" لکھا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل کتاب "ردالمحتار" میں جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام پر "باطل" کے بعد "نہ" متروک ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے "باطل نہ ہوا" کر دیا... عَلَمِیہ

⑩..... "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۷۴۔

⑪..... روگردانی۔

اُس نے ضرر⁽¹⁾ پہنچانے کا ارادہ کیا تھا اور نتیجہ یہ ہوا۔ یو ہیں اگر اس کے پاس کے کسی شخص کو چھینک آئی اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا اس نے اُس کا جواب دیا شفعہ باطل نہ ہوا۔⁽²⁾ (عالمگیری، ہدایہ)

مسئلہ ۵ بیع کی خبر ملنے پر اس نے دریافت کیا کہ کس نے خریدا یا کتنے میں خریدا یہ پوچھنا تاخیر میں شمار نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ثمن اتنا ہو جو اس کے نزدیک مناسب ہے تو شفعہ کرے اور زیادہ ثمن ہے تو اسے اتنے داموں میں لینا منظور نہیں۔ یو ہیں اگر مشتری کوئی نیک شخص ہے اُس کا پروس ناگوار نہیں ہے تو شفعہ کی کیا ضرورت اور ایسا شخص مشتری ہے جس کا قرب منظور نہیں ہے تو شفعہ کرنے کی ضرورت ہے لہذا یہ پوچھنا شفعہ سے اعراض کی دلیل نہیں۔⁽³⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۶ شفعہ نے مشتری کو سلام کیا شفعہ باطل نہیں ہوا اور کسی دوسرے کو سلام کیا تو باطل ہو گیا مثلاً مشتری کا بیٹا بھی وہیں کھڑا تھا اس لڑکے کو سلام کیا باطل ہو گیا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ طلب مواہبہ کے لیے کوئی لفظ مخصوص نہیں جس لفظ سے بھی اس کا طالب شفعہ ہونا سمجھ میں آتا ہو وہ کافی ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ جو جائیداد فروخت ہوئی ایک شخص اُس میں شریک ہے اور ایک اُس کا پروس ہے دونوں کو ایک ساتھ خبر ملی شریک نے طلب مواہبہ کی پروس نے نہیں کی پھر شریک نے شفعہ چھوڑ دیا اب پروس کو شفعہ کا حق نہیں رہا یہ بھی اگر اسی وقت طلب کرتا تو اب شفعہ کر سکتا تھا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ طلب مواہبہ کے بعد طلب اشہاد کا مرتبہ ہے جس کو طلب تقریر بھی کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ بائع یا مشتری یا اُس جائیداد مبیعہ⁽⁷⁾ کے پاس جا کر گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ جائیداد خریدی ہے اور میں اس کا شفعہ

①..... نقصان۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثالث فی طلب الشفعۃ، ج ۵، ص ۱۷۲۔

و "الہدایۃ"، کتاب الشفعۃ، باب طلب الشفعۃ... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۰، ۳۱۱۔

③..... "الہدایۃ"، کتاب الشفعۃ، باب طلب الشفعۃ... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۱۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب التاسع فیما یبطل بہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۴، ۱۸۵۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، باب طلب الشفعۃ، ج ۹، ص ۳۷۴۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثالث فی طلب الشفعۃ، ج ۵، ص ۱۷۲۔

⑦..... فروخت شدہ جائیداد۔

ہوں اور اس سے پہلے میں طلب شفعا کر چکا ہوں اور اب پھر طلب کرتا ہوں تم لوگ اس کے گواہ رہو۔⁽¹⁾ (ہدایہ) یہ اُس وقت ہے کہ جائداد مبیعہ کے پاس طلب اشہاد کرے⁽²⁾ اور اگر مشتری کے پاس کرے تو یہ کہے کہ اس نے فلاں جائداد خریدی ہے اور میں فلاں جائداد کے ذریعہ سے اُس کا شفیع ہوں اور بائع کے پاس یوں کہے کہ اس نے فلاں جائداد فروخت کی ہے اور میں فلاں جائداد کی وجہ سے اس کا شفیع ہوں۔⁽³⁾ (نتائج)

مسئلہ ۱۰ بائع کے پاس طلب اشہاد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جائداد بائع کے قبضہ میں ہو یعنی اب تک بائع نے مشتری کے قبضہ میں نہ دی ہو اور مشتری کا قبضہ ہو چکا ہو تو بائع کے پاس طلب اشہاد نہیں ہو سکتی اور مشتری کے پاس بہر صورت طلب اشہاد ہو سکتی ہے چاہے وہ جائداد بائع کے قبضہ میں ہو یا مشتری کے قبضہ میں ہو اسی طرح جائداد مبیعہ کے سامنے بھی مطلقاً طلب اشہاد ہو سکتی ہے۔⁽⁴⁾ (ہدایہ، درمختار) طلب اشہاد میں جائداد کے حدود اربعہ بھی ذکر کر دے تو بہتر ہے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔

مسئلہ ۱۱ جو شخص باوجود قدرت طلب اشہاد نہ کرے تو شفعا باطل ہو جائے گا مثلاً بغیر طلب اشہاد قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا شفعا باطل ہو گیا۔ طلب اشہاد قاصدا و رخط کے ذریعہ سے بھی ہو سکتی ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ جو شخص دور ہے اور اُسے بیع کی خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اُس کو اتنا موقع ہے کہ وہاں سے آ کر یا قاصدا وکیل کو بھیج کر طلب اشہاد کرے اس کی وجہ سے جتنی تاخیر ہوئی اس سے شفعا باطل نہیں ہوگا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ شفیع کورات میں خبر ملی اور وہ وقت باہر نکلنے کا نہیں ہے اس وجہ سے صبح تک طلب اشہاد کو مؤخر کیا اس سے شفعا باطل نہیں ہوگا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

①..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۱.

②..... یعنی گواہی طلب کرے۔

③..... "نتائج الأفكار" تکملة "فتح القدير"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۸، ص ۳۱۱.

④..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۱.

و "الدر المختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۷۵.

⑤..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۵، ص ۳۷۵، ۳۷۶.

⑥..... "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الشفعة، الباب الثالث فی طلب الشفعة، ج ۵، ص ۱۷۳.

⑦..... المرجع السابق.

مسئلہ ۱۴ بائع و مشتری و جائداد مبیعہ ایک ہی شہر میں ہوں تو قرب و بعد کا اعتبار نہیں یعنی یہ ضرور نہیں کہ قریب ہی کے پاس طلب کرے بلکہ اُسے اختیار ہے کہ دور والے کے پاس کرے یا قریب والے کے پاس کرے ہاں اگر قریب کے پاس سے گزرا اور یہاں طلب اشہاد نہ کی دور والے کے پاس جا کر کی تو شفعا باطل ہے اور اگر ان میں سے ایک اسی شہر میں ہے اور دوسرا دوسرے شہر میں یا گاؤں میں ہے اور اس شہر والے کے سامنے طلب نہ کی دوسرے شہر یا گاؤں میں اشہاد کے لیے گیا تو شفعا باطل ہو گیا۔^(۱) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ طلب اشہاد کا طلب مواہبہ کے بعد ہونا اُس وقت ہے کہ بیع کا جس مجلس میں علم ہو اوہاں نہ بائع ہے نہ مشتری ہے نہ جائداد مبیعہ۔ اور اگر شفعا ان تینوں میں سے کسی کے پاس موجود تھا اور بیع کی خبر ملی اور اسی وقت اپنا شفعا ہونا ظاہر کر دیا تو یہ ایک ہی طلب دونوں کے قائم مقام ہے یعنی یہی طلب مواہبہ بھی ہے اور طلب اشہاد بھی۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ ان دونوں طلبوں کے بعد طلب تملیک ہے یعنی اب قاضی کے پاس جا کر یہ کہے کہ فلاں شخص نے فلاں جائداد خریدی ہے اور فلاں جائداد کے ذریعہ سے میں اُس کا شفعا ہوں وہ جائداد مجھے دلا دی جائے۔ طلب تملیک میں تاخیر ہونے سے شفعا باطل ہوتا ہے یا نہیں، ظاہر الروایہ یہ ہے کہ باطل نہیں ہوتا اور ہدایہ وغیرہا میں تصریح ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا عذر ایک ماہ کی تاخیر سے باطل ہو جاتا ہے بعض کتابوں میں اس پر فتویٰ ہونے کی تصریح ہے اور نظر بحال زمانہ اس قول کو اختیار کرنا قرین مصلحت ہے کیونکہ اگر اس کے لیے کوئی میعاد نہ ہوگی تو خوف شفعا کی وجہ سے مشتری نہ اُس زمین میں کوئی تعمیر کر سکے گا نہ درخت نصب کر سکے گا اور یہ مشتری کا ضرر ہے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ جوار^(۴) کی وجہ سے شفعا کا حق ہے اور قاضی کا مذہب یہ ہے کہ جوار کی وجہ سے شفعا نہیں ہے شفعا نے دعویٰ اس وجہ سے نہیں کیا کہ قاضی میرے خلاف فیصلہ کر دے گا اس انتظار میں ہے کہ دوسرا قاضی آئے تو دعویٰ کروں اس صورت میں بالاتفاق اُس کا حق باطل نہیں ہوگا۔^(۵) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعا، الباب الثالث فی طلب الشفعا، ج ۵، ص ۱۷۲.

و "رد المحتار"، کتاب الشفعا، باب طلب الشفعا، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۷۶.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعا، باب طلب الشفعا، ج ۹، ص ۳۷۵.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الشفعا، باب طلب الشفعا، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۷۵، ۳۷۶.

④..... پڑوں۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعا، الباب الثالث فی طلب الشفعا، ج ۵، ص ۱۷۳.

مسئلہ ۱۸ شفعہ کے دعویٰ کرنے پر قاضی اس سے چند سوالات کرے گا۔ وہ جائداد کہاں ہے اور اُس کے حدود اور بعد کیا ہیں اور مشتری نے اس پر قبضہ کیا ہے یا نہیں اُس پر شفعہ کس جائداد کی وجہ سے کرتا ہے اور اس کے حدود کیا ہیں۔ اُس جائداد کے فروخت ہونے کا اس شفعہ کو کب علم ہوا اور اس نے اس کے متعلق کیا کیا۔ پھر طلب تقریر کی یا نہیں۔ اور کن لوگوں کے سامنے طلب تقریر کی اور کس کے پاس طلب تقریر کی، وہ قریب تھا یا دور تھا۔ جب تمام سوالوں کے جوابات شفعہ نے ایسے دے دیے جن سے دعویٰ پر برا اثر نہ پڑتا ہو تو اس کا دعویٰ مکمل ہو گیا اب مدعی علیہ (1) سے دریافت کرے گا کہ شفعہ جس جائداد کے ذریعہ سے شفعہ کرتا ہے اُس کا مالک ہے یا نہیں اگر اُس نے انکار کر دیا تو شفعہ کو گواہوں کے ذریعہ سے اُس جائداد کا مالک ہونا ثابت کرنا ہوگا یا گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعی علیہ پر حلف دیا جائے گا گواہ سے یا مدعی علیہ کے حلف سے انکار کرنے سے جب شفعہ کی ملک ثابت ہوگئی تو مدعی علیہ سے دریافت کرے گا کہ وہ جائداد جس پر شفعہ کا دعویٰ ہے اس نے خریدی ہے یا نہیں اگر اُس نے خریدنے سے انکار کر دیا تو شفعہ کو گواہوں سے اُس کا خریدنا ثابت کرنا ہوگا اور اگر گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ پر پھر حلف پیش کیا جائے گا اگر حلف سے نکول کیا (2) یا گواہوں سے خریدنا ثابت ہو گیا تو قاضی شفعہ کا فیصلہ کر دے گا۔ (3) (ہدایہ، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ شفعہ کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ شفعہ ثمن کو قاضی کے پاس حاضر کر دے جب ہی اس کا دعویٰ سنا جائے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ فیصلہ کے وقت ثمن قاضی کے پاس پیش کر دے جب ہی وہ فیصلہ کرے۔ (4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ فیصلہ کے بعد اسے ثمن لا کر دینا ہوگا اور اگر ثمن ادا کرنے کو کہا گیا اور اس نے ادا کرنے میں تاخیر کی یہ کہہ دیا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے یا یہ کہ کل حاضر کر دوں گا یا اسی قسم کی کچھ اور بات کہی تو شفعہ باطل نہ ہوگا۔ (5) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۱ فیصلہ کے بعد ثمن وصول کرنے کے لیے مشتری اُس جائداد کو روک سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ جب تک ثمن ادا نہ کرو گے یہ جائداد میں تم کو نہیں دوں گا۔ (6) (ہدایہ)

①..... جس پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ ②..... یعنی انکار کیا۔

③..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۲، ص ۴۱۲.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۷۷.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۷۸.

⑤..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۲، ۳۱۳.

⑥..... المرجع السابق، ص ۳۱۳.

مسئلہ ۲۲ شفعہ کا دعویٰ مشتری پر مطلقاً ہو سکتا ہے اس نے جائداد پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو اُس کو مدعی علیہ بنایا جاسکتا ہے اور بائع کو بھی مدعی علیہ بنایا جاسکتا ہے جبکہ جائداد اب تک بائع کے قبضہ میں ہو مگر بائع کے مقابل میں گواہ نہیں سنے جائیں گے جب تک مشتری حاضر نہ ہو۔ یوں اگر بائع پر دعویٰ ہو تو جب تک مشتری حاضر نہ ہو حق مشتری میں وہ بیع فسخ نہیں کی جائے گی اور اگر مشتری کا قبضہ ہو چکا ہو تو بائع کے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔^(۱) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۲۳ بائع کے قبضہ میں جائداد ہو تو بائع پر قاضی شفعہ کا فیصلہ کرے گا اور اُس کی تمام تر ذمہ داری بائع پر ہوگی یعنی جائداد مشفوعہ میں اگر کسی دوسرے کا حق ثابت ہو اور اس نے لے لی تو ثمن کی واپسی بائع کے ذمہ ہے اور اگر جائداد پر مشتری کا قبضہ ہو چکا ہے تو ذمہ داری مشتری پر ہوگی یعنی جب کہ مشتری نے بائع کو ثمن ادا کر دیا ہے اور شفیع نے مشتری کو ثمن دیا اور اگر ابھی مشتری نے ثمن ادا نہیں کیا ہے شفیع نے بائع کو ثمن دیا تو بائع ذمہ دار ہے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ شفیع کو خیار رویت اور خیار عیب حاصل ہے یعنی اگر اُس نے جائداد مشفوعہ نہیں دیکھی ہے تو دیکھنے کے بعد لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ یوں اگر اُس میں کوئی عیب ہے تو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے کیونکہ شفعہ کے ذریعہ سے جائداد کا ملنا بیع کا حکم رکھتا ہے لہذا بیع میں جس طرح یہ دونوں خیار حاصل ہوتے ہیں یہاں بھی ہوں گے اور اگر مشتری نے عیب سے براءت کر لی ہے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی عیب نکلے تو اس کی ذمہ داری نہیں اس صورت میں بھی عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ مشتری کا براءت قبول کرنا کوئی چیز نہیں۔^(۳) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۵ شفعہ میں خیار شرط نہیں ہو سکتا نہ اس میں ثمن ادا کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر کی جاسکتی نہ اس میں غرر یعنی دھوکے کی وجہ سے ضمان لازم ہو سکتا ہے یعنی مثلاً شفیع نے اُس جائداد میں کوئی جدید تعمیر کی اس کے بعد مستحق نے دعویٰ کیا کہ یہ جائداد میری ہے اور وہ جائداد مستحق کو مل گئی تو تعمیر کی وجہ سے شفیع کا جو کچھ نقصان ہو وہ نہ بائع سے لے سکتا ہے نہ مشتری سے کہ اس نے یہ جائداد جبراً وصول کی ہے انھوں نے اپنے قصد و اختیار سے اسے نہیں دی ہے کہ وہ اس کے نقصان کا ضمان دیں۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۳.

و "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۷۹.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۸۰.

③..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة... إلخ، ج ۴، ص ۳۱۳.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۸۱.

اختلاف کی صورتیں

مسئلہ ۲۶ — مشتری یہ کہتا ہے کہ شفیع کو جس وقت بیع کا علم ہوا اُس نے طلب نہیں کی اور شفیع کہتا ہے میں نے اسی وقت طلب کی تو شفیع کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور گواہ نہ ہوں تو قسم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ — شفیع و مشتری میں ثمن کا اختلاف ہے اور گواہ کسی کے پاس نہ ہوں تو قسم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ شفیع کے معتبر ہوں گے۔^(۲) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۸ — مشتری نے دعویٰ کیا کہ ثمن اتنا ہے اور بائع نے اُس سے کم ثمن کا دعویٰ کیا اس کی دو صورتیں ہیں بائع نے ثمن پر قبضہ کیا ہے یا نہیں۔ اگر قبضہ نہیں کیا ہے تو بائع کا قول معتبر ہے یعنی اُس نے جو کچھ بتایا شفیع اوتنے ہی میں لے گا۔ اور اگر بائع ثمن پر قبضہ کر چکا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہے یعنی اگر شفیع لینا چاہے تو وہ ثمن ادا کرے جس کو مشتری بتاتا ہے اور بائع کی بات نامعتبر ہے کہ جب وہ ثمن لے چکا ہے تو اس معاملہ میں اُس کا تعلق ہی کیا ہے۔ اور اگر بائع ثمن زیادہ بتاتا ہے اور مشتری کم بتاتا ہے اور یہ اختلاف بائع کے ثمن وصول کر لینے کے بعد ہے تو مشتری کی بات معتبر ہے اور ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ اختلاف ہے تو بائع و مشتری دونوں پر حلف ہے جو حلف سے انکار کر دے اُس کے مقابل کی معتبر ہے اور اگر دونوں نے حلف کر لیا تو دونوں یعنی بائع و مشتری کے مابین بیع فسخ کر دی جائے گی مگر شفیع کے حق میں یہ بیع فسخ نہیں ہوگی وہ چاہے تو اتنے ثمن کے عوض میں^(۳) لے سکتا ہے جس کو بائع نے بتایا۔^(۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۹ — بائع کا ثمن پر قبضہ کرنا ظاہر نہ ہو اور مقدار ثمن میں اختلاف ہو اس کی دو صورتیں ہیں۔ بائع نے ثمن پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا ہے یا نہیں اگر اقرار نہیں کیا ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو قبضہ نہ کرنے کی صورت میں ہے۔ اور اگر اقرار کر لیا ہے اور مشتری زیادہ کا دعویٰ کرتا ہے اور جائداد اس کے قبضہ میں ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں پہلے مقدار ثمن کا اقرار کیا پھر قبضہ کا یا اس کا عکس ہے یعنی پہلے قبضہ کا اقرار کیا پھر مقدار کا اگر پہلی صورت ہے مثلاً یوں کہا کہ اس مکان کو میں نے ہزار روپے میں بیچا اور ثمن پر قبضہ پالیا شفیع ایک ہزار میں لے گا اور مشتری جو ایک ہزار سے زیادہ ثمن بتاتا ہے اُس کا اعتبار نہیں

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الشفعا، الباب الثالث فی طلب الشفعا، ج ۵، ص ۱۷۴.

②..... "الہدایہ"، کتاب الشفعا، فصل فی مسائل الإختلاف، ج ۲، ص ۳۱۴.

③..... بدلے میں۔

④..... "الہدایہ"، کتاب الشفعا، فصل فی مسائل الإختلاف، ج ۲، ص ۳۱۴.

اور اگر دوسری صورت ہے یعنی پہلے قبضہ کا اقرار ہے پھر مقدارِ ثمن کا مثلاً یوں کہا کہ مکان میں نے بیچ دیا اور ثمن پر قبضہ کر لیا اور ثمن ایک ہزار ہے تو اس صورت میں مشتری کی بات معتبر ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ، عنایہ)

مسئلہ ۳۰ مشتری یہ کہتا ہے کہ میں نے ثمن معجل کے عوض میں خریدا ہے یعنی ثمن ابھی واجب الادا ہے اور شفیع کہتا ہے کہ ثمن مؤجل کے عوض میں خریدا ہے یعنی فوراً واجب الادا نہیں ہے اُس کے لیے کوئی میعاد⁽²⁾ مقرر ہے تو مشتری کا قول معتبر ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ مشتری یہ کہتا ہے کہ یہ پورا مکان میں نے دو عقد کے ذریعہ سے خریدا ہے یعنی پہلے یہ حصہ اتنے میں خریدا اُس کے بعد یہ حصہ اتنے میں خریدا اور شفیع یہ کہتا ہے کہ تم نے پورا مکان ایک عقد سے خریدا ہے تو شفیع کا قول معتبر ہے اور اگر کسی کے پاس گواہ ہوں تو گواہ مقبول ہیں اور اگر دونوں گواہ پیش کریں اور گواہوں نے وقت نہیں بیان کیا تو مشتری کے گواہ معتبر ہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ ایک شخص نے مکان خریدا شفیع نے شفعہ کا دعویٰ کیا اور مشتری نے اُس کا ثمن ایک ہزار بتایا تھا شفیع نے ایک ہزار دے کر لے لیا پھر شفیع کو گواہ ملے جو کہتے ہیں اُس نے پانسو میں خریدا تھا یہ گواہ سنے جائیں گے اور اگر مشتری کے کہنے کی شفیع نے تصدیق کر لی تھی تو اب یہ گواہ نہیں سنے جائیں گے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ بائع و مشتری⁽⁶⁾ اس پر متفق ہیں کہ اس بیع میں بائع کو اختیار شرط ہے اور شفیع اس سے انکار کرتا ہے تو انہیں دونوں کی بات معتبر ہے اور شفیع کو شفعہ کا حق حاصل نہیں اور اگر بائع شرط اختیار کا مدعی⁽⁷⁾ ہے اور مشتری و شفیع دونوں اس سے انکار کرتے ہیں تو مشتری کا قول معتبر ہے اور شفیع کو حق شفعہ حاصل ہے اور اگر مشتری شرط اختیار کا مدعی ہے اور بائع و شفیع دونوں انکار کرتے ہیں تو بائع کا قول معتبر ہے اور شفعہ ہو سکتا ہے۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

①..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، فصل فی مسائل الاختلاف، ج ۲، ص ۳۱۴.

و "العیایة" علی "فتح القدیر"، کتاب الشفعة، فصل فی مسائل الاختلاف، ج ۸، ص ۳۱۷.

②..... مدت۔

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الشفعة، الباب العاشر فی الاختلاف... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۶.

④..... المرجع السابق.

⑤..... المرجع ال سابق.

⑥..... بیچنے والا اور خریدار۔

⑦..... دعویٰ کرنے والا۔

⑧..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الشفعة، الباب العاشر فی الاختلاف... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۶.

مسئلہ ۳۴ — ایک شخص نے اپنی جائداد بیع کی، شفیع نے بائع و مشتری دونوں کے سامنے شفعا طلب کیا بائع نے کہا یہ بیع معاملہ یعنی فرضی بیع ہوئی ہے اور مشتری نے بھی بائع کی تصدیق کی ان دونوں کا یہ قول شفیع کے مقابل میں نامعتبر ہے بلکہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جائز بیع ہوئی ہے تو شفعا کر سکتا ہے مگر جبکہ ظاہر حال سے یہی سمجھا جاتا ہو کہ فرضی بیع ہے مثلاً اس چیز کی قیمت بہت زیادہ ہو اور تھوڑے داموں میں بیع ہوئی کہ ایسی چیز ان داموں میں نہ بکتی ہو تو انھیں دونوں کی بات معتبر ہے اور شفعا نہیں ہو سکتا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ — جائداد تین شخصوں کی شرکت میں ہے ان میں سے دو شخصوں نے یہ شہادت دی کہ ہم تینوں نے یہ جائداد فلاں شخص کے ہاتھ بیع کر دی ہے اور وہ شخص بھی کہتا ہے کہ میں نے خرید لی ہے مگر وہ تیسرا شریک بیع سے انکار کرتا ہے ان کی گواہی شریک کے خلاف نامعتبر ہے مگر شفیع ان دونوں کے حصوں کو شفعا کے ذریعہ سے لے سکتا ہے اور اگر مشتری خریدنے سے انکار کرتا ہے اور یہ تینوں شریک بیع کی شہادت دیتے ہیں تو ان کی یہ گواہی بھی باطل ہے مگر شفیع پوری جائداد کو بذریعہ شفعا لے سکتا ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ — ایک ہزار میں مکان خرید اُس پر شفعا کا دعویٰ ہوا مشتری یہ کہتا ہے کہ اس مکان میں میں نے یہ جدید تعمیر کی ہے اور شفیع منکر ہے⁽³⁾ اس میں مشتری کا قول معتبر ہے اور دونوں نے گواہ پیش کیے تو گواہ شفیع ہی کے معتبر ہوں گے۔ یو ہیں اگر زمین خریدی ہے اور مشتری یہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں یہ درخت نصب کیے ہیں⁽⁴⁾ اور شفیع انکار کرتا ہے تو قول مشتری کا معتبر ہے اور گواہ شفیع کے مگر ان دونوں صورتوں میں یہ ضرور ہے کہ مشتری کا قول ظاہر کے خلاف نہ ہو مثلاً درختوں کی نسبت کہتا ہے میں نے کل نصب کیے ہیں حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت دنوں کے ہیں یا عمارت کو کہتا ہے کہ میں نے اب بنائی ہے اور وہ عمارت پرانی معلوم ہوتی ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ — مشتری کہتا ہے میں نے صرف زمین خریدی ہے اس کے بعد بائع نے یہ عمارت مجھے ہبہ کر دی ہے یا یہ کہ پہلے اس نے مجھے عمارت ہبہ کر دی تھی اس کے بعد میں نے زمین خریدی اور شفیع یہ کہتا ہے تم نے دونوں چیزیں خریدی ہیں یہاں مشتری کا قول معتبر ہے شفیع اگر چاہے تو اُس کو بذریعہ شفعا لے لے جو مشتری نے خریدا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ — دو مکان خریدے اور ایک شخص دونوں کا جار ملاصق⁽⁷⁾ ہے وہ شفعا کرتا ہے مشتری یہ کہتا ہے کہ میں نے

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعا، الباب العاشر فی الاختلاف... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۷.

②..... المرجع السابق، ص ۱۸۸.

③..... شفعا کرنے والا انکار کرتا ہے۔ ④..... لگائے ہیں۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعا، الباب العاشر فی الاختلاف... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۷.

⑥..... المرجع السابق، ص ۱۸۸، ۱۸۹.

⑦..... جار ملاصق وہ پڑوسی ہے جس کے مکان کے پیچھے کی دیوار دوسرے کے مکان میں ہو۔

دونوں آگے پیچھے خریدے ہیں یعنی دو عقدوں میں خریدے ہیں لہذا دوسرے مکان میں تمہیں شفعہ کرنے کا حق نہیں شفیع یہ کہتا ہے کہ دونوں مکان تم نے ایک عقد کے ذریعہ سے خریدے ہیں اور مجھے دونوں میں شفعہ کا حق ہے اس صورت میں مشتری کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دو عقدوں کے ذریعہ خریدا ہے ورنہ قول شفیع کا معتبر ہوگا۔ یو ہیں اگر مشتری یہ کہتا ہے کہ میں نے نصف مکان پہلے خریدا اس کے بعد نصف خریدا اور شفیع یہ کہتا ہے کہ پورا مکان ایک عقد سے خریدا ہے تو شفیع کا قول معتبر ہے اور اگر مشتری یہ کہتا ہے کہ پورا مکان میں نے ایک عقد سے خریدا ہے اور شفیع یہ کہتا ہے کہ آدھا آدھا کر کے دو مرتبہ میں لہذا میں صرف نصف مکان پر شفعہ کرتا ہوں تو اس میں مشتری کا قول معتبر ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ شفیع یہ کہتا ہے کہ مشتری نے مکان کا ایک حصہ منہدم کر دیا اور مشتری اس سے انکار کرتا ہے تو مشتری کا قول معتبر ہے اور گواہ شفیع کے معتبر ہوں گے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

جاندا دکنے داموں میں شفیع کو ملے گی

یہ بیان کیا جا چکا کہ مشتری نے جن داموں میں جاندا خریدی ہے شفیع کو اتنے ہی میں ملے گی مگر بعض مرتبہ عقد کے بعد ثمن میں کمی بیشی کر دی جاتی ہے اور بعض مرتبہ اُس چیز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اس کمی بیشی کا اثر شفیع پر ہوگا یا نہیں۔

مسئلہ ۱ اگر بائع نے عقد کے بعد ثمن میں کچھ کمی کر دی تو چونکہ یہ کمی اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوتی ہے جس کا بیان کتاب البیوع⁽³⁾ میں گزر چکا ہے لہذا شفیع کے حق میں بھی اس کمی کا اعتبار ہوگا یعنی اس کمی کے بعد جو کچھ باقی ہے اُس کے بدلے میں شفیع اس جاندا کو لے گا اور اگر بائع نے پورا ثمن ساقط کر دیا تو اس کا اعتبار نہیں یعنی شفیع کو پورا ثمن دینا ہوگا۔⁽⁴⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۲ بائع نے پہلے نصف ثمن کم کر دیا اس کے بعد بقیہ نصف بھی ساقط کر دیا تو شفیع سے نصف اول ساقط ہو گیا اور بعد میں جو ساقط کیا ہے یہ دینا ہوگا۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ بائع نے مشتری کو ثمن ہبہ کر دیا اس کی دو صورتیں ہیں ثمن پر قبضہ کرنے کے بعد ہبہ کیا ہے تو اس کا اعتبار نہیں

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب العاشر فی الاختلاف... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۹.

②..... المرجع السابق.

③..... بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۱۱۔

④..... "الہدایۃ"، کتاب الشفعۃ، فصل فیما یؤخذ بہ المشفوع، ج ۲، ص ۳۱۵.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، باب طلب الشفعۃ، ج ۹، ص ۳۸۴.

یعنی شفیع پورا ثمن دے اور قبضہ سے پہلے ثمن کا کچھ حصہ بہہ کیا تو شفیع سے یہ رقم ساقط ہو جائے گی۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - بائع نے ایک شخص کو بیع کا وکیل کیا اُس وکیل نے عقد کے بعد مشتری سے ثمن کا کچھ حصہ کم کر دیا اگرچہ یہ کمی مشتری کے حق میں معتبر ہے کہ اُس سے یہ حصہ کم ہو جائے گا مگر اس کمی کا وکیل ضامن ہے یعنی بائع کو پورا ثمن یہ دے گا لہذا شفیع کے حق میں اس کمی کا اعتبار نہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - شفیع کو معلوم تھا کہ ایک ہزار میں مشتری نے خریدا ہے اس نے ہزار دے دیے اس کے بعد بائع نے سو روپے کی مشتری سے کمی کر دی تو یہ رقم شفیع سے بھی کم ہو جائے گی یعنی شفعہ سے پہلے بائع نے کم کیا یا بعد میں دونوں کا ایک حکم ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ - مشتری نے عقد کے بعد ثمن میں اضافہ کیا یہ زیادتی بھی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی مگر شفیع کا حق پہلے ثمن کے ساتھ متعلق ہو چکا اور شفیع پر یہ زیادتی لازم کرنے میں اُس کا ضرر ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں شفیع کو وہ چیز پہلے ہی ثمن میں مل جائے گی۔⁽⁴⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۷ - مشتری نے جانماد کو مثلی چیز کے عوض میں خریدا ہے تو شفیع اُس کی مثل دے کر جانماد کو حاصل کر سکتا ہے اور قہمی چیز کے عوض میں خریدا ہے تو اس چیز کی بیع کے وقت جو قیمت تھی شفیع کو وہ دینی ہوگی اور اگر جانماد غیر منقولہ⁽⁵⁾ کو جانماد غیر منقولہ کے عوض میں خریدا ہے مثلاً اپنے مکان کے عوض میں دوسرا مکان خریدا اور فرض کر دو دونوں مکان کے دو شفیع ہوں اور دونوں نے بذریعہ شفعہ لینا چاہا تو اُس مکان کی قیمت کے بدلے میں اس مکان کو لے گا اور اس کی قیمت کے عوض میں اس کو لے گا۔⁽⁶⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۸ - عقد بیع میں ثمن کی ادا کے لیے کوئی میعاد مقرر تھی تو شفیع کو اختیار ہے کہ ابھی ثمن دے کر مکان لے لے اور چاہے تو میعاد پوری ہونے کا انتظار کرے جب میعاد پوری ہو اُس وقت ثمن ادا کر کے چیز لے اور یہ نہیں کر سکتا کہ چیز تو اب لے

①..... "الدرالمختار" و "ردالمختار، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۸۳.

②..... "ردالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، مطلب: طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۸۳.

③..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۸۴.

④..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، فصل فیما یؤخذ بہ المشفوع، ج ۲، ص ۳۱۵.

⑤..... وہ جانماد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکتی ہو۔

⑥..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، فصل فیما یؤخذ بہ المشفوع، ج ۲، ص ۳۱۵.

اور ثمن میعاد پوری ہونے پر ادا کرے۔ مگر دوسری صورت میں جو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ شفیع طلب کرنے میں انتظار کرے اگر طلب شفیع میں دیر کرے گا تو شفیع ہی باطل ہو جائے گا بلکہ شفیع تو اسی وقت طلب کرے گا اور چیز اُس وقت لے گا جب میعاد پوری ہوگی۔ اور پہلی صورت میں کہ اسی وقت ثمن ادا کر کے لے اگر اس نے وہ ثمن بائع کو دیا تو مشتری سے بائع کا مطالبہ ساقط ہو گیا اور اگر مشتری کو دیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ وہ بائع کو اُس وقت دے جب میعاد پوری ہو جائے بائع اُس سے ابھی مطالبہ نہیں کر سکتا۔⁽¹⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۹ مشتری نے جدید تعمیر کی یا زمین میں درخت نصب کر دیے اور بذریعہ شفیع یہ جانماد شفیع کو دلائی گئی تو وہ مشتری سے یہ کہے کہ اپنی عمارت توڑ کر اور درخت کاٹ کر لے جائے اور اگر عمارت توڑنے اور درخت کھودنے میں زمین خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس عمارت کو توڑنے کے بعد اور درخت کاٹنے کے بعد جو قیمت ہو وہ قیمت مشتری کو دیدے اور ان چیزوں کو خود لے لے۔⁽²⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۱۰ مشتری نے اُس زمین میں کاشت کی اور فصل طیار ہونے سے پہلے شفیع نے شفیع کر کے لے لی تو مشتری کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنی کچی کھیتی کاٹ لے بلکہ شفیع کو فصل طیار ہونے تک انتظار کرنا ہوگا اور اس زمانے کی اجرت بھی مشتری سے نہیں دلائی جائے گی۔ ہاں اگر زراعت سے زمین میں کچھ نقصان پیدا ہو گیا تو بقدر نقصان ثمن میں سے کم کر کے بقیہ ثمن شفیع ادا کرے گا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ مشتری نے مکان میں روغن کرلیا یا رنگ کرایا یا سفیدی کرائی یا پلاستر کرایا تو ان چیزوں کی وجہ سے مکان کی قیمت میں جو کچھ اضافہ ہوا شفیع کو یہ بھی دینا ہوگا اور اگر نہ دینا چاہے تو شفیع چھوڑ دے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۲ ایک شخص نے مکان خریدا اور اُسے خود اسی مشتری نے منہدم کر دیا⁽⁵⁾ یا کسی دوسرے شخص نے منہدم کر دیا

①..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، فصل فیما یؤخذ به المشفوع، ج ۲، ص ۳۱۵، ۳۱۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۸۵، ۳۸۶.

②..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، فصل فیما یؤخذ به المشفوع، ج ۲، ص ۳۱۶.

و "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۸۷.

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الشفعة، الباب الثامن فی تصرف مشتری... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۰.

④..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۸۷.

⑤..... گرا دیا۔

تو ثمن کو زمین اور بنی ہوئی عمارت کی قیمت پر تقسیم کریں۔ زمین کے مقابل میں ثمن کا جتنا حصہ آئے وہ دے کر زمین لے لے اور اگر وہ عمارت خود منہدم ہوگئی کسی نے گرائی نہیں تو ثمن کو اُس زمین اور اس ملکہ پر تقسیم کریں جو حصہ زمین کے مقابل میں پڑے اس کے عوض میں زمین کو لے لے۔ اور آگ سے وہ مکان جل گیا اور کوئی سامان باقی نہ رہا یا سیلاب ساری عمارت کو بہا لے گیا تو پورے ثمن کے عوض میں شفیع اُس زمین کو لے سکتا ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ — مشتری نے صرف عمارت بیچ دی اور زمین نہیں بیچی ہے مگر عمارت ابھی قائم ہے تو شفیع اُس بیچ کو توڑ سکتا ہے اور عمارت و زمین دونوں کو بذریعہ شفعہ لے سکتا ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ — مشتری یا کسی دوسرے نے عمارت منہدم کر دی ہے یا وہ خود گر گئی اور ملکہ موجود ہے شفیع یہ چاہتا ہے کہ شفعہ میں اس سامان کو بھی لے لے وہ ایسا نہیں کر سکتا بلکہ صرف زمین کو لے سکتا ہے۔ یوں اگر مشتری نے مکان میں سے دروازے نکلا کر بیچ ڈالے تو شفیع ان دروازوں کو نہیں لے سکتا بلکہ دروازوں کی قیمت کی قدر زر ثمن سے کم کر کے مکان کو شفعہ میں لے سکتا ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ — مکان کا کچھ حصہ دریا برد ہو گیا⁽⁴⁾ کہ اس حصہ میں دریا کا پانی جاری ہے تو ماقی⁽⁵⁾ کو حصہ ثمن کے مقابل میں شفیع لے سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ — زمین خریدی جس میں درخت ہیں اور درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں اور مشتری نے پھل بھی اپنے لیے شرط کر لیے ہیں اور اس میں شفعہ ہوا اگر پھل اب بھی موجود ہیں تو شفیع زمین و درخت اور پھل سب کو لے گا اور اگر پھل ٹوٹ چکے ہیں تو صرف زمین و درخت لے گا اور پھلوں کی قیمت ثمن سے کم کر دی جائے گی۔ اور اگر خریدنے کے بعد پھل آئے اس میں چند صورتیں ہیں ابھی تک درخت بائع ہی کے قبضہ میں تھے کہ پھل آگئے تو شفیع پھلوں کو بھی لے گا اور پھل توڑ لیے ہوں تو ان کی قیمت کی مقدار ثمن سے کم کی جائے گی۔ اور اگر مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد پھل آئے اور پھل موجود ہیں تو شفیع پھلوں کو بھی لے گا اور ثمن میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور اگر مشتری نے توڑ کر بیچ ڈالے یا کھالے تو شفیع کو زمین و درخت ملیں گے اور ثمن میں

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثامن فی تصرف المشتري... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۰.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق.

④..... یعنی دریا بہا لے گیا۔

⑤..... باقی ماندہ۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب الثامن فی تصرف المشتري... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۰.

کچھ کی نہیں کی جائے گی۔⁽¹⁾ (ہدایہ، درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ بیع میں پھل مشروط تھے اور آفت سماویہ⁽²⁾ سے پھل جاتے رہے تو ان کے مقابل میں ثمن کا حصہ ساقط ہو

جائے گا۔ اور اگر بعد میں پیدا ہوئے اور آفت سماویہ سے جاتے رہے تو ثمن میں کچھ کی نہیں کی جائے گی۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ شفعہ کے لینے سے پہلے مشتری نے جائداد میں تصرفات کیے شفعہ اُس کے تمام تصرفات کو رد کر دے گا

مثلاً مشتری نے بیع کر دی یا ہبہ کر دی اور قبضہ بھی دے دیا یا اُس کو صدقہ کر دیا بلکہ اُس کو مسجد کر دیا اور اُس میں نماز بھی پڑھ لی گئی یا

اُس کو قبرستان بنایا اور مردہ بھی اُس میں دفن کر دیا گیا یا اور کسی قسم کا وقف کیا غرض کسی قسم کا تصرف کیا ہو شفعہ ان تمام تصرفات کو

باطل کر کے وہ جائداد لے لے گا۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۹ شفعہ سے پہلے مشتری نے جو کچھ تصرف کیا ہے وہ تصرف صحیح ہے مگر شفعہ اُس کو توڑ دے گا یہ نہیں کہا جاسکتا

کہ وہ تصرف ہی صحیح نہیں ہے لہذا اس جائداد کو اگر مشتری نے کرایہ پر دیا تو یہ کرایہ مشتری کے لیے حلال ہے بلکہ اگر اُس نے بیع کر

ڈالی ہے تو ثمن بھی مشتری کے لیے حلال طیب ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ ایک مکان کا نصف حصہ غیر معین خریدنا خریدنے کے بعد بذریعہ تقسیم مشتری نے اپنا حصہ جدا کر لیا یہ تقسیم

آپس کی رضامندی سے ہو یا حکم قاضی سے بہر حال شفعہ اسی حصہ کو لے سکتا ہے جو مشتری کو ملا اُس تقسیم کو توڑ کر جدید تقسیم

نہیں کرا سکتا اور اگر مکان میں دو شخص شریک تھے ایک نے اپنا حصہ بیع کر دیا اور مشتری نے دوسرے شریک سے تقسیم کرائی اور

اپنا حصہ جدا کر لیا اس صورت میں شفعہ اس تقسیم کو توڑ سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

کس میں شفعہ ہوتا ہے اور کس میں نہیں

مسئلہ ۱ شفعہ صرف جائداد غیر منقولہ میں ہو سکتا ہے جس کی ملک مال کے عوض میں حاصل ہوئی ہو اگرچہ وہ جائداد

①..... "الهدایة"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۲، ص ۳۱۷.

و "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۹۰.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الشفعة، الباب الثامن فی تصرف مشتری... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۰.

②..... قدرتی آفت مثلاً بارش، آندھی، طوفان وغیرہ۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، ج ۹، ص ۳۹۰.

④..... المرجع السابق، ص ۳۸۸.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الشفعة، الباب الثامن فی تصرف مشتری... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۱.

⑥..... المرجع السابق.

قابل تقسیم نہ ہو جیسے چکی کا مکان اور حمام اور کوآں اور چھوٹی کوٹھری کہ یہ چیزیں اگرچہ قابل تقسیم نہیں ہیں ان میں بھی شفعہ ہو سکتا ہے۔ جائیداد منقولہ میں شفعہ نہیں ہو سکتا لہذا کشتی اور صرف عمارت یا صرف درخت کسی نے خریدے ان میں شفعہ نہیں ہو سکتا اگرچہ یہ طے پایا ہو کہ عمارت اور درخت برقرار رہیں گے ہاں اگر عمارت یا درخت کو زمین کے ساتھ فروخت کیا تو تبعاً ان میں بھی شفعہ ہوگا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ - جائیداد غیر منقولہ کو نکاح کا مہر قرار دیا یا عورت نے اُس کے عوض میں خلع کرایا یا کسی چیز کی اجرت اُس کو قرار دیا یا دم عدا سے بدل صلح قرار دیا یا وراثت میں ملی یا کسی نے بطور صدقہ دے دی یا ہبہ کی بشرطیکہ ہبہ میں عوض کی شرط نہ ہو تو شفعہ نہیں ہو سکتا کہ ان سب صورتوں میں مال کے عوض میں ملک نہیں حاصل ہوئی۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ - کسی شخص پر ایک چیز کا دعویٰ تھا اس نے اپنا مکان دے کر مدعی سے صلح کر لی اس پر شفعہ ہو سکتا ہے اگرچہ یہ صلح انکار یا سکوت⁽³⁾ کے بعد ہو کیونکہ مدعی اس کو اپنے اس حق کے عوض میں لینا قرار دیتا ہے اور شفعہ کا تعلق اسی مدعی سے ہے لہذا مدعی علیہ کے انکار کا اعتبار نہیں اور اگر اسی مکان کا دعویٰ تھا اور مدعی علیہ نے اقرار کے بعد کچھ دے کر مدعی سے صلح کر لی تو شفعہ ہو سکتا ہے کہ یہ صلح حقیقہً اُن دامنوں کے عوض اس مکان کو خریدنا ہے اور اگر مدعی علیہ نے انکار یا سکوت کے بعد صلح کی تو شفعہ نہیں ہو سکتا کہ یہ صلح بیع کے حکم میں نہیں ہے بلکہ کچھ دے کر جھگڑا کا ٹٹا ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - اگر بیع میں بائع نے اپنے لیے خیار شرط کیا ہو تو جب تک خیار ساقط نہ ہو شفعہ نہیں ہو سکتا کہ خیار ہوتے ہوئے بیع ملک بائع سے خارج ہی نہ ہوئی شفعہ کیونکر ہو اور صحیح یہ ہے کہ شفعہ کی طلب خیار ساقط ہونے پر کی جائے اور اگر مشتری نے اپنے لیے خیار شرط کیا تو شفعہ ہو سکتا ہے کیونکہ بیع ملک بائع سے خارج ہوگئی اور اندرون مدت خیار شفعہ نے لے لیا تو بیع واجب ہوگئی اور شفعہ کے لیے خیار شرط نہیں حاصل ہوگا۔⁽⁵⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۵ - بیع فاسد میں اُس وقت شفعہ ہوگا جب بائع کا حق منقطع ہو جائے یعنی اُسے واپس لینے کا حق نہ رہے مثلاً اس جائیداد میں مشتری نے کوئی تصرف کر لیا نئی عمارت بنائی اب شفعہ ہو سکتا ہے اور ہبہ بشرط العوض⁽⁶⁾ میں اُس وقت شفعہ ہو سکتا ہے

①..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب ما ثبتت ہی فیہ اولاً ثبتت، ج ۹، ص ۳۹۳.

②..... المرجع السابق، ص ۳۹۴.

③..... خاموشی۔

④..... "ردالمحتار"، کتاب الشفعة، باب ما ثبتت ہی فیہ اولاً ثبتت، ج ۹، ص ۳۹۴.

⑤..... "الهدایہ"، کتاب الشفعة، باب ما تحب فیہ الشفعة... إلخ، ج ۲، ص ۳۱۹.

⑥..... وہ ہبہ جس میں عوض مشروط ہو۔

جب تقابض بدلیں ہو جائے یعنی اس نے اس کی چیز اور اس نے اس کی چیز پر قبضہ کر لیا اور فقط ایک نے قبضہ کیا ہو دوسرے نے قبضہ نہیں کیا ہو تو شفعہ نہیں ہو سکتا اور فرض کرو ایک نے ہی قبضہ کیا اور شفعہ نے شفعہ کی تسلیم کر دی تو دوسرے کے قبضہ کے بعد شفعہ کر سکتا ہے کہ وہ پہلی تسلیم صحیح نہیں کہ قبل از وقت ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ بیع فاسد کے ذریعہ سے ایک مکان خریدا اس کے بعد اس مکان کے پہلو میں دوسرا مکان فروخت ہوا اگر وہ مکان اول ابھی تک بائع ہی کے قبضہ میں ہے تو بائع شفعہ کر سکتا ہے کیوں کہ بیع فاسد سے بائع کی ملک زائل نہیں ہوئی اور اگر مشتری کو قبضہ دے دیا ہے تو مشتری شفعہ کر سکتا ہے کہ اب یہ مالک ہے اور اگر بائع کا قبضہ تھا اور اس نے شفعہ کا دعویٰ کیا تھا اور قبل فیصلہ مشتری کو قبضہ دے دیا شفعہ باطل ہو گیا اور فیصلہ کے بعد مشتری کے قبضہ میں دیا تو جائداد مشفوعہ⁽²⁾ پر اس کا کچھ اثر نہیں اور اگر مشتری کا قبضہ تھا اور مشتری نے شفعہ کا دعویٰ بھی کیا تھا اور قبل فیصلہ بائع نے مشتری سے واپس لے لیا تو مشتری کا دعویٰ باطل ہو گیا اور بعد فیصلہ بائع نے واپس لیا تو اس کا کچھ اثر نہیں یعنی مشتری اس مکان کا مالک ہے جس کو بذریعہ شفعہ حاصل کیا۔⁽³⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۷ جائداد فروخت ہوئی اور شفعہ نے شفعہ سے انکار کر دیا پھر مشتری نے خیار رویت یا خیار شرط کی وجہ سے واپس کر دی یا اس میں عیب نکلا اور حکم قاضی سے واپس ہوئی تو اس واپسی کو بیع قرار دے کر شفعہ شفعہ نہیں کر سکتا کہ یہ واپسی فسخ ہے بیع نہیں ہے اور اگر عیب کی صورت میں بغیر حکم قاضی بائع نے خود واپس لے لی تو شفعہ ہو سکتا ہے کہ حق ثالث میں یہ بیع جدید ہے۔ یوہیں اگر بیع کا اقالہ ہو تو شفعہ ہو سکتا ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

شفعہ باطل ہونے کے وجوہ

مسئلہ ۱ طلب مواثبت یا طلب اشہاد نہ کرنے سے شفعہ باطل ہو جاتا ہے۔ شفعہ کی تسلیم سے بھی باطل ہو جاتا ہے مثلاً یہ کہے کہ اس مکان کا شفعہ میں نے تسلیم کر دیا۔ بائع کے لیے تسلیم کرے یا مشتری یا وکیل مشتری کے لیے، قبضہ مشتری سے قبل تسلیم کرے یا بعد میں ہر صورت میں باطل ہو جاتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بیع کے بعد تسلیم ہو اور اگر بیع سے قبل تسلیم پائی گئی تو اس سے شفعہ باطل نہیں ہوگا۔ یوہیں اگر یہ کہے کہ میں نے شفعہ باطل کر دیا یا ساقط کر دیا جب بھی شفعہ باطل ہو جائے گا۔ نابالغ

①..... "الدر المختار"، کتاب الشفعة، باب طلب عند القاضی... إلخ، ج ۹، ص ۳۹۳.

②..... وہ جائداد جس پر شفعہ کا دعویٰ کیا گیا۔

③..... "الهدایہ"، کتاب الشفعة، باب ما تحب فیہ الشفعة... إلخ، ج ۲، ص ۳۲۰.

④..... "الدر المختار"، کتاب الشفعة، باب ما تثبت ہی فیہ أولات ثبت، ج ۹، ص ۳۹۶.

کے لیے حق شفعہ تھا اس کے باپ یا وصی نے تسلیم کی شفعہ باطل ہو گیا۔⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲ - طلب شفعہ کے لیے وکیل کیا تھا وکیل نے قاضی کے پاس شفعہ کی تسلیم کر دی یا یہ اقرار کیا کہ میرے موکل نے تسلیم کر دی ہے اس سے بھی شفعہ باطل ہو جائے گا اور اگر یہ تسلیم یا اقرار تسلیم قاضی کے پاس نہ ہو تو شفعہ باطل نہیں ہوگا مگر یہ وکیل وکالت سے خارج ہو جائے گا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ - جس شخص کے لیے تسلیم کا حق ہے اس کا سکوت بھی شفعہ کو باطل کر دیتا ہے مثلاً باپ یا وصی کا خاموش رہنا بھی مُبطل⁽³⁾ ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ - مشتری نے شفیع کو کچھ دے کر مصالحت کر لی کہ شفعہ نہ کرے یہ صلح بھی باطل ہے کہ جو کچھ دینا قرار پایا ہے رشوت ہے اور اس صلح کی وجہ سے شفعہ بھی باطل ہو گیا۔ یوں اگر حق شفعہ کو مال کے بدلے میں بیع کیا یہ بیع بھی باطل ہے اور شفعہ بھی باطل ہو گیا۔⁽⁵⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۵ - شفیع نے مشتری سے یوں مصالحت کی نصف مکان مجھے اتنے میں دے دے یہ صلح صحیح ہے اور اگر یوں مصالحت کی کہ یہ کمرہ مجھے دے دے اس کے مقابل میں ثمن کا جو حصہ ہے وہ میں دوں گا تو صلح صحیح نہیں مگر شفعہ بھی ساقط نہ ہوگا۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ - شفیع نے مشتری سے اس جائیداد کا نرخ چکا یا یا یہ کہا کہ میرے ہاتھ بیع تو لیہ کرو یا اجارہ پر لیا یا مشتری سے کہا میرے پاس ودیعت⁽⁷⁾ رکھ دو یا میرے لیے ودیعت رکھ دو یا میرے لیے اس کی وصیت کر دو یا مجھے صدقہ کے طور پر دے دو ان سب صورتوں میں شفعہ کی تسلیم ہے۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب ما يبطلها، ج ۹، ص ۳۹۸-۴۰۰.

و"الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعة، الباب التاسع فیما يبطل بہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۲ و الباب الثانی عشر فی شفعة الصبی، ص ۱۹۲.

②....."الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب ما يبطلها، ج ۹، ص ۴۰۰.

③.....یعنی شفعہ کو باطل کرنے والا ہے۔

④....."الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب ما يبطلها، ج ۹، ص ۴۰۰.

⑤....."الہدایۃ"، کتاب الشفعة، باب ما يبطل بہ الشفعة، ج ۲، ص ۳۲۱.

⑥....."الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب ما يبطلها، ج ۹، ص ۴۰۱.

⑦.....امانت۔

⑧....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعة، الباب التاسع فیما يبطل بہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۲.

مسئلہ ۷ — ہبہ بشرط العوض میں بعد تقاض بد لین شفع نے شفعہ کی تسلیم کی اس کے بعد اون دونوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم نے اُس عوض کے مقابل میں بیع کی تھی اب شفع کو شفعہ کا حق نہیں ہے اور اگر ہبہ بغیر عوض میں بعد تسلیم شفعہ اون دونوں نے ہبہ بشرط العوض یا بیع کا اقرار کیا تو شفعہ کر سکتا ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ — شفعہ کے فیصلہ سے پہلے شفع مر گیا شفعہ باطل ہو گیا یعنی اس میں میراث نہیں ہوگی کہ وہ مر گیا تو اس کا وارث اس کے قائم مقام ہو کر شفعہ کرے اور فیصلہ کے بعد شفع کا انتقال ہو تو شفعہ باطل نہیں ہوا۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۹ — مشتری یا بائع کی موت سے شفعہ باطل نہیں ہوتا بلکہ شفعہ اون کے وارثوں سے مطالبہ کرے گا کہ یہ اُن کے قائم مقام ہیں اور مشتری کے ذمہ اگر دین ہے تو اُس کی ادا کے لیے یہ جائداد نہیں بیچی جائے گی۔ قاضی یا وصی نے بیع کر دی ہو تو شفعہ اس بیع کو باطل کر دے گا اور اگر مشتری نے یہ وصیت کی ہے کہ فلاں کو دی جائے تو یہ وصیت بھی شفعہ باطل کر دے گا۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ — جس جائداد کے ذریعہ سے شفعہ کرتا ہے قبل فیصلہ شفعہ نے وہ جائداد بیع کر دی حق شفعہ باطل ہو گیا اگرچہ اس جائداد کی بیع کا اُسے علم نہ تھا جس پر شفعہ کرتا۔ یوں اگر اُس کو مسجد یا مقبرہ کر دیا یا کسی دوسری طرح وقف کر دیا اب شفعہ نہیں کر سکتا اور اگر اُس جائداد کو بیع کر دیا مگر اپنے لیے خیار شرط رکھا ہے تو جب تک خیار ساقط نہ ہو شفعہ باطل نہیں ہوگا۔^(۴) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۱۱ — شفعہ نے اپنی پوری جائداد نہیں فروخت کی ہے بلکہ آدھی یا تہائی بیچی الغرض کچھ باقی ہے تو شفعہ کا حق بدستور قائم ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ — شفعہ نے مشتری سے وہ جائداد خرید لی اس کا شفعہ باطل ہو گیا دوسرا شخص جو اس کی برابر کا ہے یعنی مثلاً یہ بھی شریک ہے وہ بھی شریک ہے یا اس سے کم درجہ کا ہے یعنی یہ شریک ہے وہ پروسی ہے یہ شفعہ کر سکتا ہے اور اختیار ہے کہ پہلی بیع کے لحاظ سے شفعہ کرے یا دوسری بیع جو مشتری و شفعہ کے مابین ہوئی ہے اس کے لحاظ سے شفعہ کرے۔^(۶) (درمختار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب التاسع فیما یبطل بہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۲.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطلہا، ج ۹، ص ۴۰۱.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطلہا، ج ۹، ص ۴۰۱.

④..... "الہدایۃ"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطل بہ الشفعۃ، ج ۲، ص ۳۲۱.

و "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطلہا، ج ۹، ص ۴۰۲.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب التاسع فیما یبطل بہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۴.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطلہا، ج ۹، ص ۴۰۲.

مسئلہ ۱۳ شفعہ نے ضمان درک کیا یعنی مشتری کو اندیشہ تھا کہ اگر اس جائداد کا کوئی دوسرا مالک نکل آیا تو جائداد ہاتھ سے نکل جائے گی اور بائع سے ثمن کی وصولی کی کیا صورت ہوگی شفعہ نے ضمانت کر لی شفعہ باطل ہو گیا۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۱۴ بائع نے شفعہ کو بیع کا وکیل کیا اسی وکیل نے بیع کی اب شفعہ نہیں کر سکتا اور مشتری نے کسی کو مکان خریدنے کا وکیل کیا تھا اُس نے خرید تو اس خریدنے کی وجہ سے شفعہ نہیں باطل ہوگا۔ یوں اگر بائع نے بیع میں شفعہ کے لیے خیار شرط کیا کہ اُسے اختیار ہے بیع کو نافذ کرے یا نہ کرے اُس نے نافذ کر دی حق شفعہ باطل ہو گیا۔ اور اگر مشتری نے ایسے شخص کے لیے خیار شرط کیا جو شفعہ کرے گا اُس نے خیار ساقط کر کے بیع کو نافذ کر دیا حق شفعہ نہیں باطل ہوگا۔^(۲) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۵ شفعہ کو یہ خبر ملی تھی کہ مکان ایک ہزار کو فروخت ہوا ہے اس نے تسلیم شفعہ کر دی بعد میں معلوم ہوا کہ ہزار سے کم میں فروخت ہوا ہے یا ہزار روپے میں نہیں فروخت ہوا ہے بلکہ اتنے من گیبوں یا جو کے بدلے میں فروخت ہوا ہے اگر چہ ان کی قیمت ایک ہزار بلکہ ایک ہزار سے زیادہ ہو تو تسلیم صحیح نہیں بلکہ شفعہ کر سکتا ہے اور اگر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ہزار روپے کی اشرفیوں کے عوض میں فروخت ہوا ہے یا عروض کے عوض میں فروخت ہوا جن کی قیمت ایک ہزار ہے تو شفعہ نہیں کر سکتا۔^(۳) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۶ شفعہ کو یہ خبر ملی کہ ثمن از قبیل کمیل و موزون فلاں چیز ہے اور تسلیم شفعہ کر دی بعد کو معلوم ہوا کہ کمیل و موزون کی دوسری جنس ثمن ہے تو شفعہ کر سکتا ہے اگر چہ اس کی قیمت اُس سے کم یا زیادہ ہو۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ یہ خبر ملی تھی کہ مشتری زید ہے اس نے تسلیم کر دی بعد کو معلوم ہوا کہ دوسرا شخص ہے تو شفعہ کر سکتا ہے اور اگر بعد کو معلوم ہوا کہ زید و عمرو دونوں مشتری ہیں تو زید کے حصہ میں نہیں کر سکتا عمرو کے حصہ میں کر سکتا ہے۔^(۵) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۸ شفعہ کو خبر ملی تھی کہ نصف مکان فروخت ہوا ہے اُس نے تسلیم شفعہ کر دی بعد میں معلوم ہوا کہ پورا مکان فروخت ہوا تو شفعہ کر سکتا ہے اور اگر پہلے یہ خبر تھی کہ کل فروخت ہوا اُس نے تسلیم کر دی بعد کو معلوم ہوا کہ نصف فروخت ہوا تو شفعہ نہیں کر سکتا۔^(۶) (درمختار) یہ اُس صورت میں ہے کہ کل کا جو ثمن تھا اتنے ہی میں نصف کا فروخت ہونا معلوم ہوا اور اگر یہ صورت

①..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب ما يبطلها، ج ۹، ص ۴۰۲.

②..... "الهداية"، کتاب الشفعة، باب ما يبطل به الشفعة، ج ۲، ص ۳۲۱.

③..... المرجع السابق، ص ۳۲۲.

④..... "الفتاوى الهندية"، کتاب الشفعة، الباب التاسع فيما يبطل به... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۴.

⑤..... "الهداية"، کتاب الشفعة، باب ما يبطل به الشفعة، ج ۴، ص ۳۲۲.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الشفعة، باب ما يبطلها، ج ۹، ص ۴۰۳.

نہ ہو بلکہ نصف کا ثمن کل کے ثمن کا نصف ہے تو شفعہ کر سکتا ہے مثلاً پہلے یہ خبر ملی تھی کہ پورا مکان ایک ہزار میں فروخت ہوا اور اب یہ معلوم ہوا کہ نصف مکان پانسو میں فروخت ہوا تو شفعہ ہو سکتا ہے پہلے کی تسلیم مانع نہیں ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ شفعہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ مکان جو فروخت ہوا ہے میرا ہی ہے بائع کا نہیں ہے شفعہ نہیں کر سکتا یعنی شفعہ باطل ہو گیا اور اگر پہلے شفعہ کا دعویٰ کیا اور اب کہتا ہے کہ میرا ہی مکان ہے یہ دعویٰ نامقبول ہے۔⁽²⁾ (خانہ) اور اگر یوں کہا کہ یہ مکان میرا ہے اور میں اس کا شفعہ ہوں اگر مالک ہونے کی حیثیت سے ملا تو ملا ورنہ شفعہ سے لوں گا اس طرح کہنے سے نہ شفعہ باطل ہو نہ دعوائے ملک باطل۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۰ جس جانب شفعہ کا مکان یا زمین ہے اس جانب ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک ایک ہاتھ چھوڑ کر باقی مکان بیچ ڈالا یعنی جائداد مبیعہ اور جائداد شفعہ میں فاصلہ ہو گیا اب شفعہ نہیں کر سکتا کہ دونوں میں اتصال ہی نہ رہا۔ یوہیں اگر ایک ہاتھ کی قدر یہاں سے وہاں تک مشتری کو بہہ کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا اس کے بعد باقی جائداد کو فروخت کیا تو شفعہ نہیں کر سکتا۔⁽⁴⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۲۱ مکان کے سوہام⁽⁵⁾ میں سے ایک سہم پہلے خرید لیا باقی سہام کو بعد میں خرید تو پروسی کا شفعہ صرف پہلے سہم میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو کچھ خریدا ہے اس میں خود مشتری شریک ہے۔ مشتری ان ترکیبوں سے شفعہ کا حق باطل کر سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (ہدایہ وغیرہا)

مسئلہ ۲۲ شفعہ ثابت ہو جانے کے بعد اس کے اسقاط کا حیلہ کرنا بالاتفاق مکروہ ہے مثلاً مشتری شفعہ سے یہ کہے کہ تم شفعہ کر کے کیا کرو گے اگر تم اسے لینا ہی چاہتے ہو تو جتنے میں میں نے لیا ہے اتنے میں تمہارے ہاتھ فروخت کر دوں گا شفعہ نے کہہ دیا ہاں یا کہا میں خرید لوں گا شفعہ باطل ہو گیا یا اس سے کسی مال پر مشتری نے مصالحت کر لی شفعہ بھی باطل ہو گیا اور مال بھی نہیں دینا پڑا۔⁽⁷⁾ (نہایہ وغیرہا)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الشفعۃ، الباب التاسع فیما یبطل بہ... إلخ، ج ۵، ص ۱۸۴.

②..... "الفتاویٰ الخانیۃ"، کتاب الشفعۃ، فصل فی الطلب، ج ۲، ص ۴۴۷.

③..... "الدر المختار"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطلہا، ج ۹، ص ۴۱۷.

④..... "الہدایۃ"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطل بہ الشفعۃ، ج ۴، ص ۳۲۲.

⑤..... سہم کی جمع حصے۔

⑥..... "الہدایۃ"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطل بہ الشفعۃ، ج ۴، ص ۳۲۲، وغیرہا.

⑦..... "العنایۃ" علی "فتح القدیر"، کتاب الشفعۃ، باب ما یبطل بہ الشفعۃ، ج ۸، ص ۳۴۴، وغیرہا.

مسئلہ ۲۳ — ایسی ترکیب کرنا کہ شفعہ کا حق ہی نہ پیدا ہونے پائے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کراہت نہیں قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ (1) (در مختار)

مسئلہ ۲۴ — نابالغ بچہ کو بھی حق شفعہ حاصل ہوتا ہے بلکہ جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے اوس کو بھی یہ حق حاصل ہے جب کہ جائداد کی خریداری سے چھ ماہ کے اندر پیدا ہو گیا ہو اور اگر شکم میں بچہ ہے اور اس کا باپ مر گیا اور یہ جائداد کا وارث ہوا اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد جائداد فروخت ہوئی تو اگر چہ وقت خریداری سے چھ ماہ کے بعد پیدا ہوا ہو شفعہ کا بھی اسے حق ملے گا۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ — نابالغ کے لیے جب حق شفعہ ہے تو اس کا باپ یا باپ کا وصی یہ نہ ہو تو داد پھر اس کے بعد اس کا وصی یہ بھی نہ ہو تو قاضی نے جس کو وصی مقرر کیا ہو وہ شفعہ کو طلب کرے گا اور ان میں سے کوئی نہ ہو تو یہ خود بالغ ہو کر مطالبہ کرے گا اور اگر ان میں سے کوئی ہو مگر اس نے قصداً طلب نہ کیا تو شفعہ کا حق جاتا رہا۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ — باپ نے ایک مکان خریدا اور اس کا نابالغ لڑکا شفعہ ہے اور باپ نے نابالغ کی طرف سے طلب شفعہ نہیں کی شفعہ باطل ہو گیا کہ خریدنا طلب شفعہ کے منافی نہ تھا اور اگر باپ نے مکان بیچا اور نابالغ لڑکا شفعہ ہے اور باپ نے طلب نہ کی شفعہ باطل نہ ہوا کہ بیع کرنا طلب شفعہ کے منافی تھا اور اس صورت میں وہ لڑکا بعد بلوغ شفعہ طلب کر سکتا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ — باپ نے مکان غبن فاحش کے ساتھ خریدا تھا اس وجہ سے نابالغ کے لیے شفعہ طلب نہیں کیا کہ اس کے مال سے نقصان کے ساتھ اسے لینے کا حق نہ تھا اس صورت میں حق شفعہ باطل نہیں ہے وہ لڑکا بالغ ہو کر شفعہ کر سکتا ہے۔ (5) (عالمگیری)

تقسیم کا بیان

تقسیم کا جواز قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت۔

قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَنَبِّئْتَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ (6)

”اور انھیں خبر دے دو کہ پانی کی ان کے مابین تقسیم ہے۔“

1..... ”الدر المختار“، کتاب الشفعة، باب ما یطلبها، ج ۹، ص ۴۰۸.

2..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الشفعة، الباب الثانی عشر فی شفعة الصبی، ج ۵، ص ۱۹۱.

3..... المرجع السابق، ص ۱۹۲. 4..... المرجع السابق. 5..... المرجع السابق.

6..... پ ۲۷، القمر: ۲۸.

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ﴾ (1)

”جب تقسیم کے وقت رشتہ والے آجائیں۔“

اور احادیث اس بارہ میں بہت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غنیمتوں اور میراثوں کی تقسیم فرمائی اور اس کے جواز پر اجماع بھی منعقد ہے۔

مسئلہ ۱ - شرکت کی صورت میں ہر ایک شریک کی ملک دوسرے کی ملک سے ممتاز نہیں ہوتی اور ہر ایک کسی مخصوص حصہ سے نفع پر قادر نہیں ہوتا ان حصوں کو جدا کر دینے کا نام تقسیم ہے جب شرکا میں سے کوئی شخص تقسیم کی درخواست کرے تو قاضی پر لازم ہے کہ اُس کی درخواست قبول کرے اور تقسیم کر دے۔ (2) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - قاضی کو اُس کی درخواست قبول کرنا اُس وقت ضروری ہے کہ تقسیم سے اس چیز کی منفعت فوت نہ ہو یعنی وہ چیز جس کام کے لیے عرف میں ہے وہ کام تقسیم کے بعد بھی اس سے لیا جاسکے اور اگر تقسیم سے منفعت جاتی رہے مثلاً حمام کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو حمام نہ رہے گا اگرچہ اُس میں دوسرے کام ہو سکتے ہوں لہذا اس کی تقسیم سے منفعت فوت ہوتی ہے یہ تقسیم قاضی کے ذمہ لازم نہیں۔ جس چیز میں تقسیم سے منفعت فوت ہو اُس کی تقسیم اُس وقت کی جائے گی جب تمام شرکا تقسیم پر راضی ہوں۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - تقسیم میں اگرچہ ایک شریک کا حصہ دوسرے شرکا کے حصوں سے جدا کرنا ہے مگر اس میں مبادلہ کا (4) پہلو بھی پایا جاتا ہے کیونکہ شرکت کی صورت میں ہر جز میں ہر ایک شریک کی ملک (5) ہے اور تقسیم سے یہ ہوا کہ اس کے حصہ میں جو اس کی ملک تھی اُس کے عوض میں اس حصہ میں جو اُس کی ملک تھی حاصل کر لی۔ مثلی چیزوں میں جدا کرنے کا پہلو غالب ہے اور قیمی میں مبادلہ کا پہلو غالب۔ (6) (درمختار)

① پ ۴، النساء: ۸.

② ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب القسمة، الباب الثالث عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۳۱.

و”ردالمحتار“، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۱.

③ ”الدرالمختار“ و”ردالمحتار“، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۲.

④ باہم تبدیل ہونے کا۔ ⑤ ملکیت۔

⑥ ”الدرالمختار“، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۲.

مسئلہ ۳ مکمل (۱) و موزون (۲) اور دیگر مثلی چیزوں میں تقسیم کے بعد ایک شریک اپنا حصہ دوسرے کی عدم موجودگی (۳) میں لے سکتا ہے اور قسمی چیزوں میں چونکہ مبادلہ کا پہلو غالب ہے تقسیم کے بعد ایک شریک دوسرے کی عدم موجودگی میں نہیں لے سکتا۔ (۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۵ دو شخصوں نے چیز خریدی پھر اس کو باہم تقسیم کر لیا اب ایک شخص اپنا حصہ مراجعہ کے طور پر بیع کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کر سکتا۔ (۵) (ہدایہ)

مسئلہ ۶ مکمل یا موزوں دو شخصوں میں مشترک ہے ان میں ایک موجود ہے دوسرا غائب ہے یا ایک بالغ ہے دوسرا نابالغ ہے تقسیم کے بعد اُس موجود یا بالغ نے اپنا حصہ لے لیا یہ تقسیم اُس وقت صحیح ہے کہ دوسرے شریک یعنی غائب یا نابالغ کو اس کا حصہ پہنچ جائے اور اگر ان کو حصہ نہ ملا فرض کر دو کہ ہلاک ہو گیا تو تقسیم باقی نہیں رہے گی ٹوٹ جائے گی یعنی جو شخص حصہ لے چکا ہے اُس حصہ کو ان دونوں کے مابین پھر تقسیم کیا جائے گا۔ (۶) (درمختار)

مسئلہ ۷ غیر مثلی چیزیں اگر ایک ہی جنس کی ہوں اور ایک شریک نے تقسیم کا مطالبہ کیا تو دوسرا شریک تقسیم پر مجبور کیا جائے گا یہ نہیں خیال کیا جائے گا کہ یہ مبادلہ ہے اس میں رضامندی ضروری ہے البتہ شرکت کی لونڈی غلام میں جبریہ تقسیم نہیں ہے۔ (۷) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۸ بہتر یہ ہے کہ تقسیم کے لیے کوئی شخص حکومت کی جانب سے مقرر کر دیا جائے جس کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے اور اگر بیت المال سے وظیفہ نہ دیا جائے بلکہ اُس کی مناسب اجرت شرکا کے ذمہ ڈال دی جائے یہ بھی جائز ہے۔ (۸) (ہدایہ)

مسئلہ ۹ بانٹنے والے کی اجرت تمام شرکا پر برابر برابر ڈالی جائے اُن کے حصوں کے کم زیادہ ہونے کا اعتبار نہ ہوگا

①..... ناپ سے بکنے والی اشیاء مکمل کہلاتی ہیں۔ ②..... وزن سے بکنے والی اشیاء موزون کہلاتی ہیں۔ ③..... غیر موجودگی۔

④..... "الهدایة"، کتاب القسمة، ج ۲، ص ۳۲۵.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۳.

⑦..... "الهدایة"، کتاب القسمة، ج ۲، ص ۳۲۵.

و "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۴.

⑧..... "الهدایة"، کتاب القسمة، ج ۲، ص ۳۲۵.

مثلاً ایک شخص کی ایک تہائی ہے دوسرے کی دو تہائیاں دونوں کے ذمہ اجرت تقسیم یکساں ہوگی کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے مواقع پر مشترک چیز میں کام کرنے والے کی اجرت ہر ایک شریک پر بقدر حصہ ہے مثلاً مشترک غلہ کے ناپنے یا کسی چیز کے تولنے کی اجرت یا مشترک دیوار بنانے یا اس میں کہگل (1) کرنے کی اجرت یا مشترک نہر کھودنے یا اس میں سے مٹی نکالنے کی اجرت سب شرکا کے ذمہ برابر نہیں بلکہ ہر ایک کا جتنا حصہ ہے اسی مناسبت سے سب کو اجرت دینی ہوگی۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ تقسیم کرنے کے لیے ایسا شخص مقرر کیا جائے جو عادل ہو امین ہو اور تقسیم کرنا جانتا ہو بددیانت یا اناڑی (3) کو یہ کام نہ سپرد کیا جائے۔ (4) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۱ ایک ہی شخص اس کام کے لیے معین نہ کیا جائے یعنی لوگوں کو اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ اسی سے تقسیم کرائیں کہ اس صورت میں وہ جو چاہے گا اجرت لے لیا کرے گا اور واجبی اجرت سے زیادہ لوگوں سے وصول کر لیا کرے گا اور ایسا بھی موقع نہ دیا جائے کہ تقسیم کنندگان (5) باہم شرکت کر لیں کہ جو کچھ اس تقسیم کے ذریعہ سے حاصل کریں گے سب بانٹ لیں گے کہ اس میں بھی وہی اندیشہ ہے کہ اتفاق کر کے یہ لوگ اجرت میں اضافہ کر دیں گے۔ (6) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۱۲ شرکانے باہم رضامندی کے ساتھ خود ہی تقسیم کر لی یہ تقسیم صحیح و لازم ہے ہاں اگر ان میں کوئی نابالغ یا مجنون ہے جس کا کوئی قائم مقام نہ ہو یا کوئی شریک غائب ہے اور اس کا کوئی وکیل بھی نہیں ہے جس کی موجودگی میں تقسیم ہو تو یہ اس وقت لازم ہوگی کہ قاضی اسے جائز کر دے یا وہ غائب حاضر ہو کر یا نابالغ بالغ ہو کر یا اس کا ولی اس تقسیم کو جائز کر دے یہ تمام احکام اس وقت ہیں کہ میراث میں ان کی شرکت ہو۔ (7) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ جائداد منقولہ (8) میں چند اشخاص شریک ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو یہ جائداد وراثت میں ملی ہے یا ملک مطلق کا

①.....بھس ملی ہوئی مٹی کا پلستر۔

②....."الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۶، ۴۲۵۔

③.....نا تاجر بکار، ان جان، ناواقف۔

④....."الهدایة"، کتاب القسمة، ج ۲، ص ۳۲۵۔

⑤.....تقسیم کرنے والے۔

⑥....."الهدایة"، کتاب القسمة، ج ۲، ص ۳۲۶، ۳۲۵۔

و"الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۷۔

⑦....."الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۷۔

⑧.....وہ جائداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہو۔

دعویٰ کرتے ہیں یا کہتے ہیں ہم نے خریدی ہے یا اور کسی سبب سے سب اپنی ملک و شرکت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ تقسیم کرانا چاہتے ہیں محض ان کے کہنے پر تقسیم کر دی جائے گی ان سے خریداری وغیرہ کے گواہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ یوہیں جائداد غیر منقولہ کے متعلق اگر یہ لوگ خریدنا تاتے ہیں یا ملک مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسے بھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ (1) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ جائداد غیر منقولہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو وراثت میں ملی ہے تو تقسیم اس وقت کی جائے گی جب لوگ یہ ثابت کر دیں کہ مورث مر گیا اور اس کے ورثہ ہم ہی ہیں ہمارے سوا کوئی دوسرا وارث نہیں ہے۔ یوہیں اگر کسی جائداد غیر منقولہ کی نسبت چند شخص یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبضہ میں ہے اور تقسیم کرانا چاہتے ہیں تو تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک یہ ثابت نہ کر دیں کہ وہ جائداد انہیں کی ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اون کے قبضہ میں ہونا بطور عاریت و اجارہ ہو۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۱۵ شرکانے مورث کی موت اور ورثہ کی تعداد کو ثابت کر دیا مگر ان وارثوں میں کوئی نابالغ بھی ہے یا کوئی وارث موجود نہیں ہے غائب ہے تو کسی شخص کو اس نابالغ یا غائب کے قائم مقام کیا جائے گا جو نابالغ کے لیے وصی اور غائب کی طرف سے وکیل ہوگا اس کی موجودگی میں تقسیم ہوگی۔ (3) (درمختار)

مسئلہ ۱۶ ایک وارث تنہا حاضر ہوتا ہے اور موت مورث کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے کہنے پر تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک کم از کم دو شخص نہ ہوں اگرچہ ان میں ایک نابالغ ہو یا موصیٰ لہ۔ (4) ہو۔ (5) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ چند اشخاص نے شرکت میں کوئی چیز خریدی ہے یا میراث کے سوا کسی دوسرے طریقہ سے چیز میں شرکت ہے اور ان شرکا میں سے بعض غائب ہیں تو جب تک یہ حاضر نہ ہوں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ (6) (درمختار)

مسئلہ ۱۸ ایک وارث غائب ہے اور جائداد منقولہ کل یا اس کا جز اسی غائب کے قبضہ میں ہے تو جو ورثہ حاضر ہیں وہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ یوہیں اگر وارث نابالغ کے قبضہ میں جائداد غیر منقولہ کل یا جز ہے تو بالغین کے مطالبہ پر تقسیم نہیں ہو سکتی۔ (7) (ہدایہ)

①....."الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۲۸-۴۲۹.

②.....المرجع السابق، ص ۴۲۹.

③.....المرجع السابق، ص ۴۳۰.

④.....وہ شخص جس کے لیے وصیت کی گئی۔

⑤....."الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۱.

⑥.....المرجع السابق.

⑦....."الهدایة"، کتاب القسمة، ج ۲، ص ۳۲۷.

کیا چیز تقسیم کی جائے گی اور کیا نہیں

مسئلہ ۱ - مشترک چیز اگر ایسی ہے کہ تقسیم کے بعد ہر ایک شریک کو جو کچھ حصہ ملے گا وہ قابل انتفاع ہوگا تو ایک شریک کی طلب پر تقسیم کر دی جائے گی اور اگر بعد تقسیم بعض شریک کو اتنی قلیل ملے گی کہ نفع کے قابل نہ ہوگی اور تقسیم وہ شخص چاہتا ہے جس کا حصہ زیادہ ہے تو تقسیم کر دی جائے گی اور جس کا حصہ اتنا کم ہے کہ بعد تقسیم قابل نفع نہیں رہے گا اس کی طلب پر تقسیم نہیں ہوگی۔^(۱) (ہدایہ)

مسئلہ ۲ - تقسیم کے بعد ہر شریک کو اتنا ہی حصہ ملے گا جو قابل نفع نہیں تو جب تک سب شرکاء راضی نہ ہوں ایک کے چاہنے سے تقسیم نہیں ہوگی مثلاً دکان دو شخصوں کی شرکت میں ہے اگر تقسیم کے بعد ہر ایک کو دکان کا اتنا حصہ ملتا ہے کہ جو کام اس میں کر رہا تھا اب بھی کر سکے گا تو ہر ایک کے کہنے سے تقسیم کر دی جائے گی اور اتنا حصہ نہ ملے تو تقسیم نہیں ہوگی جب تک دونوں راضی نہ ہوں۔^(۲) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۳ - ایک ہی جنس کی چیز ہو یا چند طرح کی چیزیں ہوں مگر ہر ایک میں تقسیم کرنی ہو یعنی مثلاً صرف گیہوں یا صرف بھو ہوں یا دونوں ہوں مگر دونوں میں تقسیم کرنی ہو تو ایک کے کہنے سے قاضی تقسیم کر دے گا اور اگر دو قسم کی چیزیں ہوں مگر دونوں میں تقسیم جاری نہ کرنی ہو بلکہ ایک کو ایک چیز دے دی جائے اور دوسرے کو دوسری اس طرح کی تقسیم بغیر ہر ایک کی رضامندی کے نہیں ہو سکتی۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ - جوہر کی تقسیم بغیر رضامندی شرکاء نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ان میں بہت زیادہ تفاوت^(۴) ہوتا ہے۔ یوہیں حمام اور کوآں اور چکی کہ ان کی جبریہ^(۵) تقسیم نہیں ہو سکتی کہ تقسیم کے بعد وہ چیز قابل انتفاع^(۶) نہ رہے گی۔ اور حمام اگر بڑا ہے کہ بعد تقسیم ہر ایک کو جو کچھ حصہ ملے گا وہ کام کے قابل رہے گا تو تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر رضامندی کے ساتھ حمام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تقسیم ہو سکتی ہے اگرچہ تقسیم کے بعد ہر ایک کا حصہ حمام نہ رہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان شرکاء کا مقصود ہی یہ ہے کہ اسے حمام نہ رکھیں بلکہ کسی دوسرے کام میں لائیں۔^(۷) (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

①..... "الهدایة"، کتاب القسمة، فصل فیما یقسم... إلخ، ج ۲، ص ۳۲۷.

②..... المرجع السابق، ص ۳۲۹.

و"الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۳.

③..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۳، وغیرہ.

④..... فرق۔ ⑤..... غیر رضامندی۔ ⑥..... نفع اٹھانے کے قابل۔

⑦..... "الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۴.

و"الفتاویٰ الہندیة"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۸.

مسئلہ ۵ چوکھٹ (۱) کواڑ (۲) اور جانور اور موتی اور بانس اور کمان اور چراغ یہ چیزیں اگر ایک ایک ہوں تو ان کی تقسیم نہیں ہوگی کہ تقسیم سے یہ چیزیں خراب ہو جائیں گی اسی طرح ہر وہ چیز جس کی تقسیم میں توڑنے یا پھاڑنے کی ضرورت ہو تقسیم نہیں ہوگی۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ کوآں یا چشمہ یا نہر مشترک ہو شرکاً تقسیم چاہتے ہوں اگر اس کے ساتھ زمین نہیں ہے تو تقسیم نہیں کی جائے گی اور اگر زمین بھی ہے تو زمین کی تقسیم کردی جائے اور وہ چیزیں مشترک رہیں۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ کتابوں کو ورثہ کے مابین تقسیم نہیں کریں گے کہ ان میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے بلکہ ہر ایک شریک نہایا یعنی باری مقرر کر کے اُن سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر رضامندی کے طور پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مگر وہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کتابوں کو ورق ورق کر کے تقسیم کر دیا جائے یعنی ہر ایک شریک کو اس کے حصہ کے اوراق دے دیئے جائیں یہ نہیں کیا جاسکتا اگرچہ وہ سب اس پر راضی بھی ہوں۔ یوں اگر ایک کتاب کی کئی جلدیں ہوں یعنی سب جلدیں مل کر وہ کتاب پوری ہوتی ہو اور ان جلدوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہوں تقسیم نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ سب رضامند ہوں۔ ورنہ اگر یہ کہیں کہ کتابوں کی قیمتیں لگا کر قیمت کے لحاظ سے شرکاً پر کتابیں تقسیم کردی جائیں اگر سب اس طرح تقسیم پر راضی ہوں تقسیم کردی جائے گی۔ (۵) (درمختار)

مسئلہ ۸ دو مکانوں کے مابین ایک دیوار مشترک ہے اس کی تقسیم بغیر دونوں کی رضامندی کے نہیں ہو سکتی اور رضامند ہوں تو تقسیم کردی جائے گی یعنی جبکہ دیوار بدستور باقی رکھتے ہوئے دونوں اپنے اپنے حصہ سے نفع اٹھا سکیں اور اگر یہ چاہیں کہ دیوار کو منہدم کر کے بنیاد کو تقسیم کر دیا جائے تو اگرچہ دونوں رضامند ہوں اس طرح تقسیم نہیں کی جائے گی ہاں اگر وہ خود دیوار کو گرا کر خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو قاضی انھیں منع بھی نہ کرے گا۔ (۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ ایک شخص کی زمین میں دو شخصوں نے مالک زمین کی اجازت سے دیوار بنائی اور یہ دونوں دیوار کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کی رضامندی سے مالک زمین کی عدم موجودگی میں بھی دیوار کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اور اگر مالک زمین نے ان دونوں

①..... دروازے کی چار لکڑیاں جن میں پٹ لگائے جاتے ہیں، فریم۔ ②..... لکڑی کا تختہ یا پٹ جس سے دروازہ بند کرتے ہیں۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۸.

④..... المرجع السابق، ص ۲۰۹.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۵.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۷.

سے کہہ دیا کہ میری زمین خالی کر دو تو دیوار منہدم کرنی ہوگی اور ملکہ اگر قابل تقسیم ہے تو تقسیم کر دیا جائے گا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - ایک شریک یہ چاہتا ہے کہ اس مشترک چیز کو بیع کر دیا جائے اور دوسرا انکار کرتا ہے اس کو بیع کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - دکان مشترک قابل تقسیم نہ ہو ایک شریک یہ کہتا ہے کہ نہ اسے کرایہ پر دوں گا نہ باری مقرر کر کے اس سے نفع حاصل کروں گا یہاں باری مقرر کر دی جائے گی اور اس سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم کو اختیار ہے اپنی باری میں دکان کو بند رکھو یا کسی کام میں لاؤ۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۲ - زراعت مشترک ہے اگر دانے پڑ چکے ہیں مگر ابھی کاٹنے کے قابل نہیں ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک کھیت کٹ نہ جائے اگرچہ سب شرکاء راضی ہوں۔ اور اگر کھیتی بالکل کچی ہے یعنی دانے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور شرکاء تقسیم پر راضی ہوں تو تقسیم ہو سکتی ہے مگر اس شرط سے کہ تقسیم کے بعد ہر ایک اپنا حصہ کاٹ لے یہ نہیں کہہ سکتے تک کھیت ہی میں چھوڑ رکھے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - کپڑے کا تھان اپنی رضامندی سے پھاڑ کر تقسیم کر سکتے ہیں اس میں جبری تقسیم نہیں ہو سکتی۔ سلا ہوا کپڑا مثلاً کرتہ یا آپکن⁽⁵⁾ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ دو کپڑے مختلف قیمت کے ہوں ان کی بھی جبری تقسیم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جو کم درجہ کا ہے اس کے ساتھ روپیہ شامل کرنا ہوگا تا کہ دونوں جانب برابری ہو جائے اور یہ بات بغیر دونوں کی رضامندی کے ہو نہیں سکتی اور جب دونوں راضی ہوں تو تقسیم کر دی جائے گی۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ - ایک ہی دھات کے مختلف قسم کے برتن مثلاً دیگی، لوٹا، کٹورا، طشت⁽⁷⁾ ان کو بغیر رضامندی شرکاء تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یوہیں سونے یا چاندی یا پیتل یا اور کسی دھات کے زیور بغیر رضامندی تقسیم نہیں ہوں گے اگرچہ سب زیور

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۸.

②..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۴، ۴۳۵.

③..... المرجع السابق، ص ۴۳۵.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۸.

⑤..... چولی دامن کا گھٹنوں سے نیچے تک کا ایک قسم کا لمبا لباس۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۸، ۲۰۹.

⑦..... تھال۔

ایک ہی دھات کے ہوں اور سونا چاندی وغیرہا دھاتیں اگر ان کی کوئی چیز بنی ہوئی نہ ہو تو ان کی تقسیم میں تمام شرکا کی رضامندی درکار نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ چند مکانات مشترک ہوں تو ہر ایک کو جدا تقسیم کیا جائے گا یہ نہیں کیا جائے گا کہ تمام مکانات کو ایک چیز فرض کر کے تقسیم کریں کہ ایک کو ایک مکان دے دیا جائے دوسرے کو دوسرا۔ یہ سب مکانات ایک ہی شہر میں ہوں یا مختلف شہروں میں دونوں کا ایک حکم ہے۔ یوں اگر چند قطعہ زمین مشترک ہوں تو ہر قطعہ کی تقسیم جداگانہ ہوگی۔ یوں اگر مکان و دکان و زمین سب چیزیں ہوں تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا جائے۔⁽²⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۱۶ مشترک نالی یا پرنا لہ ہے ایک تقسیم چاہتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے اگر اس کے مکان میں ایسی جگہ ہے کہ بغیر ضرر نالی یا پرنا لہ ہو سکتا ہے تو تقسیم کر دیں ورنہ نہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

طریقہ تقسیم

مسئلہ ۱ تقسیم کرنے والے کو یہ چاہیے کہ ہر شریک کے بہام⁽⁴⁾ جتنے ہوں انہیں پہلے لکھ لے اور زمین کی پیمائش کر کے ہر شریک کے بہام کے مقابل میں جتنی زمین پڑے صحیح طور پر قائم کر لے اور ہر حصہ کے لیے راستہ وغیرہ علیحدہ قائم کر دے تاکہ آئندہ جھگڑے کا احتمال نہ رہے اور ان حصص⁽⁵⁾ پر ایک دو تین وغیرہ نمبر ڈال دے اور جمع شرکا کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کرے جس کا نام پہلے نکلے اسے پہلا نمبر جس کا نام دوسری مرتبہ نکلے اسے نمبر دوم دے دے و علیٰ ہذا القیاس۔⁽⁶⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۲ تقسیم میں قرعہ ڈالنا ضروریات میں نہیں بلکہ تطیب قلب⁽⁷⁾ کے لیے ہے کہ کہیں حصہ داروں کو یہ وہم نہ ہو کہ فلاں کا حصہ میرے حصہ سے اچھا ہے اور قصد ایسا کیا گیا ہے اول تو تقسیم کرنے والا ہر حصہ میں مساوات کا ہی لحاظ رکھے گا پھر اس کے باوجود قرعہ بھی ڈالے گا تاکہ وہم ہی نہ پیدا ہو سکے اور اگر قاضی نے بغیر قرعہ ڈالے ہوئے خود ہی حصص کو نامزد کر دیا

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۹.

②..... "الہدایۃ"، کتاب القسمة، فصل فیما یقسم... إلخ، ج ۲، ص ۳۲۹.

و "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۵، ۴۳۶.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۷.

④..... حصے۔

⑤..... حصوں۔

⑥..... "الہدایۃ"، کتاب القسمة، فصل فی کیفیۃ القسمة، ج ۲، ص ۳۲۹.

⑦..... اطمینان قلب۔

کہ یہ تمہارا ہے اور یہ تمہارا تو اس میں بھی حرج نہیں کہ قاضی کے فیصلہ سے انکار کی گنجائش نہیں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - قاضی یا نائب قاضی نے تقسیم کی ہو اور قرعہ ڈالا اور بعض کے نام نکل آئے تو کسی شریک کو انکار کی گنجائش نہیں جس طرح نام نکلنے سے پہلے اسے انکار کا حق نہ تھا اب بھی نہیں ہے۔ اور اگر باہم رضامندی سے تقسیم کر رہے ہوں اور قرعہ ڈالا گیا بعض نام نکل آئے تو بعض شرکا انکار کر سکتے ہیں اور اگر سب شرکا کے نام نکل آئے یا صرف ایک ہی نام باقی رہ گیا تو قسمت⁽²⁾ مکمل ہوگئی اب رضامندی کی صورت میں بھی انکار کی گنجائش باقی نہیں۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - مکان کی تقسیم میں جب زمین کی پیمائش کر کے حصے قائم کرے گا عمارت کی قیمت لگائے گا کیونکہ آگے چل کر اس کی بھی ضرورت پڑے گی مثلاً کسی کے حصہ میں اچھی عمارت آئی اور کسی کے حصہ میں خراب تو بغیر قیمت معلوم کیے کیونکر مساوات⁽⁴⁾ قائم رہے گی۔⁽⁵⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۵ - اگر زمین و عمارت دونوں کی تقسیم منظور ہے اور عمارت کچھ اچھی ہے کچھ بُری یا ایک طرف عمارت زائد ہے اور ایک طرف کم اور ایک کو اچھی یا زیادہ عمارت ملے تو دوسرے کو زمین زیادہ دے کر وہ کمی پوری کر دی جائے اور اگر زمین زیادہ دینے میں بھی کمی پوری نہ ہو کہ ایک طرف کی عمارت ایسی اچھی یا اتنی زیادہ ہے کہ بقیہ کل زمین دینے سے بھی کمی پوری نہیں ہوتی تو یہ کمی روپے سے پوری کی جائے۔⁽⁶⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۶ - مکان کی تقسیم میں ایک کا پرنا لہ یا راستہ دوسرے کے حصے میں پڑا اگر تقسیم میں یہ شرط مذکور ہو کہ اس کا پرنا لہ یا راستہ دوسرے کے حصہ میں ہوگا جب تو اس تقسیم کو بدستور باقی رکھا جائے گا اور شرط نہ ہو تو دو صورتیں ہیں اس حصہ کا راستہ وغیرہ پھیر کر دوسرا کیا جاسکتا ہے یا نہیں اگر ممکن ہو تو راستہ وغیرہ پھیر کر دوسرا کر دیا جائے اور ناممکن ہو تو اس تقسیم کو توڑ کر از سر نو تقسیم کی جائے۔⁽⁷⁾ (ہدایہ، ردالمحتار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب القسمة، مطلب: لكل من الشركاء... إلخ، ج ۹، ص ۴۳۶.

②..... تقسیم۔

③..... "ردالمختار"، کتاب القسمة، مطلب: في الرجوع عن القرعة، ج ۹، ص ۴۳۶-۴۳۷.

④..... برابری۔

⑤..... "الهداية"، کتاب القسمة، فصل في كيفية القسمة، ج ۲، ص ۳۳۰.

⑥..... المرجع السابق.

⑦..... "الهداية"، کتاب القسمة، فصل في كيفية القسمة، ج ۲، ص ۳۳۰.

و "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۸.

مسئلہ ۷ - اگر شرکا میں اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ راستہ کو تقسیم میں نہ لیا جائے بلکہ جس طرح پہلے پورے مکان کا ایک راستہ تھا اب بھی رہے اور مکان کا ایسا موقع ہے کہ ہر حصہ کا جداگانہ راستہ ہو سکتا ہے یعنی جدید دروازہ کھول کر آمد و رفت ہو سکتی ہے تو اس شریک کا کہنا مانا جاسکتا ہے اور اگر یہ بات ناممکن ہے تو اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ - راستہ کی چوڑائی اور اونچائی میں اختلاف ہو تو صدر دروازہ کی چوڑائی کی برابر راستہ کی چوڑائی رکھی جائے اور اس کی بلندی کی برابر راستہ کی بلندی رکھی جائے یعنی اس بلندی سے اوپر اگر کوئی اپنی دیوار میں چھجا نکالنا چاہتا ہے نکال سکتا ہے اور اس سے نیچے نہیں نکال سکتا۔⁽²⁾ (عنایہ، درمختار)

مسئلہ ۹ - مکان کی تقسیم میں اگر یہ شرط ہو کہ راستہ کی مقدار میں مختلف ہوں گی اگرچہ شرکا کے حصے اس مکان میں برابر برابر ہوں یہ جائز ہے جب کہ یہ تقسیم آپس کی رضامندی سے ہو کہ غیر اموال ربویہ⁽³⁾ میں رضامندی کے ساتھ کسی بیشی ہو سکتی ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۰ - دو منزلہ مکان ہے اس میں چند صورتیں ہیں پورا مکان یعنی دونوں منزلیں مشترک ہیں یا صرف نیچے کی منزل مشترک ہے یا صرف بالا خانہ مشترک ہے اس کی تقسیم میں ہر ایک کی قیمت لگائی جائے اور قیمت کے لحاظ سے تقسیم ہوگی۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - زمین مشترک میں درخت اور زراعت تھی صرف زمین کی تقسیم ہوئی تو جس کے حصہ میں درخت یا زراعت پڑی وہ قیمت دے کر اس کا مالک ہوگا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - بھوسے کی تقسیم گٹھریوں سے ہو سکتی ہے وزن کے ساتھ ہونا ضرور نہیں۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - ایک شخص کی دو روٹیاں ہیں اور ایک کی تین روٹیاں دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہا ایک تیسرا شخص آ گیا اسے دونوں نے کھانے میں شریک کر لیا اور تینوں نے برابر برابر کھایا اس نے کھانے کے بعد پانچ روپے دیے اور یہ کہا کہ

①..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۸.

②..... "العناية" علی "فتح القدير"، کتاب القسمة، فصل فی کیفیة القسمة، ج ۸، ص ۳۶۵.

و "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۸.

③..... وہ اموال جن میں کسی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنے سے سو نہیں ہوتا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۹.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... إلخ، ج ۵، ص ۲۰۹.

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب القسمة، الباب الثانی فی بیان کیفیة القسمة، ج ۵، ص ۲۰۷.

جتنی جتنی میں نے تمہاری روٹی کھائی اسی حساب سے روپے بانٹ لو تو جس کی دو تھیں او سے ایک روپیہ ملے گا اور جس کی تین تھیں او سے چار۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

تقسیم میں غلطی کا دعویٰ

مسئلہ ۱۳ تقسیم ہونے کے بعد ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ مجھے نہیں ملا اور تقسیم کرنے والوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ وصول پایا یہ گواہی مقبول ہے اور فقط ایک تقسیم کرنے والے نے شہادت دی تو گواہی مقبول نہیں۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۵ تقسیم کے بعد ایک شریک یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میرے حصہ میں تھی اور غلطی سے دوسرے کے پاس پہنچ گئی اور اس سے پہلے یہ اقرار کر چکا تھا کہ میں نے اپنا حصہ وصول پایا یا وصول پانے کا اقرار نہ کیا ہو دونوں صورتوں میں اس کی بات جب ہی مانی جائے گی کہ اس کے قول کے صحیح ہونے پر دلیل ہو یعنی گواہوں سے ایسا ثابت کر دے یا دوسرا شریک اقرار کر لے کہ ہاں اس کے حصہ کی فلاں چیز میرے پاس ہے اور یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اس کے شریک پر قسم دی جائے اور وہ قسم کھانے سے نکول کرے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۶ تقسیم کے بعد کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ مل گیا تھا اور میں نے قبضہ بھی کر لیا تھا پھر میرے شریک نے اس میں سے فلاں چیز لے لی اور شریک اس سے انکار کرتا ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ شریک پر غصب کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو شریک پر حلف رکھا جائے۔ اور اگر وصول پانے کا اقرار نہیں کیا ہے صرف اتنی بات کہی ہے کہ یہاں سے یہاں تک میرے حصہ میں آئی مگر مجھے دی نہیں اور شریک اس کی تکذیب کرتا ہے⁽⁵⁾ تو دونوں کو حلف دیا جائے اور دونوں قسم کھا جائیں تو تقسیم منسوخ کر دی جائے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۷ مکان دو شخصوں میں مشترک تھا دونوں نے اسے بانٹ لیا پھر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کمرہ جو میرے شریک کے پاس ہے یہ میرے حصہ کا ہے اور دوسرا اس سے انکاری ہے تو مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے اور اگر دونوں نے گواہ پیش کیے تو مدعی کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر قبضہ کرنے پر گواہ نہ کیے ہوں تو دونوں پر حلف ہے اور اس صورت میں

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب القسمة، الباب الثانی فی بیان کیفیت القسمة، ج ۵، ص ۲۰۶.

②..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۳۹، ۴۴۰.

③..... انکار۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۰.

⑤..... یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے۔

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۱.

اگر دونوں نے قسمیں کھالیں تو تقسیم فسخ کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر حدود میں اختلاف ہو مثلاً ایک یہ کہتا ہے کہ یہ حد میری تھی جو اس کے حصہ میں جا پڑی اور دوسرا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ حد میری تھی جو اس کے حصہ میں چلی گئی اگر دونوں گواہ پیش کریں تو ہر ایک کے گواہ اُس کے حق میں معتبر ہیں جو اس کے قبضہ میں نہ ہو اور اگر فقط ایک نے گواہ پیش کیے تو اسی کے موافق فیصلہ ہوگا اور کسی نے بھی گواہ نہیں پیش کیے تو دونوں پر حلف ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۸ تقسیم میں چیزوں کی قیمتیں لگائی گئیں اب معلوم ہوا کہ قیمتوں میں بہت فرق ہے جس کوغبن فاحش کہتے ہیں یعنی اتنی کمی یا بیشی ہے جو اندازہ سے باہر ہے مثلاً جس چیز کی قیمت پانسو ہے اس کی ہزار روپے قیمت قرار دی یہ تقسیم توڑ دی جائے گی۔ قاضی نے اس کے متعلق فیصلہ کیا ہو یا دونوں کی رضامندی سے تقسیم ہوئی ہو بہر صورت توڑ دی جائے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۹ دو شخصوں کی سو بکریاں تھیں تقسیم کے بعد ایک یہ کہتا ہے غلطی سے تم نے پچپن بکریاں لے لیں اور مجھے پینتالیس ہی ملیں دوسرا کہتا ہے غلطی سے نہیں بلکہ تقسیم اسی طرح ہوئی اور گواہ کسی کے پاس نہ ہوں تو دونوں پر حلف⁽³⁾ ہے یہ اس وقت ہے کہ اُس نے اپنا پورا حق پالینے کا اقرار نہ کیا ہو اور اگر اقرار کر چکا ہو تو غلطی کا دعویٰ نامسموع⁽⁴⁾ ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

استحقاق کے مسائل

مسئلہ ۲۰ تقسیم ہو جانے کے بعد استحقاق ہوا یعنی کسی دوسرے شخص نے اس میں اپنی ملک کا دعویٰ کیا اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک حصہ میں جزو معین کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے یا جزو شائع کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے حصہ میں نصف یا تہائی میری ہے یا کل میں جزو شائع کا مدعی ہے یعنی پوری جائداد میں مثلاً نصف یا تہائی کا مدعی ہے۔ پہلی صورت میں کہ فقط ایک کے حصہ میں جزو معین کا استحقاق کرتا ہے اس میں تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا بلکہ مستحق نے جتنا اپنا ثابت کر دیا اس کو دے دیا جائے اور باقی⁽⁶⁾ اس کا ہے جس کے حصہ میں تھا اور اس کے حصہ میں جو کمی پڑی اسے شریک کے حصہ میں سے اتنی دلا دی جائے کہ اس کا حصہ سہام کے موافق ہو جائے دوسری صورت میں کہ ایک کے حصہ میں جزو شائع کا مدعی ہے اس میں حصہ والے کو اختیار ہے کہ مستحق کو دینے کے بعد جو کمی پڑتی ہے وہ شریک کے حصہ میں سے لے لے یا تقسیم توڑا کر از سر نو⁽⁷⁾ تقسیم کرائے یہ

①..... "الهدایة"، کتاب القسمة، باب دعوی الغلط فی القسمة... إلخ، ج ۲، ص ۳۳۳.

②..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۴.

③..... یعنی قسم اٹھانا۔ ④..... یعنی قابل قبول نہیں۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب القسمة، الباب الحادی عشر فی دعوی الغلط... إلخ، ص ۲۲۶.

⑥..... باقی ماندہ۔ ⑦..... نئے سرے سے۔

اُس صورت میں ہے کہ استحقاق سے پہلے اس میں کا کچھ بیج نہ کیا ہو ورنہ تقسیم نہیں توڑی جائے گی بلکہ اپنے حصہ کی قدر شریک کے حصہ میں سے لے سکتا ہے و بس۔ تیسری صورت میں کہ کل میں جز و شائع کا مدعی ہے تقسیم فسخ کر دی جائے اور ان تینوں یعنی مستحق اور دونوں شریکوں کے مابین از سر نو تقسیم کی جائے گی۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۲۱ - استحقاق کی ایک چوتھی صورت بھی ہے وہ یہ کہ ہر ایک کے حصہ میں مستحق نے اپنا حصہ ثابت کر دیا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک کے حصہ میں اس نے جز و شائع ثابت کیا اس کا حکم یہ ہے کہ تقسیم فسخ کر دی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں جز و معین ثابت کرے اس کا حکم یہ ہے کہ دونوں کے حصوں میں اس کا جو کچھ ہے اگر برابر ہے جب تو ظاہر ہے کہ مستحق کے لے لینے کے بعد ہر ایک کے پاس جو کچھ بچا وہ بقدر حصہ ہے لہذا نہ تقسیم توڑی جائے گی نہ رجوع کا حکم دیا جائے گا اور اگر مستحق کا حق ایک کے حصہ میں زائد ہے دوسرے کے حصہ میں کم تو اس زائد کی زیادتی کا اعتبار ہوگا کہ اسی کے حساب سے کم والے کے حصہ میں رجوع کرے گا۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۲ - سو بکریاں دو شخصوں میں مشترک تھیں تقسیم اس طرح ہوئی کہ ایک کو چالیس بکریاں ملیں جن کی قیمت پانسو ہے اور دوسرے کو ساٹھ بکریاں دی گئیں یہ بھی پانسو کی قیمت کی ہیں چالیس والے کی ایک بکری میں کسی نے اپنا حق ثابت کیا کہ یہ میری ہے اور یہ بکری دس روپے قیمت کی ہے تو یہ شخص دوسرے سے پانچ روپے وصول کر سکتا ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - مکان یا زمین مشترک کا بٹوارا ہوا⁽⁴⁾ ایک نے دوسرے کے حصہ میں ایک کمرہ کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے میں نے اسے بنایا ہے یا یہ درخت میرا ہے میں نے اسے لگایا ہے اور اپنی اس بات پر گواہ پیش کرتا ہے یہ گواہ نامقبول ہیں کہ عمارت یا درخت زمین کی تقسیم میں سبباً داخل ہو گئے۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۲۴ - درخت یا عمارت کی تقسیم ہوئی اس کے بعد ایک نے پوری زمین کا یا اس کے جز کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ جائز و مسموع ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ درخت یا عمارت مشترک ہو اور زمین مشترک نہ ہو اور زمین توابع میں بھی نہیں کہ تقسیم میں سبباً داخل ہو جائے۔⁽⁶⁾ (ردالمختار)

①..... "الهدایة"، کتاب القسمة، باب دعوی الغلط فی القسمة... إلخ، ج ۲، ص ۳۳۳، ۳۳۴.

②..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۳.

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب القسمة، الباب العاشر فی القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۲۵.

④..... یعنی تقسیم ہوئی۔

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب القسمة، مطلب: فی الرجوع عن القرعة، ج ۹، ص ۴۴۵.

⑥..... "ردالمختار"، کتاب القسمة، مطلب: فی الرجوع عن القرعة، ج ۹، ص ۴۴۵.

مسئلہ ۲۵ — ایک کے حصہ میں جو درخت ملا اس کی شاخیں دوسرے کے حصہ میں لٹک رہی ہیں ان شاخوں کو یہ شخص جبراً نہیں کٹا سکتا اسی طرح مکان کی تقسیم میں جو دیوار ایک کے حصہ میں پڑی اس پر دوسرے کی کڑیاں ہیں تو دوسرے کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ اپنی کڑیاں اوٹھالے مگر جب کہ تقسیم میں یہ شرط ہو چکی ہو کہ وہ اپنی کڑیاں اوٹھالے گا۔^(۱) (عالمگیری، درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۲۶ — زمین مشترک میں ایک شریک نے بغیر اجازت شریک مکان بنا لیا دوسرا یہ کہتا ہے کہ اس عمارت کو ہٹالو تو اس صورت میں زمین کو تقسیم کر دیا جائے اگر یہ عمارت اسی کے حصہ میں پڑی جس نے بنائی ہے فیہا اور اگر دوسرے کے حصہ میں پڑی تو ہو سکتا ہے کہ عمارت کی قیمت دے کر عمارت خود لے لے یا اس کو منہدم کر دیا^(۲) جائے۔ زمین مشترک میں ایک نے درخت لگایا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اور اگر شریک کی اجازت سے مکان بنوایا یا پیڑ^(۳) لگائے اگر اپنے لیے یہ تعمیر کی ہے یا پیڑ لگایا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے کیونکہ معیر^(۴) کو اختیار ہوتا ہے کہ عاریت کو جب چاہے واپس لے سکتا ہے اور اگر اجازت اس لیے ہے کہ وہ عمارت یا درخت شرکت کا ہوگا تو بقدر حصہ اس سے مصارف^(۵) وصول کر سکتا ہے۔^(۶) (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۲۷ — ترکہ کی تقسیم کے بعد معلوم ہوا کہ میت کے ذمہ دین ہے تو تقسیم توڑ دی جائے گی کیونکہ اگر دین پورے ترکہ کی برابر ہے جب تو ظاہر ہے کہ یہ ترکہ وارثوں کی ملک ہی نہیں تقسیم کیونکہ کریں گے اور اگر دین پورے ترکہ سے کم ہے جب بھی توڑی جائے کہ ترکہ کے ساتھ دوسروں کا حق متعلق ہے ہاں اگر میت کا متروکہ اس کے علاوہ بھی ہے جس سے دین ادا کیا جاسکتا ہے تو جو کچھ منقسم ہو چکا ہے اس کی تقسیم باقی رہے گی۔ اگر دین پورے ترکہ کی برابر تھا مگر جن کا تھا انھوں نے معاف کر دیا یا وارثوں نے اپنے مال سے دین ادا کر دیا تو ان صورتوں میں تقسیم نہ توڑی جائے کہ وہ سب ہی باقی نہ رہا۔^(۷) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۸ — جن دو شخصوں نے تقسیم کی ان میں ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ ترکہ میں دین ہے اس کا یہ دعویٰ مسوع ہوگا تناقض قرار دے کر دعویٰ کو رد نہ کیا جائے۔ ہاں جن چیزوں کی تقسیم ہوئی ان میں سے کسی معین چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میت

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث عشر فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۳۲.

و "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب القسمة، مطلب: فی الرجوع عن القرعة، ج ۹، ص ۴۴۵-۴۴۶.

②..... گرا دیا۔

③..... درخت۔

④..... عاریت پر دینے والا۔

⑤..... اخراجات۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب القسمة، مطلب: فی الرجوع عن القرعة، ج ۹، ص ۴۴۶.

⑦..... "الہدایۃ"، کتاب القسمة، باب دعوی الغلط فی القسمة... إلخ، ج ۲، ص ۳۳۴.

کی متروکہ نہیں ہے بلکہ میری ہے اور اس کا سبب کچھ بھی بتائے مثلاً میں نے میت سے خریدی ہے یا اُس نے ہبہ کی بہر حال یہ دعویٰ نامسموع ہے کہ اُس چیز کو تقسیم میں داخل کرنا یہ مشترک ہونے کا اقرار ہے پھر اپنی بتانا اس کے منافی ہے لہذا یہ دعویٰ قابلِ سماعت نہیں۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۲۹ → ایک شخص مرا اور اُس نے کسی کو وصی مقرر کیا ہے اور ترکہ میں دین غیر مستغرق ہے⁽²⁾ وصی سے ورثہ یہ کہتے ہیں کہ ترکہ میں سے بقدر دین جدا کر کے باقی کو ان میں تقسیم کر دے وصی کو یہ اختیار ہے کہ تقسیم نہ کرے بلکہ بقدر دین مشاع⁽³⁾ فروخت کر دے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ → میت نے دو شخصوں کو وصی کیا ہے دونوں نے مال کو تقسیم کر کے بعض ورثہ کا مال ایک نے رکھا اور بعض کا دوسرے نے یہ جائز نہیں۔ یوہیں ایک وصی کی عدم موجودگی میں دوسرے نے ورثہ کے مقابل میں تقسیم کی یہ بھی ناجائز ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ → ورثہ مسلمان ہیں اور وصی کافر ذمی، اگرچہ اس کا وصی ہونا جائز ہے مگر اس کو وصیت سے خارج کر دینا چاہیے کیونکہ کافر کی جانب سے اس کا اطمینان نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ خیانت نہ کرے گا بلکہ مسلمان کے ساتھ اس کی مذہبی عداوت بہت ممکن ہے کہ خیانت پر آمادہ کرے۔ مگر جدا کرنے سے پہلے اس نے تقسیم کی ہو تو یہ تقسیم صحیح ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ → ایک وارث نے میت کے ذمہ دین کا اقرار کیا دوسرے ورثہ انکار کرتے ہیں ترکہ ورثہ پر تقسیم کر دیا جائے جس نے اقرار کیا ہے اس کے حصہ سے دین ادا کیا جائے۔⁽⁷⁾ (خانہ)

مسئلہ ۳۳ → میت کے ذمہ دین تھا ورثہ نے جائداد تقسیم کر لی جس کا دین ہے وہ مطالبہ کرتا ہے تو تقسیم توڑی جاسکتی ہے دین مُستغرق ہو یا غیر مستغرق۔ اور اگر قاضی کے پاس تقسیم کی درخواست کریں اور قاضی کو معلوم ہے کہ میت پر

①..... "الهدایة"، کتاب القسمة، باب دعوی الغلط فی القسمة... إلخ، ج ۲، ص ۳۳۴.

②..... یعنی دین (قرض) ترکہ سے کم ہے۔

③..... یعنی دین کے برابر ترکہ مشترک۔

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب القسمة، الباب السابع فی بیان من یلی القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۲۰.

⑤..... المرجع السابق. ⑥..... المرجع السابق.

⑦..... "الفتاویٰ الخانیة"، کتاب القسمة، فصل فیما یدخل فی القسمة، ج ۲، ص ۲۱۴.

دین ہے اگر وہ دین مستغرق ہے تو قاضی تقسیم کا حکم نہیں دے گا کہ ان لوگوں کا ترکہ میں حق ہی نہیں ہے اور اگر دین غیر مستغرق ہے تو بقدر دین الگ کر کے باقی کو تقسیم کر دے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ قاضی کے پاس تقسیم کی درخواست گزری اور قاضی کو معلوم نہیں کہ میت کے ذمہ دین ہے تو ورثہ سے دریافت کرے اگر وہ کہیں نہیں ہے تو ان کی بات مان لی جائے گی اور اگر کہیں دین ہے تو اس کی مقدار دریافت کرے پھر یہ دریافت کرے کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں اگر وصیت کی ہے تو کسی معین چیز کی وصیت ہے یا وصیت مرسلہ ہے یعنی اپنے مال کی تہائی چوتھائی وغیرہ کی ہے کسی معین چیز سے تعلق نہیں ہے، اس کے بعد تقسیم کر دے گا اور اگر تقسیم کے بعد دین ظاہر ہو تو تقسیم توڑ دی جائے گی۔ یوں اگر قاضی نے دین کو بغیر دریافت کیے تقسیم کر دی یہ تقسیم بھی توڑ دی جائے گی ہاں اگر ورثہ اپنے مال سے دین ادا کر دیں یا جس کا دین ہے وہ معاف کر دے تو تقسیم نہ توڑی جائے۔ اور تقسیم توڑنا اس وقت ہے کہ دین کے لیے ورثہ نے کچھ ترکہ جدا نہ کیا ہو اور اگر دین کے لیے پہلے ہی سے جدا کر دیا ہو یا کل اموال کی تقسیم ہی نہ کی ہو تو تقسیم توڑنے کی کیا ضرورت۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ تقسیم کے بعد کوئی نیا وارث ظاہر ہوا یا معلوم ہوا کہ کسی کے لیے تہائی یا چوتھائی کی وصیت ہے تو تقسیم توڑ کر اسے نو تقسیم کی جائے اگرچہ ورثہ کہتے ہوں کہ ان کے حق ہم اپنے مال سے ادا کر دیں گے ہاں اگر یہ وارث و موصلیہ⁽³⁾ بھی راضی ہو جائیں تو نہ توڑیں۔ اور اگر دین ظاہر ہو یا یہ کہ کسی کے لیے ہزار روپے کی مثلاً وصیت مرسلہ کی ہے اور ورثہ اپنے مال سے دین و وصیت ادا کرنے کو کہتے ہیں تو تقسیم نہ توڑی جائے دائن اور موصلیہ کی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر ایک ہی وارث نے دین ادا کرنا اپنے ذمہ لیا اور ترکہ میں سے رجوع بھی نہ کرے گا تو توڑی نہ جائے اور اگر واپس لینے کی شرط ہے یا اس سے خاموش ہے تو توڑ دی جائے مگر جبکہ بقیہ ورثہ اپنے مال سے ادا کرنے کو کہتے ہوں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ بعض ورثہ نے میت کا دین ادا کر دیا تو وہ باقیوں سے رجوع کر سکتا ہے⁽⁵⁾ یعنی جبکہ میت نے ترکہ چھوڑا ہو جس سے دین ادا کیا جاسکے۔ ادا کرنے کے وقت اس نے رجوع کی شرط کی ہو یا نہ کی ہو دونوں کا ایک حکم ہے کیونکہ

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب القسمة، الباب الثامن فی قسمة التركة... إلخ، ج ۵، ص ۲۲۱.

②..... المرجع السابق.

③..... جس کے متعلق وصیت کی گئی۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب القسمة، الباب الثامن فی قسمة التركة... إلخ، ج ۵، ص ۲۲۱.

⑤..... یعنی وصول کر سکتا ہے۔

ہر وارث سے دین کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور ایک ہی وارث کو دائن نے قاضی کے پاس پیش کیا تو تنہا اسی پر پورے دین کا فیصلہ ہو سکتا ہے لہذا یہ وارث ادائے دین میں مُتَبَّع نہ ہوا⁽¹⁾ ہاں اگر مُتَبَّع ہو کہہ دیا ہو کہ میں رجوع نہ کروں گا تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ میت کا ترکہ ورثہ نے تقسیم کیا اور ان وارثوں میں اس کی عورت بھی ہے تقسیم کے بعد عورت نے دین مہر کا⁽³⁾ دعویٰ کیا اور گواہوں سے ثابت کر دیا تقسیم توڑ دی جائے گی اسی طرح اگر کسی وارث نے ترکہ میں دین کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ صحیح ہے اس پر گواہ لیے جائیں گے اور ثابت ہونے پر تقسیم توڑ دی جائے گی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ میت کا دین دوسروں کے ذمہ تھا یہ دین وعین یعنی جو کچھ ترکہ موجود ہے دونوں کو تقسیم کیا مثلاً یوں کہ یہ وارث یہ چیز لے اور یہ دین جو فلاں کے ذمہ ہے اور وہ وارث یہ چیز اور یہ دین لے جو فلاں کے ذمہ ہے یہ تقسیم دین وعین دونوں میں باطل اور اگر اعیان یعنی جو چیزیں موجود ہیں ان کو تقسیم کر کے پھر دین کی تقسیم کی تو عین کی تقسیم صحیح ہے اور دین کی باطل۔ دین کی تقسیم باطل ہونے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک مدیون سے دین وصول ہوا تو وہ تنہا اسی کا نہیں ہوگا جس کے حصہ میں کر دیا گیا تھا بلکہ دوسرے ورثہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ تین بھائی ہیں جن کو اپنے باپ سے زمین میراث میں ملی ان میں سے ایک کا انتقال ہوا اس نے ایک لڑکا چھوڑا اس لڑکے اور اس کے دونوں چچاؤں کے مابین زمین تقسیم ہوئی یہ لڑکا تقسیم کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرے دادا نے جو مورث اعلیٰ تھا اس نے اس میں ایک ٹکٹ⁽⁶⁾ کی میرے لیے وصیت کی تھی اور تقسیم کو باطل کرنا چاہتا ہے اس کی یہ بات نامعتبر ہے کہ تناقض ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے ذمہ میرا دین ہے یہ بات سنی جائے گی اور گواہ لیے جائیں گے اگر گواہوں سے دین ثابت ہو جائے تو تقسیم توڑ دی جائے گی۔ اس صورت میں چچا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین تمہارے باپ کے ذمہ ہے اس کا حصہ جو تمہیں ملا تم کو اختیار ہے کہ اسے دین میں فروخت کر لو یا اپنے پاس رکھو تمہارا دین تمہارے دادا کے ذمہ نہیں کہ پوری جائداد سے دین وصول کیا جائے لہذا تقسیم کے توڑنے میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ لڑکا کہہ سکتا ہے کہ تقسیم توڑنے میں فائدہ یہ ہے کہ مشترک

①..... یعنی دوسرے وارثوں سے دین وصول کر سکتا ہے۔

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب القسمة، الباب الثامن فی قسمة التركة... إلخ، ج ۵، ص ۲۲۲۔

③..... یعنی مہر کا میت کے ذمہ باقی ہونے کا۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب القسمة، الباب الثامن فی قسمة التركة... إلخ، ج ۵، ص ۲۲۲۔

⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... تہائی۔

چیز میں جو حصہ ہوتا ہے اُس کی قیمت کبھی زیادہ ہوتی ہے اور تقسیم کے بعد وہ قیمت نہیں رہتی لہذا میرا یہ فائدہ ہے کہ تقسیم نہ رہنے کی صورت میں میرے باپ کی مالیت زیادہ داموں میں فروخت ہوگی۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ → تقسیم کو توڑا جاسکتا ہے یعنی شرکانے اپنی رضامندی سے تقسیم کر لی اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں شرکت میں رہیں یہ ہو سکتا ہے۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۳۱ → محض تقسیم کر دینے سے کوئی معین حصہ شرکا میں سے کسی خاص شخص کی ملک نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ قاضی نے معین کر دیا ہو کہ یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا یا یہ کہ ایک نے تقسیم کے بعد ایک حصہ پر قبضہ کر لیا تو یہ اس کا ہو گیا یا قرعہ کے ذریعہ سے حصص (3) کی تعیین ہو جائے یا یہ کہ شرکانے کسی کو وکیل کر دیا ہو کہ تقسیم کر کے ہر ایک کا حصہ مشخص کر دے (4) اور اُس نے مشخص کر دیا۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ → دو شخصوں میں کوئی چیز مشترک تھی انہوں نے تقسیم کر لی اور قرعہ ڈال کر حصہ کا تعیین کر لیا اس کے بعد ایک شریک اس تقسیم پر نادم ہوا اور چاہتا ہے کہ تقسیم ٹوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ تقسیم مکمل ہو چکی۔ یوہیں اگر ان دونوں نے کسی تیسرے شخص کو تقسیم کے لیے مقرر کیا اور اس نے انصاف کے ساتھ تقسیم کر کے قرعہ ڈالا تو جس کے نام کا جو حصہ قرعہ کے ذریعہ متعین ہو چکا بس وہی اس کا مالک ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ → تین شریکوں میں تقسیم ہوئی اور قرعہ ڈالا گیا ابھی ایک کا نام نکلا ہے دو باقی ہیں تو ہر ایک رجوع کر سکتا ہے اور دو کے نام نکل آئے تو اب کوئی رجوع نہیں کر سکتا اور چار شریکوں میں دو کے نام نکل آئے تو رجوع کر سکتے ہیں اور تین کے نام نکلنے کے بعد رجوع نہیں کر سکتے۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ → ترکہ میں اونٹ گائے بکریاں سب ہیں ایک حصہ اونٹوں کا دوسرا گایوں کا تیسرا بکریوں کا قرار دیا اور قرعہ ڈالا گیا جس کے حصہ میں جو جانور آئے لے لے یہ جائز ہے اور اگر یہ قرار پایا کہ جس کے حصہ میں اونٹ آئیں گے وہ اونٹ لے گا اور اتنے روپے دے گا جو اس کے شریکوں کو دیے جائیں گے یہ بھی جائز ہے۔ (8) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثامن فی قسمة التركة... إلخ، ج ۵، ص ۲۲۳.

②..... "الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۶.

③..... حصول۔

④..... معین کر دے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الخامس فی الرجوع عن القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۱۷.

⑥..... المرجع السابق.

⑦..... المرجع السابق.

⑧..... المرجع السابق.

مسئلہ ۳۵ تقسیم میں ایک شریک نے بیع یا ہبہ یا صدقہ کی شرط کی یعنی اس شرط پر تقسیم کرتا ہوں کہ میرا یہ مکان یا مکان مشترک میں جو میرا حصہ ہے تم خرید لو یا فلاں چیز مجھ کو ہبہ یا صدقہ کر دو یہ تقسیم فاسد ہے۔ تقسیم فاسد میں قبضہ کرنے سے ملک حاصل ہو جائے گی اور تصرفات نافذ ہوں گے۔ (۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ مکان مشترک کی اس طرح تقسیم ہوئی کہ ایک شریک پوی زمین لے گا اور دوسرا ساری عمارت لے گا زمین اس کو بالکل نہیں ملے گی اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس کے حصہ میں عمارت آئی اس سے شرط یہ ٹھہری ہے کہ عمارت کھود کر نکال لے گا یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت یہ کہ عمارت کھودنے یا نہ کھودنے کا کوئی ذکر نہیں ہوا یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عمارت باقی رکھنے کی شرط ہے اس صورت میں تقسیم فاسد ہے۔ (۲) (عالمگیری)

مہایاۃ کا بیان

مسئلہ ۱ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشترک چیز کو تقسیم نہ کریں اُس کو مشترک ہی رکھیں اور ہر ایک شریک نوبت اور باری کے ساتھ اس چیز سے نفع اٹھائے اسے اصطلاح فقہا میں مہایاۃ اور تہایۃ کہتے ہیں۔ اس طور پر نفع اٹھانا شرعاً جائز ہے بلکہ اگر بعض شرکاء قاضی کے پاس اس کی درخواست کریں اور دوسرے شرکاء انکار کریں تو قاضی ان کو مہایاۃ پر مجبور کرے گا۔ البتہ اگر بعض مہایاۃ کو چاہیں اور دوسرے تقسیم کرانا چاہیں تو قاضی تقسیم کا حکم دے گا کہ تقسیم کا مرتبہ مہایاۃ سے بڑھ کر ہے۔ (۳) (عنایہ)

مسئلہ ۲ جو چیز قابل تقسیم ہے اس سے بطور مہایاۃ دونوں نفع اٹھا رہے تھے پھر ایک نے تقسیم کی درخواست کی تو تقسیم کر دی جائے گی اور مہایاۃ باطل کر دی جائے گی اور دونوں شریکوں میں سے کوئی مر گیا یا دونوں مر گئے اس سے مہایاۃ باطل نہیں ہوگی بلکہ جو مر گیا اس کا وارث اس کے قائم مقام ہوگا۔ (۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۳ مہایاۃ کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک مکان کے ایک حصہ میں ایک رہتا ہے دوسرے میں دوسرا، یا ایک بالا خانہ پر رہتا ہے دوسرا نیچے کی منزل میں، یا ایک مہینہ میں ایک رہے گا دوسرے مہینہ میں دوسرا، یا دو مکان ہیں ایک میں ایک رہے گا دوسرے میں دوسرا، یا غلام سے ایک دن ایک شخص کام کرائے گا دوسرے دن دوسرا، یا دو غلام ہیں ایک سے ایک خدمت لے گا

۱..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثالث فی بیان ما یقسم... الخ، ج ۵، ص ۲۱۱.

۲..... المرجع السابق.

۳..... "العیانۃ" علی "فتح القدر"، کتاب القسمة، فصل فی المہایاۃ، ج ۸، ص ۳۷۸.

۴..... "الہدایۃ"، کتاب القسمة، فصل فی المہایاۃ، ج ۲، ص ۳۳۴.

دوسرے سے دوسرا، یا مکان کو کرایہ پر دے دیا ایک ماہ کا کرایہ ایک لے گا دوسرے مہینہ کا دوسرا، یا دو مکان ہیں ایک کا کرایہ ایک لے گا دوسرے کا دوسرا یہ سب صورتیں جائز ہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ مہایاۃ کے طور پر جو چیز اس کے حصہ میں آئی یہ اس چیز کو کرایہ پر بھی دے سکتا ہے مثلاً اس مکان میں اس کو رہنا ہی ضرور نہیں بلکہ کرایہ پر اٹھا سکتا ہے⁽²⁾ اگرچہ مہایاۃ کے وقت یہ شرط اس نے ذکر نہیں کی ہو کہ میں اس کو کرایہ پر بھی دے سکوں گا۔⁽³⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۵ غلاموں سے خدمت لینے میں یہ طے ہوا کہ جو غلام جس کی خدمت کرے گا اس کا نفقہ اسی کے ذمہ ہے یہ جائز ہے بلکہ اگر نفقہ کا ذکر نہیں آیا جب بھی اسی کے ذمہ ہے جس کی خدمت کرتا ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ مکان مشترک کو کرایہ پر دیا گیا اور یہ ٹھہرا ہے کہ باری باری دونوں کرایہ وصول کریں گے اب اس کا کرایہ زیادہ ہو گیا تو جس کی باری میں کرایہ کی زیادتی ہوئی ہے تنہا یہی اس کا مستحق نہیں بلکہ اس زیادتی کے دونوں حقدار ہیں اور اگر دو مکان تھے ایک کا کرایہ لیتا تھا دوسرے کا دوسرا اور ایک مکان کے کرایہ میں اضافہ ہوا تو جو اس کا کرایہ لیتا تھا یہ زیادتی تنہا اسی کی ہے دوسرا اس میں سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ دو چیزیں مشترک ہیں اور دونوں کی منفعت مختلف قسم کی ہے مثلاً ایک مکان اور ایک غلام مشترک ہیں اور مہایاۃ اس طرح ہوئی کہ ایک سے ایک شریک منفعت حاصل کرے اور دوسرے سے دوسرا یعنی ایک شخص غلام سے خدمت لے اور دوسرا مکان میں سکونت کرے یہ بھی جائز ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ اگر فریقین کی رضامندی سے مہایاۃ ہوئی ہو تو اسے توڑ بھی سکتے ہیں دونوں توڑیں یا ایک، عذر سے ہو یا بلا عذر سب جائز ہے، ہاں اگر قضاے قاضی سے مہایاۃ ہوئی ہو تو جب تک دونوں راضی نہ ہوں فقط ایک نہیں توڑ سکتا۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۷.

②.....یعنی کرایہ پر دے سکتا ہے۔

③....."الهدایة"، کتاب القسمة، فصل فی المہایاۃ، ج ۲، ص ۳۳۵.

④....."الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۹.

⑤.....المرجع السابق. ⑥.....المرجع السابق.

⑦....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب القسمة، الباب الثانی عشر فی المہایاۃ، ج ۵، ص ۲۲۹.

مسئلہ ۹ غلام میں اس طرح مہایاۃ ہوئی کہ اس سے اجرت پر کام کرایا جائے ایک مہینہ کی اجرت ایک شریک لے گا دوسرے مہینہ کی دوسرا یہ ناجائز ہے۔ یوہیں اگر دو غلام ہوں ایک کی اجرت ایک شریک لے گا دوسرے کی دوسرا یہ بھی ناجائز۔ ایک جانور یا دو جانوروں کی سواری لینے یا کرایہ پر دینے میں مہایاۃ ہوئی یہ بھی ناجائز ہے۔ یوہیں اگر گائے یا بھینس مشترک ہے یہ ٹھہرا کہ پندرہ روز ایک کے یہاں رہے اور دودھ سے نفع اٹھائے اور پندرہ دن دوسرے کے یہاں رہے اور یہ دودھ سے نفع اٹھائے یہ ناجائز ہے اور دودھ جس کے یہاں کچھ زیادہ ہو یا یہ زیادتی بھی اس کے لیے حلال نہیں اگرچہ دوسرے نے اجازت دے دی ہو اور کہہ دیا ہو کہ جو کچھ زیادتی ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، ہاں اس زیادتی کو خرچ کر دینے کے بعد اگر حلال کر دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ضمان سے ابرا ہے اور یہ جائز ہے۔⁽¹⁾ (خانہ، درمختار)

مسئلہ ۱۰ درختوں کے پھلوں میں مہایاۃ ہوئی یہ ناجائز ہے۔ یوہیں بکریاں مشترک تھیں دونوں نے بطور مہایاۃ کچھ کچھ بکریاں لے لیں کہ ہر ایک اپنے حصہ کی چرائے گا اور دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے گا یہ ناجائز ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ بکریوں اور پھلوں وغیرہ میں مہایاۃ جائز ہونے کا حیلہ یہ ہے کہ اپنی باری میں شریک کا حصہ خرید لے جب باری کی مدت پوری ہو جائے اس حصہ کو شریک کے ہاتھ بیع کر ڈالے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزانہ دودھ کو وزن کر لے اور شریک کے حصہ کا جتنا دودھ ہو اس سے قرض لے لے جب مدت پوری ہو جائے اور جانور دوسرے کے پاس جائے اس زمانہ میں جو کچھ دودھ اس کے حصہ کا ہو قرض میں ادا کرتا رہے یہاں تک کہ جتنا قرض لیا تھا وہ مقدار پوری ہو جائے اس طرح کرنا جائز ہے کہ مشاع⁽³⁾ کو قرض لیا جاسکتا ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ کپڑا مشترک ہے اس میں اس طرح مہایاۃ ہوئی کہ دونوں باری باری سے پہنیں گے یا دو کپڑے ہیں ایک کو ایک پہنے گا دوسرے کو دوسرا یہ مہایاۃ ناجائز ہے کہ کپڑے پہننے میں لوگوں کی مختلف حالت ہوتی ہے کسی کے بدن پر جلد پھٹتا ہے اور کسی کے دیر میں۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

①....."الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الصلح، فصل فی المہایاۃ، ج ۲، ص ۱۹۷.

و"الدرالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۴۹.

②....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثانی عشر فی المہایاۃ، ج ۵، ص ۲۳۰.

③.....شے مشترک۔

④....."الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب القسمة، مطلب: فی الرجوع عن القرعة، ج ۹، ص ۴۵۰.

⑤....."ردالمختار"، کتاب القسمة، ج ۹، ص ۴۵۱.

مسئلہ ۱۳ مکان میں دونوں باری سے سکونت کریں گے (۱) یا دوسری چیزوں میں جبکہ باری کے ساتھ نفع حاصل کرنا ہو اس میں شروع کس سے کریں اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ قاضی متعین کر دے کہ پہلے فلاں شخص نفع اٹھائے دوسرا یہ کہ قرعہ ڈالا جائے جس کے نام کا قرعہ نکلے وہ پہلے نفع اٹھائے اور یہ دوسرا طریقہ بہتر ہے کہ پہلی صورت میں قاضی کی طرف بدگمانی کا موقع ہے۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ دونوں شریکوں میں اختلاف ہے ایک یہ کہتا ہے کہ باری مقرر کر دی جائے دوسرا یہ کہتا ہے کہ مکان کے حصے متعین کر دیے جائیں کہ ایک حصہ میں میں سکونت کروں دوسرے میں دوسرا اس صورت میں دونوں سے کہا جائے گا کہ تم دونوں ایک بات پر متفق ہو جاؤ جس ایک بات پر متفق ہو جائیں وہی کی جائے۔ (۳) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۵ کسی گاؤں کی حفاظت کے لیے سپاہی مقرر ہوئے اور حکومت نے حفاظت کے مصارف گاؤں والوں پر ڈالے یہ خرچہ گاؤں والوں سے کس حساب سے وصول ہوگا اس کی دو صورتیں ہیں اگر جان کی حفاظت مقصود ہے تو گاؤں کی مردم شماری کے حساب سے ہر ایک پر ڈالا جائے یعنی جتنے مرد ہوں سب سے برابر برابر وصول کیا جائے عورتوں اور بچوں پر خرچہ نہ ڈالا جائے اور اگر اموال کی حفاظت مقصود ہے تو ان لوگوں کے اموال و املاک کے لحاظ سے خرچہ ڈالا جائے اور اگر دونوں کی حفاظت مقصود ہو تو دونوں کا لحاظ کیا جائے۔ (۴) (درمختار، ردالمحتار)

متفرقات

مسئلہ ۱ زمین کی تقسیم میں درخت جمعاً داخل ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ ذکر نہ کیا گیا ہو کہ یہ زمین مع حقوق و مرافق (۵) کے تم کو دی گئی جس طرح بیج زمین میں درخت داخل ہوا کرتے ہیں اور زراعت اور پھل زمین کی تقسیم میں داخل نہیں اگرچہ حقوق و مرافق کا ذکر کر دیا ہو۔ اور اگر تقسیم میں یہ کہہ دیا کہ جو کچھ قلیل و کثیر اس میں ہے سب کے ساتھ تقسیم ہوئی تو زراعت اور پھل بھی داخل ہیں۔ جو کچھ سامان و متاع اُس میں ہیں اس کہنے سے بھی تقسیم میں داخل نہ ہوں گے۔ پر نالہ اور نالی اور راستہ اور آبپاشی (۶) کا حق تقسیم میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں اس میں تفصیل ہے اگر یہ چیزیں دوسری جانب سے ہو سکتی ہیں تو داخل

①..... یعنی رہائش اختیار کریں گے۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب الثانی عشر فی المہایا، ج ۵، ص ۲۳۱.

③..... "الہدایۃ"، کتاب القسمة، فصل فی المہایا، ج ۲، ص ۳۳۵.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب القسمة، مطلب: فی الرجوع عن الفرعة، ج ۹، ص ۴۵۱.

⑤..... وہ اشیاء جو جمعاً، ضمناً بیع میں شامل ہوں۔

⑥..... یعنی کھیت کو پانی دینے۔

نہیں اور اگر نہیں ہو سکتیں اور وقت تقسیم علم میں ہے کہ یہ چیزیں تقسیم میں نہیں دی گئیں تو تقسیم جائز ہے اور یہ چیزیں نہیں ملیں گی اور اگر علم میں نہیں تو تقسیم باطل ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری وغیرہ)

تقسیم میں خیار کے احکام

مسئلہ ۲ - اجناس مختلفہ کی تقسیم میں خیار رویت، خیار شرط، خیار عیب تینوں ثابت ہوتے ہیں اور ذوات الامثال جیسے مکلیات⁽²⁾ و موزونات⁽³⁾ میں خیار عیب ہوتا ہے خیار شرط و خیار رویت نہیں ہوتا اور غیر مثلی جیسے گائے بکری اور ایک قسم کے کپڑوں میں خیار عیب ہوتا ہے اور فتوے اس پر ہے کہ خیار شرط و خیار رویت بھی ہوتا ہے۔ صرف گیہوں تقسیم کیے گئے مگر وہ مختلف قسم کے ہیں تو اس میں بھی خیار رویت حاصل ہوگا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - دو تھیلوں میں روپے تھے ایک ایک تھیلی دونوں کو دی گئی اور ایک نے روپے دیکھ لیے تھے دوسرے نے نہیں یہ تقسیم دونوں کے حق میں جائز ہے مگر جبکہ جس نے نہیں دیکھے ہیں اس کے حصہ میں خراب روپے آئے تو اسے خیار حاصل ہوگا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - مکان کی تقسیم ہوئی اسے باہر سے دیکھ لیا ہے اندر سے نہیں دیکھا ہے تو خیار حاصل نہیں۔ تھان تہہ کیے ہوئے اوپر سے دیکھ لیے اندر سے نہیں دیکھے خیار باقی نہ رہا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - تقسیم میں خیار کے وہی احکام ہیں جو بیع میں ہیں لہذا اس کے حصہ میں جو چیزیں آئیں اون میں کوئی چیز عیب دار ہے اور قبضہ سے پہلے اسے علم ہو گیا تو سب کو واپس کر دے اس کے حصہ میں ایک ہی قسم کی چیزیں ہوں یا مختلف قسم کی اور اگر قبضہ کے بعد عیب پر مطلع ہو اور اس کا حصہ ایک چیز ہو حقیقہً یا حکماً جیسے مکمل و موزوں تو سب واپس کر دے یہ نہیں کر سکتا کہ کچھ رکھ لے کچھ واپس کر دے اور اگر مختلف چیزیں ہوں جیسے بکریاں تو صرف عیب دار کو واپس کر سکتا ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - تقسیم میں جو چیز اسے ملی اس نے بیج ڈالی مشتری نے اس میں عیب پا کر واپس کر دی اگر یہ واپسی قاضی کے حکم سے ہوئی ہے تو تقسیم توڑی جاسکتی ہے اور بغیر حکم قاضی واپسی ہوئی تو تقسیم کو نہیں توڑ سکتا۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

①....."الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب القسمة، الباب الرابع فیما یدخل تحت القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۱۵، وغیرہ.

②..... وہ اشیاء جو ناپ سے ہوتی ہیں۔ ③..... وہ اشیاء جو وزن سے ہوتی ہیں۔

④....."الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب القسمة، الباب السادس فی الخیار فی القسمة، ج ۵، ص ۲۱۷.

⑤..... المرجع السابق، ص ۲۱۸. ⑥..... المرجع السابق.

⑦..... المرجع السابق. ⑧..... المرجع السابق، ص ۲۱۹.

ولی بھی تقسیم کر سکتا ہے

مسئلہ ۷ جو شخص کسی کی چیز بیع کر سکتا ہے وہ اس کے اموال کی تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ نابالغ اور مجنون و معتوہ کے اموال کی تقسیم باپ نے کرائی یہ جائز ہے جب تک اس تقسیم میں غبن فاحش نہ ہو۔ باپ نہ ہو تو اس کا وصی باپ کے قائم مقام ہے اور باپ کا وصی نہ ہو تو دادا اس کے قائم مقام ہے۔ ماں نے اولاد کے لیے ترکہ چھوڑا ہے اور کسی کو وصی مقرر کر گئی ہے یہ وصی اس ترکہ میں تقسیم کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ تینوں جن کا پہلے ذکر کیا گیا نہ ہوں مگر ماں کا وصی جائداد غیر منقولہ (1) میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ ماں اور بھائی اور چچا اور نانا بالغہ عورت کے شوہر کو یا بالغہ عورت جو غائب ہے اس کے شوہر کو تقسیم کرانے کا حق نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ نابالغ مسلم کا باپ کافر ہے یہ اس کی ملک کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ یوں اگر نابالغ آزاد ہے اور اس کا باپ غلام ہے یا مکاتب اسے بھی ولایت حاصل نہیں اسی طرح پڑا ہوا بچہ کوئی اوشالا یا وہ اگر چہ اس کی پرورش میں ہو اس کے اموال کو یہ تقسیم نہیں کر سکتا۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ قاضی نے یتیم کے لیے کسی کو وصی مقرر کر دیا ہے اگر یہ ہر چیز میں وصی ہے تو تقسیم کر سکتا ہے جائداد منقولہ اور غیر منقولہ سب کی تقسیم کر سکتا ہے اور اگر وہ نفقہ یا کسی معین چیز کی حفاظت کے لیے وصی ہے تو تقسیم نہیں کر سکتا اور باپ کا وصی اگر ایک چیز میں وصی ہے تو سب چیزوں میں وصی ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ ایک شخص دو بچوں کا وصی ہے تو ان کے مشترک اموال کو تقسیم نہیں کر سکتا جس طرح ایک کے مال کو دوسرے کے مال سے بیع نہیں کر سکتا۔ (5) اور باپ اپنے نابالغ بچوں کے مشترک مال کو تقسیم کر سکتا ہے جس طرح ایک کے مال کو دوسرے کے مال سے بیع کر سکتا ہے۔ وصی اگر دونوں نابالغوں کے اموال کو تقسیم کرانا ہی چاہتا ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ ایک کا حصہ کسی کے ہاتھ بیع کر دے پھر اس مشتری اور دوسرے نابالغ کے مابین تقسیم کرائے پھر اس مشتری سے پہلے نابالغ کی طرف سے خرید لے دونوں کے حصہ ممتاز ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کے مال فروخت کر دے پھر ہر ایک کے لیے مشتری سے ممتاز کر کے خرید لے۔ (6) (عالمگیری)

①..... وہ جائداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکے۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب السابع فی بیان من یری القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۱۹۔

③..... المرجع السابق۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... یعنی بیع نہیں سکتا۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب السابع فی بیان من یری القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۱۹۔

مسئلہ ۱۱ - اگر یتیم و وصی کے مابین مال مشترک ہے تو اس صورت میں وصی مال کو تقسیم نہیں کرا سکتا مگر جب کہ تقسیم میں نابالغ کے لیے کھلا ہوا فائدہ معلوم ہوتا ہو۔ اور باپ اور اس کے نابالغ بچے کے مابین مال مشترک ہو تو باپ تقسیم کرا سکتا ہے اگرچہ نابالغ کا کھلا ہوا نفع نہ بھی ہو۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - بالغ و نابالغ دونوں قسم کے ورثہ ہیں اور بالغین موجود ہیں وصی نے بالغین کے مقابلہ میں تقسیم کرائی اور سب نابالغوں کے حصے یکجائی رکھے یہ جائز ہے پھر نابالغوں کے حصے تقسیم کرنا چاہے یہ نہیں ہو سکتا اور اگر ایک نابالغ ہے باقی بالغ اور بالغین میں ایک غائب ہے اور باقی موجود وصی نے موجودین کے مقابلہ میں تقسیم کرائی اور غائب کے حصہ کو نابالغ کے ساتھ رکھا یہ جائز ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - ورثہ میں بالغ و نابالغ دونوں ہیں وصی نے اس طرح تقسیم کرائی کہ ہر نابالغ کا حصہ بھی ممتاز ہو گیا یہ تقسیم ناجائز ہے۔ میت نے کسی کے لیے تہائی کی وصیت کی ہے وصی نے موصلی لہ^(۳) اور نابالغین کے مابین تقسیم کی موصلی لہ کی تہائی اس کو دے دی اور دو تہائیاں نابالغین کے لیے رکھیں یہ جائز ہے۔ اور اگر ورثہ بالغ ہوں مگر موجود نہیں ہیں وصی نے تقسیم کر کے موصلی لہ کی تہائی اسے دے دی اور ورثہ کا حصہ محفوظ رکھا یہ بھی جائز ہے اور اگر موصلی لہ غائب ہے وصی نے ورثہ کے مقابل میں تقسیم کر کے موصلی لہ کا حصہ محفوظ رکھا یہ تقسیم باطل ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مزارعت کا بیان

مزارعت کے متعلق مختلف قسم کی حدیثیں آئیں بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور بعض سے عدم جواز اسی وجہ سے

صحابہ وائمہ میں اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف رہا۔

حدیث ۱ - صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہتے ہیں ہم مزارعت کیا کرتے تھے اس میں حرج نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔^(۵)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب السابع فی بیان من یلی القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۱۹.

②..... المرجع السابق، ص ۲۲۰.

③..... جس کے متعلق وصیت کی گئی۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب القسمة، الباب السابع فی بیان من یلی القسمة... إلخ، ج ۵، ص ۲۱۹، ۲۲۰.

⑤..... "صحیح مسلم"، کتاب بیوع، باب کراء الأرض، الحدیث: ۱۰۶، ۱۰۷۔ (۱۵۴۷)، ص ۸۳۳.

حدیث ۲ صحیح بخاری و مسلم میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں مدینہ میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے اور ہم میں کوئی شخص زمین کو اس طرح کرایہ پر دیتا کہ اس ٹکڑے کی پیداوار میری ہے اور اس کی تمہاری تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہیں ہوتی لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کو منع فرمادیا۔^(۱)

حدیث ۳ صحیحین میں حنظلہ بن قیس، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں میرے دو چچاؤں نے مجھے خبر دی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ میں کچھ لوگ زمین کو اس طرح دیتے کہ جو کچھ تالیوں کے آس پاس پیداوار ہوگی وہ مالک زمین کی ہے یا مالک زمین پیداوار میں سے کسی مخصوص شے کو اپنے لیے مستثنیٰ کر لیتا۔ لہذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا۔ کہتے ہیں: میں نے رافع سے پوچھا کہ روپیہ اشرفی^(۲) سے زمین کو دینا کیسا ہے تو کہا: اس میں حرج نہیں۔ بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ جس صورت میں ممانعت ہے اُس کو جب وہ شخص دیکھے گا جسے حلال و حرام کی سمجھ ہے تو جائز نہیں کہہ سکتا۔^(۳)

حدیث ۴ صحیح بخاری و مسلم میں عمرو بن دینار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے، کہتے ہیں: میں نے طاووس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے کہا کہ آپ مزارعت چھوڑ دیتے تو اچھا تھا کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں اس سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اُنھوں نے کہا: اے عُمَرُو! اس ذریعہ سے لوگوں کو میں دیتا ہوں اور لوگوں کی اعانت^(۴) کرتا ہوں اور مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ خبر دی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ فرمایا کہ ”کوئی شخص اپنے بھائی کو زمین مفت دیدے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس پر اجرت لے۔“^(۵)

حدیث ۵ صحیح بخاری میں ابو جعفر یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں مدینہ میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو تہائی اور چوتھائی پر مزارعت نہ کرتا ہو اور حضرت علی و سعد بن مالک و عبد اللہ بن مسعود و عمر بن عبد العزیز و قاسم و عروہ و آل ابی بکر و آل عمرو آل علی و ابن سیرین سب نے مزارعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔^(۶)

مسئلہ ۱ کسی کو اپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں مثلاً نصف نصف

①..... "صحیح البخاری"، کتاب الحرث و المزارعة، باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعة، الحدیث: ۲۳۳۲، ج ۲، ص ۸۹.

②..... سونے کا سکہ۔

③..... "صحیح البخاری"، کتاب الحرث و المزارعة، باب کراء الأرض بالذهب و الفضة، الحدیث: ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ج ۲، ص ۹۳.

④..... مدد۔

⑤..... "صحیح البخاری"، کتاب الحرث و المزارعة، باب: ۱۰، الحدیث: ۲۳۳۰، ج ۲، ص ۸۸.

⑥..... "صحیح البخاری"، کتاب الحرث و المزارعة، باب المزارعة بالشرط و نحوه، ج ۲، ص ۸۷.

یا ایک تہائی دو تہائیاں تقسیم ہو جائے گی اس کو مزارعت کہتے ہیں، اسی کو ہندوستان میں بٹائی پر کھیت دینا کہتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مزارعت ناجائز ہے مگر فتویٰ قول صاحبین پر (1) ہے کہ مزارعت جائز ہے۔ (2)

مزارعت کے جواز کے لیے چند شرطیں ہیں کہ بغیر ان شرطوں کے جائز نہیں۔

(1) عاقدین عاقل بالغ آزاد ہوں اگر نابالغ یا غلام ہو تو اس کا ماذون ہونا (3) ضروری ہے۔

(2) زمین قابل زراعت ہو۔ اگر شور زمین (4) یا بنجر جس میں زراعت کی قابلیت نہیں ہے مزارعت پر دی گئی تو یہ عقد

ناجائز ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس وقت زمین قابل زراعت نہیں ہے مگر وہ وجہ زائل ہو جائے گی مثلاً اس وقت وہاں پانی نہیں ہے مگر وقت پر پانی ہو جائے گا یا اس وقت کھیت پانی میں ڈوبا ہوا ہے بونے کے وقت تک سوکھ جائے گا تو مزارعت جائز ہے۔

(3) وہ زمین جو مزارعت پر دی گئی معلوم ہو۔

(4) مالک زمین کاشتکار کو وہ زمین سپرد کر دے اور اگر یہ ٹھہرا ہے کہ مالک زمین بھی اس میں کام کرے گا

تو مزارعت صحیح نہیں۔

(5) بیان مدت مثلاً ایک سال دو سال کے لیے زمین دی اور اگر مدت کا بیان نہ ہو تو صرف پہلی فصل کے لیے

مزارعت ہوئی اور اگر ایسی مدت بیان کی جس میں زراعت نہ ہو سکے یا اتنی مدت بیان کی کہ اتنی مدت تک ایک کے زندہ رہنے کی بظاہر امید نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں مزارعت فاسد۔

(6) یہ بیان کہ بیج مالک زمین دے گا یا کاشتکار کے ذمہ ہوگا۔ اگر بیان نہ ہو تو وہاں کا جو عرف ہو وہ کیا جائے جیسے

یہاں ہندوستان بھر میں یہی عرف ہے کہ بیج کاشتکار کے ہوتے ہیں۔

(7) یہ بیان کہ کیا چیز بوائے گا اور اگر متعین نہ کرے تو یہ اجازت دے کہ تیرا جو جی چاہے اس میں بونا۔ یہ بتانے کی

ضرورت نہیں کہ کتنے بیج ڈالے گا کہ زمین جتنی ہوتی ہے اسی حساب سے کاشتکار بیج ڈالا کرتے ہیں۔

(8) ہر ایک کو کیا ملے گا اس کا عقد میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور جو کچھ پیداوار ہو اس میں دونوں کی شرکت

ہو اگر فقط ایک کو دینا قرار پایا تو عقد صحیح نہیں۔ اور یہ شرط کہ دوسری چیز میں سے دیا جائے گا اس سے بھی شرکت نہ ہوئی۔

1..... یعنی امام ابو یوسف و امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے قول پر۔

2..... "الدر المختار"، کتاب المزارعة، ج 9، ص 456-458.

3..... یعنی اپنے ولی یا آقا کی طرف سے انہیں خرید و فروخت کی اجازت کا ہونا۔

4..... کھاری زمین، وہ زمین جو کھار یا تھور کے باعث قابل کاشت نہ ہو۔

اور جو مقدار ہو ہر ایک کے لیے اس کا متعین ہو جانا ضرور ہے مثلاً نصف یا تہائی یا چوتھائی اور جو کچھ حصہ ہو وہ جز و شائع ہو لہذا اگر ایک کے لیے یہ ٹھہرا کہ ایک من یا دو من دیے جائیں گے تو صحیح نہیں۔ یوہیں اگر یہ ٹھہرا کہ بیج کی مقدار نکالنے کے بعد باقی کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا تو مزارعت صحیح نہ ہوئی۔ اسی طرح اگر یہ ٹھہرا کہ کھیت کے اس حصہ کی پیداوار فلاں لے گا اور باقی فلاں یا باقی کو دونوں میں تقسیم کیا جائے گا یہ مزارعت صحیح نہیں۔ اور اگر یہ ٹھہرا کہ زمین کا عشر (1) نکال کر باقی کو تقسیم کیا جائے گا تو حرج نہیں۔ یوہیں اگر یہ طے ہوا کہ دونوں میں ایک کو پہلے پیداوار کا دسواں حصہ دیا جائے اُس کے بعد اس طرح تقسیم ہو تو اس میں بھی حرج نہیں۔ (2)

شرط مندرجہ ذیل سے مزارعت فاسد ہو جاتی ہے۔ پیداوار کا ایک کے لیے مخصوص ہونا۔ مالک زمین کے کام کرنے کی شرط۔ ہل تیل مالک زمین کے ذمہ شرط کر دینا۔ کھیت کا ثنا اور ڈھو کر (3) خسرو من (4) میں پہنچانا پھر دائیں چلانا اور غلہ کو بھوسہ اوڑا کر جدا کرنا ان سب کو مزارع پر شرط کرنا مفسد ہے یا نہیں اس میں دو روایتیں ہیں اور یہاں کا عرف یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی مزارع (5) ہی کرتا ہے مگر رواج یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں مزدوری جو کچھ دی جاتی ہے وہ مشترک غلہ سے دی جاتی ہے مزارع اپنے پاس سے نہیں دیتا بلکہ ان تمام مصارف کے بعد جو کچھ غلہ بچتا ہے وہ حسب قرار داد تقسیم ہوتا ہے۔ ایک کو غلہ ملے گا اور دوسرے کو صرف بھوسا۔ غلہ بانٹا جائے گا اور بھوسا وہ لے گا جس کے بیج نہیں ہیں مثلاً مالک زمین۔ بھوسا بانٹا جائے گا اور غلہ صرف ایک کو ملے گا۔ اور اگر یہ شرط ہے کہ غلہ بننے گا اور بھوسا اُس کو ملے گا جس کے بیج ہیں جیسا یہاں کا یہی عرف ہے کہ مزارع ہی بیج دیتا ہے اور بھوسہ لیتا ہے یہ صورت صحیح ہے۔ یوہیں اگر بھوسے کے متعلق کچھ ذکر ہی نہ آیا کہ اس کو کون لے گا یہ بھی صحیح ہے مگر اس صورت میں بھوسا کون لے گا اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ بھی بٹے گا دوسرا یہ کہ جس کے بیج ہیں اسے ملے گا یہی ظاہر الروایہ ہے اور یہاں کا عرف دوسرے قول کے موافق ہے۔ (6)

مسئلہ ۲ ایک شخص کی زمین اور بیج اور دوسرا شخص اپنے ہل تیل سے جوتے بوئے گا یا ایک کی فقط زمین باقی سب کچھ دوسرے کا یعنی بیج بھی اسی کے اور ہل تیل بھی اسی کے اور کام بھی یہی کرے گا یا مزارع صرف کام کرے گا باقی سب کچھ مالک زمین کا، یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ اور اگر یہ ہو کہ زمین اور تیل ایک کے اور کام کرنا اور بیج مزارع کے ذمہ یا یہ کہ

①..... یعنی پیداوار کا دسواں حصہ۔

②..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۵۸-۴۶۰۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعة، الباب الأول فی شرعیثہا... إلخ، ج ۵، ص ۲۳۵، ۲۳۶۔

③..... یعنی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا۔ ④..... غلے کا ڈھیر لگانے کی جگہ۔ ⑤..... کاشتکار۔

⑥..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۶۰-۴۶۴۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعة، الباب الأول فی شرعیثہا... إلخ، ج ۵، ص ۲۳۶۔

بیل اور بیج ایک کے اور زمین اور کام دوسرے کا یا یہ کہ ایک کے ذمہ فقط بیل یا بیج باقی سب کچھ دوسرے کا یہ چاروں صورتیں ناجائز و باطل ہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ مزارعت جب صحیح ہو تو جو کچھ پیداوار ہو اس کو اس طور پر تقسیم کریں جیسا طے ہوا ہے اور کچھ پیداوار نہ ہوئی تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر مزارعت فاسد ہو تو بہر صورت کام کرنے والے کو اجرت ملے گی پیداوار ہو یا نہ ہو۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ تین یا چار شخص مزارعت میں شریک ہوئے یوں کہ ایک کے فقط بیج یا بیل ہوں گے یا یوں کہ ایک کی زمین اور ایک کے بیج اور ایک کام کرے گا یا یوں کہ ایک کی زمین اور بیج اور دوسرے کے بیل اور تیسرا کام کرے گا یہ سب صورتیں مزارعت فاسدہ کی ہیں۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ عقد مزارعت ہو جانے کے بعد یہ عقد لازم ہوتا ہے یا نہیں اس میں یہ تفصیل ہے کہ جس کے بیج ہوں گے اس کی جانب سے لازم نہیں وہ اس پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر سکتا ہے اور جس کے بیج نہیں اس پر لازم ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ عقد منظور نہیں بلکہ اس کو عقد کے موافق کرنا ہی پڑے گا اور بیج زمین میں ڈال دینے کے بعد دونوں طرف سے لازم ہو گیا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ جس کے بیج ہیں اگر وہ اس عقد سے انکار اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے بونا چاہتا ہے یا اس کو کوئی دوسرا شخص مل گیا جو کم میں کام کرے گا مثلاً یہ مزارع نصف لینا چاہتا ہے وہ دوسرا تہائی پر کام کرنے کو طیار ہے ان صورتوں میں بیج والا انکار نہیں کر سکتا اس کو اس عقد کے موافق کرنا ہی ہوگا۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ مزارعت میں اگر مزارع کے ذمہ کھیت کا جو تنا⁽⁶⁾ شرط ہے جب تو اسے جو تنا ہی ہے اور اگر عقد میں یہ شرط مذکور نہ ہوئی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ زمین ایسی ہے کہ بغیر جو تے بھی اس میں ویسی ہی پیداوار ہو سکتی ہے جو مقصود ہے تو جبراً اس سے نہیں جو تے لایا جا سکتا اور اگر بغیر جو تے کچھ پیداوار نہ ہوگی یا بہت کم ہوگی تو کھیت جو تے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہی حکم آبپاشی کا⁽⁷⁾ ہے کہ اگر محض آسمانی بارش کافی ہے پانی نہ دیا جائے جب بھی ٹھیک پیداوار ہوگی تو پانی دینے پر مجبور نہیں

①..... "الدرالمختار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۶۲.

②..... المرجع السابق، ص ۴۶۴-۴۶۶.

③..... "ردالمحتار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۶۴.

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعة، الباب الأول فی شرعیہا... إلخ، ج ۵، ص ۲۳۷.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۶۵.

⑥..... زمین کو قابل کاشت بنانا، بل چلانا۔

⑦..... زمین کو پانی دینے کا۔

کیا جاسکتا ورنہ اُسے پانی دینا ہی ہوگا انکار نہیں کر سکتا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مزارعت ہو جانے کے بعد پیداوار کی تقسیم جس طرح طے پاگئی ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یا نہیں مثلاً نصف نصف تقسیم کرنا طے پایا تھا اب ایک تہائی دو تہائیاں لینا دینا چاہتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ کمی یا بیشی مالکِ زمین کی طرف سے ہوگی یا مزارع کی طرف سے اور بہر صورت بیع مالکِ زمین کے ہیں یا مزارع کے۔ اگر کھیت طیار ہو گیا اور بیع مزارع کے ہیں اور پہلے مزارعت نصف پر تھی اب کاشتکار مالکِ زمین کا حصہ بڑھانا چاہتا ہے اسے دو تہائیاں دینا چاہتا ہے یہ ناجائز ہے بلکہ پیداوار اسی طور پر تقسیم ہوگی جو طے ہے اور اگر مالکِ زمین مزارع کا حصہ بڑھانا چاہتا ہے بجائے نصف اس کو دو تہائیاں دینا چاہتا ہے یہ جائز ہے اور اگر بیع مالکِ زمین کے ہیں اور یہ مزارع کا حصہ زیادہ کرنا چاہتا ہے یہ ناجائز ہے اور مزارع مالکِ زمین کا حصہ زیادہ کرنا چاہتا ہے یہ جائز ہے اور اگر فصل طیار ہونے سے پہلے کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں تو مطلقاً جائز ہے مزارع کی طرف سے ہو یا مالکِ زمین کی طرف سے بیع اس کے ہوں یا اس کے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ مزارعت اس طرح ہوئی کہ ایک کی زمین ہے اور بیع دونوں کے ہیں اور مزارع کے ذمہ کام کرنا ہے اور شرط یہ ہے کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں برابر بانٹ لیں گے یہ مزارعت فاسد ہے۔ یو ہیں اگر ایک کے لیے دو تہائیاں اور دوسرے کے لیے ایک تہائی ملنا شرط ہو یہ بھی فاسد ہے۔ اور اگر زمین دونوں کی ہو اور بیع بھی دونوں دیں گے اور کام بھی دونوں کریں گے اور جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں برابر بانٹ لیں گے یہ مزارعت صحیح ہے اور اگر زمین دونوں میں مشترک ہے اور بیع ایک کے ہیں اور پیداوار برابر لیں گے یہ صورت فاسد ہے۔ اور اگر اسی صورت میں کہ زمین مشترک ہے یہ شرط ہو کہ جو کام کرے گا اس کی دو تہائیاں اور دوسرے کو یعنی جس کے بیع نہیں ہیں اس کو ایک تہائی ملے گی یہ جائز ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ مزارعت فاسدہ کے یہ احکام ہیں۔ جو کچھ اس صورت میں پیداوار ہو اس کا مالک تنہا وہ شخص ہے جس کے بیع ہیں پھر اگر بیع مزارع کے ہیں تو یہ مالکِ زمین کو زمین کی اجرت مثل دے گا اور اگر بیع مالکِ زمین کے ہیں تو یہ مزارع کو اس کے کام کی اجرت مثل دے گا اور اگر نبیل بھی مالکِ زمین ہی کے ہیں تو زمین اور نبیل دونوں کی اجرت مثل اس کو ملے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اجرت مثل اتنی ہی دی جائے جو مقرر شدہ سے زائد نہ ہو یعنی اگر مقرر شدہ سے زائد ہوتی ہو تو اتنی ہی دیں جو مقرر ہے یعنی مثلاً نصف پیداوار کی برابر اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ پابندی

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الأول فی شرعیہا... إلخ، ج ۵، ص ۲۳۷.

②..... المرجع السابق.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الثانی فی بیان أنواع المزارعۃ، ج ۵، ص ۲۳۸، ۲۳۹.

نہیں بلکہ جتنی بھی اجرت مثل ہوا اگرچہ مقرر شدہ سے زیادہ ہو وہی دی جائے گی۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۱ مزارعت فاسدہ میں اگر بیج مالکِ زمین کے ہیں اور پیداوار اس نے لی یہ اس کے لیے حلال و طیب ہے اور اگر مزارع کے بیج تھے اور پوری پیداوار اس نے لی تو اس کے لیے فقط اتنا ہی طیب ہے جو بیج اور لگان کے مقابل میں ہے باقی کو صدقہ کرے۔⁽²⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۲ مزارعت فاسدہ میں اگر یہ چاہیں کہ پیداوار کا جو کچھ حصہ ملا ہے وہ طیب و طاہر ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حصے بٹ جانے کے بعد⁽³⁾ مالکِ زمین مزارع سے کہے کہ تمہارا میرے ذمہ یہ واجب ہے اور میرا تمہارے ذمہ یہ واجب ہے اس غلہ کو لے کر مصالحت کر لو اور مزارع بھی اسی طرح کرے اور دونوں آپس میں مصالحت کر لیں اب کوئی حرج نہ رہے گا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ ایک شخص نے دوسرے کو بیج دیے اور یہ کہا کہ تم انھیں اپنی زمین میں بود و اور جو کچھ غلہ پیدا ہو وہ تمہارا ہے یا یوں کہا کہ اپنی زمین میں میرے بیج سے کاشت کرو جو کچھ پیداوار ہو وہ تمہاری ہے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں مگر یہ مزارعت نہیں ہے کیونکہ پیداوار میں شرکت نہیں ہے بلکہ اس شخص نے اپنے بیج اسے قرض دیے اور اگر بیج والے نے مالکِ زمین سے یہ کہا کہ میرے بیج سے تم اپنی زمین میں کاشت کرو اور جو کچھ پیداوار ہو میری ہے یہ صورت بھی جائز ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زمین کاشت کے لیے عاریت لی۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ مزارع کو زمین دی اور یہ کہا کہ اس میں گیہوں⁽⁶⁾ اور جو دونوں بوائے جائیں ایک کو گیہوں ملیں گے اور دوسرے کو جو یہ مزارعت فاسدہ ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ مزارع کو زمین دی اور یہ کہا کہ اگر تم نے گیہوں بوائے تو نصف نصف دونوں کے اور جو بوائے تو کل

①..... "الہدایۃ"، کتاب المزارعۃ، ج ۲، ص ۳۳۹-۳۴۰.

②..... المرجع السابق، ص ۳۴۰.

③..... یعنی تقسیم ہو جانے کے بعد۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الثانی فی بیان أنواع المزارعۃ، ج ۵، ص ۲۳۸.

⑤..... المرجع السابق، الباب الثالث فی الشروط... إلخ، ج ۵، ص ۲۴۱.

⑥..... گندم۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الثالث فی الشروط... إلخ، ج ۵، ص ۲۴۵.

مزارع کے، یہ صورت جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گیہوں بونے کی صورت میں مزارعت ہے اور جو بونے کی صورت میں عاریت ہے اور اگر یہ کہہ کر زمین دی کہ گیہوں بوائے تو نصف نصف اور جو بوائے تو یہ کل مالک زمین کے، اس کا حکم یہ ہے کہ گیہوں بونے کی صورت میں مزارعت ہے اور جائز ہے اور جو بوائے تو یہ کل مزارع کے ہوں گے اور مالک زمین کو زمین کی اجرت مثل یعنی واجبی لگان دیا جائے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ یہ کہہ کر زمین دی کہ اگر گیہوں بوائے تو نصف نصف اور جو بوائے تو مالک زمین کے لیے ایک تہائی اور مزارع کے لیے دو تہائیاں اور تل بوائے تو مالک زمین کی ایک چوتھائی باقی مزارع کی، یہ صورت جائز ہے جو کچھ بوائے گا اسی شرط کے موافق تقسیم ہوگی۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ ایک شخص کو تیس برس کے لیے زمین دے دی کہ گیہوں یا جو یا جو کچھ ربیع یا خریف کی پیداوار ہو دونوں میں برابر تقسیم ہوگی اور اس زمین میں مزارع جو درخت لگائے گا وہ ایک تہائی مالک زمین کا باقی مزارع کا، یہ جائز ہے وہ جو کچھ بوائے یا جس قسم کے درخت لگائے اسی شرط کے موافق کیا جائے گا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ مزارعت میں یہ شرط ہوئی کہ اگر مزدور سے کام لیا جائے گا تو اس کی اجرت مزارع کے ذمہ ہوگی یہ جائز ہے اور اگر یہ شرط ہو کہ مزدوری مالک زمین کے ذمہ ہوگی یہ ناجائز ہے اور مزارعت فاسد۔ یو ہیں اگر یہ شرط ہو کہ مزدوری مزارع دے گا مگر جو کچھ اجرت میں صرف ہوگا اس کے عوض کا غلہ نکال کر باقی کو تقسیم کیا جائے گا یہ بھی ناجائز۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ مزارعت میں ایسی شرط تھی جس کی وجہ سے مزارعت فاسد ہوگئی تھی اور وہ شرط جس کے لیے مفید تھی اس نے عمل سے پہلے شرط باطل کر دی مثلاً یہ شرط تھی کہ مالک زمین یا مزارع بیس روپے اور نصف پیداوار لے گا جس کو یہ روپے ملتے اس نے یہ شرط باطل کر دی تو اب یہ مزارعت جائز ہوگئی اور اگر وہ شرط دونوں کے لیے مفید ہو تو جب تک دونوں اس شرط کو باطل نہ کریں فقط ایک کے باطل کرنے سے مزارعت جائز نہ ہوگی۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ کاشتکار نے کھیت جوت لیا⁽⁶⁾ اب مالک زمین کہتا ہے میں بٹائی پر بوانا⁽⁷⁾ نہیں چاہتا اگر بیج کاشتکار کے ذمہ ہیں تو مالک زمین کو انکار کرنے کا کوئی حق نہیں اس سے زمین جبراً لی جائے گی اور کاشتکار بوائے گا اور اگر بیج مالک زمین

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الثالث فی الشروط... إلخ، ج ۵، ص ۲۴۷.

②.....المرجع السابق، ص ۲۴۸. ③.....المرجع السابق.

④.....المرجع السابق. ⑤.....المرجع السابق، ص ۲۴۵.

⑥.....یعنی اہل چلا دیا۔ ⑦.....تقسیم پر کاشت کرانا۔

کے ذمہ ہیں تو وہ انکار کر سکتا ہے اس پر جبر نہیں کیا جاسکتا رہا یہ کہ کاشتکار کو کھیت جوتنے کا معاوضہ دیا جائے گا یا نہیں دیانت کا حکم یہ ہے کہ کاشتکار کو کھیت جوتنے کی اجرت مثل دے کر راضی کرے کیونکہ اگرچہ کھیت جوتنے پر وہ اجیر نہیں ہے مگر چونکہ مالک زمین نے اس سے عقد مزارعت کیا اس وجہ سے اس نے جوتا ورنہ کیوں جوتتا۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مزارع کا دوسرے کو مزارعت پر زمین دے دینا

مسئلہ ۲۱ کاشتکار کو مزارعت پر زمین دی کاشتکار یہ چاہتا ہے کہ دوسرے شخص کو مزارعت پر دے دے اگر بیج مالک زمین کے ہیں تو ایسا نہیں کر سکتا جب تک مالک زمین سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت نہ حاصل کرے دلالتاً اجازت کی یہ صورت ہے کہ اس نے کہہ دیا ہو تم اپنی رائے سے کام کرو اور بغیر اجازت اس نے دوسرے کو دے دی تو ان دونوں کے مابین حسب شرائط غلہ تقسیم ہوگا اور مالک زمین بیج کا تاوان لے گا پہلے سے لے گا تو وہ دوسرے سے واپس نہیں لے سکتا اور دوسرے سے لے گا تو وہ پہلے سے رجوع کرے گا اور زراعت کی وجہ سے زمین میں جو کچھ نقصان ہوگا وہ مزارع دوم سے مالک زمین وصول کرے گا پھر اس صورت میں مزارع اول کو پیداوار کا جو حصہ ملا ہے اس میں سے اتنا حصہ اس کے لیے جائز ہے جوتاوان میں دے چکا ہے باقی کو صدقہ کر دے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ مالک زمین نے مزارع کو صراحتاً یا دلالتاً اجازت دے دی ہے کہ وہ دوسرے کو مزارعت کے طور پر دے دے اور مالک زمین نے نصف پر اس کو دی تھی اور اس نے دوسرے کو نصف پر دے دی تو یہ دوسری مزارعت جائز ہے اور جو پیداوار ہوگی اس میں کا نصف مالک زمین لے گا اور نصف مزارع دوم لے گا مزارع اول کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اور اگر مزارع اول نے دوسرے سے یہ طے کر لیا ہے کہ آدھا مالک زمین کو ملے گا اور آدھے میں ہم دونوں برابر لیں گے یا ایک تہائی دو تہائی لیں گے تو جو کچھ طے پایا اس کے موافق تقسیم ہو۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ مالک زمین نے مزارعت پر زمین دی اور یہ کہا کہ اپنے بیج سے کاشت کرو اس نے زمین اور بیج دوسرے کو بونے کے لیے مزارعت پر دے دی یہ جائز ہے مالک زمین نے صراحتاً یا دلالتاً ایسا کرنے کی اجازت دی ہو یا نہ دی ہو دونوں کا ایک حکم ہے اب اگر پہلی مزارعت نصف پر تھی اور دوسری بھی نصف پر ہوئی تو نصف غلہ مالک زمین لے گا اور نصف مزارع دوم

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۶۶.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعة، الباب الخامس فی دفع المزارع... إلخ، ج ۵، ص ۲۵۰.

③..... المرجع السابق.

اور مزارع اول کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر دوسری مزارعت میں یہ ٹھہرا ہے کہ ایک تہائی مزارع دوم کی تو نصف مالک زمین کا اور ایک تہائی دوم کی اور چھٹا حصہ مزارع اول کا یا اس کے سوا جو صورت ملے پاگئی ہو اس کے مطابق تقسیم ہو۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ مالک زمین نے مزارع سے کہا کہ تم اپنے بیجوں سے کاشت کرو دونوں نصف نصف لیں گے اور مزارع نے دوسرے کو دے دی کہ تم اپنے بیج سے کاشت کرو اور جو کچھ پیداوار ہو اس میں دو تہائیاں تمہاری اس صورت میں مزارع دوم حسب شرط دو تہائیاں لے گا اور ایک تہائی مالک زمین لے گا اور مالک زمین مزارع اول سے تہائی زمین کی اجرت (لگان) لے گا اور اگر بیج مزارع اول ہی نے دیے مگر مزارع دوم کے لیے پیداوار کی دو تہائیاں دینا ملے پایا اس صورت میں بھی وہی حکم ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ کاشت کے لیے دوسرے کو زمین دی اور یہ ٹھہرا کہ بیج دونوں کے ہوں گے اور بیل کاشتکار کے ہوں گے اور پیداوار دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو جائے گی کاشتکار نے ایک دوسرے شخص کو اپنے حصہ میں شریک کر لیا کہ یہ بھی اس کے ساتھ کام کرے گا اس صورت میں مزارعت اور شرکت دونوں فاسد ہیں۔ جتنے جتنے دونوں کے بیج ہوں اسی حساب سے غلہ دونوں میں تقسیم ہوگا اور مالک زمین مزارع اول سے نصف زمین کی اجرت مثل لے گا اور یہ دوسرا شخص بھی مزارع اول سے اپنے کام کی اجرت مثل لے گا۔ اور مزارع اول اپنے بیج کی قدر اور جو کچھ زمین کی اجرت اور کام کی اجرت دے چکا ہے ان کی قیمت کا غلہ رکھ لے باقی کو صدقہ کر دے۔⁽³⁾ (عالمگیری) اور اگر کاشتکار نے دوسرے کو شریک نہ کیا ہو جب بھی فاسد ہے اور وہی احکام ہیں جو مذکور ہوئے۔⁽⁴⁾ (رد المحتار، رد المحتار)

مزارعت فسخ ہونے کی صورتیں

مسئلہ ۲۶ جن دو شخصوں کے مابین مزارعت ہوئی ان میں کسی کے مرجانے سے مزارعت فسخ ہو جائے گی جیسا کہ اجارہ کا حکم تھا پھر اگر مثلاً تین سال کے لیے مزارعت پر زمین دی تھی اور پہلے سال میں کھیت بونے اور اوگنے کے بعد مالک زمین مر گیا اور کھیت ابھی کاٹنے کے قابل نہیں ہو تو زمین مزارع کے پاس اس وقت تک چھوڑ دی جائے گی کہ فصل طیار ہو جائے اس صورت میں پیداوار حسب قرار تقسیم ہوگی اور دوسرے تیسرے سال کے حق میں مزارعت فسخ ہو جائے گی۔⁽⁵⁾ (ہدایہ)

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الخامس فی دفع المزارع... الخ، ج ۵، ص ۲۵۱.

②.....المرجع السابق. ③.....المرجع السابق.

④....."الدر المختار" و"رد المحتار"، کتاب المزارعۃ، ج ۹، ص ۴۶۸.

⑤....."الہدایۃ"، کتاب المزارعۃ، ج ۲، ص ۳۴۰.

مسئلہ ۲۷ مزارع نے کھیت جو ت کر طیار کیا مینڈھ (1) بھی درست کر لی نالیاں بھی بنالیں مگر ابھی بو یا نہیں ہے کہ

مالک زمین مر گیا تو مزارعت فسخ ہوگئی اور مزارع نے جو کچھ کام کیا ہے اس صورت میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں۔ (2) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۸ کھیت بودیا گیا اور ابھی اوگا نہیں کہ مالک زمین مر گیا اس صورت میں مزارعت فسخ ہوگی یا باقی رہے گی

اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ (3) (عالمگیری) جو مشائخ یہ کہتے ہیں کہ مزارعت فسخ نہیں ہوگی اون کا قول بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مزارع کو نقصان سے بچانا ہے جب کہ بیج مزارع کے ہوں۔

مسئلہ ۲۹ مزارع نے کھیت بونے میں دیر کی کہ مدت ختم ہوگئی اور ابھی زراعت کچی ہے کٹنے کے قابل نہیں ہوئی

مالک زمین کہتا ہے کچی کھیتی کاٹ لی جائے اور مزارع انکار کرتا ہے مالک زمین کو کھیت کاٹنے سے روکا جائے گا اور چونکہ آدھی

زراعت مزارع کی ہے کھیت طیار ہونے تک دونوں کے مابین ایک جدید اجارہ قرار دیا جائے گا لہذا اتنے دنوں کی جو کچھ اجرت

اس زمین کی ہو اس کا نصف مزارع مالک زمین کو دے گا۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ فصل طیار ہونے سے پہلے مزارع مر گیا اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ ہم اس کھیت کا کام کریں گے ان کو یہ

حق دیا جائے گا کہ یہ لوگ مزارع کے قائم مقام ہیں اس صورت میں کام کی ان کو کچھ اجرت نہیں ملے گی بلکہ پیداوار کا حصہ ملے

گا اور اگر یہ لوگ زراعت کے کام سے انکار کرتے ہیں تو ان کو مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ مالک زمین کو اختیار ہے کہ کچی کھیتی کاٹ

کر آدھی ان کو دے دے اور آدھی خود لے لے یا ان کے حصہ کی قیمت دے کر زراعت لے لے یا ان کے حصہ پر بھی خرچ

کرے اور جو کچھ ان کے حصہ پر صرف ہو (5) وہ ان کے حصہ کی پیداوار سے وصول کرے۔ (6) (ہدایہ)

مسئلہ ۳۱ کھیت بونے کے بعد مزارع غائب ہو گیا معلوم نہیں کہاں ہے مالک زمین نے قاضی سے حکم حاصل کر

کے زراعت پر صرف کیا کھیت جب طیار ہو گیا مزارع آیا اور اپنا حصہ مانگتا ہے تو جو کچھ صرفہ ہوا ہے جب تک سب نہ دے دے

اپنا حصہ لینے کا حقدار نہیں اور اگر بغیر حکم قاضی مالک زمین نے صرف کیا تو مُتَمَرِّع ہے (7) وصول نہیں کر سکتا اور قاضی حکم اس وقت

①..... منڈیر، ہیرا، کنارہ۔

②..... "الهدایة"، کتاب المزارعة، ج ۲، ص ۳۴۰۔

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المزارعة، الباب التاسع فیما اذا مات رب الأرض... إلخ، ج ۹، ص ۲۵۴۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... خرچ ہو۔

⑥..... "الهدایة"، کتاب المزارعة، ج ۲، ص ۳۴۱۔

⑦..... احسان کرنے والا ہے۔

دے گا جب مالکِ زمین گواہوں سے یہ ثابت کر دے کہ زمین میری ہے مزارعت پر فلاں کو دے دی ہے وہ کھیت بو کر غائب ہو گیا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ فصل طیار ہونے کے بعد مزارع مر گیا مالکِ زمین یہ دیکھتا ہے کہ کھیت میں زراعت موجود نہیں ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کیا ہوئی تو اپنے حصہ کا تاوان اس کے ترکہ سے وصول کرے گا اگرچہ ورثہ کہتے ہوں کہ زراعت چوری ہو گئی۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ مالکِ زمین پر دین ہے اور سوا اس زمین کے جس کو مزارعت پر دے چکا ہے کوئی مال نہیں ہے جس سے دین ادا کیا جائے اگر ابھی فقط عقد مزارعت ہی ہوا ہے کاشتکار نے کھیت بو یا نہیں ہے تو زمین دین کی ادا کے لیے بیع کر دی جائے اور مزارعت فسخ کر دی جائے اور اگر کھیت بو یا جا چکا ہے مگر ابھی اوگا نہیں ہے جب بھی بیع ہو سکتی ہے اور دیانت کا حکم یہ ہے کہ مزارع کو کچھ دے کر راضی کر لیا جائے اور زراعت اوگ چکی ہے مگر ابھی طیار نہیں ہوئی ہے تو بغیر اجازت مزارع نہیں بیچی جاسکتی وہ اگر اجازت دے دے تو اب بیچنا جائز ہے۔ اور اس میں دو صورتیں ہیں صرف زمین کی بیع ہو یا زمین و زراعت دونوں کی ہو اگر دونوں کی بیع ہو اور مزارع نے اجازت دے دی تو دونوں میں بیع نافذ ہوگی اور اس صورت میں ثمن کو قیمت زمین اور قیمت زراعت پر تقسیم کریں جو حصہ زمین کے مقابل میں ہو وہ مالکِ زمین کا ہے اور جو حصہ زراعت کے مقابل میں ہے دونوں پر حسب قرار داد تقسیم کیا جائے۔ اور اگر مزارع نے اجازت نہیں دی تو مشتری کو اختیار ہے کہ بیع کو فسخ کر دے یا زراعت طیار ہونے کا انتظار کرے۔ اور اگر صرف زمین کی بیع ہوئی ہے اور مزارع نے اجازت دے دی تو زمین مشتری کی ہے اور زراعت بائع و مزارع کی ہے۔ اور اگر مزارع نے اجازت نہیں دی تو مشتری کو اختیار ہے کہ بیع فسخ کر دے یا انتظار کرے اور اگر مالکِ زمین نے زمین اور زراعت کا اپنا حصہ بیع کیا تو اس میں بھی وہی دو صورتیں ہیں۔ اور مزارع یہ چاہے کہ بیع کو فسخ کر دے یہ حق اسے حاصل نہیں۔⁽³⁾ (ہدایہ، درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ فصل طیار ہونے کے بعد دین ادا کرنے کے لیے زمین بیچی گئی اگر صرف زمین کی بیع ہوئی تو بلا توقف جائز ہے اور اگر زمین اور پوری زراعت بیع کر دی تو زمین اور زراعت کے اس حصہ میں جو مالکِ زمین کا ہے بیع جائز ہے اور

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعة، الباب التاسع فیما اذا مات رب الأرض... إلخ، ج ۵، ص ۲۵۴.

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعة، الباب الثالث عشر فیما اذا مات المزارع... إلخ، ج ۵، ص ۲۶۱.

③..... "الہدایہ"، کتاب المزارعة، ج ۲، ص ۳۴۰.

و "الدر المختار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۶۶-۴۶۷.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعة، الباب الحادی عشر فی بیع الأرض... إلخ، ج ۵، ص ۲۵۹.

مزارع کے حصہ میں اس کی اجازت پر موقوف ہے اور فرض کرو مزارع نے اجازت نہیں دی اور مشتری کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ زمین مزارعت پر ہے تو مشتری کو اختیار حاصل ہے کہ صرف بائع کے حصہ پر قناعت کرے اور حصہ مزارع کے مقابل میں ٹمن کا جو حصہ ہو وہ کم کر دے اور چاہے تو بیع فسخ کر دے کہ اس نے پوری زراعت خریدی تھی فقط اتنا ہی حصہ اسے خریدنا مقصود نہ تھا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ — کھیت میں بیج ڈال دیے گئے اور ابھی اوگے نہیں کھیت کو بیع کر دیا اگر وہ بیج سڑ گئے ہیں⁽²⁾ تو مشتری کے ہیں اور اگر سڑے نہیں ہیں تو یہ بیج بائع کے ہیں اور فرض کرو مشتری نے پانی دیا بیج اوگے غلہ پیدا ہوا تو یہ سب بائع ہی کا ہے مشتری کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا کہ اس نے جو کچھ کیا تبرع⁽³⁾ ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ — مدیون دین کی وجہ سے قید کیا گیا اور اس کے پاس یہی زمین ہے جو مزارعت پر اٹھا چکا ہے اور زمین میں کچی زراعت ہے جس کی وجہ سے بیع نہیں کی جاسکتی کہ بیج کر دین ادا کیا جاتا تو اسے قید خانہ سے رہا کیا جائے گا کہ دین کی ادائیگی میں جو کچھ دیر ہوگی وہ عذر سے ہے۔⁽⁵⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۳۷ — مزارع ایسا بیمار ہو گیا کہ کام نہیں کر سکتا یا سفر میں جانا چاہتا ہے یا وہ اس پیشہ زراعت ہی کو چھوڑنا چاہتا ہے ان صورتوں میں مزارعت فسخ کر دی جائے گی یا مزارع یہ کہتا ہے کہ میں دوسری زمین کی کاشت کروں گا اور بیج اسی کے ہیں تو چھوڑ سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ — مدت پوری ہوگئی اور ابھی فصل طیار نہیں ہے تو مدت کے بعد جتنوں دنوں تک زراعت طیار نہ ہوگی اوتنے دنوں کی مزارع کے ذمہ نصف زمین کی اجرت مثل واجب ہے اور مدت کے بعد زراعت پر جو کچھ صرف ہوگا وہ دونوں کے ذمہ ہوگا کیونکہ عقد مزارعت ختم ہو چکا اب یہ زراعت دونوں کی مشترک چیز ہے لہذا خرچ بھی دونوں کے ذمہ مگر یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ایک خرچ کرے وہ دوسرے کی اجازت سے ہو یا حکم قاضی سے بغیر اس کے جو کچھ خرچ کیا متبرع ہے اس کا معاوضہ نہیں ملے گا۔⁽⁷⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۳۹ — مدت ختم ہوگئی مالک زمین یہ چاہتا ہے کہ یہی کچی کھیتی کاٹ لی جائے یہ نہیں کیا جاسکتا اور اگر مزارع کچی

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعۃ، الباب الحادی عشر فی بیع الأرض... إلخ، ج ۵، ص ۲۵۹.

②..... یعنی ثابت نہیں رہے۔ ③..... احسان۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعۃ، الباب الحادی عشر فی بیع الأرض... إلخ، ج ۵، ص ۲۶۰.

⑤..... "الہدایہ"، کتاب المزارعۃ، ج ۲، ص ۳۴۰، ۳۴۱.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعۃ، الباب الثانی عشر فی العذر... إلخ، ج ۵، ص ۲۶۰.

⑦..... "الہدایہ"، کتاب المزارعۃ، ج ۲، ص ۳۴۱.

کاٹنا چاہتا ہے تو مالکِ زمین کو اختیار دیا جائے گا کہ کچا کھیت کاٹ کر دونوں بانٹ لیں یا مزارع کے حصہ کی قیمت دے کر کل زراعت لے لے یا کھیت پر اپنے پاس سے صرف کرے اور طیار ہونے پر اس کے حصہ سے وصول کرے۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۳۰ دو شخصوں کی مشترک زمین ہے ایک غائب ہے تو جو موجود ہے وہ پوری زمین میں کاشت کر سکتا ہے جب شریک آجائے تو جتنے دنوں تک اس کی کاشت میں رہی اب یہ اوتنے دنوں کاشت میں رکھے یہ اس صورت میں ہے کہ زراعت سے زمین کو نقصان نہ پہنچے اس کی قوت کم نہ ہو اور اگر معلوم ہے کہ زراعت سے زمین کمزور ہو جائے گی یا زراعت نہ کرنے میں زمین کو نفع پہنچے گا، اس کی قوت زیادہ ہوگی تو شریک موجود کو زراعت کی اجازت نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ دوسرے کی زمین میں بغیر اجازت کاشت کی اور مالک کو اس وقت خبر ہوئی جب فصل طیار ہوئی اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی یا یہ ہوا کہ پہلے ناراض ہوا پھر رضامندی دے دی دونوں صورتوں میں کاشتکار کے لیے پیداوار حلال ہوگی۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ ایک شخص نے دوسرے کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا اور مزارعت پر اٹھادی⁽⁴⁾ مزارع⁽⁵⁾ نے اپنے بیج بوئے اور ابھی اوگے نہیں تھے کہ مالکِ زمین نے اجازت دے دی تو اجازت ہوگئی اور جو کچھ پیداوار ہوگی وہ مالکِ زمین اور مزارع کے مابین اس طرح تقسیم ہوگی جو غاصب نے طے کی تھی۔ اور اگر کھیتی اوگ آئی ہے اور ایسی ہوگئی ہے کہ اس کی کچھ قیمت ہو اور اب مالکِ زمین نے اجازت دی تو مزارعت جائز ہوگئی یعنی مالکِ زمین اس کے بعد ناجائز کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور اجازت سے پہلے اپنا کھیت خالی کر سکتا تھا مزارعت کے جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پیداوار میں اسے حصہ ملے گا بلکہ اس صورت میں جو کچھ پیداوار ہوگی وہ مزارع و غاصب کے مابین تقسیم ہوگی۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ بیج غصب کر کے اپنی زمین میں بودیے تو جب تک اوگے نہ ہوں مالکِ اجازت دے سکتا ہے کہ ابھی بیج موجود ہیں اور اوگنے کے بعد اجازت نہیں ہو سکتی کہ بیج موجود نہیں۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ مالکِ زمین نے اپنی زمین رہن رکھی پھر وہ زمین مرتہن کو مزارعت پر دے دی کہ مرتہن اپنے بیج

①..... "الهدایة"، کتاب المزارعة، ج ۲، ص ۳۴۱.

②..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المزارعة، الباب العاشرفی زراعة... إلخ، ج ۵، ص ۲۵۵.

③..... المرجع السابق، ص ۲۵۶.

④..... مزارعت پر دے دی۔

⑤..... کاشتکار۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المزارعة، الباب العاشرفی زراعة... إلخ، ج ۵، ص ۲۵۷.

⑦..... المرجع السابق، ص ۲۵۸.

سے کاشت کرے گا یہ مزارعت صحیح ہے مگر زمین رہن سے خارج ہوگئی جب تک پھر سے رہن نہ رکھی جائے رہن میں نہیں آئے گی۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ — زمین کسی کے پاس رہن ہے اس کو بطور مزارعت کوئی شخص لینا چاہتا ہے تو رہن سے لے سکتا ہے جبکہ مرتہن بھی اس کی اجازت دے دے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ — زراعت طیار ہونے سے پہلے جو کچھ کام ہوگا مثلاً کھیت جو تنا، بونا، پانی دینا، حفاظت کرنا وغیرہ یہ سب مزارع کے ذمہ ہے چاہے وہ خود کرے یا مزدوروں سے کرائے اور دوسری صورت میں⁽³⁾ مزدوری اوسی کے ذمہ ہوگی۔ اور جو کام زراعت طیار ہونے کے بعد کے ہیں مثلاً کھیت کا ثنا او سے لا کر خورْ مَن میں جمع کرنا دائیں چلانا بھوسا اوڑانا وغیرہ اس کے متعلق ظاہر الروایۃ یہ ہے کہ دونوں کے ذمہ ہیں کیونکہ مزارع کا کام فصل طیار ہونے پر ختم ہو گیا مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ کام بھی مزارع کے ذمہ ہیں اور بعض مشائخ نے اسی کو اختیار فرمایا کہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ اور جو کام تقسیم کے بعد ہے مثلاً غلہ مکان پر پہنچانا یہ بالاتفاق دونوں کے ذمہ ہے مزارع اپنا غلہ خود لے جائے اور مالک اپنا غلہ اپنے گھر لائے یا دونوں اپنے اپنے مزدوروں سے اٹھوالے جائیں۔⁽⁴⁾ (ہدایہ) قسم دوم یعنی فصل تیار ہونے کے بعد جو کام ہیں ان کے متعلق مزارع کے کرنے کی شرط کر لی تو یہ شرط صحیح ہے اس کی وجہ سے مزارعت فاسد نہیں ہوگی تنویر میں اس قول کو اصح کہا اور درمختار میں ملتقی سے اسی پر فتویٰ ہونا بتایا۔⁽⁵⁾ مگر ہندوستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فصل طیار ہونے کے بعد مزدوروں سے کام کراتے ہیں اور مزدوری اسی غلہ میں سے دی جاتی ہے یعنی کھیت کاٹنے والے اور دائیں چلانے والے وغیرہ کو جو کچھ مزدوری دی جاتی ہے وہ کوئی اپنے پاس سے نہیں دیتا بلکہ اسی غلہ کی کچھ مقدار مزدوری میں دی جاتی ہے یہ طریقہ کہ جس کام کو کیا اوسی میں سے مزدوری دی جائے اگر چہ ناجائز ہے جس کو ہم اجارہ میں بیان کر چکے ہیں مگر اس سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ فصل کی طیاری کے بعد جو کام کیا جائے گا یہاں کے عرف کے مطابق وہ تہا مزارع کے ذمہ نہیں ہے بلکہ دونوں کے ذمہ ہے کیونکہ مزدوری میں دونوں کی مشترک چیز دی جاتی ہے۔

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الخامس عشر فی الرهن... إلخ، ج ۵، ص ۲۶۴.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المزارعۃ، الباب الرابع والعشرون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۷۳.

③..... یعنی مزدوروں سے کروانے کی صورت میں۔

④..... "الہدایۃ"، کتاب المزارعۃ، ج ۲، ص ۳۴۱، ۳۴۲.

⑤..... "الدر المختار"، کتاب المزارعۃ، ج ۹، ص ۴۷۱.

مسئلہ ۳۷ فصل طیار ہونے کے بعد کے جو کام ہیں اگر مالک زمین کے ذمہ شرط کیے گئے یہ بالاتفاق فاسد ہے کہ اس کے متعلق عرف بھی ایسا نہیں جس کی وجہ سے جائز کہا جائے۔^(۱) (ہدایہ)

مسئلہ ۳۸ مزارعت میں جو کچھ غلہ ہے یہ مزارع کے پاس امانت ہے اگرچہ وہ مزارعت فاسدہ ہو لہذا اگر مزارع کے پاس ہلاک ہو جائے مگر اُس کے فعل سے ہلاک نہ ہو تو مزارع کے ذمہ اس کا تاوان نہیں۔ اور اس غلہ کی مزارع کی طرف سے کسی نے کفالت بھی کی یہ کفالت صحیح نہیں اس کفیل سے مطالبہ نہیں کیا جاسکتا ہاں اگر مالک زمین کے حصہ کی مزارع کی طرف سے کسی نے یوں کفالت کی کہ اگر مزارع خود ہلاک کر دے گا تو میں ضامن ہوں اور یہ کفالت مزارعت کے لیے شرط نہ ہو تو مزارعت بھی جائز ہے اور کفالت بھی اور اگر کفالت شرط ہو تو مزارعت فاسد۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۳۹ مزارع نے کھیت کو پانی دینے میں کوتاہی کی جس کی وجہ سے زراعت برباد ہو گئی اگر یہ مزارعت فاسدہ ہے تو مزارع پر تاوان نہیں کہ اس میں مزارع پر کام کرنا واجب نہیں اور اگر مزارعت صحیح ہے تو تاوان واجب ہے کہ اس میں کام کرنا واجب تھا۔ ضمان کی صورت یہ ہوگی کہ زراعت اوگی تھی اور پانی نہ دینے سے خشک ہو گئی تو اس زراعت کی جو قیمت ہو اس کا نصف بطور تاوان مالک زمین کو دے اور قیمت نہ ہو تو خالی کھیت کی قیمت اور اس بوائے ہوئے کھیت میں جو تفاوت ہو اس کا نصف تاوان دلایا جائے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۵۰ کاشتکار نے پانی دینے میں تاخیر کی اگر اتنی تاخیر ہے کہ کاشتکاروں کے یہاں اتنی تاخیر ہو کر تھی ہے جب تو تاوان نہیں اور غیر معمولی تاخیر کی تو تاوان ہے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۵۱ فصل کاشنا کاشتکار کے ذمہ شرط تھا اس نے کاٹنے میں دیر کی اور فصل ضائع ہو گئی اگر معمولی تاخیر ہے تو کچھ نہیں اور غیر معمولی دیر کی تو تاوان واجب۔ یوہیں اگر کاشتکار نے حفاظت نہیں کی جانوروں نے کھیت چر لیا کاشتکار کو تاوان دینا ہوگا۔ ٹڈیاں کھیت میں گریں اگر اڑانے پر قدرت تھی اور نہ اوڑائیں اور ٹڈیاں کھیت کھا گئیں تاوان ہے اور اگر اس کے بس کی بات نہ تھی تو تاوان واجب نہیں۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۵۲ دو شخصوں نے شرکت میں کھیت بویا تھا ایک شریک اس میں پانی دینے سے انکار کرتا ہے یہ معاملہ حاکم کے

①..... "الهدایة"، کتاب المزارعة، ج ۲، ص ۳۴۲.

②..... "الدر المختار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۷۱.

③..... المرجع السابق. ④..... المرجع السابق، ص ۴۷۲. ⑤..... المرجع السابق.

پاس پیش کیا جائے اوس کے حکم دینے کے بعد بھی اگر اس نے پانی نہیں دیا اور فصل ماری گئی تو اس پر تاوان ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۳ → مزارعت میں بیج مزارع کے ذمہ تھے مگر مالک زمین نے خود اس کھیت کو بویا اگر اس سے مقصود مزارع کی مدد کرنا ہے جب تو مزارعت باقی رہے گی اور یہ مقصود نہ ہو تو مزارعت جاتی رہی۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۴ → کسی سے اجارہ پر زمین لی مثلاً زمیندار سے بونے کے لیے کھیت لیا پھر اوس مالک زمین کو اوس میں کام کرنے کے لیے اجیر رکھا یہ جائز ہے اجرت پر کام کرنے سے زمین کے اجارہ میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۵۵ → ایک شخص مر گیا اور اوس نے بی بی اور نابالغ اور بالغ اولادیں چھوڑیں یہ سب چھوٹے بڑے ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہ عورت سب کی نگہداشت کرتی ہے بڑے لڑکوں نے زمین مشترک یا دوسرے سے زمین لے کر اوس میں کاشت کی اور جو کچھ غلہ پیدا ہوا مکان پر لائے اور یکجائی طور پر سب کے خرچ میں آیا جیسا کہ عموماً دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ غلہ آیا مشترک قرار پائے گا یا صرف بڑے لڑکوں کا ہوگا جنہوں نے کاشت کی اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مشترک بیج بوئے گئے ہیں اور سب کی اجازت سے بوئے ہیں یعنی جو اون میں بالغ ہیں اون سے اجازت حاصل کر لی ہے اور جو نابالغ ہیں اون کے وصی سے اجازت لے لی ہے تو پیداوار مشترک ہے اور اگر بڑوں نے خود اپنے بیج سے کاشت کی ہے یا مشترک سے کی ہے مگر اجازت نہیں لی ہے تو غلہ ان کاشت کرنے والوں کا ہے دوسرے اس میں شریک نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مُعَامَلَهُ يَأْ مُسَاقَاةَ كَا بِيَان

باغ یا درخت کسی کو اس لیے دینا کہ اوس کی خدمت کرے اور جو کچھ اوس سے پیداوار ہوگی اوس کا ایک حصہ کام کرنے والے کو اور ایک حصہ مالک کو دیا جائے گا اس کو مساقاة کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام معاملہ بھی ہے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد وہاں کے باغات یہودیوں کو دے دیے تھے کہ اون باغات کے کام کریں اور جو کچھ پھل ہوں گے اون میں سے نصف اون کو دیے جائیں گے۔⁽⁵⁾ جس طرح مزارعت جائز ہے معاملہ بھی جائز ہے اور اس کے جواز

①....."الدرالمختار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۷۲.

②.....المرجع السابق، ص ۴۷۳. ③.....المرجع السابق، ص ۴۷۳.

④....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المزارعة، الباب الرابع والعشرون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۷۴.

و"ردالمحتار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۷۴.

⑤....."الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب المزارعة، ج ۹، ص ۴۷۶.

کے شرائط یہ ہیں۔ (۱) عاقدین کا عاقل ہونا (۲) جو پیداوار ہو وہ دونوں میں مشترک ہو اور اگر فقط ایک کے لیے پیداوار مخصوص کر دی گئی تو عقد فاسد ہے (۳) ہر ایک کا حصہ مشاع ہو جس کی مقدار معلوم ہو مثلاً نصف یا تہائی یا چوتھائی۔ (۴) باغ یا درخت عامل کو سپرد کر دینا یعنی مالک کا قبضہ اوس پر نہ رہے۔ اور اگر یہ قرار پایا کہ مالک بھی اوس میں کام کرے گا تو معاملہ فاسد ہے۔ (۵) جو درخت مساقاة کے طور پر دیے گئے وہ ایسے ہوں کہ عامل کے کام کرنے سے اوس میں زیادتی ہو سکے یعنی اگر پھل پورے ہو چکے جتنا بڑھنا تھا بڑھ چکے صرف پکنا ہی باقی رہ گیا ہے تو یہ عقد صحیح نہیں۔ بعض شرائط ایسے ہیں جن کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا مثلاً یہ کہ کل پیداوار ایک کو ملے گی یا پیداوار میں سے اتنا مالک یا عامل لے گا اوس کے بعد نصف نصف تقسیم ہوگی۔ عامل کے ذمہ پھل توڑنا وغیرہ جو کام پھل طیار ہونے کے بعد ہوتے ہیں شرط کر دینا یا یہ کہ تقسیم کے بعد عامل اون کی حفاظت کرے یا مالک کے مکان پر پہنچائے۔ ایسے کسی کام کی شرط کر دینا جس کی منفعت مدت معاملہ پوری ہونے کے بعد باقی رہے مثلاً پیڑوں میں کھات ڈالنا انگوروں کے لیے چھپر بنانا باغ کی زمین کھودنا یا اس میں نئے پودے لگانا وغیرہ۔

مسئلہ ۱ معاملہ اونھیں پیڑوں کا ہو سکتا ہے جو ایک سال یا زیادہ تک باقی رہ سکیں اور جو ایسے نہیں ہیں اون کا معاملہ جائز نہیں۔ بیگن اور مرچ کے درختوں میں معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدتوں باقی رہتے اور پھلتے رہتے ہیں۔ (۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ درختوں کے سوا مثلاً بکریاں یا مرغیاں کسی مدت تک کے لیے بطور معاملہ کسی کو دیں یہ ناجائز ہے۔ (۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ ایسے درخت جو پھلتے نہ ہوں اور اون کی شاخوں اور پتوں سے نفع اٹھایا جاتا ہو جیسے سینٹھے، زرکل، بید وغیرہ اگر ایسے درختوں میں پانی دینے اور حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہو تو معاملہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ (۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ مزارعت اور معاملہ میں بعض باتوں میں فرق ہے۔ معاملہ عقد لازم ہے دونوں میں سے کوئی بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتا (۴) ہر ایک کو پانپندی پر مجبور کیا جائے گا اگر مدت پوری ہوگئی اور پھل طیار نہیں ہیں تو باغ عامل ہی کے پاس رہے گا اور ان زائد دنوں کی اوسے اجرت نہیں ملے گی اور عامل کو بھی بلا اجرت اتنے دنوں کام کرنا ہوگا اور مزارعت میں مالک زمین اتنے دنوں کی اجرت لے گا اور مزارع بھی ان زائد دنوں کے کام کی اجرت لے گا۔ (۵) (درمختار، ردالمحتار)

①..... "ردالمحتار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۷۶.

②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق، ص ۴۷۷.

④..... یعنی پھر نہیں سکتا۔

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۷۷.

مسئلہ ۵ معاملہ میں مدت بیان کرنا ضرور نہیں بغیر بیان مدت بھی معاملہ صحیح ہے اور اس صورت میں پہلی مرتبہ پھل طیار ہونے پر معاملہ ختم ہوگا اور ترکاریوں میں بیج طیار ہونے پر ختم ہوگا جب کہ بیج مقصود ہوں ورنہ خود ترکاریوں کی پہلی فصل ہو جانے پر معاملہ ختم ہوگا اور اگر مدت ذکر نہیں کی گئی اور اس سال پھل پیدا ہی نہ ہوئے تو معاملہ فاسد ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ہدایہ)

مسئلہ ۶ معاملہ میں مدت ذکر ہوئی مگر معلوم ہے کہ اس مدت میں پھل نہیں پیدا ہوں گے تو معاملہ فاسد ہے اور اگر ایسی مدت ذکر کی جس میں احتمال ہے کہ پھل پیدا ہوں یا نہ ہوں تو معاملہ صحیح ہے۔ پھر اس صورت میں اگر پھل آگئے تو جو شرائط ہیں اون پر عمل ہوگا اور اگر اس مدت میں نہیں آئے بلکہ مدت پوری ہونے کے بعد پھل آئے تو معاملہ فاسد ہے اور اس صورت میں عامل کو اجرت مثل ملے گی یعنی ابتدا سے پھل طیار ہونے تک کی اجرت مثل پائے گا اور اگر اس صورت میں کہ مدت مذکور ہوئی اور یہ احتمال تھا کہ پھل آئیں گے مگر اس سال بالکل پھل نہیں آئے نہ مدت میں نہ بعد مدت تو عامل کو کچھ نہیں ملے گا کیوں کہ یہ معاملہ صحیح ہے فاسد نہیں ہے کہ اجرت مثل دلائی جائے اور اگر اس مدت معینہ میں کچھ پھل نکلے کچھ بعد میں نکلے تو جو پھل مدت کے اندر پیدا ہوئے ان میں عامل کو حصہ ملے گا بعد والوں میں نہیں۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمختار)

مسئلہ ۷ نئے پودے جو ابھی پھلنے کے قابل نہیں ہیں بطور معاملہ دیئے کہ عامل اس میں کام کرے جب پھل آئیں گے تو دونوں نصف نصف تقسیم کر لیں گے یہ معاملہ فاسد ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں کتنے دنوں میں پھل آئیں زمین موافق ہے تو جلد پھلیں گے ناموافق ہے تو دیر میں پھلیں گے ہاں اگر مدت ذکر کر دی جائے اور وہ اتنی ہو کہ اون میں پھلنے کا احتمال ہو تو معاملہ صحیح ہے۔⁽³⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۸ ترکاریوں کے درخت معاملہ کے طور پر دیئے کہ جب تک پھلتے رہیں کام کرو اور اتنا حصہ تم کو ملا کرے گا یہ معاملہ فاسد ہے یو ہیں باغ دیا اور کہہ دیا کہ جب تک یہ پھلتا رہے کام کرو اور نصف لیا کرو یہ معاملہ فاسد ہے کہ مدت نہ بیان کرنے کی صورت میں صرف پہلی فصل پر معاملہ ہوتا ہے۔⁽⁴⁾ (ہدایہ، درمختار)

①..... "الدرالمختار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۷۸.

و "الهدایة"، کتاب المساقاة، ج ۲، ص ۳۴۳.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۷۹.

③..... "الهدایة"، کتاب المساقاة، ج ۲، ص ۳۴۳.

و "الدرالمختار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۸۰.

④..... "الهدایة"، کتاب المساقاة، ج ۲، ص ۳۴۳.

و "الدرالمختار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۸۰.

مسئلہ ۹ - ترکاریوں (1) کے درخت کا معاملہ کیا اور اب ان میں سے ترکاریوں کے نکلنے کا وقت ختم ہو چکا بیچ لینے کا وقت باقی ہے جیسے میتھی، پالک، سویا (2)، وغیرہ جب اس حد کو پہنچ جائیں کہ ان سے ساگ نہیں لیا جاسکتا بیچ لیے جاسکتے ہیں اور یہ بیچ کام کے ہوں ان کی خواہش ہوتی ہو اور عامل سے کہہ دیا کہ کام کرے آدھے بیچ او سے ملیں گے یہ معاملہ صحیح ہے اگرچہ مدت نہ ذکر کی جائے اور اس صورت میں وہ پیڑ مالک کے ہوں گے صرف بیجوں کی تقسیم ہوگی اور اگر پیڑوں کی تقسیم بھی مشروط ہو تو معاملہ فاسد ہے۔ (3) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ - درختوں میں پھل آچکے ہیں ان کو معاملہ کے طور پر دینا چاہتا ہے مگر ابھی وہ پھل تیار نہیں ہیں عامل کے کام کرنے سے اون میں زیادتی ہوگی تو معاملہ صحیح ہے اور اگر پھل بالکل پورے ہو چکے ہیں اب ان کے بڑھنے کا وقت ختم ہو چکا تو معاملہ صحیح نہیں۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۱۱ - کسی کو خالی زمین دی کہ اس میں درخت لگائے پھل اور درخت دونوں نصف نصف تقسیم ہو جائیں گے یہ جائز ہے اور اگر یہ ٹھہرا ہے کہ زمین و درخت دونوں چیزیں دونوں کے مابین تقسیم ہوں گی تو یہ معاملہ ناجائز ہے اور اس صورت میں پھل اور درخت مالک زمین کے ہوں گے اور دوسرے کو پودوں کی قیمت ملے گی اور اجرت مثل۔ اور قیمت سے مراد اس روز کی قیمت ہے جس دن لگائے گئے۔ (5) (درمختار)

مسئلہ ۱۲ - کسی شخص کے باغ سے گٹھلی اوڑ کر دوسرے کی زمین میں چلی گئی اور یہاں جم گئی اور پیڑ ہو گیا جیسا کہ خود رو (6) درختوں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سے بیج آ کر جم جاتا ہے یہ درخت اس کا ہے جس کی زمین ہے اس کا نہیں ہے جس کی گٹھلی ہے کیوں کہ گٹھلی کی کوئی قیمت نہیں ہے اسی طرح شفتالو یا آم یا اسی قسم کے دوسرے پھل اگر دوسرے کی زمین میں گرے اور جم گئے یہ درخت بھی مالک زمین کے ہوں گے کہ پہلے یہ پھل سڑیں گے اور بعد جمیں گے اور جب سڑ کر اوپر کا حصہ جاتا رہا تو فقط گٹھلی باقی رہی جس کی کوئی قیمت نہیں۔ (7) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ - معاملہ صحیح کے احکام حسب ذیل ہیں۔ درختوں کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے مثلاً نالیاں ٹھیک کرنا

①..... بزیوں۔

②..... ایک خوشبودار ساگ۔

③..... "الدر المختار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۸۰۔

④..... المرجع السابق، ص ۴۸۱۔

⑤..... المرجع السابق، ص ۵۸۱-۵۸۳۔

⑥..... خود اگے ہوئے۔

⑦..... "الدر المختار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۸۴۔

درختوں کو پانی دینا اون کی حفاظت کرنا یہ سب کام عامل کے ذمہ ہیں اور جن چیزوں میں خرچ کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً زمین کو کھودنا اور اس میں کھات ڈالنا انگور کی بیلوں کے لیے چھپر بنوانا یہ بقدرِ حصص (1) دونوں کے ذمہ ہیں اسی طرح پھل توڑنا۔ جو کچھ پھل پیدا ہوں وہ حسب قرار داد دونوں تقسیم کر لیں۔ کچھ پیدا نہ ہو تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ عقد دونوں جانب سے لازم ہوتا ہے بعد عقد دونوں میں سے کسی کو بغیر عذر منع کا اختیار نہیں اور نہ بغیر دوسرے کی رضامندی کے فسخ کر سکتا ہے۔ عامل کو کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا مگر جب کہ عذر ہو۔ جو کچھ طرفین کے لیے مقرر ہوا ہے اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ عامل کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کو معاملہ کے طور پر دے دے مگر جب کہ مالک نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم اپنی رائے سے کام کرو۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ معاملہ فاسدہ کے احکام یہ ہیں۔ عامل کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، جو کچھ پیداوار ہو وہ کل مالک کی ہے اور اس پر یہ ضرور نہیں کہ اس میں کا کوئی جز صدقہ کرے، عامل کے لیے اجرت مثل واجب ہے پیداوار ہو یا نہ ہو اور اس میں وہی صاحبین (3) کا اختلاف ہے کہ پوری اجرت مثل اگرچہ مقرر سے زیادہ ہو واجب ہے یا یہ کہ مقرر شدہ سے زائد نہ ہونے پائے۔ اور اگر حصہ کی تعیین نہ ہوئی ہو تو بالاتفاق پوری اجرت مثل واجب ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ عامل اگر چور ہے اس کا چور ہونا لوگوں کو معلوم ہے اندیشہ ہے کہ پھلوں کو چورائے گا تو معاملہ کو فسخ کیا جاسکتا ہے۔ یو ہیں اگر عامل بیمار ہو گیا کہ پوری طرح کام نہ کر سکے گا معاملہ فسخ کیا جاسکتا ہے۔ دونوں میں سے ایک کے مرجانے سے معاملہ خود ہی فسخ ہو جاتا ہے اور اسی طرح مدت کا پورا ہونا بھی سبب فسخ ہے جبکہ ان دونوں صورتوں میں پھل طیار نہ ہوئے ہوں۔ (5) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ مرنے کی صورت میں اگرچہ معاملہ فسخ ہو جاتا ہے مگر دفع ضرر کے لیے عقد کو پھل طیار ہونے تک باقی رکھا جائے گا لہذا عامل کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اگر یہ چاہیں کہ پھل طیار ہونے تک ہم کام کریں گے تو ان کو ایسا موقع دیا جائے گا اگرچہ مالک زمین ان کو دینے سے انکار کرتا ہو۔ اور اگر ورثہ کام کرنا نہ چاہتے ہوں کہتے ہوں کہ کچے ہی پھل توڑ کر تقسیم کر دیے جائیں تو اون کو کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ اس صورت میں مالک کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ بھی اگر یہی چاہتا

①..... اپنے حصوں کے مقدار۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المعاملۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۷۷۔

③..... یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المعاملۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۷۸۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب المساقاة، ج ۹، ص ۴۸۴، ۴۸۶۔

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب المعاملۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۷۸۔

ہو تو توڑ کر تقسیم کر لیں یا ورثہء عامل کو اون کے حصہ کی قیمت دے دے یا خود اپنے صرفہ سے کام کرائے اور طیار ہونے کے بعد صرفہ (1) اون کے حصہ سے منہا (2) کر کے باقی پھل اون کو دے دے۔ (3) (ہدایہ، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ دو شخص باغ میں شریک ہیں ایک نے دوسرے کو بطور معاملہ دے دیا یہ معاملہ فاسد ہے جب کہ عامل کو نصف سے زیادہ دینا قرار پایا اور اس صورت میں دونوں نصف نصف تقسیم کر لیں اور اگر یہ شرط ٹھہری ہے کہ دونوں نصف نصف لیں گے تو معاملہ جائز ہے۔ (4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ دو شخصوں کو معاملہ پر دیا اور یہ ٹھہرا کہ تینوں ایک ایک تہائی لیں گے یہ جائز ہے اور اگر یہ ٹھہرا کہ مالک ایک تہائی لے گا اور ایک عامل نصف لے گا اور دوسرا عامل چھٹا حصہ لے گا یہ بھی جائز ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ دو شخصوں کا باغ ہے اسے معاملہ پر دیا یوں کہ نصف عامل لے گا اور نصف میں وہ دونوں، (6) یہ جائز ہے اور اگر یہ شرط ہوئی کہ نصف ایک حصہ دار لے گا اور دوسرے نصف میں عامل اور دوسرا حصہ دار دونوں شریک ہوں گے یہ ناجائز ہے۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ کاشتکار نے بغیر اجازت زمیندار پیڑ لگا دیا جب درخت بڑا ہو گیا تو زمیندار کہتا ہے میرا ہے اور کاشتکار کہتا ہے میرا ہے اگر زمیندار نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ کاشتکار ہی نے لگایا ہے اور پودہ بھی اسی کا تھا تو کاشتکار کو ملے گا مگر دیانہ اوس کے لیے یہ درخت جائز نہیں کیوں کہ بغیر اجازت لگایا ہے اور اگر اجازت لے کر لگاتا اور مالک زمین شرکت کی بھی شرط نہ کرتا تو کاشتکار کے لیے دیانہ بھی جائز ہوتا۔ (8) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ گاؤں کے بچوں کو معلم پڑھاتا ہے گاؤں کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میاں جی کے لیے کھیت بودیا جائے تھوڑے تھوڑے بیج سب نے دیے اور میاں جی کے لیے کھیت بودیا گیا تو جو کچھ پیداوار ہوئی وہ اون کی ملک ہے جنھوں نے بیج دیے ہیں معلم کی ملک نہیں کیوں کہ بیج انھوں نے معلم کو دیا نہیں تھا کہ معلم مالک ہو جاتا ہاں اب اگر پیداوار معلم

①..... خرچہ۔

②..... کٹوتی۔

③..... "الهدایة"، کتاب المساقاة، ج ۲، ص ۳۴۵۔

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب المساقاة، مطلب: یشرط فی المناصبہ... إلخ، ج ۹، ص ۴۸۴۔

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب المساقاة، مطلب: یشرط فی المناصبہ... إلخ، ج ۹، ص ۴۸۷۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المعاملہ، الباب الثانی فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۷۸۔

⑥..... یعنی نصف میں وہ دونوں شریک ہوں گے۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب المعاملہ، الباب الثانی فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۷۹۔

⑧..... المرجع السابق، ص ۲۸۱۔

کو دے دیں تو معلم مالک ہو جائے گا۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ - خربزہ یا تربز کی پالیز^(۲) مالک نے پھل توڑنے کے بعد چھوڑ دی اگر چھوڑنے کا یہ مقصد ہے کہ جس کا جی

چاہے وہ باقی پھلوں کو لے جائے تو لوگوں کو اوس کے پھل لینا جائز ہے جیسا کہ عموماً آخر فصل میں ایسا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کھیت کٹنے کے بعد جو کچھ بالیں یا دانے گرتے ہیں اگر مالک نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیے تو لینا جائز ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - عامل پر لازم ہے کہ اپنے کو حرام سے بچائے مثلاً باغ کے درخت خشک ہو گئے تو ان کا جلانا عامل کے لیے

جائز نہیں۔ یوہیں سوکھی شاخیں توڑ کر ان سے کھانا پکانا جائز نہیں یوہیں چھپر ٹھنڈیاں^(۴) اور اس کے بانس پھونس کو جلانا جائز نہیں۔ یوہیں مہمان یا ملاقاتی آجائے تو پھلوں سے اوس کی تواضع جائز نہیں ان سب میں مالک کی اجازت درکار ہے۔^(۵) (عالمگیری)

ذبح کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ النَّبِيَّةُ وَالذَّمُّ وَلَحْمُ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فُسْقٌ ۖ ﴾^(۶)

”تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سوڑ کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے اور دب کر مر اہو یعنی بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مر اہو اور جس کو کسی جانور نے سینگ مارا ہوا اور جس کو درندہ نے کچھ کھا لیا ہو مگر وہ جنھیں تم ذبح کر لو اور جو کسی تھان^(۷) پر ذبح کیا گیا ہو اور تیروں سے تقدیر کو معلوم کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔“

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المعاملۃ، الباب الثانی فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۸۲.

②..... خربوزہ یا تربوز کی فصل۔

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المعاملۃ، الباب الثانی فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۸۲، ۲۸۳.

④..... وہ لکڑی جو چھپر کے نیچے سہارا دینے کے لیے لگاتے ہیں۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب المعاملۃ، الباب الثانی فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۸۳.

⑥..... پ ۶، المائدہ: ۳.

⑦..... امام ابن جریر طبری نے ابن جریج اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما سے نقل کیا ہے کہ نضب (تھان) وہ پتھر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کعبہ کے ارد گرد مشرکین نے نصب کر رکھے تھے ان کی تعداد تین سو ساٹھ تھی، اہل عرب ان کے سامنے جانور ذبح کرتے اور بیت اللہ سے متصل بتوں پر ان کا خون چھڑکتے اور گوشت کاٹ کر ان بتوں پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ (تفسیر طبری، پ ۶، المائدہ تحت الآیۃ: ۳، ج ۴، ص ۴۱۴) اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں: "اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد تین سو ساٹھ پتھر (بت) نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے۔"

(خزائن العرفان، پ ۶، المائدہ تحت الآیۃ: ۳، حاشیہ ۱۳)

اور فرماتا ہے:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَّهُمْ ۗ﴾ (1)

”آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا (ذبیحہ) تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان

کے لیے حلال ہے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۖ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ

فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ﴾ (2)

”کھاؤ اوس میں سے جس پر اللہ (عزوجل) کا نام لیا گیا اگر تم اوس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں کیا ہوا کہ اوس میں سے

نہ کھاؤ جس پر اللہ (عزوجل) کا نام لیا گیا۔ اور اوس نے تو مفصل (3) بیان کر دیا جو کچھ تم پر حرام ہے مگر جب تم اوس کی طرف مجبور ہو۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ﴾ (4)

”اور اوس سے نہ کھاؤ جس پر اللہ (عزوجل) کا نام نہیں لیا گیا اور وہ بے شک حکم عدولی ہے۔“

حدیث ۱ صحیح مسلم میں ہے حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے آپ لوگوں کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو عام لوگوں کو نہ بتائی ہو فرمایا کہ نہیں مگر صرف وہ باتیں جو میری تلوار کی میان (5) میں

ہیں پھر میان میں سے ایک پر چہ نکالا جس میں یہ تھا اللہ کی لعنت اوس پر جو غیر خدا کے نام پر ذبح کرے اور اللہ کی لعنت اوس پر جو زمین

کی مینڈھ (6) بدل دے (جیسا کہ بعض کا شکار کرتے ہیں کہ کھیت کی مینڈھ جگہ سے ہٹا دیتے ہیں) اور اللہ کی لعنت اوس پر جو اپنے

باپ پر لعنت کرے۔ اور اللہ کی لعنت اوس پر جو بد مذہب کو پناہ دے۔ (7)

①..... پ ۶، المائدہ: ۵.

②..... پ ۸، الأنعام: ۱۱۸-۱۱۹.

③..... یعنی تفصیل کے ساتھ۔

④..... پ ۸، الأنعام: ۱۲۱.

⑤..... نیام۔ ⑥..... زمین کی حد بندی کا نشان۔

⑦..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأضاحی، باب تحریم الذبح لغير اللہ تعالیٰ... إلخ، الحدیث: ۴۵۔ (۱۹۷۸) ص ۱۰۹۳.

حدیث ۲ صحیح بخاری و مسلم میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہمیں کل دشمن سے لڑنا ہے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے کیا ہم کھپچھی (1) سے ذبح کر سکتے ہیں فرمایا: ”جو چیز خون بہا دے اور اللہ (عزوجل) کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ سوادانت اور ناخن کے (جو جدانہ (2) ہوں) اور اسے میں بتاتا ہوں دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ اور غنیمت میں ہم کو اونٹ اور بکریاں ملی تھیں اون میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ایک شخص نے اسے تیر مار کر گرا دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ان اونٹوں میں بعض اونٹ وحشی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں جب تم کو اس پر قابو نہ ملے تو اس کے ساتھ یہی کرو۔“ (3)

حدیث ۳ صحیح بخاری شریف میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان کی بکریاں سلح (مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے) میں چرتی تھیں لونڈی (جو بکریاں چراتی تھی) اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنا چاہتی ہے اس نے پتھر توڑ کر اس سے ذبح کر دی انھوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اس کے کھانے کا حکم دے دیا۔ (4)

حدیث ۴ ابوداؤد و نسائی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) یہ فرمائیے کسی کو شکار ملے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا پتھر اور لٹھی کی کھپچھی سے ذبح کر سکتا ہے فرمایا: ”جس چیز سے چاہو خون بہا دو اور اللہ (عزوجل) کا نام ذکر کرو۔“ (5)

حدیث ۵ ترمذی و ابوداؤد و نسائی ابو العشاء اور وہ اپنے والد سے راوی انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کیا ذکاة (ذبح شرعی) حلق اور لبہ (6) ہی میں ہوتی ہے فرمایا: ”اگر تم اس کی ران میں نیزہ بھونک دو تو بھی کافی ہے۔ ذبح کی یہ صورت مجبوری اور ضرورت کی حالت میں ہے“ جیسا کہ ابوداؤد و ترمذی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ (7)

①..... بانس کا چرا ہوا کھڑا۔

②..... بہار شریعت کے نسخوں میں اس مقام پر ”جو جدا ہوں“ لکھا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کہ خود صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ اسی باب کے مسئلہ (۱۲) میں جدا ناخن سے ذبح کرنے کی وضاحت فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے لفظ ”نہ“ بڑھا دیا ہے نیز ”عمدة القاری، ج ۹، ص ۲۶۹“ پر وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔... علمیه

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الذبائح و الصيد، باب التسمیة... إلخ، الحدیث ۵۴۹۸، ج ۳، ص ۵۵۸

و باب ما نذ من البہائم... إلخ، الحدیث: ۵۵۰۹، ج ۳، ص ۵۶۱۔

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الوکالۃ، باب اذا أبصر الراعی... إلخ، الحدیث: ۲۳۰۴، ج ۲، ص ۷۹۔

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الضحایا، باب فی الذبیحة بالمروۃ، الحدیث: ۲۸۲۴، ج ۳، ص ۱۳۶۔

⑥..... سینے کا بالائی حصہ۔

⑦..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأطعمۃ، باب ماجاء فی الذکاة فی الحلق و اللبۃ، الحدیث: ۴۸۶، ج ۳، ص ۱۵۴۔

حدیث ۶ — ترمذی نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجسمہ کے کھانے سے منع فرمایا۔ مجسمہ وہ جانور ہے جس کو باندھ کر تیر مارا جائے اور وہ مر جائے۔^(۱)

حدیث ۷ — ابوداؤد نے ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریطۃ الشیطان سے ممانعت فرمائی یہ وہ ذبیحہ ہے جس کی کھال کاٹی جائے اور رگیں نہ کاٹی جائیں اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔^(۲)

حدیث ۸ — صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں کچھ لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ (عزوجل) کا نام انھوں نے ذکر کیا ہے یا نہیں، فرمایا کہ ”تم بسم اللہ کہو اور کھاؤ“^(۳) یعنی مسلم کی ذبیحہ میں اس قسم کے احتمالات نہ کیے جائیں۔

حدیث ۹ — صحیح مسلم میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں خوبی کرنا لکھ دیا ہے لہذا قتل کرو تو اس میں بھی خوبی کا لحاظ رکھو (یعنی بے سبب اوس کو ایذا مت پہنچاؤ) اور ذبح کرو تو ذبح میں خوبی کرو اور (۴) اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبیحہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔“^(۵)

حدیث ۱۰ — صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوپایہ یا اس کے سوا دوسرے جانور کو باندھ کر اوس کو تیر سے قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔^(۶)

حدیث ۱۱ — صحیحین میں انھیں سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوس پر لعنت کی جس نے ذی روح کو نشانہ بنایا۔^(۷)

حدیث ۱۲ — صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس میں روح ہو اوس کو نشانہ نہ بناؤ۔“^(۸)

①.....”جامع الترمذی“، کتاب الأطعمة، باب ماجاء فی کراہیۃ أکل المصبورة، الحدیث: ۱۴۷۸، ج ۳، ص ۱۵۰.

②.....”سنن أبي داود“، کتاب الضحایا، باب فی المبالغة فی الذبح، الحدیث: ۲۸۲۶، ج ۳، ص ۱۳۷.

③.....”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب السؤال باسماء اللہ تعالیٰ... إلخ، الحدیث: ۷۳۹۸، ج ۴، ص ۵۳۹.

④.....قالباً یہاں عبارت ”تم میں کوئی“ متروک ہے۔... علمیه

⑤.....”صحیح مسلم“، کتاب الصيد... إلخ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل... إلخ، الحدیث: ۵۷- (۱۹۵۵)، ص ۱۰۸۰.

⑥.....”صحیح البخاری“، کتاب الذبائح والصيد، باب ما یکره من المثلة... إلخ، الحدیث: ۵۵۱۴، ج ۳، ص ۵۶۳.

⑦.....”صحیح مسلم“، کتاب الصيد... إلخ، باب النهی عن صبر البهائم، الحدیث: ۵۹- (۱۹۵۸)، ص ۱۰۸۱.

⑧.....المرجع السابق، الحدیث: ۵۸- (۱۹۵۷)، ص ۱۰۸۱.

مسئلہ ۱ - گلے میں چند رگیں ہیں ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں اور اس جانور کو جس کی وہ رگیں کاٹی گئیں ذبیحہ اور ذبح کہتے ہیں۔ یہاں ذال کو زیر ہے اور پہلی جگہ زبر ہے۔^(۱)

مسئلہ ۲ - بعض جانور ذبح کیے جاسکتے ہیں بعض نہیں۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیے جاسکتے ہیں ان میں یہ دو مچھلی اور ٹنڈی بغیر ذبح حلال ہیں اور جو ذبح کیے جاسکتے ہیں وہ بغیر ذکاۃ شرعی حلال نہیں۔^(۲) (درمختار) ذکاۃ شرعی کا یہ مطلب ہے کہ جانور کو اس طرح نحر یا ذبح کیا جائے کہ حلال ہو جائے۔

مسئلہ ۳ - ذکاۃ شرعی دو قسم ہے۔ اختیاری اور اضطراری۔ ذکاۃ اختیاری کی دو قسمیں ہیں۔ ذبح اور نحر۔ ذکاۃ اضطراری یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ نیزہ وغیرہ بھونک کر خون نکال دیا جائے اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہوتا ہے جو بیان کی جائیں گی۔ حلق کے آخری حصہ میں نیزہ وغیرہ بھونک کر رگیں کاٹ دینے کو نحر کہتے ہیں۔ ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے مابین ہے لبہ سینہ کے بالائی حصہ کو کہتے ہیں۔ اونٹ کو نحر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے اور اگر اس کا عکس کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نحر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔^(۳) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۴ - عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو تین جگہ ذبح کیا جاتا ہے غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا دینا ہے۔

مسئلہ ۵ - جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔ حلقوم یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، مری اس سے کھانا پانی اترتا ہے ان دونوں کے اگل بغل اور دو رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے ان کو دو جین کہتے ہیں۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۶ - پورا حلقوم^(۵) ذبح کی جگہ ہے یعنی اوس کے اعلیٰ، اوسط، اسفل جس جگہ میں ذبح کیا جائے جانور حلال ہوگا۔ آج کل چونکہ چمڑے کا نرخ زیادہ ہے اور یہ وزن یا ناپ سے فروخت ہوتا ہے اس لیے قصاب^(۶) اس کی کوشش کرتے ہیں کہ

①....."الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۰.

②.....المرجع السابق.

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الذبائح، الباب الاول فی رکنہ... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۵.

و"الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۱.

④....."الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۱-۴۹۳.

⑥.....قصائی۔

⑤.....گلا۔

کسی طرح چمڑے کی مقدار بڑھ جائے اور اس کے لیے یہ ترکیب کرتے ہیں کہ بہت اوپر سے ذبح کرتے ہیں اور اس صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذبح فوق العقدہ (1) ہو جائے اور اس میں علما کو اختلاف ہے کہ جانور حلال ہو گا یا نہیں۔ اس باب میں قول فیصل یہ ہے کہ ذبح فوق العقدہ میں اگر تین رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے ورنہ نہیں۔ (2) (درمختار، ردالمحتار) علما کا یہ اختلاف اور رگوں کے کٹنے میں احتمال دیکھتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کہ یہ معاملہ حلت و حرمت کا ہے (3) اور ایسے مقام پر احتیاط لازم ہوتی ہے۔

مسئلہ ۷ ذبح کی چار رگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہو جائے گا اور اگر آدھی آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی ہے تو حلال نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ (۱) ذبح کرنے والا عاقل ہو۔ مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو ان کا ذبیحہ جائز نہیں اور اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، (۲) ذبح کرنے والا مسلم ہو یا کتابی۔ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ حرام و مردار ہے۔ کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تو اب اس کا ذبیحہ حرام ہے اور غیر کتابی، کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے اور معاذ اللہ مسلمان اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہے کہ یہ مرتد ہے۔ لڑکا نابالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین میں ایک کتابی ہے اور ایک غیر کتابی تو اس کو کتابی قرار دیا جائے گا اور اس کا ذبیحہ حلال سمجھا جائے گا۔ (5)

مسئلہ ۹ کتابی کا ذبیحہ اوس وقت حلال سمجھا جائے گا جب مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اللہ (عزوجل) کا نام لے کر ذبح کیا اور اگر ذبح کے وقت اوس نے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لیا اور مسلمان کے علم میں یہ بات ہے تو جانور حرام ہے اور اگر مسلمان کے سامنے اوس نے ذبح نہیں کیا اور معلوم نہیں کہ کیا پڑھ کر ذبح کیا جب بھی حلال ہے۔ (۳) اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ ذبح کرنا۔ ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے جانور حلال ہو جائے گا یہی ضروری نہیں کہ لفظ اللہ (عزوجل) ہی زبان سے کہے۔ (6)

①..... گھنڈی (گلے کی ابھری ہوئی ہڈی) سے اوپر ذبح۔

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۱۔

③..... یعنی حلال و حرام کا معاملہ ہے۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الذبائح، الباب الاول فی رکنہ... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۷۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۵-۴۹۹۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۶-۵۰۰۔

مسئلہ ۱۰ تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ صفت بھی ذکر کرے دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے مثلاً اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، یا صرف اللہ یا الرحمن یا الرحیم کہے اسی طرح سُبْحَانَ اللّٰہِ یا الحمد للہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی حلال ہو جائے گا۔ اللہ عزوجل کا نام عربی کے سوا دوسری زبان میں لیا جب بھی حلال ہو جائے گا۔^(۱) (عالمگیری) (۳) خود ذبح کرنے والا اللہ عزوجل کا نام اپنی زبان سے کہے اگر یہ خود خاموش رہا دوسروں نے نام لیا اور اسے یاد بھی تھا بھولا نہ تھا تو جانور حرام ہے، (۵) نام الہی (عزوجل) لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو اور اگر کسی دوسرے مقصد کے لیے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ لگے ذبح کر دیا اور اس پر بسم اللہ پڑھنا مقصود نہیں ہے تو جانور حلال نہ ہو مثلاً چھینک آئی اور اس پر الحمد للہ کہا اور جانور ذبح کر دیا اس پر نام الہی (عزوجل) ذکر کرنا مقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر مقصود تھا جانور حلال نہ ہوا (۶) ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہ لے (۷) جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ وقت ذبح زندہ ہو اگر چہ اوس کی حیات کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہو۔ ذبح کے بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا یوں ضروری ہے کہ اوس سے اوس کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۱ بکری ذبح کی اور خون نکلا مگر اوس میں حرکت پیدا نہ ہوئی اگر وہ ایسا خون ہے جیسے زندہ جانور میں ہوتا ہے حلال ہے۔ بیمار بکری ذبح کی صرف اوس کے مونہ کو حرکت ہوئی اور اگر وہ حرکت یہ ہے کہ مونہ کھول دیا تو حرام ہے اور بند کر لیا تو حلال ہے اور آنکھیں کھول دیں تو حرام اور بند کر لیں تو حلال اور پاؤں پھیلا دیے تو حرام اور سمیٹ لیے تو حلال اور بال کھڑے نہ ہوئے تو حرام اور کھڑے ہو گئے تو حلال یعنی اگر صحیح طور پر اوس کے زندہ ہونے کا علم نہ ہو تو ان علامتوں سے کام لیا جائے اور اگر زندہ ہونا یقیناً معلوم ہے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا بہر حال جانور حلال سمجھا جائے گا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ ذبح ہر اوس چیز سے کر سکتے ہیں جو رگیں کاٹ دے اور خون بہا دے یہ ضرور نہیں کہ چھری ہی سے ذبح کریں بلکہ گھپچھی^(۳) اور دھاردار پتھر سے بھی ذبح ہو سکتا ہے صرف ناخن اور دانت سے ذبح نہیں کر سکتے جب کہ یہ اپنی جگہ پر قائم ہوں اور اگر ناخن کاٹ کر جدا کر لیا ہو یا دانت علیحدہ ہو گیا ہو تو اس سے اگر چہ ذبح ہو جائے گا مگر پھر بھی اس کی ممانعت ہے کہ جانور کو اس سے اذیت ہوگی۔ اسی طرح کند چھری سے بھی ذبح کرنا مکروہ ہے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کریں اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔

۱..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الذبائح، الباب الاول فی رکنہ... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۵.

۲..... المرجع السابق، ص ۲۸۶.

۳..... بانس کا چرہا ہوا گلڑا۔

۴..... "الدر المختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۴.

یوہیں جانور کو پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مذبح کو (1) لے جانا بھی مکروہ ہے۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۱۳ اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے مکروہ ہے مگر وہ ذبیحہ کھایا جائے گا یعنی کراہت اوس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ (3) (ہدایہ) عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو اس سر کا کھانا مکروہ ہے یہ کتب فقہ میں نظر سے نہیں گزرا بلکہ فقہا کا یہ ارشاد کہ ذبیحہ کھایا جائے گا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سر بھی کھایا جائے گا۔

مسئلہ ۱۵ ہر وہ فعل جس سے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پہنچے مکروہ ہے مثلاً جانور میں ابھی حیات باقی ہو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اوس کی کھال اوتارنا اوس کے اعضا کا ثنا یا ذبح سے پہلے اوس کے سر کو کھینچنا کہ رگیں ظاہر ہو جائیں یا گردن کو توڑنا یوہیں جانور کو گردن کی طرف سے ذبح کرنا مکروہ ہے بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا۔ (4) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۶ سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا مونہ قبلہ کو کیا جائے اور ایسا نہ کرنا مکروہ ہے۔ (5) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ اگر جانور شکار ہو تو ضرور ہے کہ ذبح کرنے والا حلال ہو یعنی احرام نہ باندھے ہوئے ہو اور ذبح کرنا بیرون حرم (6) ہو لہذا حرم (7) کا ذبح کیا ہو جانور حرام ہے اور حرم میں شکار کو ذبح کیا تو ذبح کرنے والا حرم ہو یا حلال دونوں صورتوں میں جانور حرام ہے اور اگر وہ جانور شکار نہ ہو بلکہ پلاؤ ہو (8) جیسے مرغی، بکری وغیرہ اس کو حرم بھی ذبح کر سکتا ہے اور حرم میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ نصرانی نے حرم میں جنگلی جانور کو ذبح کیا تو جانور حرام ہے یعنی مسلم ذبح کرے یا کتابی دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ (9) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۸ جنگلی جانور اگر مانوس ہو جائے مثلاً ہرن وغیرہ پال لیتے ہیں اور وہ مانوس ہو جاتے ہیں ان کو اسی طرح ذبح کیا جائے جیسے پلاؤ جانور ذبح کیے جاتے ہیں یعنی ذبح اختیاری ہونا ضرور ہے جس کا ذکر گزر چکا اور اگر گھریلو جانور وحشی کی طرح ہو جائے کہ قابو میں نہ آئے تو اس کا ذبح اضطراری ہے کہ جس طرح ممکن ہو ذبح کر سکتے ہیں۔ یوہیں اگر چوپایہ کوئیں میں

①..... ذبح گاہ تک۔

②..... "الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۴۔

③..... "الہدایہ"، کتاب الذبائح، ج ۲، ص ۳۵۰۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۵۔

⑥..... حرم کے باہر۔ ⑦..... یعنی حالت احرام میں ہونے والے فرد۔ ⑧..... گھریلو ہو۔

⑨..... "الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۴۹۵، وغیرہ۔

گر پڑا کہ اوسے باقاعدہ ذبح نہ کر سکتے ہوں تو جس طرح ممکن ہو ذبح کر سکتے ہیں۔⁽¹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۹ ذبح میں عورت کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے یعنی مسلمہ یا کتابیہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے اور مشرک و مرتدہ کا ذبیحہ حرام ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ گوٹے کا ذبیحہ حلال ہے اگر وہ مسلم یا کتابی ہو اسی طرح اقلف کا یعنی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اور ابرص یعنی سپید داغ⁽³⁾ والے کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ جن اگر انسان کی شکل میں ہو تو اس کا ذبیحہ جائز ہے اور انسانی شکل میں نہ ہو تو اوس کا ذبیحہ جائز نہیں۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲ مجوسی نے آتش کدہ⁽⁶⁾ کے لیے یا مشرک نے اپنے معبودان باطل کے لیے مسلمان سے جانور ذبح کرایا اور اس نے اللہ (عزوجل) کا نام لے کر جانور ذبح کیا یہ جانور حرام نہ ہو مگر مسلمان کو ایسا کرنا مکروہ ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ مسلمان نے جانور ذبح کر دیا اس کے بعد مشرک نے اوس پر چھری پھیری تو جانور حرام نہ ہوا کہ ذبح تو پہلے ہی ہو چکا اور اگر مشرک نے ذبح کر ڈالا اس کے بعد مسلم نے چھری پھیری تو حرام ہی ہے اس کے چھری پھیرنے سے حلال نہ ہوگا۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ ذبح کرنے میں قصد بسم اللہ نہ کہی جانور حرام ہے اور اگر بھول کر ایسا ہوا جیسا کہ بعض مرتبہ شکار کے ذبح میں جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے اس صورت میں جانور حلال ہے۔⁽⁹⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۲۵ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ غیر خدا کا نام بھی لیا اس کی دو صورتیں ہیں اگر بغیر عطف ذکر کیا ہے

- ①..... "الهدایة"، کتاب الذبايح، ج ۲، ص ۳۵۰.
- ②..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الذبايح، الباب الاول فی رکنہ... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۶.
- ③..... برص کی بیماری۔
- ④..... "الدرالمختار"، کتاب الذبايح، ج ۹، ص ۴۹۷.
- ⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الذبايح، الباب الاول فی رکنہ... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۶.
- ⑥..... "ردالمحتار"، کتاب الذبايح، ج ۹، ص ۴۹۷.
- ⑦..... آگ کے پجاریوں کا عبادت خانہ۔
- ⑧..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الذبايح، الباب الاول فی رکنہ... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۶.
- ⑨..... المرجع السابق، ص ۲۸۷.
- ⑩..... "الهدایة"، کتاب الذبايح، ج ۲، ص ۳۴۷.

مثلاً یوں کہا بسم اللہ محمد رسول اللہ یا بسم اللہ اللہم تقبل من فلان ایسا کرنا مکروہ ہے مگر جانور حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر عطف کے ساتھ دوسرے کا نام ذکر کیا مثلاً یوں کہا بسم اللہ و اسم فلان اس صورت میں جانور حرام ہے کہ یہ جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح سے پہلے مثلاً جانور کو لٹانے سے پہلے اس نے کسی کا نام لیا یا ذبح کرنے کے بعد نام لیا تو اس میں حرج نہیں جس طرح قربانی اور عقیقہ میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور قربانی میں اون لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔^(۱) (ہدایہ وغیر ہا)۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ **مَا أَهْلَ لِعِزِّ اللَّهِ بِهِ** جو حرام ہے اوس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت جب غیر خدا کا نام اس طرح لیا جائے گا اوس وقت حرام ہوگا اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے جب کبھی غیر خدا کا نام لے دیا جائے حرام ہو جاتا ہے بلکہ یہ لوگ تو مطلقاً ہر چیز کو حرام کہتے ہیں جس پر غیر خدا کا نام لیا جائے اون کا یہ قول غلط اور باطل محض ہے اگر ایسا ہو تو سب ہی چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ کھانے پینے اور استعمال کی سب چیزوں پر لوگوں کے نام لے دیے جاتے ہیں اور ان سب کو حرام قرار دینا شریعت پر افترا اور مسلم کو زبردستی حرام کا مرتکب بنانا ہے معلوم ہوا کہ بعض مسلمان گائے، بکرا، مرغ جو اس لیے پالتے ہیں کہ ان کو ذبح کر کے کھانا پکوا کر کسی ولی اللہ کی روح کو ایصالِ ثواب کیا جائے گا یہ جائز ہے اور جانور بھی حلال ہے اس کو **مَا أَهْلَ لِعِزِّ اللَّهِ بِهِ** میں داخل کرنا جہالت ہے کیونکہ مسلمان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اوس نے تَقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ کی نیت کی، ہٹ دھرمی اور سخت بدگمانی ہے مسلم ہرگز ایسا خیال نہیں رکھتا۔ عقیقہ اور ولیمہ اور ختنہ وغیرہ کی تقریبوں میں جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں اور بعض مرتبہ پہلے ہی سے متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں موقع اور فلاں کام کے لیے ذبح کیا جائے گا جس طرح یہ حرام نہیں ہے وہ بھی حرام نہیں۔

مسئلہ ۲۶ بسم اللہ کی (ہ) کو ظاہر کرنا چاہیے اگر ظاہر نہ کی جیسا کہ بعض عوام اس کا تلفظ اس طرح کرتے ہیں کہ (ہ) ظاہر نہیں ہوتی اور مقصود اللہ کا نام ذکر کرنا ہے تو جانور حلال ہے اور اگر یہ مقصود نہ ہو اور (ہ) کا چھوڑنا ہی مقصود ہو تو حلال نہیں۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ مستحب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے یعنی بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان واؤ نہ لائے اور اگر بسم اللہ واللہ اکبر واؤ کے ساتھ کہا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہوگا مگر بعض علماء اس طرح کہنے کو مکروہ بتاتے ہیں۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

①..... "الهدایة"، کتاب الذبايح، ج ۲، ص ۳۴۸، وغیرہا.

②..... "ردالمحتار"، کتاب الذبايح، ج ۹، ص ۵۰۳.

③..... "الدرالمحتار"، کتاب الذبايح، ج ۹، ص ۵۰۳، وغیرہ.

مسئلہ ۲۸ — پُسمِ اللہ کسی دوسرے مقصد سے پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو جانور حلال نہیں اور اگر زبان سے پُسمِ اللہ کہی اور دل میں یہ نیت حاضر نہیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے پُسمِ اللہ کہتا ہوں تو جانور حلال ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۲۹ — ذبح اختیاری میں شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کے وقت پُسمِ اللہ پڑھے یہاں مذبح پر پُسمِ اللہ پڑھی جاتی ہے یعنی جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے پُسمِ اللہ پڑھی اسی کو ذبح کر سکتے ہیں دوسرا جانور اس تسمیہ سے حلال نہ ہوگا مثلاً بکری ذبح کرنے کے لیے لٹائی اور اس کے ذبح کرنے کو پُسمِ اللہ پڑھی مگر اس کو ذبح نہیں کیا بلکہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کر دی یہ حلال نہیں ہوئی یہ ضرور نہیں کہ جس چھری سے ذبح کرنا چاہتا تھا اور پُسمِ اللہ پڑھی تو اسی سے ذبح کرے بلکہ دوسری چھری سے بھی ذبح کر سکتا ہے اور شکار کرنے میں آلہ پر پُسمِ اللہ پڑھی جاتی ہے یعنی اسی آلہ سے شکار کرنا ہوگا دوسرے سے کرے گا حلال نہ ہوگا مثلاً تیر چھوڑنا چاہتا ہے اور پُسمِ اللہ پڑھی مگر اس کو رکھ دیا دوسرا تیر چلایا تو جانور حلال نہیں اور اگر جس جانور کو تیر سے مارنا چاہتا ہے اس کو تیر نہیں لگا دوسرا جانور اس تیر سے مارا تو یہ حلال ہے۔^(۲) (ہدایہ)

مسئلہ ۳۰ — خود ذبح کرنے والے کو پُسمِ اللہ کہنا ضرور ہے دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں یعنی دوسرے کے پُسمِ اللہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا جبکہ ذابح نے قصداً^(۳) ترک کیا ہو اور دو شخصوں نے ذبح کیا تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے ایک نے قصداً ترک کیا تو جانور حرام ہے۔^(۴) (ردالمحتار) معین ذابح سے یہی مراد ہے کہ ذبح کرنے میں اس کا معین ہو یعنی دونوں نے مل کر ذبح کیا ہو دونوں نے چھری پھیری ہو مثلاً ذابح کمزور ہے کہ اس کی تہا قوت کام نہیں دے گی دوسرے نے بھی شرکت کی دونوں نے مل کر چھری چلائی۔ اگر دوسرا شخص جانور کو فقط پکڑے ہوئے ہے تو یہ معین ذابح نہیں اس کے پڑھنے نہ پڑھنے کو کچھ دخل نہیں۔ یہ اگر پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ذابح کو پُسمِ اللہ یاد آ جائے اور پڑھ لے۔

مسئلہ ۳۱ — پُسمِ اللہ کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ نہ ہو اور مجلس بدلنے نہ پائے اگر مجلس بدل گئی اور عمل کثیر بیچ میں پایا گیا تو جانور حلال نہ ہو۔ ایک لقمہ کھایا یا ذرا سا پانی پیایا چھری تیز کر لی یہ عمل قلیل ہے جانور اس صورت میں حلال ہے۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الدرالمختار"، کتاب الذبايح، ج ۹، ص ۵۰۴.

②..... "الهدایة"، کتاب الذبايح، ج ۲، ص ۳۴۷.

③..... یعنی جان بوجھ کر۔

④..... "ردالمختار"، کتاب الذبايح، ج ۲، ص ۵۰۴.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الذبايح، ج ۹، ص ۵۰۴.

مسئلہ ۳۲ دو بکریوں کو نیچے اوپر لٹا کر دونوں کو ایک ساتھ بِسْمِ اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا دونوں حلال ہیں اور اگر ایک کو ذبح کر کے فوراً دوسری کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر بِسْمِ اللہ پڑھنی ہوگی پہلے جو پڑھ چکا ہے وہ دوسری کے لیے کافی نہیں۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۳۳ بکری ذبح کے لیے لٹائی تھی بِسْمِ اللہ کہہ کر ذبح کرنا چاہتا تھا کہ وہ اوٹھ کر بھاگ گئی پھر اسے پکڑ کے لایا اور لٹایا تو اب پھر بِسْمِ اللہ پڑھے پہلے کا پڑھنا ختم ہو گیا۔ یوں بکریوں کا گلہ^(۲) دیکھا اور بِسْمِ اللہ پڑھ کر ان میں سے ایک بکری پکڑ لایا اور ذبح کر دی اس وقت قصداً بِسْمِ اللہ ترک کر دی یہ خیال کر کے کہ پہلے پڑھ چکا ہے بکری حرام ہو گئی۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ پلاؤ جانور اگر بھاگ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تو اس کے لیے ذبح اضطراری ہے یعنی تیر یا نیزہ وغیرہ سے بہ نیت ذبح بِسْمِ اللہ پڑھ کر ماریں اور اس کے لیے گردن میں ہی ذبح کرنا ضرور نہیں بلکہ جس جگہ بھی زخمی کر دیا جائے کافی ہے۔ یوں اگر جانور کونین میں گر گیا اس کو نیزہ وغیرہ سے بہ نیت ذبح بِسْمِ اللہ کہہ کر ہلاک کر دیں ذبح ہو گیا۔ اسی طرح اگر جانور اس پر حملہ آور ہوا جیسا کہ بھینسے اور سانڈ اکثر حملہ کر دیتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ذبح کیا جاسکتا ہے اور اگر محض اپنے سے دفع کرنے کے لیے اسے نیزہ مارا ذبح کرنا مقصود نہ تھا تو جانور حرام ہے۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ آبادی میں اگر بکری بھاگ گئی تو اس کے لیے ذبح اضطراری نہیں ہے کہ بکری پکڑی جاسکتی ہے اور میدان میں بھاگ گئی تو ذبح اضطراری ہو سکتا ہے اور گائے، بیل، اونٹ اگر بھاگ جائیں تو آبادی اور جنگل دونوں کا ان کے لیے یکساں حکم ہے ہو سکتا ہے کہ آبادی میں بھی ان کے پکڑنے پر قدرت نہ ہو۔^(۵) (ہدایہ وغیرہا)

مسئلہ ۳۶ مرغی اوڑھ کر درخت پر چلی گئی اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے اور بِسْمِ اللہ پڑھ کر اسے تیر مار کر ہلاک کیا اگر اس کے جاتے رہنے کا اندیشہ نہ تھا تو نہ کھائی جائے اور اندیشہ تھا تو کھا سکتے ہیں کہ اس صورت میں ذبح اضطراری ہو سکتا ہے۔ کبوتر اوڑھ گیا اگر وہ مکان پر واپس آ سکتا ہے اور اسے تیر سے مارا اگر تیر جائے ذبح پر لگا

①....."الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۰۴.

②.....بکریوں کا ریوڑ۔

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الذبائح، الباب الاول فی رکنہ... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۹.

④....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۰۵.

⑤....."الہدایہ"، کتاب الذبائح، ج ۲، ص ۳۵۰، وغیرہا.

کھایا جاسکتا ہے ورنہ نہیں اگر وہ واپس نہیں آسکتا تو بہر صورت کھایا جاسکتا ہے۔ (1) (خانیہ)

مسئلہ ۳۷ — ہرن کو پال لیا وہ اتفاق سے جنگل میں چلا گیا کسی نے پشمِ اللہ کہہ کر اسے تیر مارا اگر تیر ذبح کی جگہ پر

لگا حلال ہے ورنہ نہیں ہاں اگر وحشی ہو گیا اور اب بغیر شکار کئے ہاتھ نہ آئے گا تو جہاں بھی لگے حلال ہے۔ (2) (خانیہ)

مسئلہ ۳۸ — گائے یا بکری ذبح کی اور اس کے پیٹ میں بچہ نکلا اگر وہ زندہ ہے ذبح کر دیا جائے حلال ہو جائے گا اور

مرا ہوا ہے تو حرام ہے اوس کی ماں کا ذبح کرنا اوس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں۔ (3) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۳۹ — بلی نے مرغی کا سر کاٹ لیا اور وہ ابھی زندہ ہے پھڑک رہی ہے ذبح نہیں کی جاسکتی۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۴۰ — جانور کو دن میں ذبح کرنا بہتر ہے اور مستحب یہ ہے کہ ذبح سے پہلے چھری تیز کر لے کند چھری یا ایسی

چیزوں سے ذبح کرنے سے بچے جس سے جانور کو ایذا ہو۔ (5) (عالمگیری)

حلال و حرام جانوروں کا بیان

حدیث ۱ — ترمذی نے عمر باض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

خیبر کے دن کیلے والے درندہ سے اور پنچہ والے پرند سے اور گھریلو گدھے اور بچھڑے اور خلیبہ سے ممانعت فرمائی اور حاملہ عورت

جب تک وضع حمل نہ کر لے اس کی وطی سے ممانعت فرمائی یعنی حاملہ لونڈی کا مالک ہو یا زانیہ عورت حاملہ سے نکاح کیا تو جب

تک وضع حمل نہ ہو اوس سے وطی نہ کرے۔ بچھڑے یہ ہے کہ پرند یا کسی جانور کو باندھ کر اوس پر تیر مارا جائے۔ خلیبہ یہ ہے کہ

بھیڑے یا کسی درندہ نے جانور پکڑا اوس سے کسی نے چھین لیا اور ذبح سے پہلے وہ مر گیا۔ (6)

حدیث ۲ — ابوداؤد و دارمی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنین

(پیٹ کے بچہ) کا ذبح اوس کی ماں کے ذبح کی مثل ہے۔“ (7)

①..... "الفتاویٰ الخانیة"، کتاب الصيد والذبايح، ج ۴، ص ۳۳۸.

②..... المرجع السابق.

③..... "الدر المختار"، کتاب الذبايح، ج ۹، ص ۵۰۷، وغیرہ.

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الذبايح، الباب الاول فی رکنہ... الخ، ج ۵، ص ۲۸۷.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... "جامع الترمذی"، کتاب الأطعمة، باب ماجاء فی کراهیة اکل المصبورة، الحدیث: ۱۴۷۹، ج ۳، ص ۱۵۰.

⑦..... "سنن أبی داؤد"، کتاب الضحایا، باب ما جاء فی ذکاة الحنین، الحدیث: ۲۸۲۸، ج ۳، ص ۱۳۸.

حدیث ۳ احمد و نسائی و دارمی عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا اوس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا عرض کیا گیا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اوس کا حق کیا ہے فرمایا کہ ”اوس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے۔“ (1)

حدیث ۴ ترمذی و ابوداؤد ابوقدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اس زمانہ میں یہاں کے لوگ زندہ اونٹ کا کوہان کاٹ لیتے اور زندہ دنبہ کی چکی کاٹ لیتے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”زندہ جانور کا جو کھڑا کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے کھایا نہ جائے۔“ (2)

حدیث ۵ دارقطنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دریا کے جانور (مچھلی) کو خدا نے حلال کر دیا ہے۔“ (3)

حدیث ۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابوقدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انھوں نے ہمارو حشی (گورخر) دیکھا اوس کا شکار کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تمہارے پاس اوس کے گوشت میں کا کچھ ہے؟“ عرض کی ہاں اوس کی ران ہے اوس کو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے قبول فرمایا اور کھایا۔ (4)

حدیث ۷ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں ہم نے مَرَّ الظُّهْرَانِ (5) میں خرگوش بھگا کر پکڑا میں اوس کو ابوظلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا انھوں نے ذبح کیا اور اوس کی پٹھ اور رائیں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں بھیجیں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے قبول فرمائیں۔ (6)

حدیث ۸ صحیحین میں ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ (7)

①..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو، الحدیث: ۶۵۶۲، ج ۲، ص ۵۶۷.

②..... "سنن النسائي"، كتاب الصيد... إلخ، باب إباحة أكل العصافير، الحدیث: ۴۳۵۵، ص ۷۰۷.

③..... "جامع الترمذی"، كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي... إلخ، الحدیث: ۱۴۸۵، ج ۳، ص ۱۵۳.

④..... "سنن الدارقطني"، كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد... إلخ، الحدیث: ۴۶۶۶، ج ۴، ص ۳۱۷.

⑤..... "صحیح مسلم"، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، الحدیث: ۵۷- (۱۱۹۶) و ۶۳- (۱۱۹۶)، ص ۶۱۱، ۶۱۳.

⑥..... مکرّمہ کے قریب ایک جگہ کا نام۔

⑦..... "صحیح البخاری"، كتاب الذبائح... إلخ، باب ما جاء في التصيد، الحدیث: ۵۴۸۹، ج ۳، ص ۵۵۴.

⑧..... "صحیح البخاری"، كتاب الذبائح... إلخ، باب الدجاج، الحدیث: ۵۵۱۷، ج ۳، ص ۵۶۳.

حدیث ۹ صحیحین میں عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوے میں تھے ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی موجودگی میں ٹڈی کھاتے تھے۔^(۱)

حدیث ۱۰ صحیحین میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں میں جمیش الخبط^(۲) میں گیا تھا اور امیر لشکر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہمیں بہت سخت بھوک لگی تھی دریا نے مری ہوئی ایک مچھلی پھینکی کہ ویسی مچھلی ہم نے نہیں دیکھی اوس کا نام عنبر ہے ہم نے آدھے مہینے تک اوسے کھایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوس کی ایک ہڈی کھڑی کی بعض روایت میں ہے پسلی کی ہڈی تھی اوس کی کچی اتنی تھی کہ اوس کے نیچے سے اونٹ مع سوار گزر گیا جب ہم واپس آئے تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے ذکر کیا فرمایا: ”کھاؤ اللہ (عزوجل) نے تمہارے لیے رزق بھیجا ہے اور تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ“ ہم نے اوس میں سے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس بھیجا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے تناول فرمایا۔^(۳)

حدیث ۱۱ و ۱۲ صحیح بخاری و مسلم میں ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وزغ (چھپکلی اور گرگٹ) کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا کہ ”ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی اوسے یہ پھونکتا تھا“^(۴) اور صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اوس میں یہ بھی ہے کہ اس کا نام حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فوئیسقی رکھا^(۵) یعنی چھوٹا فاسق یا بڑا فاسق اس لفظ میں دونوں معنی کا احتمال ہے۔

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الذبائح... إلخ، باب أكل الحراد، الحدیث: ۵۴۹۵ و ۵۴۹۶، ج ۳، ص ۵۵۷.

②..... اس لشکر میں جب توشہ کی کمی ہوئی تو سب کے پاس جو کچھ تھا اکٹھا کر لیا گیا روزانہ فی کس ایک مٹھی کھجور ملتی جب اور کمی ہوئی تو روزانہ ایک کھجور ملتی جس کو صحابہ کرام مونہ میں رکھ کر کچھ چوس کر نکال لیتے اور رکھ لیتے پھر اوپر سے پانی پی لیتے اسی ایک کھجور کو چوس کر ایک دن رات گزارتے اور شدت طُرسُنگی (بھوک) سے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھاتے جس سے اون کے مونہ چھل گئے اور زخمی ہو گئے اسی وجہ سے اس کا نام جمیش الخبط ہے کہ خبط درختوں کے چوں کو کہتے ہیں جو جھاڑ لیے جاتے ہیں اور چوں کے کھانے کی وجہ سے اونٹ اور بکری کی میٹھی کی طرح اون کو اجابت ہوتی۔ خدا (تعالیٰ) نے اپنا کرم کیا کہ ساحل پر میلے برابر کی یہ عنبر مچھلی اون کو ملی جس کی آنکھوں کے حلقے سے منگے برابر چربی نکلی اوس کو چند دن تک یا ایک ماہ تک جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اون حضرات نے کھایا۔ اس واقعہ کو مختصر طور پر بیان کرنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ مسلمان دیکھیں اور غور کریں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کیسی کیسی تکالیف برداشت کیں انھیں حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام اپنی کمال تابانی سے تمام عالم کو منور کر رہا ہے۔ ۱۲ منہ

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب المغازی، باب غزوة سيف البحر... إلخ، الحدیث: ۴۳۶۰ و ۴۳۶۲، ج ۳، ص ۱۲۷، ۱۲۸.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالیٰ ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَهُمْ حَبِيلًا﴾، الحدیث: ۳۳۵۹، ج ۲، ص ۴۲۳.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب إستحباب قتل الوزغ، الحدیث: ۱۴۴- (۲۲۳۸)، ص ۱۲۳۰.

حدیث ۱۳ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو

چھپکلی یا گرگٹ کو پہلی ضرب میں مارے اوس کے لیے تنوینکیاں اور دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس سے بھی کم۔“ (1)

حدیث ۱۴ ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

جذالہ (2) اور اس کا دودھ کھانے سے منع فرمایا۔ (3)

حدیث ۱۵ ابوداؤد نے عبدالرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (4)

حدیث ۱۶ ابوداؤد و ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

بلی کھانے سے اور اس کے ثمن کھانے سے منع فرمایا۔ (5)

حدیث ۱۷ امام احمد و ابن ماجہ و دارقطنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”ہمارے لیے دو مرے ہوئے جانور اور دو خون حلال ہیں۔ دو مردے مچھلی اور ٹنڈی ہیں اور دو خون کلبی اور تلی ہیں۔“ (6)

حدیث ۱۸ ابوداؤد و ترمذی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دریا

نے جس مچھلی کو پھینک دیا ہو اور وہاں سے پانی جاتا رہا اوسے کھاؤ اور جو پانی میں مر کر تیر جائے اوسے نہ کھاؤ۔“ (7)

حدیث ۱۹ شرح السنہ میں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرغ کو برا

کہنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ نماز کے لیے اذان کہتا ہے یا خبردار کرتا ہے (8) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ (9)

تنبیہ: گوشت یا جو کچھ غذا کھائی جاتی ہے وہ جزو بدن ہو جاتی ہے اور اوس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور چونکہ

بعض جانوروں میں مذموم صفات پائے جاتے ہیں اون جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی اون بری صفتوں کے

1..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب إستحباب قتل الوزغ، الحدیث: ۱۴۷- (۲۲۴۰)، ص ۱۲۳۰.

2..... گندگی کھانے والا جانور۔

3..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الحلاله وألبانها، الحدیث: ۱۸۳۱، ج ۳، ص ۳۲۴.

4..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، الحدیث: ۳۷۹۶، ج ۳، ص ۴۹۶.

5..... ”جامع الترمذی“، کتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب والسنور، الحدیث: ۱۲۸۴، ج ۳، ص ۴۱.

6..... ”سنن ابن ماجه“، کتاب الأطعمة، باب الكبدة والطحال، الحدیث: ۳۳۱۴، ج ۴، ص ۳۲.

7..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك، الحدیث: ۳۸۱۵، ج ۳، ص ۵۰۲.

8..... ”شرح السنه“، کتاب الطب والرقي، باب الديك، الحدیث: ۳۱۶۳، ج ۶، ص ۲۸۸-۲۸۹.

9..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب ما جاء في الديك والنهائم، الحدیث: ۵۱۰۱، ج ۴، ص ۴۲۲.

ساتھ متصف ہو جائے لہذا انسان کو اون کے کھانے سے منع کیا گیا حلال و حرام جانوروں کی تفصیل دشوار ہے۔ یہاں چند کلیات بیان کیے جاتے ہیں جن کے ذریعہ سے جزئیات جانے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۱ - کیلے والا (۱) جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہو حرام ہے جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، بچھو، کتا وغیرہا کہ ان سب میں

کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں۔ اونٹ کے کیلا ہوتا ہے مگر وہ شکار نہیں کرتا لہذا وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ (۲) (درمختار)

مسئلہ ۲ - پنچہ والا پرند جو پنچہ سے شکار کرتا ہے حرام ہے جیسے شکر، باز، بہری، چیل۔ حشرات الارض حرام ہیں جیسے

چوہا، چھپکلی، گرگٹ، گھونس، سانپ، بچھو، بر (۳)، مچھر، پسو، کٹھمیل، مکھی، کلی، مینڈک وغیرہا۔ (۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - گھریلو گدھا اور خچر حرام ہے اور جنگلی گدھا جسے گورخر کہتے ہیں حلال ہے گھوڑے کے متعلق روایتیں مختلف

ہیں یہ آلہ جہاد ہے اس کے کھانے میں تقلیل آلہ جہاد ہوتی ہے لہذا نہ کھایا جائے۔ (۵) (درمختار وغیرہا)

مسئلہ ۴ - کچھوا خشکی کا ہو یا پانی کا حرام ہے۔ غراب البقع یعنی کوا جو مردار کھاتا ہے حرام ہے۔ اور مہو کا کہ یہ بھی کوا سے

ملتا جلتا ایک جانور (۶) ہوتا ہے حلال ہے۔ (۷) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے۔ جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر

پانی کی سطح پر اولٹ گئی وہ حرام ہے مچھلی کو مارا اور وہ مر کر اوٹی تیرنے لگی یہ حرام نہیں۔ (۸) (درمختار) بیڈی بھی حلال ہے۔ مچھلی اور

ٹڈی یہ دونوں بغیر ذبح حلال ہیں جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ دو مردے حلال ہیں مچھلی اور ٹڈی۔

مسئلہ ۶ - پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مر گئی یا جال میں

پھنس کر مر گئی یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں اور یہ معلوم ہے کہ اوس چیز کے ڈالنے سے مرے

یا گھڑے یا گڑھے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اوس میں پانی تھوڑا تھا اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی ان سب

①..... نوکیلے دانتوں والا۔

②..... "الدر المختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۰۷۔

③..... بچھو۔

④..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۰۸۔

⑤..... "الدر المختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۰۸، وغیرہا۔

⑥..... یعنی پرندہ۔

⑦..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۰۹۔

⑧..... "الدر المختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۱۔

صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں اسی بنا پر اس کی حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے

بظاہر اس کی صورت مچھلی کی سی نہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک قسم کا کیڑا معلوم ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔

مسئلہ ۸ چھوٹی مچھلیاں بغیر شکم چاک کئے بھون لی گئیں ان کا کھانا حلال ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ مچھلی کا پیٹ چاک کیا اس میں موتی نکلا اگر یہ سیپ کے اندر ہے تو مچھلی والا اس کا مالک ہے۔ شکاری نے

مچھلی بیچ ڈالی ہے تو وہ موتی مشتری کا ہے اور اگر موتی سیپ میں نہیں ہے تو مشتری شکاری کو دے دے اور یہ لفظ ہے۔ اور مچھلی

کے شکم میں انگوٹھی یا روپیہ یا اشرفی یا کوئی زیور ملا تو لفظ ہے اگر یہ شخص خود محتاج و فقیر ہے تو اپنے صرف میں لاسکتا ہے⁽³⁾ ورنہ

تصدق کر دے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ بعض گائیں، بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں ان کو جلالہ کہتے ہیں اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو

جاتی ہے اس کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے جب بدبو جاتی رہے ذبح کر کے کھائیں اسی طرح جو مرغی غلیظ کھانے

کی عادی ہو اسے چند روز بند رکھیں جب اثر جاتا رہے ذبح کر کے کھائیں۔ جو مرغیاں چھوٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں

جبکہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہوں اور ان میں بدبو نہ ہو ہاں بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی بند رکھ کر ذبح کریں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ

جس راستہ سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے اس کا بھی حکم وہی ہے جو جلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت

سے بدبو دفع ہوگئی تو کھا سکتے ہیں ورنہ مکروہ و ممنوع۔

مسئلہ ۱۲ بکری کے بچہ کو کتیا کا دودھ پلاتا رہا اس کا بھی حکم جلالہ کا ہے کہ چند روز تک اسے باندھ کر چارہ کھلائیں کہ

وہ اثر جاتا رہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۲۔

②..... "ردالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۵۔

③..... یعنی تشبیر کے بعد اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔

④..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۵۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الذبائح، الباب الثانی فی بیان مایو کل... إلخ، ج ۵، ص ۲۸۹، ۲۹۰۔

و "ردالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۱۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الذبائح، الباب الثانی فی بیان مایو کل... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۰۔

مسئلہ ۱۳ بکری سے کتے کی شکل کا بچہ پیدا ہوا اگر وہ بھونکتا ہے تو نہ کھایا جائے اور اگر اس کی آواز بکری کی طرح ہے کھایا جاسکتا ہے اور اگر دونوں طرح آواز دیتا ہے تو اس کے سامنے پانی رکھا جائے اگر زبان سے چائے کتا ہے اور منہ سے پیے تو بکری ہے اور اگر دونوں طرح پانی پیے تو اس کے سامنے گھاس اور گوشت دونوں چیزیں رکھیں گھاس کھائے تو بکری مگر اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا جائے کھایا نہ جائے اور گوشت کھائے تو کتا ہے اور اگر دونوں چیزیں کھائے تو اسے ذبح کر کے دیکھیں اس کے پیٹ میں معدہ ہے تو کھا سکتے ہیں اور نہ ہو تو نہ کھائیں۔ (1) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۴ جانور کو ذبح کیا وہ اٹھ کر بھاگا اور پانی میں گر کر مر گیا یا اونچی جگہ سے گر کر مر گیا اس کے کھانے میں حرج نہیں کہ اس کی موت ذبح ہی سے ہوئی پانی میں گرنے یا لڑھکنے کا اعتبار نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ زندہ جانور سے اگر کوئی ٹکڑا کاٹ کر جدا کر لیا گیا مثلاً دنبہ کی چکی کاٹ لی یا اونٹ کا کوہان کاٹ لیا یا کسی جانور کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال لی یہ ٹکڑا حرام ہے۔ جدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گوشت سے جدا ہو گیا اگرچہ ابھی چمڑا لگا ہوا ہو اور اگر گوشت سے اس کا تعلق باقی ہے تو مردار نہیں یعنی اس کے بعد اگر جانور کو ذبح کر لیا تو یہ ٹکڑا بھی کھایا جاسکتا ہے۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ جانور کو ذبح کر لیا ہے مگر ابھی اس میں حیا باقی ہے اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا یہ حرام نہیں کہ ذبح کے بعد اس جانور کا زندوں میں شمار نہیں اگرچہ جب تک جانور ذبح کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا کوئی عضو کاٹنا مکروہ ہے۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ شکار پر تیر چلایا اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر جدا ہو گیا اگر وہ ایسا عضو ہے کہ بغیر اس کے جانور زندہ رہ سکتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے اور اگر بغیر اس کے زندہ نہیں رہ سکتا مثلاً سر جدا ہو گیا تو سر بھی کھایا جائے گا اور وہ جانور بھی۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ زندہ مچھلی میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا یہ حلال ہے اور اس کاٹنے سے اگر مچھلی پانی میں مر گئی تو وہ بھی حلال ہے۔ (6) (ہدایہ)

1..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الذبائح، الباب الثالث فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۹۰.

و "الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۸.

2..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الذبائح، الباب الثالث فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۹۰.

3..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۶-۵۱۷.

4..... "الدرالمختار"، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۷.

5..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الذبائح، الباب الثالث فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۹۱.

6..... "الہدایہ"، کتاب الذبائح، فصل فیما یحل أكله... إلخ، ج ۲، ص ۳۵۴.

مسئلہ ۱۹ کسی نے دوسرے سے اپنے جانور کے متعلق کہا اسے ذبح کر دو اس نے اس وقت ذبح نہیں کیا مالک نے وہ جانور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالا اب اس نے ذبح کر دیا اس کو تاوان دینا ہوگا اور جس نے اس سے ذبح کرنے کو کہا تھا تاوان کی رقم اس سے واپس نہیں لے سکتا ذبح کرنے والے کو بیع کا علم ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۰ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ذبح شرعی سے اون کا گوشت اور چربی اور چمڑا پاک ہو جاتا ہے مگر خنزیر کہ اس کا ہر جز نجس ہے اور آدمی اگر چہ ظاہر ہے اس کا استعمال ناجائز ہے۔^(۲) (درمختار) ان جانوروں کی چربی وغیرہ کو اگر کھانے کے سوا خارجی طور پر استعمال کرنا چاہیں تو ذبح کر لیں کہ اس صورت میں اس کے استعمال سے بدن یا کپڑا نجس نہیں ہوگا اور نجاست کے استعمال کی قباحت سے بھی بچنا ہوگا۔

اضحیہ یعنی قربانی کا بیان

مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بہ نیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، ارشاد فرمایا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِزْ﴾^(۳)

”تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔“

اس کے متعلق پہلے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں پھر فقہی مسائل بیان ہوں گے۔

حدیث ۱ ابوداؤد، ترمذی وابن ماجہ الامومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”یوم النحر (دسویں ذی الحجہ) میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے (قربانی کرنے) سے زیادہ پیارا نہیں اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔“^(۴)

حدیث ۲ طبرانی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے

①.....”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الذبائح، الباب الثالث فی المتفرقات، ج ۵، ص ۲۹۱۔

②.....”الدر المختار“، کتاب الذبائح، ج ۹، ص ۵۱۳۔

③.....پ ۳۰، الکوثر: ۲۔

④.....”جامع الترمذی“، کتاب الأضاحی، باب ماجاء فی فضل الأضحیۃ، الحدیث: ۱۴۹۸، ج ۳، ص ۱۶۲۔

فرمایا: ”جس نے خوشی دل سے طالبِ ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتشِ جہنم سے حجاب (روک) ہو جائے گی۔“ (1)

حدیث ۳ → طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔“ (2)

حدیث ۴ → ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔“ (3)

حدیث ۵ → ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا کہ ”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے“ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے فرمایا: ”ہر بال کے مقابل نیکی ہے عرض کی اُون کا کیا حکم ہے فرمایا: ”اُون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔“ (4)

حدیث ۶ → صحیح بخاری میں براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں پھر اوس کے بعد قربانی کریں گے جس نے ایسا کیا اوس نے ہماری سنت (طریقہ) کو پایا اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اوس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے طیار کر لیا قربانی سے اوسے کچھ تعلق نہیں۔“ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے (اس خیال سے کہ پروس کے لوگ غریب تھے انھوں نے چاہا کہ اون کو گوشت مل جائے) اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرے پاس بکری کا چھ ماہہ ایک بچہ ہے فرمایا: ”تم اوسے ذبح کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے چھ ماہہ بچہ کفایت نہیں کرے گا۔“ (5)

حدیث ۷ → امام احمد وغیرہ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے اوس کے بعد قربانی کرنا ہے جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اوس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا۔ نک یعنی قربانی سے اوس کو کچھ تعلق نہیں۔“ (6)

①..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۲۷۳۶، ج ۳، ص ۸۴۔

②..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۰۸۹۴، ج ۱۱، ص ۱۴-۱۵۔

③..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأضاحی، باب الأضاحی واجبة ہی أم لا، الحدیث: ۳۱۲۳، ج ۳، ص ۵۲۹۔

④..... المرجع السابق، باب ثواب الأضحیة، الحدیث: ۳۱۲۷، ص ۵۳۱۔

⑤..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأضاحی، باب سنة الأضحیة، الحدیث: ۵۵۴۵، ج ۳، ص ۵۷۱۔

⑥..... ”المسند“، للإمام أحمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث البراء بن عازب، الحدیث: ۱۸۷۱۵، ج ۶، ص ۴۴۴، وغیرہ۔

حدیث ۸

امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ”سینگ والا مینڈھالا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو یعنی اوس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”عائشہ چھری لاؤ پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹایا اور اوسے ذبح کیا پھر فرمایا:

”بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ. وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَمِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ.“ (1)

الہی تو اس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور اون کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔

حدیث ۹

امام احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و دارمی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح کے دن دو مینڈھے سینگ والے چت کبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے جب اون کا مونہہ قبلہ کو کیا یہ پڑھا:

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی اِبْرٰهَیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحَیَاىِ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ عَنُّ مُحَمَّدٍ وَّاُمَّتِہٖ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ.“ (2)

اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، (3) اور ایک روایت میں ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ فرمایا کہ ”الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اوس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔“ (4)

حدیث ۱۰

امام بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مینڈھے چت کبرے سینگ والوں کی قربانی کی انھیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا، کہتے ہیں میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔“ (5)

حدیث ۱۱

ترمذی میں حنفی سے مروی وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ دو مینڈھے کی قربانی

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأضاحی، باب إستحباب إستحسان الضحیة... إلخ، الحدیث: ۱۹- (۱۹۶۷) ص ۱۰۸۷.

②..... میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ملت ابراہیمی پر ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ (عزوجل) کے لئے ہے جو رب (ہے) سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں، الہی یہ تیری توفیق سے ہے اور تیرے لیے ہی ہے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ کی امت کی طرف سے بسم اللہ واللہ اکبر۔

③..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الضحایا، باب ما یستحب من الضحایا، الحدیث: ۲۷۹۵، ج ۳، ص ۱۲۶.

④..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الضحایا، باب فی الشاة یضحی بہا عن جماعة، الحدیث: ۲۸۱۰، ج ۳، ص ۱۳۱.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأضاحی، باب إستحباب إستحسان الضحیة... إلخ، الحدیث: ۱۷ (۱۹۶۶)، ۱۸ (۱۹۶۶) ص ۱۰۸۶.

کرتے ہیں میں نے کہا یہ کیا انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں لہذا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ (1)

حدیث ۱۲ → ابو داؤد و نسائی عبد اللہ بن عمرو و رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے یومِ اضحیٰ کا حکم دیا گیا اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیجہ (2) کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اوسی کی قربانی کر دوں فرمایا: ”نہیں۔ ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور موچھیں ترشواؤ اور موئے زیر ناف کو مونڈو اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی“ (3) یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔

حدیث ۱۳ → مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے یعنی نہ ترشوائے۔“ (4)

حدیث ۱۴ → طبرانی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قربانی میں گائے سات کی طرف سے اور اونٹ سات کی طرف سے ہے۔“ (5)

حدیث ۱۵ → ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بھیڑ کا جذع (چھ مہینے کا بچہ) سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔“ (6)

حدیث ۱۶ → امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فر بہ ہو۔“ (7)

حدیث ۱۷ → طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ (8)

1..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأضاحی، باب ماجاء فی الأضحیة... إلخ، الحدیث: ۱۵۰۰، ج ۳، ص ۱۶۳.

2..... منیجہ اوس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اوس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے، ۳ منہ۔

3..... ”سنن أبي داود“، کتاب الضحایا، باب ماجاء فی إیحاب الأضاحی، الحدیث: ۲۷۸۹، ج ۳، ص ۱۲۳.

4..... ”جامع الترمذی“، کتاب الأضاحی، باب ترک أخذ الشعر لمن أراد أن یضحی، الحدیث: ۱۵۲۸، ج ۳، ص ۱۷۷.

5..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۰۰۲۶، ج ۱۰، ص ۸۳.

6..... ”سنن أبي داود“، کتاب الضحایا، باب ما یحوز من السن فی الضحایا، الحدیث: ۲۷۹۹، ج ۳، ص ۱۲۷.

7..... ”المسند“، للإمام أحمد بن حنبل، حدیث جد أبي الأشد، الحدیث: ۱۵۴۹۴، ج ۵، ص ۲۷۹.

8..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۱۴۵۸، ج ۱۱، ص ۱۵۲.

حدیث ۱۸ امام احمد وغیرہ حضرت علی سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چار قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہے اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہے اور ایسا لنگ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو“ (1) اسی کی مثل امام مالک و احمد و ترمذی و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ و دارمی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔

حدیث ۱۹ امام احمد و ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ (2)

حدیث ۲۰ ترمذی و ابوداؤد و نسائی و دارمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔“ (3)

حدیث ۲۱ امام بخاری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید گاہ میں نحر و ذبح فرماتے تھے۔ (4)

مسائل فقہیہ

قربانی کئی قسم کی ہے۔ غنی اور فقیر دونوں پر واجب، فقیر پر واجب، غنی پر واجب نہ ہو، غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو۔ دونوں پر واجب ہو اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی یہ کہا کہ اللہ (عزوجل) کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے یا اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے۔ فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے اور غنی اگر خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو نہ منت ماننے سے بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکر یہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے احیا میں (5) جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ (6) (عالمگیری)

①.....”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند الکوفیین، حدیث البراء بن عازب، الحدیث: ۱۸۵۳۵، ج ۶، ص ۴۰۷، وغیرہ.

②.....”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأضاحی، باب ما یکرہ أن یضحی بہ، الحدیث: ۳۱۴۵، ج ۳، ص ۵۴۰.

③.....”جامع الترمذی“، کتاب الأضاحی، باب ما یکرہ من الأضاحی، الحدیث: ۱۵۰۳، ج ۳، ص ۱۶۵.

④.....”صحیح البخاری“، کتاب الأضاحی، باب الأضحی والنحر بالمصلی، الحدیث: ۵۵۵۲، ج ۳، ص ۵۷۳.

⑤.....یعنی سنت ابراہیمی کو قائم رکھنے کے لیے۔

⑥.....”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۱، ۲۹۲.

مسئلہ ۱ مسافر پر قربانی واجب نہیں اگر مسافر نے قربانی کی یہ تطوع (نفل) ہے اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہونہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو اس کا قربانی کرنا بھی تطوع ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی بعد میں نیت کر لی تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں، تو نگرستی یعنی مالک نصاب ہونا یہاں مالدار سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، حریت یعنی آزاد ہونا جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں۔ عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا۔ ظاہر الروایۃ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔^(۳) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں اون پر قربانی واجب نہیں اور مقیم ہوں تو واجب ہے جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے مثلاً ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوہیں اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔^(۵) (عالمگیری)

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۱.

②.....المرجع السابق، ص ۲۹۱.

③....."الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۴، وغیرہ.

④....."الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۴.

⑤....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۳.

مسئلہ ۶ - قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے جب وہ وقت آیا اور شرائط و جوہ پائے گئے قربانی واجب ہوگئی اور اس کا رکن اون مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلاً مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۷ - جو شخص دو سو درہم یا بیس دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت دو سو درہم ہو وہ غنی ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔^(۲) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۸ - اس شخص پر دین ہے اور اس کے اموال سے دین کی مقدار بجا کی جائے^(۳) تو نصاب نہیں باقی رہتی اس پر قربانی واجب نہیں اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی^(۴) گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو قربانی واجب نہیں۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - ایک شخص کے پاس دو سو درہم تھے سال پورا ہوا اور ان میں سے پانچ درہم زکوٰۃ میں دیے ایک سو پچانوے باقی رہے اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے اور اگر اپنے ضروریات میں پانچ درہم خرچ کرتا تو قربانی واجب نہ ہوتی۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ - مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی وہ گم ہوگئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا اگرچہ مہر مغل ہو اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔^(۸) (عالمگیری)

①....."الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۲۰.

②....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۲، وغیرہ.

③.....کثوثی کی جائے۔ ④.....ایام قربانی یعنی دس، گیارہ، بارہ (۱۰، ۱۱، ۱۲) ذوالحجہ۔

⑤....."الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۲.

⑥.....المرجع السابق. ⑦.....المرجع السابق. ⑧.....المرجع السابق.

مسئلہ ۱۲ کسی کے پاس دو سو درہم کی قیمت کا مصحف شریف (قرآن مجید) ہے اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں ورنہ ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ ایک مکان جاڑے کے لیے^(۲) اور ایک گرمی کے لیے یہ حاجت میں داخل ہے ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے اگر یہ دو سو درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے دو گھوڑے حاجت میں ہیں تیسرا حاجت سے زائد ہے۔ اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہیں ہاں اگر ہر قسم کے دو ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے زمیندار کے پاس ایک گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور دو ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ و عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے یہ سب حاجت میں داخل ہیں اور ان تین کے سوا چوتھا جوڑا اگر دو سو درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔^(۳) (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ بالغ لڑکوں یا بی بی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اون سے اجازت حاصل کرے بغیر اون کے کہے اگر کردی تو اون کی طرف سے واجب ادا نہ ہو اور نابالغ کی طرف سے اگر چہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری الذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی ہے ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں تو اللہ (عزوجل) کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے۔^(۵) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۱۶ یہ ضرور نہیں کہ دسویں ہی کو قربانی کر ڈالے اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے لہذا اگر ابتدائے وقت میں اس کا اہل نہ تھا وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے اور آخر وقت میں اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو واجب نہ رہی۔^(۶) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۲، ۲۹۳.

②..... سردی یعنی موسم سرما کے لیے۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۳.

و"ردالمحتار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۰.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۳.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۱، وغیرہ.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۳.

مسئلہ ۱۷ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا کہ غنی ہو گیا تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی اور اب واجب ہے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے اور اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انھیں دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہوگئی۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۸ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی مثلاً بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی یہ ناکافی ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے یعنی خود کرنا ضرور نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی اس نے کر دی یہ ہو سکتا ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ جب قربانی کے شرائط مذکورہ پائے جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ واجب ہے۔ ساتویں حصہ سے کم نہیں ہو سکتا بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکاء میں اگر کسی شریک کا ساتویں حصہ سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی یعنی جس کا ساتواں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں ساتویں حصہ سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلاً گائے کو چھ یا پانچ یا چار شخصوں کی طرف سے قربانی کریں ہو سکتا ہے اور یہ ضرور نہیں کہ سب شرکاء کے حصے برابر ہوں بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو ساتویں حصہ سے کم نہ ہو۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ سات شخصوں نے پانچ گایوں کی قربانی کی یہ جائز ہے کہ ہر گائے میں ہر شخص کا ساتواں حصہ ہو اور آٹھ شخصوں نے پانچ یا چھ گایوں میں بھصہ، مساوی شرکت کی یہ ناجائز ہے کہ ہر گائے میں ہر ایک کا ساتویں حصہ سے کم ہے۔ سات بکریوں کی سات شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں ساتواں حصہ ہے استحساناً قربانی ہو جائے گی یعنی ہر ایک کی ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ یوہیں دو شخصوں نے دو بکریوں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور استحسان ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی۔⁽⁴⁾

مسئلہ ۲۱ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضرور ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے اندازہ سے تقسیم نہ ہو

①....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۳.

و"الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۵.

②....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الاول فی تفسیرھا... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۳، ۲۹۴.

③....."الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۱-۵۲۵.

④....."ردالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۵.

کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا ہے تو معاف کیا کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲ → قربانی کا وقت دسویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے یعنی تین دن، دو راتیں اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں اور گیارہ سے تیرہ تک تین دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں لہذا بیچ کے دو دن ایام نحر و ایام تشریق دونوں ہیں اور پہلا دن یعنی دسویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے اور پچھلا دن یعنی تیرہویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔⁽²⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۲۳ → دسویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ → پہلا دن یعنی دسویں تاریخ سب میں افضل ہے پھر گیارہویں اور پچھلا دن یعنی بارہویں سب میں کم درجہ ہے اور اگر تاریخوں میں شک ہو یعنی تیس کا چاند مانا گیا ہے اور اوتیس کے ہونے کا بھی شبہ ہے مثلاً گمان تھا کہ اوتیس کا چاند ہوگا مگر ابو وغیرہ کی وجہ سے نہ دکھایا شہادتیں گزریں مگر کسی وجہ سے قبول نہ ہوئیں ایسی حالت میں دسویں کے متعلق یہ شبہ ہے کہ شاید آج گیارہویں ہو تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کو بارہویں تک مؤخر نہ کرے یعنی بارہویں سے پہلے کر ڈالے کیونکہ بارہویں کے متعلق تیرہویں تاریخ ہونے کا شبہ ہوگا تو یہ شبہ ہوگا کہ وقت سے بعد میں ہوئی اور اس صورت میں اگر بارہویں کو قربانی کی جس کے متعلق تیرہویں ہونے کا شبہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت صدقہ کر ڈالے بلکہ ذبح کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہو کہ زندہ کی قیمت کچھ زائد ہو تو اس زیادتی کو بھی صدقہ کر دے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ → ایام نحر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت اور صدقہ کرنا تطوع محض ہے⁽⁵⁾ لہذا قربانی افضل ہوئی۔⁽⁶⁾ (عالمگیری) اور وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔⁽⁷⁾

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۲۷.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۲۰ و ۵۲۷-۵۲۹، وغیرہ.

③..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب الثالث فی وقت الأضحیة، ج ۵، ص ۲۹۵.

④..... المرجع السابق.

⑤..... یعنی نقلی عبادت ہے۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب الثالث فی وقت الأضحیة، ج ۵، ص ۲۹۵.

⑦..... یعنی واجب ادا نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ ۲۶ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے۔⁽¹⁾ (عالمگیری) یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے اس صورت میں قربانی ہو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ ۲۷ یہ جو شہر و دیہات کا فرق بتایا گیا یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہے وہ دیہات میں ہو لہذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲۸ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے یعنی یہ ضرور نہیں کہ عید گاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عید گاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ دسویں کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضرور ہے کہ وقت نماز جاتا رہے یعنی زوال کا وقت آجائے اب قربانی ہو سکتی ہے اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۰ منے میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی لہذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے اوس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے کسی شہر میں اگر فتنہ کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں دسویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا اگرچہ امام قعدہ میں ہو اور بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو مگر ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہیں ہوئی اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے دوسری طرف باقی تھا کہ اس نے ذبح کر دیا قربانی

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الثالث فی وقت الأضحیۃ، ج ۵، ص ۲۹۵.

②....."الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۹.

③....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۷، ۵۲۸.

④....."الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۳۰.

⑤....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۸، ۵۳۰.

ہوگئی اور بہتر یہ ہے کہ خطبہ سے جب امام فارغ ہو جائے اوس وقت قربانی کی جائے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ → امام نے نماز پڑھ لی اس کے بعد قربانی ہوئی پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۳ → یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن⁽³⁾ ہے اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی پھر معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن نہ تھا بلکہ دسویں تاریخ تھی تو قربانی جائز ہوگئی۔ یوں اگر دسویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی پھر معلوم ہوا کہ وہ دسویں نہ تھی بلکہ گیارہویں تھی تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگئی۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ → نویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ دسویں ہے اس بنا پر اسی روز نماز پڑھ کر قربانی کی پھر معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی وہ نویں تاریخ تھی تو نماز بھی ہوگئی اور قربانی بھی۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳۵ → ایامِ نحر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اوس نے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہوگئی اب نہیں ہو سکتی پھر اگر اوس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے مثلاً معین جانور کے قربانی کی منت مان لی ہے وہ شخص غنی ہو یا فقیر بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے اور اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے اوس میں سے کچھ نہ کھائے اور اگر کچھ کھالیا ہے تو جتنا کھایا ہے اوس کی قیمت صدقہ کرے اور اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اوسے بھی صدقہ کرے اور فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے چونکہ اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے لہذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے اور اگر ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہوا۔ یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو اور اگر اوس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اوس نے اوس کے قربانی کرنے کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اوس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے تو وہی جانور صدقہ کر دے اور ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو مذکور ہوا اور خریدانہ ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کرے۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الثالث فی وقت الأضحیۃ، ج ۵، ص ۲۹۵.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۲۹.

③..... یعنی نویں ذی الحجہ کا دن۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الثالث فی وقت الأضحیۃ، ج ۵، ص ۲۹۵.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۳۰.

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۳۱.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الرابع فیما يتعلق بالمکان والزمان، ج ۵، ص ۲۹۶.

مسئلہ ۳۶ → قربانی کے دن گزر گئے اور اوس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اوس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ دوسری بقر عید آگئی اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اوس کی قیمت صدقہ کرے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ → جس جانور کی قربانی واجب تھی ایامِ نحر گزرنے کے بعد اوسے بیچ ڈالا تو ثمن کا صدقہ کرنا واجب ہے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ → کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اوس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے کا جانور خرید کر قربانی کی جائے یہ وصیت جائز ہے اور بکری قربان کر دینے سے وصیت پوری ہوگئی اور اگر کسی کو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا اور گائے یا بکری کا تعین نہ کیا اور قیمت بھی بیان نہیں کی تو یہ تو وکیل صحیح نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ → قربانی کی منت مانی اور یہ معین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکری کی تو منت صحیح ہے بکری کی قربانی کر دینا کافی ہے اور اگر بکری کی قربانی کی منت مانی تو اونٹ یا گائے قربانی کر دینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کر دے اور کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اوس کی قیمت صدقہ کرے۔^(۴) (عالمگیری)

قربانی کے جانور کا بیان

مسئلہ ۱ → قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری ہر قسم میں اوس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں نر اور مادہ، خسی^(۵) اور غیر خسی سب کا ایک حکم ہے یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دنبہ بکری میں داخل ہیں ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔^(۶) (عالمگیری وغیرہ)

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الرابع فیما يتعلق بالمکان والزمان، ج ۵، ص ۲۹۶، ۲۹۷.

②..... المرجع السابق، ص ۲۹۷. ③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الثانی فی وجوب الأضحیۃ... إلخ، ج ۵، ص ۲۹۵.

⑤..... وہ جانور جس کے فوطے نکال دیئے گئے ہوں۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب، ج ۵، ص ۲۹۷، وغیرہ.

مسئلہ ۲ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا مثلاً ہرن اور بکری سے اس میں ماں کا اعتبار ہے یعنی اوس بچہ کی ماں بکری ہے تو جائز ہے اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہے تو ناجائز۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے اونٹ پانچ سال کا گائے دو سال کی بکری ایک سال کی اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں دنبہ یا بھیڑ کا چھ ماہہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اوس کی قربانی جائز ہے۔^(۲) (درمختار)

مسئلہ ۴ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے ساتویں حصہ کی برابر ہو تو بکری افضل ہے اور گائے کے ساتویں حصہ میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے یعنی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہو اور مقدار بھی ایک ہی ہو تو جس کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو تو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے اور مینڈھا بھیڑ سے اور دنبہ نبی سے افضل ہے جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے نیل سے افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اوس کی قربانی جائز ہے اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور بیٹنگ تک^(۴) ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنوں ہے اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اوس کی قربانی ناجائز ہے اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خبیہ نکال لیے گئے ہیں یا محبوب یعنی جس کے خبیہ اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا یا داغا ہو جانور یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فرہ^(۵) ہو اور اتنا لاغر ہو کہ بڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔^(۶) (درمختار، ردالمختار، عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب، ج ۵، ص ۲۹۷.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۳۳.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۳۴.

④..... یعنی جڑ تک۔ ⑤..... موٹا، صحت مند۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۳۵.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب، ج ۵، ص ۲۹۷.

مسئلہ ۶

بھیگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں اور کاناجس کا کاناپن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز۔ اتنالاجر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اور لنگڑا جو قربان گاہ تک (۱) اپنے پاؤں سے نہ جاسکے اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی (۲) کٹے ہوں یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو ان سب کی قربانی ناجائز ہے اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچانا آسان ہے اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایک دودن بھوکا رکھا جائے پھر اس آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں اور چارہ کو قریب کرتے جائیں جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لے یہاں بھی نشان کر دیں پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بہ نسبت اچھی آنکھ کی اس کی روشنی آدھی ہے۔ (۳) (ہدایہ، درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۷

جس کے دانت نہ ہوں (۴) یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے اور گائے بھینس میں دو خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا ہو اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں اور جلا لہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ (۵) (درمختار)

مسئلہ ۸

بھیڑ یا دنبہ کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ (۶) (عالمگیری)

①..... ذبح کرنے کی جگہ تک۔ ②..... دنبے کی گول چپٹی دم۔

③..... "الهدایة"، کتاب الأضحیة، ج ۲، ص ۳۵۸۔

و "الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۳۵-۵۳۷۔

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب، ج ۵، ص ۲۹۷-۲۹۸۔

④..... یعنی ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ہاں البتہ اگر گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے جیسا کہ

بحر الرائق، ج ۸، ص ۳۲۳، الہدایة، ج ۲، ص ۳۵۹، تبیین الحقائق، ج ۶، ص ۴۸۱، الفتاویٰ الخانیة، ج ۲، ص ۳۳۳، الفتاویٰ الہندیة،

ج ۵، ص ۲۹۸ پر مذکور ہے... علمیہ

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۳۷۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب، ج ۵، ص ۲۹۸، ۲۹۹۔

مسئلہ ۹ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا پھر پیدا ہو گیا اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔^(۱) (ہدایہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز ہے اور اگر عیبی جانور خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے مثلاً ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربہ ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ قربانی کرتے وقت جانور اوچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا یہ عیب مضر نہیں یعنی قربانی ہو جائے گی اور اگر اوچھلنے کو دینے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا جب بھی قربانی ہو جائے گی۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔^(۴) (درمختار) مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگر چہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق^(۵) واجب نہ رہا۔^(۶) (ردالمحتار)

①..... "الهدایة"، کتاب الأضحیة، ج ۲، ص ۳۵۹.

و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۳۹.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۳۹.

③..... المرجع السابق.

④..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۳۹.

⑤..... صدقہ کرنا.

⑥..... "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۳۹.

قربانی کے جانور میں شرکت

مسئلہ ۱۳ سات شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی ان میں ایک کا انتقال ہو گیا اس کے ورثہ نے شرکا سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں اور اگر بغیر اجازت ورثہ ان شرکانے کی تو کسی کی نہ ہوئی۔^(۱) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۴ گائے کے شرکا میں سے ایک کافر ہے یا ان میں ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی بلکہ اگر شرکا میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت بھی کریں تو نیت صحیح نہیں۔^(۲) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ شرکا میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی ان لوگوں کی یہ قربانی تطوع یعنی نفل ہوئی اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی ہے وہ بھی گوشت صدقہ کر دے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ قربانی کے سب شرکا کی نیت تقرب ہو^(۴) اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت نہ ہو اور یہ ضرور نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو مثلاً سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہوں وہ تقرب سب پر واجب ہو یا کسی پر واجب ہو اور کسی پر واجب نہ ہو ہر صورت میں قربانی جائز ہے مثلاً دمِ احصار اور احرام میں شکار کرنے کی جزا اور سر منڈانے کی وجہ سے دم واجب ہو اور تمتع و قران کا دم^(۵) کہ ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔^(۶) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ تین شخصوں نے قربانی کے جانور خریدے ایک نے دس کا دوسرے نے بیس کا تیسرے نے تیس کا اور ہر ایک نے جتنے میں خریدا ہے اس کی واجبی قیمت بھی اتنی ہی ہے یہ تینوں جانور مل گئے یہ پتا نہیں چلتا کہ کس کا کون ہے تینوں نے

①..... "الهدایة"، کتاب الأضحیة، ج ۲، ص ۳۶۰.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۰.

③..... "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۰.

④..... یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا مقصود ہو۔ ⑤..... یعنی حج تمتع اور حج قران کا دم، تفصیل کے لیے بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۶ ملاحظہ فرمائیں۔

⑥..... "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۰.

یہ اتفاق کر لیا کہ ایک ایک جانور ہر شخص قربانی کرے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا سب کی قربانیاں ہو گئیں مگر جس نے تمیں میں خریدا تھا وہ بیس روپے خیرات کرے کیوں کہ ممکن ہے کہ دس والے کو اس نے قربانی کیا ہو اور جس نے بیس میں خریدا تھا وہ دس روپے خیرات کرے اور جس نے دس میں خریدا تھا اس پر کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں اور اگر ہر ایک نے دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو قربانی ہو جائے گی اور اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔⁽¹⁾ (درمختار)

قربانی کے بعض مستحبات

مسئلہ ۱۸ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربہ اور خوبصورت اور بڑا ہو اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈھا چت کبرا ہو⁽²⁾ جس کے نصیے کوٹ کر خسی کر دیا ہو کہ حدیث میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مینڈھے کی قربانی کی۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے تمام اعضا سے روح نکل نہ جائے اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چیزاں اوتاریں اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: ”کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی اس پر ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا نبی اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عامہ مسلمین کے لیے بھی فرمایا کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری، زیلعی، ہلبیہ)

مسئلہ ۲۰ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرادیا تو قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہ جانور حرام و مردار ہے اور کتابی سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے کہ قربانی سے مقصود

①....."الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۱.

②.....یعنی سفید و سیاہ رنگ والا ہو۔

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الأضحیة، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب، ج ۵، ص ۳۰۰.

و"سنن أبی داود"، کتاب الضحایا، باب ما یستحب من الضحایا، الحدیث: ۲۷۹۵، ج ۳، ص ۱۲۶.

④....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الأضحیة، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب، ج ۵، ص ۳۰۰.

و"تبیین الحقائق"، کتاب الأضحیة، ج ۶، ص ۴۸۷.

و"حاشیة الشلیبہ" هامش علی "تبیین الحقائق"، کتاب الأضحیة، ج ۶، ص ۴۸۷.

تقرب الی اللہ ہے (1) اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی مگر ہمارا مذہب وہی پہلا ہے کہ قربانی ہو جائے گی اور مکروہ ہے۔ (2) (زیلعی، شلبیہ)

قربانی کا گوشت و پوست وغیرہ کیا کرے

مسئلہ ۲۱ - قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے کھلا سکتا ہے بلکہ اوس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کرے ایک حصہ فقرا کے لیے اور ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک تہائی سے کم صدقہ نہ کرے۔ اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے اور کل گھر ہی رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ تین دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے اگر اوس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں اور صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ - قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔

مسئلہ ۲۳ - قربانی اگر منت کی ہے تو اوس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے۔ (4) (زیلعی)

مسئلہ ۲۴ - میت کی طرف سے قربانی کی تو اوس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے دوست احباب کو دے فقیروں کو دے یہ ضرور نہیں کہ سارا گوشت فقیروں ہی کو دے کیوں کہ گوشت اس کی ملک ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اگر میت نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ (5) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ - قربانی کا چمڑا اور اوس کی جھول (6) اور رتھی اور اوس کے گلے میں ہار ڈالا ہے وہ ہار ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی اپنے کام میں لاسکتا ہے یعنی اوس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لاسکتا ہے

1..... یعنی اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنا ہے۔

2..... "تبيين الحقائق"، كتاب الأضحية، ج 6، ص 487.

و"حاشية الشلبية" هامش على "تبيين الحقائق"، كتاب الأضحية، ج 6، ص 487.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب، ج 5، ص 300.

4..... "تبيين الحقائق"، كتاب الأضحية، ج 6، ص 486.

5..... "ردالمحتار"، كتاب الأضحية، ج 9، ص 542.

6..... قربانی کے جانوروں پر ڈالنے والا کپڑا۔

مثلاً اوس کی جانماز بنائے، چلنی (1)، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان، ڈول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے یہ سب کر سکتا ہے۔ (2) (درمختار) چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے اُجرت پر نہ دے اور اگر اُجرت پر دے دیا تو اس اُجرت کو صدقہ کرے۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ - قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اوس سے نفع اٹھایا جائے جیسے کتاب، ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہو جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، روپیہ، پیسہ اور اگر اوس نے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا تو ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔ (4) (درمختار)

مسئلہ ۲۷ - اگر قربانی کی کھال کو روپے کے عوض میں بیچا مگر اس لیے نہیں کہ اوس کو اپنی ذات پر یا بال بچوں پر صرف کرے گا بلکہ اس لیے کہ اوسے صدقہ کر دے گا تو جائز ہے۔ (5) (عالمگیری) جیسا کہ آج کل اکثر لوگ کھال مدارس دینیہ میں دیا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ وہاں کھال بھیجنے میں دقت ہوتی ہے اوسے بیچ کر روپیہ بھیج دیتے ہیں یا کئی شخصوں کو دینا ہوتا ہے اوسے بیچ کر دام ان فقرا پر تقسیم کر دیتے ہیں یہ بیچ جائز ہے اس میں حرج نہیں اور حدیث میں جو اس کے بیچنے کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد اپنے لیے بیچنا ہے۔

مسئلہ ۲۸ - گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو چمڑے کا ہے کہ اس کو اگر ایسی چیز کے بدلے میں بیچا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے تو صدقہ کر دے۔ (6) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۹ - قربانی کی چربی اور اوس کی سری، پائے اور اون اور دودھ جو ذبح کے بعد دوہا ہے ان سب کا وہی حکم ہے کہ اگر ایسی چیز اس کے عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کرے گا تو اوس کو صدقہ کر دے۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ - قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں کی کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اُجرت میں نہیں دے سکتا کہ اس کو اُجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے۔ (8) (ہدایہ)

①..... آٹا وغیرہ چھاننے کا آلہ، چھلنی۔

②..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۳۔

③..... "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۴۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۳۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب السادس فی بیان ما یتحب... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۱۔

⑥..... "الہدایة"، کتاب الأضحیة، ج ۲، ص ۳۶۰۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الأضحیة، الباب السادس فی بیان ما یتحب... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۱۔

⑧..... "الہدایة"، کتاب الأضحیة، ج ۲، ص ۳۶۱۔

مسئلہ ۳۱ → قصاب کو اجرت میں نہیں دیا بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو دیتا ہے اس کو بھی دیا اور اجرت اپنے پاس سے دوسری چیز دے گا تو جائز ہے۔

مسئلہ ۳۲ → بھیڑ کے کسی جگہ کے بال نشانی کے لیے کاٹ لیے ہیں ان بالوں کو پھینک دینا یا کسی کو بہہ کر دینا ناجائز ہے بلکہ انھیں صدقہ کرے۔^(۱) (عالمگیری)

ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے منفعت حاصل کرنا منع ہے

مسئلہ ۳۳ → ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اوس کا دودھ دوہنا مکروہ و ممنوع ہے اور قربانی کے جانور پر سوار ہونا یا اوس پر کوئی چیز لادنا یا اوس کو اجرت پر دینا غرض اوس سے منافع حاصل کرنا منع ہے اگر اوس نے اون کاٹ لی یا دودھ دوہ لیا تو اوسے صدقہ کر دے اور اجرت پر جانور کو دیا ہے تو اجرت کو صدقہ کرے اور اگر خود سوار ہو یا اوس پر کوئی چیز لادی تو اس کی وجہ سے جانور میں جو کچھ کمی آئی اتنی مقدار میں صدقہ کرے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ → جانور دودھ والا ہے تو اوس کے تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑکے کہ دودھ خشک ہو جائے اگر اس سے کام نہ چلے تو جانور کو دودھ کر دودھ صدقہ کرے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ → جانور ذبح ہو گیا تو اب اوس کے بال کو اپنے کام کے لیے کاٹ سکتا ہے اور اگر اوس کے تھن میں دودھ ہے تو وہ سکتا ہے کہ جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا اب یہ اس کی ملک ہے اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ → قربانی کے لیے جانور خریدا تھا قربانی کرنے سے پہلے اوس کے بچہ پیدا ہوا تو بچہ کو بھی ذبح کر ڈالے اور اگر بچہ کوچ ڈالا تو اوس کا ثمن صدقہ کر دے اور اگر نہ ذبح کیا نہ بیچ کیا اور ایام نحر^(۵) گزر گئے تو اوس کو زندہ صدقہ کر دے اور اگر کچھ نہ کیا اور بچہ اوس کے یہاں رہا اور قربانی کا زمانہ آ گیا یہ چاہتا ہے کہ اس سال کی قربانی میں اسی کو ذبح کرے یہ نہیں کر سکتا اور اگر قربانی اسی کی کر دی تو دوسری قربانی پھر کرے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی اور وہ بچہ ذبح کیا ہو صدقہ کر دے بلکہ ذبح سے جو کچھ اوس کی قیمت میں کمی ہوئی اسے بھی صدقہ کرے۔^(۶) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب السادس فی بیان ما یستحب... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۱.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۴۴.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب السادس فی بیان ما یستحب... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۱.

④..... المرجع السابق.

⑤..... قربانی کے دن یعنی دس، گیارہ، بارہ ذی الحجہ کے دن۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب السادس فی بیان ما یستحب... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۱-۳۰۲.

مسئلہ ۳۷ - قربانی کی اور اوس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور اسے صرف میں لاسکتا ہے اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے مردار ہے۔

دوسرے کے قربانی کے جانور کو بلا اجازت ذبح کر دیا

مسئلہ ۳۸ - دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذبح کر دی یعنی ہر ایک نے دوسرے کی بکری کو اپنی سمجھ کر قربانی کر دیا تو بکری جس کی تھی اسی کی قربانی ہوئی اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا لہذا دونوں کی قربانیاں ہو گئیں اور اس صورت میں کسی پر تاوان نہیں بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے اور فرض کرو کہ ہر ایک کو اپنی غلطی اوس وقت معلوم ہوئی جب اوس بکری کو صرف کر چکا تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہذا ہر ایک دوسرے سے معاف کر لے اور اگر معافی پر راضی نہ ہوں تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈالا گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے اس تاوان کو صدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کے معاوضہ کا یہی حکم ہے۔ یہ تمام باتیں اوس وقت ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے اس فعل پر کہ اوس نے اس کی بکری ذبح کر ڈالی راضی ہو تو جس کی بکری تھی اسی کی قربانی ہوئی اور اگر راضی نہ ہو تو بکری کی قیمت کا تاوان لے گا اور اس صورت میں جس نے ذبح کی اوس کی قربانی ہوئی یعنی بکری کا جب تاوان لیا تو بکری ذبح کی (۱) ہوگی اور اسی کی جانب سے قربانی ہوئی اور گوشت کا بھی یہی مالک ہوا۔ (۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۹ - دوسرے کی قربانی کی بکری بغیر اوس کی اجازت کے قصداً ذبح کر دی اس کی دو صورتیں ہیں مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی یا اپنی طرف سے، اگر مالک کی نیت سے قربانی کی تو اوس کی قربانی ہوگی کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کر دیا گیا اس صورت میں مالک اوس سے تاوان نہیں لے سکتا اور اگر اوس نے اپنی طرف سے قربانی کی اور ذبح شدہ بکری کے لینے پر مالک راضی ہے تو قربانی مالک کی جانب سے ہوئی اور ذبح کی نیت کا اعتبار نہیں اور مالک اگر اس پر راضی نہیں بلکہ بکری کا تاوان لیتا ہے تو مالک کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ ذبح کی ہوئی کہ تاوان دینے سے بکری کا مالک ہو گیا اور اوس کی اپنی قربانی ہوگی۔ (۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۴۰ - اگر بکری قربانی کے لیے معین نہ ہو تو بغیر اجازت مالک اگر دوسرا شخص قربانی کر دے گا تو قربانی نہ ہوگی مثلاً ایک شخص نے پانچ بکریاں خریدی تھیں اور اوس کا یہ خیال تھا کہ ان میں سے ایک بکری کو قربانی کروں گا اور اون میں ذبح کرنے والے کی۔

①..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الأضحية، ج ۹، ص ۵۴۴-۵۴۶.

②..... المرجع السابق، ص ۵۴۶.

سے کسی ایک کو معین نہیں کیا تھا تو دوسرا شخص مالک کی جانب سے قربانی نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو تاوان لازم ہوگا ذبح کے بعد مالک اوس کی قربانی کی نیت کرے بیکار ہے یعنی اس صورت میں قربانی نہیں ہوئی۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ - دوسرے کی بکری غصب کر لی اور اوس کی قربانی کر لی اگر مالک نے زندہ بکری کا اوس شخص سے تاوان لے لیا تو قربانی ہوگئی مگر یہ شخص گنہگار ہے اس پر توبہ واستغفار لازم ہے اور اگر مالک نے تاوان نہیں لیا بلکہ ذبح کی ہوئی بکری لی اور ذبح کرنے سے جو کچھ کمی ہوئی اوس کا تاوان لیا تو قربانی نہیں ہوئی۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۲ - اپنی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کر دی اوس کے حکم سے ایسا کیا یا بغیر حکم بہر صورت اوس کی قربانی نہیں کیونکہ اوس کی طرف سے قربانی اوس وقت ہو سکتی ہے جب اوس کی ملک ہو۔⁽³⁾ (شلبیہ)

مسئلہ ۳۳ - ایک شخص کے پاس کسی کی بکری امانت کے طور پر تھی امین نے قربانی کر دی یہ قربانی صحیح نہیں نہ مالک کی طرف سے نہ امین کی طرف سے اگرچہ مالک نے امین سے اپنی بکری کا تاوان لیا ہو اسی طرح اگر کسی کا جانور اس کے پاس عاریت یا اجارہ کے طور پر⁽⁴⁾ ہے اور اس نے قربانی کر دیا یہ قربانی جائز نہیں۔ مرہون کو⁽⁵⁾ راہن نے⁽⁶⁾ قربانی کیا تو ہو جائے گی کہ جانور اوس کی ملک ہے اور مرہون نے کیا تو اس میں اختلاف ہے۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۴ - مویشی خانہ کے جانور ایک مدت مقررہ کے بعد نیلام ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اوسے لے لیتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ یہ جانور اس کی ملک نہیں۔

مسئلہ ۳۵ - دو شخصوں کے مابین ایک جانور مشترک ہے⁽⁸⁾ اوس کی قربانی نہیں ہو سکتی کہ مشترک مال میں دونوں کا حصہ ہے ایک کا حصہ دوسرے کے پاس امانت ہے اور اگر دو جانوروں میں دو شخص برابر کے شریک ہیں ہر ایک نے ایک ایک کی قربانی کر دی دونوں کی قربانیاں ہو جائیں گی۔⁽⁹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ - ایک شخص کے نوبال بچے ہیں اور ایک خود، اوس نے دس بکریوں کی قربانی کی اور یہ نیت نہیں کہ کس کی

①..... "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۷.

②..... المرجع السابق.

③..... "حاشیة الشلیبۃ" هامش علی "تبیین الحقائق"، کتاب الأضحیة، ج ۶، ص ۴۸۸.

④..... یعنی کرائے کے طور پر۔ ⑤..... رہن رکھی ہوئی چیز کو۔ ⑥..... رہن رکھوانے والے نے۔

⑦..... "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۷.

⑧..... یہاں جانور سے مراد بکری یا اس جیسا جانور مراد ہے جس میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے۔... علمیہ

⑨..... "ردالمحتار"، کتاب الأضحیة، ج ۹، ص ۵۴۸.

طرف سے کس بکری کی قربانی ہے مگر یہ نیت ضرور ہے کہ دسوں بکریاں ہم دسوں کی طرف سے ہیں یہ قربانی جائز ہے سب کی قربانیاں ہو جائیں گی۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۷ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی اگر وہ نابالغ ہیں تو سب کی قربانیاں جائز ہیں اور بالغ ہیں اور سب لڑکوں نے کہہ دیا ہے تو سب کی طرف سے صحیح ہے اور اگر انھوں نے کہا نہیں یا بعض نے نہیں کہا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ بیع فاسد کے ذریعہ بکری خریدی اور قربانی کر دی یہ قربانی ہوگئی کہ بیع فاسد میں قبضہ کر لینے سے ملک ہو جاتی ہے اور بائع کو اختیار ہے اگر اس نے زندہ بکری کی واجبی قیمت مشتری سے لے لی تو اب اس کے ذمہ کچھ واجب نہیں اور اگر بائع نے ذبح کی ہوئی بکری لے لی تو قربانی کرنے والا اس ذبح کی ہوئی بکری کی قیمت صدقہ کرے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۹ ایک شخص نے دوسرے کو بکری ہبہ کر دی موہوب لہ⁽⁴⁾ نے اس کی قربانی کر دی اس کے بعد واہب⁽⁵⁾ اپنا ہبہ واپس لینا چاہتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور موہوب لہ کی قربانی صحیح ہے اور اس کے ذمہ کچھ صدقہ کرنا بھی واجب نہیں۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

متفرق مسائل

مسئلہ ۵۰ دوسرے سے قربانی ذبح کرائی ذبح کے بعد وہ یہ کہتا ہے میں نے قصداً بِسْمِ اللّٰهِ نہیں پڑھی اس کو اس جانور کی قیمت دینی ہوگی پھر اگر قربانی کا وقت باقی ہے تو اس قیمت سے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے اور اس کا گوشت صدقہ کرے خود نہ کھائے اور وقت باقی نہ ہو تو اس قیمت کو صدقہ کر دے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۱ تین شخصوں نے تین بکریاں قربانی کے لیے خریدیں پھر یہ بکریاں مل گئیں پتا نہیں چلتا کہ کس کی کونسی بکری ہے اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو ذبح کرنے کا وکیل کر دے سب کی قربانیاں ہو جائیں گی کہ اس نے

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الخامس فی بیان محل إقامة الواجب... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۰.

②..... المرجع السابق، الباب السابع فی التضحیۃ عن الغیر... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۲.

③..... المرجع السابق.

④..... جسے بکری ہبہ کی گئی۔ ⑤..... ہبہ کرنے والا۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب السابع فی التضحیۃ عن الغیر... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۳.

⑦..... المرجع السابق.

اپنی بکری ذبح کی جب بھی جائز ہے اور دوسرے کی ذبح کی جب بھی جائز ہے کہ یہ اوس کا وکیل ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۲ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر دشم اللہ کہنا واجب ہے ایک نے بھی قصداً چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔⁽²⁾ (در مختار)

مسئلہ ۵۳ قربانی کے لیے گائے خریدی پھر اس میں چھ شخصوں کو شریک کر لیا سب کی قربانیاں ہو جائیں گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے ہاں اگر خریدنے ہی کے وقت اوس کا یہ ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شریک کروں گا تو مکروہ نہیں اور اگر خریدنے سے پہلے ہی شرکت کر لی جائے تو یہ سب سے بہتر اور اگر غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے گائے خریدی تو خریدنے سے ہی اوس پر اس گائے کی قربانی واجب ہوگئی اب وہ دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۴ پانچ شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی ایک شخص آتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے بھی اس میں شریک کر لو چار نے منظور کر لیا اور ایک نے انکار کیا اوس گائے کی قربانی ہوئی سب کی طرف سے جائز ہوگئی کیونکہ یہ چھٹا شخص اون چاروں کا شریک ہے اور ان میں ہر ایک کا ساتویں حصہ سے زیادہ ہے اور گوشت یوں تقسیم ہوگا کہ پانچواں حصہ اوس کا ہے جس نے شرکت سے انکار کیا باقی چار حصوں کو یہ پانچوں برابر بانٹ لیں۔ یا یوں کرو کہ پچیس حصے کر کے اوس کو پانچ حصے دو جس نے شرکت سے انکار کیا ہے باقیوں کو چار چار حصے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۵ قربانی کے لیے بکری خریدی اور قربانی کر دی پھر معلوم ہوا کہ بکری میں عیب ہے مگر ایسا عیب نہیں جس کی قربانی نہ ہو سکے اس کو اختیار ہے کہ اوس کی وجہ سے جو کچھ قیمت میں کمی ہو سکتی ہے وہ بائع سے واپس لے لے اور اوس کا صدقہ کرنا اس پر واجب نہیں اور اگر بائع⁽⁵⁾ کہتا ہے کہ میں ذبح کی ہوئی بکری لوں گا اور ثمن واپس کر دوں گا تو مشتری⁽⁶⁾ اس ثمن کو صدقہ کر دے صرف اتنا حصہ جو عیب کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے اوس کو رکھ سکتا ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۶ قربانی کی ذبح کی ہوئی بکری غصب کر لی غاصب سے اس کا تاوان لے لے سکتا ہے مگر اس تاوان کو صدقہ

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب السابع فی التضحیۃ عن الغیر... إلخ، ج ۵، ص ۳۰۴.

②..... "الدر المختار"، کتاب الأضحیۃ، ج ۹، ص ۵۵۱.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب الثامن فیما یعلق بالشركة فی الضحایا، ج ۵، ص ۳۰۴.

④..... المرجع السابق، ص ۳۰۴، ۳۰۵.

⑤..... بیچنے والا۔ ⑥..... خریدار۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الأضحیۃ، الباب التاسع فی المنفرقات، ج ۵، ص ۳۰۷.

کرنا ضروری ہے کہ یہ اوس قربانی کا معاوضہ ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵۷ مالک نصاب نے قربانی کی منت مانی تو اوس کے ذمہ دو قربانیاں واجب ہو گئیں ایک وہ جو غنی پر واجب ہوتی ہے اور ایک منت کی وجہ سے۔ دو یا دو سے زیادہ قربانیوں کی منت مانی تو جتنی قربانیوں کی منت ہے سب واجب ہیں۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵۸ ایک سے زیادہ قربانی کی سب قربانیاں جائز ہیں ایک واجب باقی نفل اور اگر ایک پوری گائے قربانی کی تو پوری سے واجب ہی ادا ہوگا یہ نہیں کہ ساتواں حصہ واجب ہو باقی نفل۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

تنبیہ: قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکے اب مختصر طور پر اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو۔ قربانی کا جانور اون شرائط کے موافق ہو جو مذکور ہوئیں یعنی جو اوس کی عمر بتائی گئی اوس سے کم نہ ہو اور اون عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے اور بہتر یہ کہ عمدہ اور فرہ ہو۔ قربانی سے پہلے اوسے چارہ پانی دے دیں یعنی بھوکا پیاسا زنج نہ کریں۔ اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اوس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اوس کا منہ ہو اور اپنا داہنا پاؤں اوس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے اور ذبح سے پہلے یہ دُعا پڑھی جائے۔

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِي لِلذِّمَى فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ.⁽⁴⁾

اسے پڑھ کر ذبح کر دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دُعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ⁽⁵⁾ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب التاسع في المتفرقات، ج ۵، ص ۳۰۷.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الأضحية، ج ۹، ص ۵۴۹، ۵۵۰.

③..... المرجع السابق، ص ۵۵۱.

④..... میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں، اے اللہ (عز و جل) تیرے ہی لیے اور تیری ہی ہوئی توفیق سے، اللہ کے نام سے شروع اللہ سب سے بڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔

⑤..... اے اللہ (عز و جل) تو مجھ سے (اس قربانی کو) قبول فرما جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبول فرمائی۔

اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم تین رگیں کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرہ تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے یعنی جب تک اوس کی روح بالکل نہ نکل جائے اوس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو مینے کی جگہ من کے بعد اوس کا نام لے۔ اور اگر وہ مشترک جانور ہے جیسے گائے اونٹ تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے محض تخمینہ سے (1) تقسیم نہ کریں۔ پھر اس گوشت کے تین حصے کر کے ایک حصہ فقرا پر تصدق کرے (2) اور ایک حصہ دوست و احباب کے یہاں بھیجے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور اس میں سے خود بھی کچھ کھالے اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو تہائی سے زیادہ بلکہ کل گوشت بھی گھر کے صرف میں (3) لاسکتا ہے۔ اور قربانی کا چمڑا اپنے کام میں بھی لاسکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دیدے مثلاً مسجد یا دینی مدرسہ کو دیدے یا کسی فقیر کو دیدے۔ بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر ہو تو حرج نہیں۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقر عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے یہ مستحب ہے اس کے خلاف کرے جب بھی حرج نہیں۔ (4)

فائدہ: احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی یہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا اور جو لوگ قربانی نہ کر سکے اون کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی۔ یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیونکر ہو سکتا ہے یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے اون کی قربانی کیونکر ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ جس طرح حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے چھ مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرمادی اوروں کے لیے اس کی ممانعت کر دی۔ اسی طرح اس میں خود حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی خصوصیت ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہے نصیب اور بہتر سینگ والا مینڈھا ہے جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش ہو جیسے مینڈھے کی خود حضور اکرم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے قربانی فرمائی۔

عقیقہ کا بیان

اس کے متعلق پہلے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔

①..... اندازہ سے۔ ②..... صدقہ کر دے۔ ③..... استعمال میں۔

④..... "البحر الرائق"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة... إلخ، ج ۲، ص ۵۷.

حدیث ۱ → امام بخاری نے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”لڑکے کے ساتھ عقیدہ ہے اوس کی طرف سے خون بہاؤ (یعنی جانور ذبح کرو) اور اوس سے اذیت کو دور کرو“ (۱) یعنی اوس کا سر موٹا دو۔

حدیث ۲ → ابوداؤد ترمذی و نسائی نے ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک اس میں حرج نہیں کہ نہ ہوں یا مادہ۔“ (۲)

حدیث ۳ → امام احمد و ابوداؤد ترمذی و نسائی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لڑکا اپنے عقیدہ میں گروی ہے ساتویں دن اوس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اوس کا نام رکھا جائے اور سر موٹا جائے۔“ (۳) گروی ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ اوس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیدہ نہ کیا جائے اور بعض نے کہا بچہ کی سلامتی اور اوس کی نشوونما اور اوس میں اچھے اوصاف ہونا عقیدہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔

حدیث ۴ → ترمذی نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیدہ میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا کہ ”اے فاطمہ اس کا سر موٹا دو اور بال کے وزن کی چاندی صدقہ کرو“ ہم نے بالوں کو وزن کیا تو ایک درہم یا کچھ کم تھے۔ (۴)

حدیث ۵ → ابوداؤد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے ایک ایک مینڈھے کا عقیدہ کیا اور نسائی کی روایت میں ہے کہ دو دو مینڈھے۔ (۵)

حدیث ۶ → ابوداؤد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اوس کا خون بچہ کے سر پر پوت دیتا (۶) اب جبکہ اسلام آیا تو ساتویں دن ہم بکری ذبح کرتے ہیں اور بچہ کا سر موٹاتے ہیں اور سر پر زعفران لگا دیتے ہیں۔ (۷)

حدیث ۷ → ابوداؤد ترمذی ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما

①....."صحيح البخاري"، كتاب العقيدة، باب إمامة الأذى عن الصبي في العقيدة، الحديث: ۵۴۷۲، ج ۳، ص ۵۴۷.

②....."سنن أبي داود"، كتاب الضحايا، باب العقيدة، الحديث: ۲۸۳۵، ج ۳، ص ۱۴۱.

③....."جامع الترمذي"، كتاب الأضاحي، باب من العقيدة، الحديث: ۱۵۲۷، ج ۳، ص ۱۷۷.

④.....المرجع السابق، باب العقيدة بشاة، الحديث: ۱۵۲۴، ص ۱۷۵.

⑤....."سنن أبي داود"، كتاب الضحايا، باب العقيدة، الحديث: ۲۸۴۱، ج ۳، ص ۱۴۳.

⑥....."سنن النسائي"، كتاب العقيدة، باب كم يعق عن الحارية، الحديث: ۴۲۲۵، ص ۶۸۸.

⑦....."سنن أبي داود"، كتاب الضحايا، باب العقيدة، الحديث: ۲۸۴۳، ج ۳، ص ۱۴۴.

پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اون کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔⁽¹⁾

حدیث ۸ → امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تحنیک کرتے یعنی کوئی چیز مثلاً کھجور چبا کر اوس بچہ کے تالو میں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اوس کے شکم میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا لعاب دہن پہنچے۔⁽²⁾

حدیث ۹ → بخاری و مسلم حضرت اسمائت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہتی ہیں کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ نبی میں ہجرت سے قبل میرے پیٹ میں تھے بعد ہجرت قبا میں یہ پیدا ہوئے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی گود میں ان کو رکھ دیا پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے کھجور منگائی اور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی اور ان کے لیے دُعا کی اور بعد ہجرت مسلمان مہاجرین کے یہاں یہ سب سے پہلے بچہ ہیں۔⁽³⁾

مسائل: بچہ پیدا ہونے کے شکر یہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اوس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک عقیدہ مباح و مستحب ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ عقیدہ سنت نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں ورنہ جب خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل سے اس کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنیت سے انکار صحیح نہیں۔ بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ قربانی سے یہ منسوخ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اوس کا وجوب منسوخ ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نے حقوق مالیہ کو منسوخ کر دیا یعنی اون کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اوس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے اذان کہنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ دہنے کان میں چار مرتبہ اذان اور بائیں میں تین مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے۔ یہ نہ چاہیے بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے۔ ساتویں دن اوس کا نام رکھا جائے اور اوس کا سر مونڈا جائے اور سر مونڈنے کے وقت عقیدہ کیا جائے۔ اور بالوں کو وزن کر کے اوتی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔

مسئلہ ۱ → ہندوستان میں عموماً بچہ پیدا ہونے پر چھٹی⁽⁴⁾ کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں اس موقع پر ناجائز رسمیں برتی جاتی ہیں مثلاً عورتوں کا گانا بجانا ایسی باتوں سے بچنا اور ان کو چھوڑنا ضروری و لازم ہے بلکہ مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت ہے۔ عقیدہ سے بہت زائد رسوم میں صرف کر دیتے ہیں اور عقیدہ نہیں

①..... "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه، الحديث: ٥١٠٥، ج ٤، ص ٤٢٣.

②..... "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع... إلخ، الحديث: ١٠١- (٢٨٦)، ص ١٦٥.

③..... "صحيح البخاري"، كتاب العقيدة، باب تسمية المولود... إلخ، الحديث: ٥٤٦٩، ج ٣، ص ٥٤٦.

④..... بچے کی پیدائش کے چھٹے دن منائی جانے والی خوشی۔

کرتے۔ عقیقہ کریں تو سنت بھی ادا ہو جائے اور مہمانوں کے کھلانے کے لیے گوشت بھی ہو جائے۔

مسئلہ ۲ بچہ کا اچھا نام رکھا جائے۔ ہندوستان میں بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے کچھ معنی نہیں یا اون کے برے معنی ہیں ایسے ناموں سے احتراز کریں۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسمائے طیبہ اور صحابہ و تابعین و بزرگان دین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے امید ہے کہ اون کی برکت بچہ کے شامل حال ہو۔

مسئلہ ۳ عبد اللہ و عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں مگر اس زمانہ میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن اوس شخص کو بہت سے لوگ رحمن کہتے ہیں اور غیر خدا کو رحمن کہنا حرام ہے۔ اسی طرح عبد الخالق کو خالق اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر کا رواج ہے یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے اور ایسے ناموں میں تصغیر ہرگز نہ کی جائے لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی یہ نام نہ رکھے جائیں دوسرے نام رکھے جائیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ ۴ محمد بہت پیارا نام ہے اس نام کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے اگر تصغیر کا اندیشہ نہ ہو تو یہ نام رکھا جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ عقیقہ کا یہ نام ہو اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا جائے اور ہندوستان میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے ہیں اس صورت میں نام کی برکت بھی ہوگی اور تصغیر سے بھی بچ جائیں گے۔

مسئلہ ۵ مردہ بچہ پیدا ہوا تو اوس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں بغیر نام اس کو دفن کر دیں⁽²⁾ اور زندہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا جائے اگر چہ پیدا ہو کر مر جائے۔⁽³⁾

مسئلہ ۶ عقیقہ کے لیے ساتواں دن بہتر ہے اور ساتویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض نے یہ کہا کہ ساتویں یا چودھویں یا اکیسویں دن یعنی سات دن کا لحاظ رکھا جائے یہ بہتر ہے اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا اوس دن کو یاد رکھیں اوس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے وہ ساتواں ہوگا مثلاً جمعہ کو پیدا ہوا تو جمعرات ساتویں دن ہے اور سنچر کو پیدا ہوا تو ساتویں دن جمعہ ہوگا پہلی صورت میں جس جمعرات کو اور دوسری صورت میں جس جمعہ کو عقیقہ کرے گا اوس میں ساتویں کا حساب ضرور آئے گا۔

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی والعشرون فی تسمیۃ الاولاد... إلخ، ج ۵، ص ۳۶۲، وغیرہ۔

②..... یہ ظاہر الروایہ ہے مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ بہر حال اس کی تکریم کے لیے اس کا نام رکھا جائے۔ ملتقی الابحر میں ہے کہ اس پر فتویٰ ہے اور نہر سے مستفاد ہے کہ یہی مختار ہے ایسا ہی در مختار باب صلاۃ الجنائز جلد ۳، صفحہ ۱۵۳ میں ہے۔ بہار شریعت، ج ۱ حصہ ۲، صفحہ ۸۴۱، نماز جنازہ کا بیان میں بھی اسی کو اختیار کیا اور اس حصے پر اعلیٰ حضرت کی یہ تصدیق بھی ہے کہ اسے مسائل صحیحہ، رجیحہ، محققہ، منقحہ پر مشتمل پایا لہذا مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنا چاہئے۔... علمینہ

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی والعشرون فی تسمیۃ الاولاد... إلخ، ج ۵، ص ۳۶۲۔

مسئلہ ۷ - لڑکے کے عقیقہ میں دو بکرے اور لڑکی میں ایک بکری ذبح کی جائے یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے۔ اور لڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا جب بھی حرج نہیں۔ اور عقیقہ میں گائے ذبح کی جائے تو لڑکے کے لیے دو حصے اور لڑکی کے لیے ایک حصہ کافی ہے یعنی سات حصوں میں دو حصے یا ایک حصہ۔

مسئلہ ۸ - گائے کی قربانی ہوئی اس میں عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے جس کا ذکر قربانی میں گزرا۔

مسئلہ ۹ - بچہ کا سر مونڈنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے۔

مسئلہ ۱۰ - عقیقہ کا جانور اونٹوں کے ساتھ ہونا چاہیے جیسا قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا گوشت فقرا اور عزیز

و قریب دوست و احباب کو کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا اون کو بطور ضیافت ^(۱) دعوت کھلایا جائے یہ سب صورتیں جائز ہیں۔

مسئلہ ۱۱ - بہتر یہ ہے کہ اوس کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت اوتا ر لیا جائے یہ بچہ کی سلامتی کی نیک

فال ہے ^(۲) اور ہڈی توڑ کر گوشت بنایا جائے اس میں بھی حرج نہیں۔ گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں مگر بیٹھا پکا یا جائے تو بچہ کے اخلاق اچھے ہونے کی فال ہے۔

مسئلہ ۱۲ - بعض کا یہ قول ہے کہ سری پائے حجام کو اور ایک ران دانی کو دیں باقی گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ فقرا

کا ایک احباب کا اور ایک حصہ گھر والے کھائیں۔

مسئلہ ۱۳ - عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچہ کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی نہ کھائیں یہ محض غلط

ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

مسئلہ ۱۴ - لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریوں کی جگہ ایک ہی بکری کسی نے کی تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک حدیث سے بظاہر

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ میں ایک مینڈھا ذبح ہوا۔

مسئلہ ۱۵ - اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ اپنے صرف میں لائے یا مساکین کو دے یا کسی اور

نیک کام مسجد یا مدرسہ میں صرف کرے۔

مسئلہ ۱۶ - عقیقہ میں جانور ذبح کرتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے او سے پڑھ سکتے ہیں اور یاد نہ ہو تو بغیر دعا

پڑھے بھی ذبح کرنے سے عقیقہ ہو جائے گا۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ قَدْ تَمَّ هَذَا الْجُزْءُ بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی اَفْضَلِ

خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَاٰلِهِ وَجَزِيْهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

وَ اَنَا الْفَقِيْرُ اَبُو الْعَلَا مُحَمَّدٌ اَمَّجَدٌ عَلٰی الْاَعْظَمٰی عَفٰی عَنْهُ.

①..... یعنی بطور مہمان نوازی۔ ②..... یعنی نیک شگون ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ط

حظر و اباحت کا بیان (1)

اس کتاب میں ان چیزوں کا بیان ہے جو شرعاً ممنوع یا مباح ہیں۔ اصطلاح شرح میں مباح اس کو کہتے ہیں، جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے۔ مکروہ کی دونوں قسموں کی تعریفیں حصہ دوم (2) میں ذکر کر دی گئیں وہاں سے معلوم کریں۔

اس کتاب کے مسائل چند ابواب پر منقسم ہیں۔ سب سے پہلے کھانے پینے سے جن مسائل کا تعلق ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ انسانی زندگی کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوا مِمَّا طَيَّبَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۗ ﴾ (3)

”اے ایمان والو! اللہ (عزوجل) نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ (عزوجل) حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اللہ (عزوجل) نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اللہ (عزوجل) سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔“
اور فرماتا ہے:

﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ صَدُوقٌ مُّبِينٌ ۗ ﴾ (4)

”کھاؤ اس میں سے جو اللہ (عزوجل) نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“
اور فرماتا ہے:

﴿ يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ ﴾

②..... یعنی بہار شریعت، ج ۱، حصہ دوم۔

①..... یعنی ممنوع اور مباح چیزوں کا بیان۔

③..... پ ۷، المآئدة: ۸۷ - ۸۸۔

④..... پ ۸، الانعام: ۱۴۲۔

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ (1)

”اے بنی آدم! اپنی زینت لو، جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور اسراف (زیادتی) نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محبوب! تم فرما دو، کس نے حرام کی اللہ (عزوجل) کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور ستھرا رزق، تم فرما دو کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن تو خاص انہیں کے لیے ہے، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ تم فرما دو کہ میرے رب (عزوجل) نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں ظاہر ہیں اور جو چھپی ہیں اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ (عزوجل) کا شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ اللہ (عزوجل) پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔“ اور فرماتا ہے:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ مَفَاتِحَ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ (2)

”نہ اندھے پر تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر مضایقہ اور نہ بیمار پر حرج اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے گھر یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے گھر یا اپنے ماموؤں کے گھر یا اپنی خالائوں کے گھر یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ مجتمع ہو کر کھاؤ یا الگ الگ۔“ پہلے کھانے کے متعلق چند حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ صحیح مسلم شریف میں حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔“ (4) یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔

① ۸، الاعراف: ۳۱ - ۳۳۔

② پ ۱۸، النور: ۶۱۔

③ بہار شریعت میں اس مقام پر ﴿أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ﴾ کا ترجمہ ”یا اپنے ماموؤں کے گھر“ موجود نہیں تھا، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے لہذا متن میں کنز الایمان سے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔... علمیہ

④ ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشرب... إلخ، الحدیث: ۱۰۲ - (۲۰۱۷)، ص ۱۱۱۶۔

حدیث ۲ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے، اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا۔“ (1)

حدیث ۳ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا (یعنی یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے ربیب اور اُم المؤمنین اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں) کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ، جو تمہارے قریب ہے۔“ (2)

حدیث ۴ ابوداؤد و ترمذی و حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ (عزوجل) کا نام ذکر کرے یعنی بسم اللہ پڑھے اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔“ (3)

اور امام احمد و ابن ماجہ و ابن حبان و بیہقی کی روایت میں یوں ہے۔ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ (4)

حدیث ۵ امام احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و حاکم و حشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ ارشاد فرمایا: ”مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔“ (5) ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا۔ ارشاد فرمایا کہ ”شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے۔ عرض کی، ہاں۔ فرمایا: اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔“ (6)

حدیث ۶ شرح سنن میں ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی،

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشرب... إلخ، الحدیث: ۱۰۳- (۲۰۱۸)، ص ۱۱۱۶.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۰۸- (۲۰۲۲)، ص ۱۱۱۸.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، الحدیث: ۳۷۶۷، ج ۳، ص ۴۸۷.

④..... ”سنن ابن ماجه“، کتاب الأطعمة، باب التسمية عند الطعام، الحدیث: ۳۲۶۴، ج ۴، ص ۱۱.

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب في الاجتماع على الطعام، الحدیث: ۳۷۶۴، ج ۳، ص ۴۸۶.

⑥..... ”سنن ابن ماجه“، کتاب الأطعمة، باب الاجتماع على الطعام، الحدیث: ۳۲۸۶، ج ۴، ص ۲۱.

ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)! ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا: ”ہم سب نے کھانے کے وقت بِسْمِ اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بِسْمِ اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھالیا۔“ (1)

حدیث ۷ ابو داؤد نے اُمیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: ایک شخص بغیر بِسْمِ اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا: بِسْمِ اللہِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے تبسم کیا اور یہ فرمایا کہ ”شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ (عزوجل) کا نام ذکر کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اُگل دیا۔“ (2) اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بِسْمِ اللہ نہ کہنے سے کھانے کی برکت جو چلی گئی تھی واپس آگئی۔

حدیث ۸ صحیح مسلم میں حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) شروع نہ کرتے، کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس حاضر تھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔

اور یہ فرمایا کہ ”جب کھانے پر اللہ (عزوجل) کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر اس اعرابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اللہ (عزوجل) کا نام ذکر کیا یعنی بِسْمِ اللہ کہی اور کھانا کھایا۔“ (3) اسی کے مثل امام احمد و ابو داؤد و نسائی و حاکم نے بھی روایت کی ہے۔

حدیث ۹ ابن عساکر نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ ”جس کھانے پر اللہ (عزوجل) کا نام ذکر نہ کیا ہو، وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بِسْمِ اللہ پڑھ کر کچھ کھالے اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بِسْمِ اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔“ (4)

①..... ”شرح السنۃ“، کتاب الأطعمۃ، باب التسمیۃ علی الأکل... إلخ، الحدیث: ۲۸۱۸، ج ۶، ص ۶۱-۶۲.

②..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الأطعمۃ، باب التسمیۃ علی الطعام، الحدیث: ۳۷۶۸، ج ۳، ص ۳۸۸.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربۃ، باب آداب الطعام والشرب... إلخ، الحدیث: ۱۰۲- (۲۰۱۷)، ص ۱۱۱۶.

④..... ”تاریخ دمشق“ لابن عساکر، رقم: ۱۲۴۷۴، ج ۶۰، ص ۳۲۵.

حدیث ۱۰ — ویلی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے: بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.“ (1)

پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی، اگرچہ اس میں زہر ہو۔“ (2)

حدیث ۱۱ — صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔“ (3)

حدیث ۱۲ — صحیح مسلم میں انھیں سے مروی ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، نہ پانی پیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔“ (4)

حدیث ۱۳ — ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دہنے ہاتھ سے کھائے اور دہنے ہاتھ سے پیے اور دہنے ہاتھ سے لے اور دہنے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے اور بائیں سے لیتا ہے اور بائیں سے دیتا ہے۔“ (5)

حدیث ۱۴ — ابن النجار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”تین انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔“ (6)

اور حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”تین انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب (گنواروں) کا طریقہ ہے۔“ (7)

حدیث ۱۵ — صحیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پونچھنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیتے۔ (8)

①..... ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے!

②..... ”الفردوس بما نُور الخطاب“، الحدیث: ۱۱۱۳، ج ۱، ص ۱۶۸.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشرب... إلخ، الحدیث: ۱۰۵- (۲۰۲۰)، ص ۱۱۱۷.

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۰۶- (۲۰۲۰)، ص ۱۱۱۷.

⑤..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأطعمة، باب الأكل باليمين، الحدیث: ۳۲۶۶، ج ۴، ص ۱۲.

⑥..... ”الجامع الصغير“ للسيوطي، الحدیث: ۳۰۷۴، ص ۱۸۴.

⑦..... ”کنز العمال“، کتاب المعيشة... إلخ، رقم: ۴۰۸۷۲، ج ۱۵، ص ۱۱۵.

⑧..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب استحباب لعق الاصابع... إلخ، الحدیث: ۱۳۲- (۲۰۳۲)، ص ۱۱۲۲.

حدیث ۱۶ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ”تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔“ (1)

حدیث ۱۷ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کھانے کے بعد ہاتھ کو نہ پونچھے، جب تک چاٹ نہ لے یا دوسرے کو چٹا نہ دے۔“ (2) یعنی ایسے شخص کو چٹا دے جو کراہت و نفرت نہ کرتا ہو، مثلاً تلامذہ و مریدین کہ یہ استاد و شیخ کے جھوٹے کو تبرک جانتے ہیں اور بڑی خوشی سے استعمال کرتے ہیں۔

حدیث ۱۸ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے نسیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔“ (3)

رزین کی روایت میں یہ بھی ہے، کہ وہ برتن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ (4)

حدیث ۱۹ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے کھانے اور پانی میں پھونکنے سے ممانعت فرمائی۔ (5)

حدیث ۲۰ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھالے اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔“ (6)

حدیث ۲۱ ابن ماجہ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب استحباب لعق الاصابع... إلخ، الحدیث: ۱۳۳- (۲۰۳۳)، ص ۱۱۲۲.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأطعمة، باب لعق الاصابع... إلخ، الحدیث: ۵۴۵۶، ج ۳، ص ۵۴۲.

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند البصریین، حدیث نبیة الہذلی، الحدیث: ۲۰۷۵۰، ج ۷، ص ۳۸۲.

④..... ”مشکاة المصابیح“، کتاب الأطعمة، الفصل الثالث، الحدیث: ۴۲۴۲، ج ۲، ص ۴۵۵.

⑤..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، الحدیث: ۲۸۱۸، ج ۱، ص ۶۶۲.

و ”المعجم الأوسط“ باب المیم، الحدیث: ۵۱۳۸، ج ۴، ص ۴۰.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب استحباب لعق الاصابع... إلخ، الحدیث: ۱۳۵- (۲۰۳۳)، ص ۱۱۲۳.

تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھالیا اور صاف کر کے کھالیا۔ یہ دیکھ کر گنواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا (کہ یہ کتنی حقیر و ذلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمہ کو انہوں نے کھالیا) کسی نے ان سے کہا، خدا امیر کا بھلا کرے (معقل بن یسار وہاں امیر و سردار کی حیثیت سے تھے) یہ گنوار نکلیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھالیا اور آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا ان عجیبوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہم کو حکم تھا کہ جب لقمہ گر جائے، اسے صاف کر کے کھا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔⁽¹⁾

حدیث ۲۲ ابن ماجہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا پھر کھالیا اور فرمایا: ”عائشہ! اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز (یعنی روٹی) جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔“⁽²⁾ یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔

حدیث ۲۳ طبرانی نے عبد اللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ ”روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھالے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔“⁽³⁾

حدیث ۲۴ دارمی نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ جب ان کے پاس شریڈ لایا جاتا تو حکم کرتیں کہ چھپا دیا جائے کہ اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے اور فرماتیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔⁽⁴⁾

حدیث ۲۵ حاکم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابوداؤد اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہ ارشاد فرمایا: ”کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔“⁽⁵⁾

حدیث ۲۶ صحیح بخاری شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا، اُس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأطعمة، باب اللقمة إذا سقطت، الحدیث: ۳۲۷۸، ج ۴، ص ۱۷.

②..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأطعمة، باب النهی عن إلقاء الطعام، الحدیث: ۳۳۵۳، ج ۴، ص ۴۹.

③..... ”الجامع الصغير“ للسیوطی، الحدیث: ۱۴۲۶، ص ۸۸.

④..... ”سنن الدارمی“، کتاب الأطعمة، باب النهی عن اكل الطعام الحار، الحدیث: ۲۰۴۷، ج ۲، ص ۱۳۷.

⑤..... ”المستدرک“ للحاکم، کتاب الأطعمة، باب أبردوا الطعام الحار، الحدیث: ۷۲۰۷، ج ۵، ص ۱۶۲.

مُودِعٌ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. (1)

حدیث ۲۷ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس

بندہ سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ (عزوجل) کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے۔“ (2)

حدیث ۲۸ ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کھانے سے فارغ ہو کر یہ پڑھتے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.** (3)

حدیث ۲۹ ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کھانے والا

شکر گزار و ریاہی ہے جیسا روزہ دار صبر کرنے والا۔“ (4)

حدیث ۳۰ ابوداؤد نے ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھاتے یا

پیتے، یہ پڑھتے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.** (5)

حدیث ۳۱ ضیاء نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ارشاد فرمایا: ”آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے

سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“ (6) اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جانے لگے الحمد للہ کہے۔

حدیث ۳۲ نسائی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ**

1..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأطعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، الحدیث: ۵۴۵۸، ج ۳، ص ۵۴۳.

و ”سنن الترمذی“، کتاب الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، الحدیث: ۳۴۶۷، ج ۵، ص ۲۸۳.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار تعریفیں، نہایت پاکیزہ اور بابرکت نہ کفایت کی گئی نہ چھوڑی گئی اور نہ اس سے لاپرواہی برتی گئی۔ اے ہمارے رب! (قبول فرما)

2..... ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر والدعاء... إلخ، باب استحباب حمد اللہ... إلخ، الحدیث: ۸۹- (۲۷۳۴)، ص ۱۴۶۳.

3..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب ما يقول الرجل إذا طعم، الحدیث: ۳۸۵۰، ج ۳، ص ۵۱۳.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔

نوٹ: بہار شریعت کے بعض نسخوں میں **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.** لکھا ہے۔ جبکہ بہار شریعت

مطبوعہ مکتبہ رضویہ، باب المدینہ کراچی، ابوداؤد (الحدیث: 3850)، ترمذی (الحدیث: 3457) اور ابن ماجہ (الحدیث: 3283) میں یہ

دعا ان الفاظ کے ساتھ ہے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.**

4..... ”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة، باب: ۴۳، الحدیث: ۲۴۹۴، ج ۴، ص ۲۱۹.

5..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب ما يقول الرجل إذا طعم، الحدیث: ۳۸۵۱، ج ۳، ص ۵۱۳.

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے کھلایا، پلایا اور اسے با آسانی اتارا اور اس کے نکلنے کا راستہ بنایا۔

6..... ”الاحادیث المختارة“، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۲۳۰۰، ج ۶، ص ۲۸۶.

الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَمَنْ عَلَيْنَا فَهَذَا نَاوَأْطَعَمْنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعِ رَبِّي وَلَا مُكَافِي وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا مِنَ الطَّعَامِ وَسَقَانَا مِنَ الشَّرَابِ وَكَسَانَا مِنَ الْعُرْيِ وَهَدَانَا مِنَ الضَّلَالِ وَبَصْرَنَا مِنَ الْعَمَى وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (1)

حدیث ۳۳ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهُ. (2) اور جب دودھ پیے تو یہ کہے: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. (3) کیونکہ دودھ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی قائم مقام ہو۔“ (4)

حدیث ۳۴ ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے پر سے اٹھنے کی ممانعت کی، جب تک کھانا اٹھانہ لیا جائے۔ (5)

حدیث ۳۵ ابن ماجہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب دسترخوان چنا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے، جب تک دسترخوان نہ اٹھالیا جائے اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھا چکا ہو، جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں اور اگر ہاتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے کیونکہ اگر بغیر معذرت کیے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا، وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا اور شاید ابھی اس کو کھانے کی حاجت باقی ہو۔“ (6)

①..... ”کنز العمال“، کتاب المعیشتہ، رقم: ۴۰۸۴۳، ج ۱۵، ص ۱۱۳۔

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت دی اور ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں ہر نعمت خوب عطا کی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس حال میں کہ نہ تو وہ نعمت چھوڑی گئی نہ اس کا بدلہ دیا گیا اور نہ ناشکری کی گئی اور نہ اس سے لاپرواہی برتی گئی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور برہنگی میں کپڑا پہنایا اور گمراہی سے ہدایت دی اور اندھے پن سے بینا کیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر ہمیں فضیلت دی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

②..... ترجمہ: اے اللہ! عزوجل ہمارے لیے اس (کھانے) میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر بدل عطا فرما۔

③..... ترجمہ: اے اللہ! عزوجل ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما۔

④..... ”شعب الایمان“، باب فی المطاعم و المشارب، الحدیث: ۵۹۵۷، ج ۵، ص ۱۰۴۔

⑤..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأطعمه، باب النهی ان یقام عن الطعام حتی یرفع... إلخ، الحدیث: ۳۲۹۴، ج ۴، ص ۲۴۔

⑥..... المرجع السابق، الحدیث: ۳۲۹۵، ج ۴، ص ۲۴۔

اسی حدیث کی بناء پر علمایہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہو تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کرے تاکہ دوسروں کو شرمندگی نہ ہو۔

حدیث ۳۶ — ترمذی و ابوداؤد نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کھانا برکت ہے۔ اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہے۔“ (1)

(اس حدیث میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے)۔

حدیث ۳۷ — طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، کہ ارشاد فرمایا: ”کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا (ہاتھ منہ دھونا) محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین (علیہم السلام) کی سنتوں میں سے ہے۔“ (2)

حدیث ۳۸ — ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا: ”جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے، وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت وضو کرے۔“ (3) یعنی ہاتھ منہ دھولے۔

حدیث ۳۹ — ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا کہ ”اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔“ (4)

حدیث ۴۰ — ترمذی نے عکراش بن ذویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: ہمارے پاس ایک برتن میں بہت سی شید اور بوٹیاں لائیں گئیں۔ میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف پڑنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا۔ پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ عکراش ایک جگہ سے کھاؤ کہ یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ اسکے بعد طبق میں طرح طرح کی کھجوریں لائیں گئیں، میں نے اپنے سامنے سے کھانی شروع کیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مختلف جگہ طباق میں پڑتا۔

پھر فرمایا کہ عکراش جہاں سے چاہو کھاؤ، کہ یہ ایک قسم کی چیز نہیں۔ پھر پانی لایا گیا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری سے منہ اور کلائیوں اور سر پر مسح کر لیا اور فرمایا کہ ”عکراش جس چیز کو آگ نے چھوا یعنی جو

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأطعمة، باب ماجاء فی الوضوء قبل الطعام وبعده، الحدیث: ۱۸۵۳، ج ۴، ص ۳۳۴۔

②..... ”المعجم الأوسط“، باب المیم، الحدیث: ۷۱۶۶، ج ۵، ص ۲۳۱۔

③..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأطعمة، باب الوضوء عند الطعام، الحدیث: ۳۲۶۰، ج ۴، ص ۹۔

④..... المرجع السابق، باب الاجتماع علی الطعام، الحدیث: ۳۲۸۷، ج ۴، ص ۲۱۔

آگ سے پکائی گئی ہو، اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔“ (1)

حدیث ۳۱ → ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے ہی کو ملامت کرے۔“ (2) اسی کی مثل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے۔

حدیث ۳۲ → حاکم نے ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ارشاد فرمایا: ”کھانے کے وقت جوتے اتار لو کہ یہ سنتِ جمیلہ (اچھا طریقہ) ہے۔“ (3) اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کہ ”کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو، کہ اس سے تمہارے پاؤں کے لیے راحت ہے۔“ (4)

حدیث ۳۳ → ابوداؤد و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ (کھاتے وقت) گوشت کو چھری سے نہ کاٹو کہ یہ عجیبوں کا طریقہ ہے، اس کو دانت سے نوچ کر کھاؤ کہ یہ خوش گوار اور زود ہضم ہے۔ (5)

یہ اس وقت ہے کہ گوشت اچھی طرح پک گیا ہو۔ ہاتھ یا دانت سے نوچ کر کھایا جا سکتا ہو۔ آج کل یورپ کی تقلید میں بہت سے مسلمان بھی چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، یہ مذموم طریقہ ہے اور اگر بوجہ ضرورت چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا جائے کہ گوشت اتنا گلا ہوا نہیں ہے کہ ہاتھ سے توڑا جاسکے یا دانتوں سے نوچا جاسکے یا مثلاً مسلم ران بھنی ہوئی ہے کہ دانتوں سے نوچنے میں دقت ہوگی تو چھری سے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں، اسی قسم کے بعض مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چھری سے گوشت کاٹ کر تناول فرمانا آیا ہے، اس سے آج کل کے چھری کانٹے سے کھانے کی دلیل لانا صحیح نہیں۔

حدیث ۳۴ → صحیح بخاری میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔“ (6)

حدیث ۳۵ → صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوان پر کھانا

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأطعمة، باب ماجاء في التسمية، الحدیث: ۱۸۵۵، ج ۳، ص ۳۳۵.

②..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب في غسل اليد من الطعام، الحدیث: ۳۸۵۲، ج ۳، ص ۵۱۴.

③..... ”المستدرک“ للحاکم، کتاب معرفة الصحابة رضی اللہ عنہم، باب دعا النبي... إلخ، الحدیث: ۵۵۵۰، ج ۴، ص ۴۲۳.

④..... ”سنن الدارمی“، کتاب الأطعمة، باب في خلع النعال عند الاكل، الحدیث: ۲۰۸۰، ج ۲، ص ۱۴۸.

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب في أكل اللحم، الحدیث: ۳۷۷۸، ج ۳، ص ۴۹۰.

⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأطعمة، باب الأكل متکئا، الحدیث: ۵۳۹۸، ج ۳، ص ۵۲۸.

نہیں تناول فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا اور نہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے پتلی چپاتی دیکھی بھی نہیں۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے؟ کہا کہ دسترخوان پر۔⁽¹⁾

خوان تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے، جس پر امراء کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے، اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا۔ جس طرح بعض لوگ اس زمانہ میں میز پر کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی امراء کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔

حدیث ۳۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا (یعنی برا نہیں کہا)، اگر خواہش ہوئی کھالیا اور نہ چھوڑ دیا۔⁽²⁾

حدیث ۳۷ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”ایک شخص کا کھانا، دو کے لیے کفایت کرتا ہے اور دو کا کھانا، چار کے لیے کفایت کرتا ہے اور چار کا کھانا، آٹھ کو کفایت کرتا ہے۔“⁽³⁾

حدیث ۳۸ صحیح بخاری میں مقدم بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اپنے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔“⁽⁴⁾

حدیث ۳۹ ابن ماجہ و ترمذی و دارمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن میں شرید پیش کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ”کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔“⁽⁵⁾ شرید ایک قسم کا کھانا ہے، روٹی توڑ کر شوربے میں مل دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔

حدیث ۵۰ طبرانی نے عبدالرحمن بن موقع سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی ظرف⁽⁶⁾ جو بھرا جائے، پیٹ سے زیادہ برا نہیں اگر تمہیں پیٹ میں کچھ ڈالنا ہی ہے تو ایک تہائی میں کھانا ڈالو اور ایک تہائی میں

①.....”صحیح البخاری“، کتاب الاطعمة، باب ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه يأكلون، باب شاة مسمومة ... إلخ، الحديث: ۵۴۱۵، ۵۴۲۱، ج ۳، ص ۵۳۲، ۵۳۳.

②.....”صحیح البخاری“، کتاب الاطعمة، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، الحديث: ۵۴۰۹، ج ۳، ص ۵۳۱.

③.....”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة... إلخ، الحديث: ۱۷۹- (۲۰۵۹)، ص ۱۱۴۰.

④.....”صحیح البخاری“، کتاب البيوع، باب ما يستحب من الكيل، الحديث: ۲۱۲۸، ج ۲، ص ۲۷.

و”مشكاة المصابيح“، کتاب الاطعمة، الفصل الاول، الحديث: ۴۱۹۸، ج ۲، ص ۴۴۸.

⑤.....”سنن الدارمی“، کتاب الاطعمة، باب النهی عن اكل وسط الشريد... إلخ، الحديث: ۲۰۴۶، ج ۲، ص ۱۳۷.

و”مشكاة المصابيح“، کتاب الاطعمة، الفصل الثاني، الحديث: ۴۲۱۱، ج ۲، ص ۴۴۹.

⑥..... برتن۔

پانی اور ایک تہائی ہو اور سانس کے لیے رکھو۔“ (1)

حدیث ۵۱ — ترمذی وابن ماجہ نے مقدم بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے۔“ (2)

حدیث ۵۲ — ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، فرمایا: ”اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔“ (3)

حدیث ۵۳ — صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سرین پر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے۔ (4)

حدیث ۵۴ — صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا، جب تک ساتھ والے سے اجازت نہ لے لے۔ (5)

حدیث ۵۵ — صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جن کے یہاں کھجوریں ہیں، اس گھر والے بھوکے نہیں۔“ (6) دوسری روایت میں یہ ہے، کہ ”جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں، اس گھر والے بھوکے ہیں۔“ (7)

یہ اس زمانے اور اس ملک کے لحاظ سے ہے کہ وہاں کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں اور جب گھر میں کھجوریں ہیں تو بال بچوں اور گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت ہے کہ بھوک لگے گی تو انھیں کھالیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے۔

①.....”کنز العمال“، کتاب المعیشتہ... إلخ، رقم: ۴۰۸۱۳، ج ۱۵، ص ۱۱۰۔

②.....”سنن الترمذی“، کتاب الزہد، باب ماجاء فی کراہیۃ کثرة الاکل، الحدیث: ۲۳۸۷، ج ۴، ص ۱۶۸۔

③.....”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة... إلخ، باب حدیث اکثرهم شبعوا فی الدنيا... إلخ، الحدیث: ۲۴۸۶، ج ۴، ص ۲۱۷۔

④.....”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب استحباب تواضع الأکل... إلخ، الحدیث: ۱۴۸- (۲۰۴۴)، ص ۱۱۳۰۔

⑤.....المرجع السابق، باب نهی الأکل مع جماعة عن قران تمرتين... إلخ، الحدیث: ۱۵۱- (۲۰۴۵)، ص ۱۱۳۱۔

⑥.....المرجع السابق، باب فی إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعیال، الحدیث: ۱۵۲- (۲۰۴۶)، ص ۱۱۳۱۔

⑦.....المرجع السابق، الحدیث: ۱۵۳- (۲۰۴۶)، ص ۱۱۳۱۔

حدیث ۵۶ صحیح مسلم میں ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد اس کا بقیہ (اولش) میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ نہیں تناول فرمایا تھا کیونکہ اس میں لہسن پڑا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا، کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا: ”نہیں، مگر میں یو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔“ میں نے عرض کی، جس کو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ناپسند فرماتے ہیں، میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔^(۱)

حدیث ۵۷ صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے یا فرمایا: وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی، جس میں سبز ترکاریاں تھیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ ”بعض صحابہ کو پیش کر دو اور ان سے فرمایا کہ تم کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے۔“^(۲) یعنی ملائکہ سے۔

حدیث ۵۸ ترمذی و ابوداؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا، مگر یہ کہ پکا ہوا ہو۔^(۳)

حدیث ۵۹ ترمذی نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میرے یہاں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لائے، فرمایا: ”کچھ تمہارے یہاں ہے۔ میں نے عرض کی، سوکھی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ نہیں، فرمایا: لاؤ، جس گھر میں سرکہ ہے، اس گھر والے سالن سے محتاج نہیں۔“^(۴)

حدیث ۶۰ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھروالوں سے سالن کو دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا، ہمارے یہاں سرکہ کے سوا کچھ نہیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اسے طلب فرمایا اور اس سے کھانا شروع کیا اور بار بار فرمایا کہ ”سرکہ اچھا سالن ہے۔“^(۵)

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب إباحة أكل الثوم... إلخ، الحدیث: ۱۷۰- (۲۰۵۳)، ص ۱۱۳۵.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاذان، باب الافتال والإنصراف... إلخ، الحدیث: ۸۵۵، ج ۱، ص ۲۹۷.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم، الحدیث: ۳۸۲۸، ج ۳، ص ۵۰۶.

④..... ”سنن الترمذی“ الشمائل المحمدية، باب ماجاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحدیث: ۱۷۲، ج ۵، ص ۵۳۲.

و ”سنن الترمذی“، کتاب الأطعمة، باب ماجاء في الخل، الحدیث: ۱۸۴۸، ج ۳، ص ۳۳۲.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب فضيلة الخل... إلخ، الحدیث: ۱۶۶- (۲۰۵۲)، ص ۱۱۳۴.

حدیث ۶۱

ابن ماجہ نے اسما بنتِ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر لایا گیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا، ہمیں خواہش نہیں ہے۔ فرمایا: ”بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو۔“ (1)

یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھالے یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے، کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے۔

حدیث ۶۲

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے، ارشاد فرمایا: کیا چیز تمہیں اس وقت گھر سے باہر لائی؟ عرض کی، بھوک۔ فرمایا: قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو چیز تمہیں گھر سے باہر لائی، وہی مجھے بھی لائی۔ ارشاد فرمایا: اٹھو! وہ لوگ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک انصاری کے یہاں تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہیں، انصاری کی بی بی نے جو ہیں ان حضرات کو دیکھا مرحبا و اہلاً کہا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے دریافت فرمایا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹھا پانی لینے گئے ہیں۔

اتنے میں انصاری آ گئے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو اور شیخین کو دیکھ کر کہا، الحمد للہ آج مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، جس کے یہاں ایسے معزز مہمان آئے ہوں پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لائے، جس میں ادھ پکی اور خشک کھجوریں بھی تھیں اور رطب بھی تھے اور ان حضرات سے کہا، کھائیے اور خود چھری نکالی (یعنی بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: دودھ والی کوندہ ذبح کرنا۔ انصاری نے بکری ذبح کی، ان حضرات نے بکری کا گوشت کھایا اور کھجوریں کھائیں، پانی پیا۔ جب کھاپی کر فارغ ہوئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ”قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قیامت کے دن اس نعمت کا سوال ہوگا، تمہیں بھوک گھر سے لائی اور واپس ہونے سے پہلے یہ نعمت تم کو ملی۔“ (2)

حدیث ۶۳

مسلم و ابوداؤد نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اُتارتا ہے۔“ (3)

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأطعمة، باب عرض الطعام، الحدیث: ۳۲۹۸، ج ۴، ص ۲۶.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غیرہ... إلخ، الحدیث: ۱۴۰- (۲۰۳۸)، ص ۱۱۲۵.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس والزینة، باب تحريم استعمال أواني الذهب... إلخ، الحدیث: ۱- (۲۰۶۵)، ص ۱۱۴۲.

حدیث ۶۳ - ابوداؤد وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو (اور پھینک دو) کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے۔“^(۱) یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہذا پوری کو غوطہ دیدو۔

حدیث ۶۵ - ابوداؤد وابن ماجہ و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کھانا کھائے (اور دانتوں میں کچھ رہ جائے) اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے، جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔“^(۲)

مسائل فقہیہ

بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گنہگار ہوا۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آجائے اور روزہ رکھ سکے یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روزہ نہ رکھ سکے گا تو اس مقدار سے کھا لینا ضروری ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔^(۳) (درمختار)

مسئلہ ۱ - اضطراب کی حالت میں یعنی جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہے اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے اور ان چیزوں کے کھالینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے اگرچہ پرانی چیز کھانے میں تاوان^(۴) دینا ہوگا۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۲ - پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی، تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

①..... "سنن أبي داود"، كتاب الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام، الحديث: ۳۸۴۴، ج ۳، ص ۵۱۱.

②..... "سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الاستنار في الخلاء، الحديث: ۳۵، ج ۱، ص ۴۶.

③..... "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۵۹.

④..... یعنی جو کچھ نقصان ہوا، وہ ادا کرے۔

⑤..... "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۵۹.

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۵۹.

مسئلہ ۳ دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے، تو قیمت سے خرید کر کھانی لے وہ قیمت سے بھی نہیں دیتا اور اس کی جان پر بنی ہے، تو اس سے زبردستی چھین لے اور اگر اس کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے تو کچھ لے لے اور کچھ اس کے لیے چھوڑ دے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ ایک شخص اضطراب کی حالت میں ہے دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کاٹ کر اس کا گوشت کھاؤ۔ اس کے لیے اس گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی انسان کا گوشت کھانا اس حالت میں بھی مباح نہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے، یعنی حالت اضطراب میں مردار اور شراب کو کھانے پینے کا حکم ہے، مگر دوا کے طور پر شراب جائز نہیں کیونکہ مردار کا گوشت اور شراب یقینی طور پر بھوک اور پیاس کا دفعیہ ہے اور دوا کے طور پر شراب پینے میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ مرض کا ازالہ ہی ہو جائے گا۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر کھانا کھالینا مباح ہے یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی اور بھوک سے زیادہ کھالینا حرام ہے۔ زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ اتنا کھالینا جس سے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہے، مثلاً دست آئیں گے اور طبیعت بدمزہ ہو جائے گی۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھالیا کہ کل کا روزہ اچھی طرح رکھ سکے گا روزہ میں کمزوری نہیں پیدا ہوگی تو حرج نہیں، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور معلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو کمزوری ہوگی، دوسرے کاموں میں دقت ہوگی۔ یوہیں اگر مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرمائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھالینے کی اجازت ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ سیر ہو کر کھانا اس لیے کہ نوافل کثرت سے پڑھ سکے گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اچھی طرح اس کام کو انجام دے سکے گا یہ مندوب ہے اور سیری سے زیادہ کھایا مگر اتنا زیادہ نہیں کہ شکم خراب ہو جائے یہ مکروہ ہے۔ عبادت گزار شخص کو یہ اختیار ہے کہ بقدر مباح تناول کرے یا بقدر مندوب، مگر اسے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کھاتا ہوں

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۵۹.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق.

④..... "الدر المختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۰.

⑤..... المرجع السابق، ص ۵۶۱.

کہ عبادت کی قوت پیدا ہو (1) کہ اس نیت سے کھانا ایک قسم کی طاعت ہے۔ کھانے سے اس کا مقصود تملذ و تمعم نہ ہو (2) کہ یہ بری صفت ہے۔

قرآن مجید میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی، کہ کھانے سے ان کا مقصود تمتع و تمعم (3) ہوتا ہے اور حدیث میں کثرت خوری کفار کی صفت بتائی گئی۔ (4) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ ریاضت و مجاہدہ میں ایسی تفریق غذا (5) کہ عبادت مفروضہ (6) کی ادا میں ضعف پیدا ہو جائے، مثلاً اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا یہ ناجائز ہے اور اگر اس حد کی کمزوری نہ پیدا ہو تو حرج نہیں۔ (7) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ زیادہ کھالیا اس لیے کہ قے کر ڈالے گا اور یہ صورت اس کے لیے مفید ہو تو حرج نہیں کیونکہ بعض لوگوں کے لیے یہ طریقہ نافع ہوتا ہے۔ (8) (ردالمختار)

مسئلہ ۱۱ طرح طرح کے میوے کھانے میں حرج نہیں، اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ (9) (درمختار)

مسئلہ ۱۲ جو ان آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ سیر ہو کر کھائے گا تو غلبہ شہوت ہوگا تو کھانے میں کمی کرے کہ غلبہ شہوت نہ ہو، مگر اتنی کمی نہ کرے کہ عبادت میں قصور پیدا ہو۔ (10) (عالمگیری) اسی طرح بعض لوگوں کو گوشت کھانے سے غلبہ شہوت

۱..... مزید نیتوں کے لیے امیرِ اہلسنت، حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظلہ العالی کی طرف سے فیضان سنت (تخریج شدہ) میں بیان کردہ کھانے کی 7 نیتیں پیش خدمت ہیں:

﴿۱﴾ تلاوت۔ ﴿۲﴾ والدین کی خدمت۔ ﴿۳﴾ تحصیلِ علم دین۔ ﴿۴﴾ سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلے میں سفر۔ ﴿۵﴾ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت۔ ﴿۶﴾ امورِ آخروت اور ﴿۷﴾ حسبِ ضرورت کسبِ حلال کیلئے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا (یہ نیتیں اسی صورت میں مفید ہوں گی جبکہ بھوک سے کم کھائے، خوب ڈٹ کر کھانے سے انا عبادت میں سستی پیدا ہوتی، گناہوں کی طرف رجحان بڑھتا اور پیٹ کی خرابیاں جنم لیتی ہیں) (ماخوذ از: فیضان سنت (تخریج شدہ) ج ۱، ص ۱۸۲)

۲..... یعنی صرف حصول لذت اور خواہش کی تکمیل کے لیے نہ ہو۔ ۳..... یعنی صرف لطف و لذت اٹھانا۔

۴..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۰۔

۵..... یعنی کھانے میں کمی کرنا۔ ۶..... یعنی فرض کی ہوئی عبادت۔

۷..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۱۔

۸..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۱۔

۹..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۱۔

۱۰..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۳۶۔

ہوتا ہے، وہ بھی گوشت میں کمی کر دیں۔

مسئلہ ۱۳ — ایک قسم کا کھانا ہوگا تو بقدر حاجت نہ کھا سکے گا طبیعت گھبرا جائے گی، لہذا کئی قسم کے کھانے تیار کراتا ہے کہ سب میں سے کچھ کچھ کھا کر ضرورت پوری کر لے گا اس مقصد کے لیے متعدد قسم کے کھانے میں حرج نہیں یا اس لیے بہت سے کھانے پکواتا ہے کہ لوگوں کی ضیافت کرنی ہے، وہ سب کھانے صرف ہو جائیں گے تو اس میں بھی حرج نہیں اور یہ مقصود نہ ہو تو اسراف ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ — کھانے کے آداب و سنن یہ ہیں۔

(۱) کھانے سے پہلے اور

(۲) بعد میں ہاتھ دھونا

(۳) کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں اور

(۴) کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیا سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔^(۲)

مسئلہ ۱۵ — سنت یہ ہے کہ قبل طعام اور بعد طعام دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں، بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھولیتے ہیں بلکہ صرف چمکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ — مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے سے اس میں مدد نہ لے یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے۔^(۴) (عالمگیری)

(۵) کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے، بھوسی یا آٹے یا بٹین سے ہاتھ دھونے میں حرج نہیں۔ اس زمانے میں صابون سے ہاتھ دھونے کا رواج ہے اس میں بھی حرج نہیں، کھانے کے لیے مونہہ دھونا سنت نہیں یعنی اگر کسی نے نہ دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی، ہاں جُنُب نے اگر مونہہ نہ دھویا تو مکروہ ہے اور حیض والی کا بغیر دھوئے کھانا مکروہ نہیں۔

(۶) کھانے سے قبل جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے

جائیں، اس کے بعد جوانوں کے۔

①....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۳۶۔

②.....المرجع السابق، ص ۳۳۷۔

③.....المرجع السابق۔

④....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۳۷۔

(۷) یہی حکم علماء و مشائخ کا ہے کہ کھانے سے قبل ان کے ہاتھ آخر میں دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد ان کے پہلے دھلائے جائیں۔

(۸) کھانا بِسْمِ اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور

(۹) ختم کر کے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ پڑھیں اگر بِسْمِ اللہ کہنا بھول گیا ہے تو جب یاد آ جائے یہ کہے بِسْمِ اللہ فی اَوَّلہِ وَاخِرہِ۔

(۱۰) بِسْمِ اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس سے سن کر انھیں یاد آ جائے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ آہستہ

کہے۔ مگر جب سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ بھی زور سے کہے کہ دوسرے لوگ سن کر شکر خدا بجالائیں۔

(۱۱) روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے

نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں۔

(۱۲) ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پونچھیں۔

(۱۳) تکیہ لگا کر یا

(۱۴) ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے۔

(۱۵) بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا بھی مکروہ ہے۔

(۱۶) روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھالینا اسراف ہے، بلکہ پوری روٹی کھائے، ہاں اگر کنارے کچے

رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معلوم ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھالیں گے،

ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو

چھوڑ دیتا ہے۔

(۱۷) روٹی جب دسترخوان پر آگئی تو کھانا شروع کر دے سالن کا انتظار نہ کرے، اسی لیے عموماً دسترخوان پر روٹی

سب سے آخر میں لاتے ہیں تاکہ روٹی کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے۔

(۱۸) دہنے ہاتھ سے کھانا کھائے۔

(۱۹) ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا، اسے چھوڑ دینا اسراف ہے بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائے۔

(۲۰) رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتداء نہ کھائے، بلکہ ایک کنارہ سے کھائے اور

(۲۱) جو کنارہ اس کے قریب ہے، وہاں سے کھائے۔

(۲۲) جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھائے ہر طرف ہاتھ نہ مارے۔ ہاں اگر طباق میں مختلف قسم کی چیزیں لا کر رکھی گئیں، ادھر ادھر سے کھانے کی اجازت ہے کہ یہ ایک چیز نہیں۔

(۲۳) کھانے کے وقت بائیں پاؤں بچھا دے اور داہنا کھڑا رکھے یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے۔

(۲۴) گرم کھانا نہ کھائے اور

(۲۵) نہ کھانے پر پھونکے۔

(۲۶) نہ کھانے کو سونگھے۔

(۲۷) کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے، بالکل چپ رہنا مجوسیوں^(۱) کا طریقہ ہے، مگر یہودہ باتیں نہ کہے بلکہ

اچھی باتیں کرے۔

(۲۸) کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، ان میں جھوٹا نہ لگا رہنے دے اور

(۲۹) برتن کو اونگلیوں سے پونچھ کر چاٹ لے۔ حدیث میں ہے، ”کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن

اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ (عزوجل) تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد

کیا۔“^(۲) اور ایک روایت میں ہے، ”برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔“^(۳)

(۳۰) کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور

(۳۱) ختم بھی اسی پر کریں، اس سے ستر بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔^(۴) (بزازیہ، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ راستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔^(۵)

مسئلہ ۱۸ دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے اگر کھانا ہے تو کھالے ورنہ مرغی، گائے، بکری وغیرہ کو کھلا دے

یا کہیں احتیاط کی جگہ پر رکھ دے، کہ چیونٹیاں یا چڑیاں کھالیں گی راستہ پر نہ پھینکے۔^(۶) (بزازیہ)

①..... یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں۔

②..... ”کنز العمال“، کتاب المعیشتہ... إلخ، رقم: ۴۰۸۲۲، ج ۱۵، ص ۱۱۱۔

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحدیث: ۲۰۷۵۰، ج ۷، ص ۳۸۲۔

④..... ”البزازیہ“ ہامش علی ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الفصل الخامس فی الأکل، ج ۶، ص ۳۶۵۔

و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحۃ، ج ۹، ص ۵۶۱، وغیرہما۔

⑤..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۳۷، وغیرہا۔

⑥..... ”البزازیہ“ ہامش علی ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الفصل الخامس فی الأکل، ج ۶، ص ۳۶۵-۳۶۶۔

مسئلہ ۱۹ کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے نہ یہ کہنا چاہیے کہ برا ہے۔ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تناول فرمایا، ورنہ نہ کھایا۔“ (1)

مسئلہ ۲۰ کھانا کھاتے وقت جب کوئی آجاتا ہے تو ہندوستان کا عرف یہ ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ، اگر نہ پوچھیں تو طعن (2) کرتے ہیں کہ انھوں نے پوچھا تک نہیں، یہ بات یعنی دوسرے مسلمان کو کھانے کے لیے بلانا اچھی بات ہے، مگر بلانے والے کو یہ چاہیے، کہ یہ پوچھنا محض نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے پوچھے۔

یہ بھی رواج ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے **بِسْمِ اللّٰہِ**، یہ نہ کہنا چاہیے، کہ یہاں **بِسْمِ اللّٰہِ** کہنے کے کوئی معنی نہیں، اس موقع پر **بِسْمِ اللّٰہِ** کہنے کو علمائے بہت سخت ممنوع فرمایا بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ برکت دے، زیادہ دے۔

مسئلہ ۲۱ باپ کو بیٹے کے مال کی حاجت ہے، اگر احتیاج (3) اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس دام (4) نہیں ہیں کہ اس چیز کو خرید سکے تو بیٹے کی چیز بلا کسی معاوضہ کے استعمال کرنا جائز ہے اور اگر دام ہیں مگر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کر لے، یہ اس وقت ہے کہ بیٹا لائق ہے اور اگر لائق ہے تو بغیر حاجت بھی اس کی چیز لے سکتا ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ ایک شخص بھوک سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جاسکتا، کہ لوگوں سے اپنی حالت بیان کرے تو جس کو اس کی یہ حالت معلوم ہے، اس پر فرض ہے کہ اسے کھانے کو دے تاکہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو جائے، اگر ایسا نہیں کیا اور وہ بھوک سے مر گیا تو جن لوگوں کو اس کا یہ حال معلوم تھا سب گنہگار ہوئے اور اگر یہ شخص جس کو اس کا حال معلوم تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ اسے کھلائے تو اس پر یہ فرض ہے کہ دوسروں سے کہے اور لوگوں سے کچھ مانگ لائے اور ایسا نہ ہو اور وہ مر گیا تو یہ سب لوگ جن کو اس کے حال کی خبر تھی گنہگار ہوئے۔

اور اگر یہ شخص گھر سے باہر جاسکتا ہے مگر کمانے پر قادر نہیں تو جا کر لوگوں سے مانگے اور جس کے پاس صدقے کی قسم سے کوئی چیز ہو، اس پر دینا واجب ہے اور اگر وہ محتاج شخص کما سکتا ہے تو کام کر کے پیسے حاصل کرے، اس کے لیے مانگنا حلال نہیں، محتاج شخص اگر کمانے پر قادر نہیں ہے مگر یہ کر سکتا ہے کہ دروازوں پر جا کر سوال کرے تو اس پر ایسا کرنا فرض ہے، ایسا نہ کیا

①..... انظر: ”صحيح البخاري“، كتاب الأطعمة، باب ما عاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طعاما، الحديث: ٥٤٠٩، ج ٣، ص ٥٣١.

②..... ملامت۔ ③..... یعنی ضرورت۔ ④..... یعنی روپیہ۔

⑤..... ”الفتاوى الهندية“، كتاب الكراهية، الباب الحادي عشر في الكراهية، ج ٥، ص ٣٣٨.

اور بھوک سے مر گیا تو گنہگار ہوگا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ → کھانے میں پسینہ ٹپک گیا یا رال ٹپک پڑی یا آنسو گر گیا وہ کھانا حرام نہیں ہے، کھایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح

اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس سے طبیعت کو نفرت پیدا ہوگئی وہ پیا جاسکتا ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ → روٹی میں اگر اُپلے کا ٹکڑا⁽³⁾ ملا اور وہ سخت ہے تو اتنا حصہ توڑ کر پھینک دے، پوری روٹی کو نجس نہیں کہا

جائے گا اور اگر اس میں نرمی آگئی ہے تو بالکل نہ کھائے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ → نالی وغیرہ کسی ناپاک جگہ میں روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو اس پر یہ لازم نہیں کہ اسے نکال کر دھوئے اور کسی دوسری

جگہ ڈال دے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ → گیہوں⁽⁶⁾ کے ساتھ آدمی کا دانت بھی چکی میں پس گیا، اس آٹے کو نہ خود کھا سکتا ہے نہ جانوروں کو

کھلا سکتا ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ → گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ → باغ میں پہنچا وہاں پھل گرے ہوئے ہیں، تو جب تک مالک باغ کی اجازت نہ ہو پھل نہیں کھا سکتا اور

اجازت دونوں طرح ہو سکتی ہے۔ صراحتاً اجازت ہو، مثلاً مالک نے کہہ دیا ہو کہ گرے ہوئے پھلوں کو کھا سکتے ہو یا دلالتاً اجازت ہو یعنی وہاں ایسا عرف و عادت ہے کہ باغ والے گرے ہوئے پھلوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے۔

درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں، مگر جبکہ پھلوں کی کثرت ہو معلوم ہو کہ توڑ کر کھانے میں بھی مالک کو

ناگواری نہیں ہوگی تو توڑ کر بھی کھا سکتا ہے، مگر کسی صورت میں یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے پھل اٹھالائے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری) ان

سب صورتوں میں عرف و عادت کا لحاظ ہے اور اگر عرف و عادت نہ ہو یا معلوم ہو کہ مالک کو ناگواری ہوگی تو کھانا جائز نہیں۔

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۳۸.

②..... المرجع السابق.

③..... وہ گوبر جس کو جھلانے کے لیے شکھاتے ہیں اس کا ٹکڑا۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۳۹.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... گندم۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۳۹.

⑧..... المرجع السابق.

⑨..... المرجع السابق.

مسئلہ ۲۹ - خریف^(۱) کے موسم میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اگر وہ پتے کام کے ہوں تو اٹھالانا جائز ہے اور مالک کے لیے بیکار ہوں جیسا کہ ہمارے ملک میں باغات میں پتے گر جاتے ہیں اور مالک ان کو کام میں نہیں لاتا، بھاڑ^(۲) جلانے والے اٹھالاتے ہیں ایسے پتوں کو اٹھالانے میں حرج نہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ - دوست کے گھر گیا جو چیز پکی ہوئی ملی، خود لے کر کھالی یا اس کے باغ میں گیا اور پھل توڑ کر کھالیے، اگر معلوم ہے کہ اسے ناگوار نہ ہوگا تو کھانا جائز ہے، مگر یہاں اچھی طرح غور کر لینے کی ضرورت ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ناگوار نہ ہوگا حالانکہ اسے ناگوار ہے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ - روٹی کو چھری سے کاٹنا نصاریٰ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، مثلاً ڈبل روٹی کہ چھری سے کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں تو حرج نہیں یا دعوتوں میں بعض مرتبہ ہر شخص کو نصف نصف شیر مال دی جاتی ہے، ایسے موقع پر چھری سے کاٹ کر ٹکڑے بنانے میں حرج نہیں کہ یہاں مقصود دوسرا ہے۔ اسی طرح اگر مُسَلَّم ران بھنی ہوئی ہو اور چھری سے کاٹ کر کھائی جائے تو حرج نہیں۔

مسئلہ ۳۲ - مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ فرش وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، میز کرسی پر کھانا نصاریٰ کا طریقہ ہے، اس سے اجتناب چاہیے بلکہ مسلمانوں کو ہر کام سلف صالحین کے طریقہ پر کرنا چاہیے، غیروں کے طریقہ کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ ۳۳ - خمیری روٹی پکوانے میں نانباتی^(۵) سے خمیر لے لیتے ہیں پھر ان کے آٹے میں سے اسی انداز سے نانباتی لے لیتا ہے اس میں حرج نہیں۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ - بہت سے لوگوں نے چندہ کر کے کھانے کی چیز طیار کی اور سب مل کر اسے کھائیں گے، چندہ سب نے برابر دیا ہے اور کھانا کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ اس میں حرج نہیں۔ اسی طرح مسافروں نے اپنے توشے اور کھانے کی چیزیں ایک ساتھ مل کر کھائیں اس میں بھی حرج نہیں، اگرچہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں اچھی ہیں

①..... یعنی خزاں۔

②..... بھٹی، تنور۔

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۴۰۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... یعنی روٹی پکانے والا۔

⑥.....

اور بعض کی ویسی نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو کچھ دانتوں میں سے ریشہ وغیرہ نکلا بہتر ہے کہ اسے پھینک دے اور نگل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں اور خلال کا تنکایا جو کچھ خلال سے نکلا اس کو لوگوں کے سامنے نہ پھینکے، بلکہ اسے لیے رہے جب اس کے سامنے طشت⁽²⁾ آئے، اس میں ڈال دے پھول اور میوہ کے تنکے سے خلال نہ کرے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

خلال کے لیے نیم کی سینک بہت بہتر ہے کہ اس کی تلخی سے مونہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوڑوں کے لیے بھی مفید ہے جھاڑو کی سینکیں⁽⁴⁾ بھی اس کام میں لاسکتے ہیں جبکہ وہ کوری ہوں مستعمل نہ ہوں۔

پانی پینے کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی پینے میں تین بار سانس لیتے تھے۔⁽⁵⁾

اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے، کہ فرماتے تھے کہ ”اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار ہے۔“⁽⁶⁾

حدیث ۲ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک سانس میں پانی نہ پیو جیسے اونٹ پیتا ہے، بلکہ دو اور تین مرتبہ میں پیو اور جب پیو تو بسم اللہ کہہ لو اور جب برتن کو مونہ سے ہٹاؤ تو اللہ (عزوجل) کی حمد کرو۔“⁽⁷⁾

حدیث ۳ ابوداؤد و ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا۔⁽⁸⁾

①..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۴۱.

②..... یعنی ہاتھ دھونے کا برتن، تھال۔

③..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیاقات، ج ۵، ص ۳۴۵.

④..... یعنی جھاڑو کی تیلیاں۔

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربۃ، باب کراہۃ التنفس فی نفس الاناء... إلخ، الحدیث: ۱۲۳- (۲۰۲۸)، ص ۱۱۲۰.

⑥..... المرجع السابق.

⑦..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأشربۃ، باب ماجاء فی التنفس فی الاناء، الحدیث: ۱۸۹۲، ج ۳، ص ۳۵۲.

⑧..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأشربۃ، باب فی النفع فی الشراب... إلخ، الحدیث: ۳۷۲۸، ج ۳، ص ۴۷۴.

حدیث ۳ — ترمذی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کی، کہ برتن میں کبھی کوڑا دکھائی دیتا ہے، فرمایا: ”اسے گرا دو۔“ اس نے عرض کی، کہ ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا ہوں، فرمایا: ”برتن کو مونھ سے جدا کر کے سانس لو۔“ (1)

حدیث ۵ — ابوداؤد نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالے میں جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں سے پینے کی اور پینے کی چیز میں پھونکنے کی ممانعت فرمائی۔ (2)

حدیث ۶ — صحیح بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشک کے دہانے سے پینے کو منع فرمایا۔ (3)

حدیث ۷ — صحیح بخاری و سنن ترمذی میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشک کے دہانے کو موڑ کر اس سے پانی پینے کو منع فرمایا۔ (4)

ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے منع فرمانے کے بعد ایک شخص رات میں اٹھا اور مشک کا دہانہ پانی پینے کے لیے موڑا، اس میں سے سانپ نکلا۔ (5)

حدیث ۸ — صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ (6)

حدیث ۹ — صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کھڑے ہو کر ہرگز کوئی شخص پانی نہ پیے اور جو بھول کر ایسا کر گزرے، وہ قتل کر دے۔“ (7)

①.....”سنن الترمذی“، کتاب الأشربة، باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب، الحديث: ۱۸۹۴، ج ۳، ص ۳۵۳.

②.....”سنن أبي داود“، کتاب الأشربة، باب في الشرب من ثلثة القدح، الحديث: ۳۷۲۲، ج ۳، ص ۴۷۳.

و”سنن الدارمی“، کتاب الأشربة، باب من شرب بنفس واحد، الحديث: ۲۱۲۱، ج ۲، ص ۱۶۱.

③.....”صحیح البخاری“، کتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، الحديث: ۵۶۲۹، ج ۳، ص ۵۹۲.

④.....المرجع السابق، باب إختناث الأسقية، الحديث: ۵۶۲۶، ج ۳، ص ۵۹۲.

⑤.....”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأشربة، باب إختناث الأسقية، الحديث: ۳۴۱۹، ج ۴، ص ۷۸.

⑥.....”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب في الشرب قائما... إلخ، الحديث: ۱۱۳- (۲۰۲۴)، ص ۱۱۱۹.

⑦.....المرجع السابق، الحديث: ۱۱۶- (۲۰۲۶)، ص ۱۱۱۹.

حدیث ۱۰ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں: میں آب زم زم کا ایک ڈول

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لایا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے کھڑے کھڑے اسے پیا۔^(۱)

حدیث ۱۱ صحیح بخاری میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے

کے لیے رجبہ کوفہ^(۲) میں بیٹھ گئے، جب عصر کا وقت آیا ان کے پاس پانی لایا گیا۔ انھوں نے پیا اور وضو کیا پھر وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور یہ فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں اور جس طرح میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ویسا ہی کیا تھا۔^(۳)

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطلقاً کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں حالانکہ وضو کے پانی کا یہ حکم نہیں بلکہ اس کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ اسی طرح آب زم زم کو بھی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ یہ دونوں پانی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر جب پانی پیا جاتا ہے وہ فوراً تمام اعضا کی طرف سرایت کر جاتا ہے اور یہ مضر ہے، مگر یہ دونوں برکت والے ہیں اور ان سے مقصود ہی تبرک ہے، لہذا ان کا تمام اعضاء میں پہنچ جانا فائدہ مند ہے۔

بعض لوگوں سے سنا گیا ہے کہ مسلم کا جھوٹا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، مگر میں نے کسی کتاب میں اس کو نہیں دیکھا، صرف دو ہی پانیوں کا کتابوں میں استثناء مذکور پایا۔ والعلم عند اللہ۔

حدیث ۱۲ ترمذی نے کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: میرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم تشریف لائے، مشک لگی ہوئی تھی، اس کے دہانے سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے اس فعل کو علمائے بیان جواز پر محمول کیا ہے، میں نے مشک کے دہانے کو کاٹ کر رکھ لیا۔^(۴) ان کا کاٹ کر رکھ لینا بغرض تبرک تھا، کہ چونکہ اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا دہن اقدس لگا ہے، یہ برکت کی چیز ہے اور اس سے بیماروں کو شفا ہوگی۔

حدیث ۱۳ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی

اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے وہ اپنے باغ میں پیڑوں کو پانی دے رہے تھے ارشاد فرمایا: ”کیا تمھارے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے؟ (اگر ہو تو لاؤ) ورنہ ہم مونھ لگا کر پانی پی لیں۔“ انھوں نے کہا، میرے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے، اپنی جھونپڑی میں گئے اور برتن میں پانی انڈیل کر اس میں بکری کا دودھ دوہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب فی الشرب من زمزم قائمات الحدیث: ۱۱۷- (۲۰۲۷)، ص ۱۱۹.

②..... یعنی کوفہ کی جامع مسجد کے صحن۔

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأشربة، باب الشرب قائمات الحدیث: ۵۶۱۶، ج ۳، ص ۵۸۹.

④..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأشربة، باب ماجاء فی الرخصة... إلخ، الحدیث: ۱۸۹۹، ج ۳، ص ۳۵۵.

پیلا پھر دوبارہ انہوں نے پانی لے کر دو دھو دیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے ساتھی نے پیا۔⁽¹⁾

حدیث ۱۳ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دو دھو دیا گیا اور انس کے گھر میں جو کو آں تھا، اس کا پانی اس میں ملایا گیا یعنی لسی بنائی گئی پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے نوش فرمایا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دہنی طرف ایک اعرابی تھے، حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کی، یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیکھیے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اعرابی کو دیا کیونکہ یہ دہنی جانب تھے اور ارشاد فرمایا: ”دہنا مستحق ہے پھر اسکے بعد جو دہنے ہو، دہنے کو مقدم رکھا کرو۔“⁽²⁾

حدیث ۱۵ صحیح بخاری و مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے نوش فرمایا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی دہنی جانب سب سے چھوٹے ایک شخص تھے (عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما) اور بڑے بڑے اصحاب بائیں جانب تھے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”لڑکے اگر تم اجازت دو تو بڑوں کو دوے دو۔“ انہوں نے عرض کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے اوش⁽³⁾ میں دوسروں کو اپنے پر ترجیح نہیں دوں گا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ان کو دوے دیا۔⁽⁴⁾

حدیث ۱۶ صحیح بخاری و مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”حریر اور دیباچ نہ پہنوا اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پو اور نہ ان کے برتنوں میں کھانا کھاؤ کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔“⁽⁵⁾

حدیث ۱۷ ترمذی نے زہری سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پینے کی وہ چیز زیادہ پسند تھی جو شیریں اور ٹھنڈی ہو۔⁽⁶⁾

①.....”صحیح البخاری“، کتاب الأشربة، باب شرب اللبن بالماء، الحدیث: ۵۶۱۳، ج ۳، ص ۵۸۸.

و باب الكرع في الحوض، الحدیث: ۵۶۲۱، ج ۳، ص ۵۹۰.

②.....”صحیح البخاری“، کتاب المساقاة، باب من رأى صدقة الماء... إلخ، الحدیث: ۲۳۵۲، ج ۲، ص ۹۵.

و”مشكاة المصابيح“، کتاب الأطعمة، باب الاشرية، الحدیث: ۴۲۷۳، ج ۲، ص ۴۶۲.

③..... یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے تبرک۔

④.....”صحیح البخاری“، کتاب المساقاة، باب من رأى صدقة الماء... إلخ، الحدیث: ۲۳۵۱، ج ۲، ص ۹۵.

⑤.....”صحیح البخاری“، کتاب الأطعمة، باب الاكل في إناء... إلخ، الحدیث: ۵۴۲۶، ج ۳، ص ۵۳۵.

و کتاب الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب، الحدیث: ۵۶۳۲، ج ۳، ص ۵۹۳.

⑥.....”سنن الترمذی“، کتاب الأشربة، باب ماجاء ای الشراب... إلخ، الحدیث: ۱۹۰۳، ج ۳، ص ۳۵۷.

حدیث ۱۸ ابن ماجہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل جھک کر پانی میں مونہ ڈال کر پینے سے منع فرمایا اور نہ ایک ہاتھ سے چلو لے کر پیے جیسے وہ لوگ پیتے ہیں، جن پر خدا ناراض ہے اور رات میں جب کسی برتن میں پانی پیے تو اسے ہلا لے، مگر جبکہ وہ برتن ڈھکا ہو تو ہلانے کی ضرورت نہیں اور جو شخص برتن سے پینے پر قادر ہے اور تواضع کے طور پر ہاتھ سے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں۔ ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتن تھا کہ انھوں نے اپنا پیالہ بھی پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ بھی دنیا کی چیز ہے۔“ (1)

حدیث ۱۹ ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاتھوں کو دھوؤ اور ان میں پانی پیو کہ ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی برتن نہیں۔“ (2)

حدیث ۲۰ مسلم و احمد و ترمذی نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ساقی (جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے) وہ سب کے آخر میں پیے گا۔“ (3)

حدیث ۲۱ دیلمی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”پانی کو چوس کر پیو کہ یہ خوش گوار اور زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے۔“ (4)

حدیث ۲۲ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، انھوں نے کہا یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا: ”پانی اور نمک اور آگ۔“ کہتی ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا، مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا: ”اے حمیراء! جس نے آگ دے دی گویا اس نے اُس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا اور جس نے نمک دے دیا گویا اُس نے تمام اُس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا اور جس نے مسلمان کو اُس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا (5) اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اُسے زندہ کر دیا۔“ (6)

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأشربة، باب الشرب بالاکف والکرع، الحدیث: ۳۴۳۱، ج ۴، ص ۸۲.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۳۴۳۳، ج ۴، ص ۸۴.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب المساجد... إلخ، باب قضاء الصلاة الفائتة... إلخ، الحدیث: ۳۱۱- (۶۸۱)، ص ۳۴۴.

و ”سنن الترمذی“، کتاب الأشربة، باب ماجاء أن ساقی القوم... إلخ، الحدیث: ۱۹۰۱، ج ۳، ص ۳۵۶.

④..... ”کنز العمال“، کتاب المعیشتہ... إلخ، رقم: ۴۱۰۴۲، ج ۱۵، ص ۱۲۶.

⑤..... یعنی غلام آزاد کیا۔

⑥..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، الحدیث: ۲۴۷۴، ج ۳، ص ۱۷۷.

مسائل فقہیہ

مسئلہ ۱ پانی بِسْمِ اللہ کہہ کر دہنے ہاتھ سے پیے اور تین سانس میں پیے، ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیے اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پی ڈالے۔ اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے اور پانی کو چوس کر پیے، غٹ غٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پیے، جب پی چکے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے۔

اس زمانہ میں بعض لوگ بانیں ہاتھ میں کٹورا یا گلاس لے کر پانی پیتے ہیں خصوصاً کھانے کے وقت دہنے ہاتھ سے پینے کو خلاف تہذیب جانتے ہیں ان کی یہ تہذیب تہذیبِ نصاریٰ ہے۔ اسلامی تہذیب دہنے ہاتھ سے پینا ہے۔

آجکل ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچا سے پھینک دیتے ہیں کہ اب وہ پانی جھوٹا ہو گیا جو دوسرے کو نہیں پلایا جائے گا، یہ ہندوؤں سے سیکھا ہے اسلام میں چھوت چھات نہیں، مسلمان کے جھوٹے سے بچنے کے کوئی معنی نہیں اور اس علت سے پانی کو پھینکنا اسراف ہے۔

مسئلہ ۲ مشک کے دہانے میں منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے۔ کیا معلوم کوئی مضر^(۱) چیز اس کے حلق میں چلی جائے۔^(۲) (عالمگیری) اسی طرح لوٹے کی ٹونٹی سے پانی پینا مگر جبکہ لوٹے کو دیکھ لیا ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ صراحی میں منہ لگا کر پانی پینے کا بھی یہی حکم ہے۔

مسئلہ ۳ سبیل کا پانی مالدار شخص بھی پی سکتا ہے مگر وہاں سے پانی کوئی شخص گھر نہیں لے جاسکتا۔ کیونکہ وہاں پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے نہ کہ گھر لے جانے کے لیے۔ ہاں اگر سبیل لگانے والے کی طرف سے اس کی اجازت ہو تو لے جاسکتا ہے۔^(۳) (عالمگیری) جاڑوں^(۴) میں اکثر جگہ مسجد کے سقا یہ میں پانی گرم کیا جاتا ہے تاکہ مسجد میں جو نمازی آئیں، اس سے وضو غسل کریں، یہ پانی بھی وہیں استعمال کیا جاسکتا ہے گھر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مسجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعمال کر سکتے ہیں گھر نہیں لے جاسکتے، بعض لوگ تازہ پانی بھر کر مسجد کے لوٹوں میں گھر لے جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔

مسئلہ ۳ لوٹوں میں وضو کا پانی بچا ہوا ہوتا ہے اسے بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، یہ ناجائز و اسراف ہے۔

①..... نقصان وہ۔

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی عشر فی الکراہیۃ، ج ۵، ص ۳۴۱۔

③..... المرجع السابق۔

④..... سردیوں۔

مسئلہ ۵ وضو کا پانی اور آب زم زم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، باقی دوسرے پانی کو پیٹھ کر۔^(۱)

ولیمہ اور ضیافت کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن

عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا (یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا) فرمایا: یہ کیا ہے؟ (یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے یہ کیونکر لگا) عرض کی، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے (اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی) فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے۔“^(۲)

حدیث ۲ صحیح بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواجِ مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا۔^(۳) یعنی تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔

صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت انھیں سے ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھا، لوگوں کو پیٹ بھر روٹی گوشت کھلایا تھا۔^(۴)

حدیث ۳ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں: خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین

صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زفاف کی وجہ سے تین راتوں تک حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے قیام فرمایا، میں مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت میں بلا لایا، ولیمہ میں نہ گوشت تھا، نہ روٹی تھی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے حکم دیا، دسترخوان بچھا دیے گئے، اُس پر کچھوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا۔^(۵)

امام احمد و ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ کی روایت میں ہے، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمہ میں ستوا اور کھجوریں تھیں۔^(۶)

①..... انظر "صحيح مسلم"، كتاب الأضربة، باب في الشرب من زمزم قائما، الحديث: ۱۱۷- (۲۰۲۷)، ص ۱۱۱۹.

و "صحيح البخاري"، كتاب الأضربة، باب الشرب قائما، الحديث: ۵۶۱۶، ج ۳، ص ۵۸۹.

②..... "صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج، الحديث: ۵۱۵۵، ج ۳، ص ۴۴۹.

③..... المرجع السابق، باب الوليمة ولو بشاة، الحديث: ۵۱۶۸، ج ۳، ص ۴۵۳.

④..... "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب قوله ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...﴾ إلخ، الحديث: ۴۷۹۴، ج ۳، ص ۳۰۶.

⑤..... "صحيح البخاري"، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، الحديث: ۴۲۱۳، ج ۳، ص ۸۶.

⑥..... "سنن الترمذی"، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، الحديث: ۱۰۹۷، ج ۲، ص ۳۴۹.

حدیث ۳ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی شخص کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے آنا چاہیے۔“ (1)

حدیث ۵ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے پھر اگر چاہے کھائے، چاہے نہ کھائے۔“ (2)

حدیث ۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے، جس میں مال دار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقرا چھوڑ دیے جاتے ہیں اور جس نے دعوت کو ترک کیا (یعنی بلا سبب انکار کر دیا) اس نے اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی نافرمانی کی۔“ (3)

مسلم کی ایک روایت میں ہے، ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے منع کرتا ہے۔ اور اس کو بلایا جاتا ہے جو انکار کرتا ہے اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی نافرمانی کی۔“ (4)

حدیث ۷ ابوداؤد نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی اس نے اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی نافرمانی کی اور جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔“ (5)

حدیث ۸ ترمذی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(شادیوں میں) پہلے دن کا کھانا حق ہے یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ ہے (یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے)۔ جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سناے گا۔“ (6)

یعنی اس کی سزا دے گا۔

حدیث ۹ ابوداؤد نے عکرمہ سے روایت کی، کہ ایسے دو شخص جو مقابلہ اور تفاخر کے طور پر دعوت کریں، رسول اللہ

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب النکاح، باب حق إجابة الوليمة... إلخ، الحدیث: ۵۱۷۳، ج ۳، ص ۴۵۴.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب النکاح، باب الأمر بإجابة الداعي... إلخ، الحدیث: ۱۰۵- (۱۴۳۰)، ص ۷۴۹.

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب النکاح، باب من ترك الدعوة... إلخ، الحدیث: ۵۱۷۷، ج ۳، ص ۴۵۵.

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب النکاح، باب الامر بإجابة الداعي... إلخ، الحدیث: ۱۰۷- (۱۴۳۲)، ص ۷۴۹.

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة، الحدیث: ۳۷۴۱، ج ۳، ص ۴۷۹.

⑥..... ”سنن الترمذی“، کتاب النکاح، باب ماجاء في الوليمة، الحدیث: ۱۰۹۹، ج ۲، ص ۳۴۹.

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے یہاں کھانے سے منع فرمایا۔⁽¹⁾

حدیث ۱۰ امام احمد و ابوداؤد نے ایک صحابی سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب دو شخص دعوت دینے بیک وقت آئیں تو جس کا دروازہ تمہارے دروازہ سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو اور اگر ایک پہلے آیا تو جو پہلے آیا اس کی قبول کرو۔“⁽²⁾

حدیث ۱۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابو شعیب تھی، انھوں نے اپنے غلام سے کہا، کہ اتنا کھانا پکاؤ جو پانچ شخصوں کے لیے کفایت کرے۔ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مع چار اصحاب کے دعوت کروں گا۔ تھوڑا سا کھانا طیار کیا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو بلانے آئے، ایک شخص حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے ساتھ ہو لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابو شعیب ہمارے ساتھ یہ شخص چلا آیا، اگر تم چاہو اسے اجازت دو اور چاہو تو نہ اجازت دو، انھوں نے عرض کی، میں نے ان کو اجازت دی۔“⁽³⁾ یعنی اگر کسی کی دعوت ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بغیر بلائے چلا آئے تو ظاہر کر دے کہ میں نہیں لایا ہوں اور صاحب خانہ کو اختیار ہے، اسے کھانے کی اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ ظاہر نہ کرے گا تو صاحب خانہ کو یہ ناگوار ہوگا کہ اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں لایا۔

حدیث ۱۲ بیہقی نے شعب الایمان میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا۔⁽⁴⁾

حدیث ۱۳ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ (عزوجل) اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ (عزوجل) اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے اور جو شخص اللہ (عزوجل) اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔“⁽⁵⁾

①.....”سنن أبي داود“، كتاب الأطعمة، باب في طعام المتبارين، الحديث: ۳۷۵۴، ج ۳، ص ۴۸۳.

②.....المرجع السابق، باب اذا اجتمع داعيان... إلخ، الحديث: ۳۷۵۶، ج ۳، ص ۴۸۴.

و”المسند“، حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ۲۳۵۲۶، ج ۹، ص ۱۲۲.

③.....”صحيح البخاري“، كتاب الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى الطعام... إلخ، الحديث: ۵۴۶۱، ج ۳، ص ۵۴۳.

④.....”شعب الإيمان“، باب في المطاعم والمشارب، فصل في طيب المطعم... إلخ، الحديث: ۵۸۰۳، ج ۵، ص ۶۸.

⑤.....”صحيح مسلم“، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الحار... إلخ، الحديث: ۷۷- (۳۸)، ص ۴۴.

”مشكاة المصابيح“، كتاب الأطعمة، باب الضيافة، الحديث: ۴۲۴۳، ج ۲، ص ۴۵۶.

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ”جو شخص اللہ (عزوجل) اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔“ (1)

حدیث ۱۳ صحیح بخاری و مسلم میں ابو شریح کعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص اللہ (عزوجل) اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے (یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے، اپنے مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا طیار کرے) اور ضیافت تین دن ہے (یعنی ایک دن کے بعد حاضر پیش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔“ (2)

حدیث ۱۵ ترمذی ابی الاحوص جشمی سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو اس کی مہمانی کروں یا بدلا دوں۔ ارشاد فرمایا: ”بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔“ (3)

حدیث ۱۶ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازہ تک رخصت کرنے جائے۔“ (4)

مسائل فقہیہ

دعوتِ ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شبِ زفاف کی صبح کو اپنے دوست احباب عزیز واقارب اور محلّہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا طیار کرنا جائز ہے اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ ولیمہ میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب۔ علما کے دونوں قول ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے۔

ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے اور یہ شخص اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے اور ولیمہ کے سوا

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب إكرام الضيف... إلخ، الحدیث: ۶۱۳۸، ج ۴، ص ۱۳۶.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۱۳۵، ج ۴، ص ۱۳۶.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء في الإحسان والعفو، الحدیث: ۲۰۱۳، ج ۳، ص ۴۰۵.

④..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأطعمة، باب الضیافة، الحدیث: ۳۳۵۸، ج ۴، ص ۵۲.

دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے، ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

مسئلہ ۱ - دعوتِ ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے، اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو اور اگر مقصود تفاخر ہو یا یہ کہ میری واہ واہ ہوگی جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا، لہو و لعب نہیں ہے اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات وہاں ہیں تو نہ جائے۔ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں لغویات ہیں، اگر وہیں یہ چیزیں ہوں تو واپس آئے اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہیں جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہیں تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو روک سکتا ہے تو روک دے اور اگر اس کی قدرت اسے نہ ہو تو صبر کرے۔

یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو اور اگر مقتدی و پیشوا ہو، مثلاً علما و مشائخ، یہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں اور پہلے ہی سے یہ معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدی ہو یا نہ ہو کسی کو جانا جائز نہیں اگرچہ خاص اُس حصہ مکان میں یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصہ میں ہوں۔⁽³⁾ (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۳ - اگر وہاں لہو و لعب ہو اور یہ شخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو اس کو اس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے منکرات شرعیہ روک دیے جائیں گے اور اگر معلوم ہے کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کو نصیحت ہوگی اور ایسے موقع پر یہ حرکتیں نہ کریں گے، کیونکہ وہ لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریبوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ شخص شریک نہ ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور ایسی حرکتیں نہ کریں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - دعوتِ ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی یعنی دو ہی دن تک یہ دعوت ہو سکتی ہے، اس

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیافات، ج ۵، ص ۳۴۳.

و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، ج ۹، ص ۵۷۴.

②..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، ج ۹، ص ۵۷۴.

③..... "الہدایۃ"، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الأکل والشرب، ج ۲، ص ۳۶۵.

و "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، ج ۹، ص ۵۷۴.

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیافات، ج ۵، ص ۳۴۳.

کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔⁽¹⁾ (عالمگیری) ہندوستان میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے۔ سنت سے آگے بڑھنا ریا و سمعہ⁽²⁾ ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔

مسئلہ ۵ ایک دسترخوان پر جو لوگ کھانا تناول کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کوئی چیز اٹھا کر دوسرے کو دیدے یہ جائز ہے، جبکہ معلوم ہو کہ صاحب خانہ کو یہ دینا ناگوار نہ ہوگا اور اگر معلوم ہے کہ اسے ناگوار ہوگا تو دینا جائز نہیں، بلکہ اگر مشتبہ حال ہو معلوم نہ ہو کہ ناگوار ہوگا یا نہیں جب بھی نہ دے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

بعض لوگ ایک ہی دسترخوان پر معززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں اور غریبوں کے لیے معمولی چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ اگرچہ ایسا نہ کرنا چاہیے کہ غریبوں کی اس میں دل شکنی ہوتی ہے۔ مگر اس صورت میں جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اس نے ایسے کو دے دی جس کے پاس نہیں ہے تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار ہوگا کیونکہ اگر دینا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے سامنے بھی یہ چیز رکھتا یا کم از کم یہ صورت اشتباہ کی ہے، لہذا ایسی حالت میں چیز دینا جائز ہے اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے، مثلاً روٹی، گوشت اور ایک کے پاس روٹی ختم ہوگئی، دوسرے نے اپنے پاس سے اٹھا کر دے دی تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار نہ ہوگا۔

مسئلہ ۶ دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا ہے، سائل نے مانگا اس کو یہ جائز نہیں کہ سائل کو روٹی کا ٹکڑا دیدے کیونکہ اس نے اس کے کھانے کے لیے رکھا ہے، اس کو مالک نہیں کر دیا کہ جس کو چاہے دیدے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ دو دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے تو ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو کوئی چیز اس پر سے اٹھا کر نہ دے۔ مگر جبکہ یقین ہو کہ صاحب خانہ کو ایسا کرنا ناگوار نہ ہوگا۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ کھاتے وقت صاحب خانہ کا بچہ آ گیا تو اس کو یا صاحب خانہ کے خادم کو اس کھانے میں سے نہیں دے سکتا۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ کھانا ناپاک ہو گیا تو یہ جائز نہیں کہ کسی پاگل یا بچہ کو کھلائے یا کسی ایسے جانور کو کھلائے جس کا کھانا حلال ہے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

①....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیافات، ج ۵، ص ۳۴۳.

②.....ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا اور سمعہ یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیافات، ج ۵، ص ۳۴۴.

④.....المرجع السابق.

⑤.....المرجع السابق.

⑥.....المرجع السابق.

⑦.....المرجع السابق.

مسئلہ ۱۰ مہمان کو چار باتیں ضروری ہیں۔

(۱) جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔

(۲) جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ جیسا کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں۔

(۳) بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے۔

(۴) اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھاؤ مگر اس پر اصرار نہ کرے، کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے مضر ہو، میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو اور اگر صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے۔

میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطر داری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمہ اس کو نہ چھوڑے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے کہ یہی تقاضائے مروت ہے اور بہت سے مہمان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے کونہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان پر گراں ہو۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ جب کھا کر فارغ ہوں ان کے ہاتھ دھلائے جائیں اور یہ نہ کرے کہ ہر شخص کے ہاتھ دھونے کے بعد پانی پھینک کر دوسرے کے سامنے ہاتھ دھونے کے لیے طشت پیش کرے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ جس نے ہدیہ بھیجا اگر اس کے پاس حلال و حرام دونوں قسم کے اموال ہوں مگر غالب مال حلال ہے تو اس کے قبول کرنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کے یہاں دعوت کھانے کا ہے اور اگر اس کا غالب مال حرام ہے تو نہ ہدیہ قبول کرے اور نہ اس کی دعوت کھائے، جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ یہ چیز جو اسے پیش کی گئی ہے حلال ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ جس شخص پر اس کا ذین^(۴) ہے، اگر اس نے دعوت کی اور قرض سے پہلے بھی وہ اسی طرح دعوت کرتا تھا تو قبول کرنے میں حرج نہیں اور اگر پہلے بیس دن میں دعوت کرتا تھا اور اب دس دن میں کرتا ہے یا اب اس نے کھانے میں تکلفات

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیافات، ج ۵، ص ۳۴۴ - ۳۴۵.

②.....المرجع السابق، ص ۳۴۵.

③.....المرجع السابق، ص ۳۴۲.

④.....أدھار یعنی قرض۔

بڑھا دیے، تو قبول نہ کرے کہ یہ قرض کی وجہ سے ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

ظروف کا بیان

مسئلہ ۱ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا⁽²⁾ منع ہے اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو ان کے زیور پہننے کی اجازت ہے۔ زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرمہ دانی سے سرمہ لگانا، ان کے آئینہ میں مونہہ دیکھنا، ان کی قلم دوات سے لکھنا، ان کے لوٹے یا طشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا، مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ سونے چاندی کی آرسی⁽⁵⁾ پہننا عورت کے لیے جائز ہے، مگر اُس آرسی میں مونہہ دیکھنا عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔

مسئلہ ۴ سونے چاندی کی چیزوں کے استعمال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہی مقصود ہو اور اگر یہ مقصود نہ ہو تو ممانعت نہیں، مثلاً سونے چاندی کی پلیٹ یا کٹورے میں کھانا رکھا ہوا ہے اگر یہ کھانا اسی میں چھوڑ دیا جائے تو اضعاف مال ہے اُس کو اُس میں سے نکال کر دوسرے برتن میں لے کر کھائے یا اُس میں سے پانی چلو میں لے کر پیا یا پیالی میں تیل تھا، سر پر پیالی سے تیل نہیں ڈالا بلکہ کسی برتن میں یا ہاتھ پر تیل اس غرض سے لیا کہ اُس سے استعمال ناجائز ہے، لہذا تیل کو اُس میں سے لے لیا جائے اور اب استعمال کیا جائے یہ جائز ہے اور اگر ہاتھ میں تیل کا لینا بغرض استعمال ہو جس طرح پیالی سے تیل لے کر سر یا داڑھی میں لگاتے ہیں، اس طرح کرنے سے ناجائز استعمال سے بچنا نہیں ہے کہ یہ بھی استعمال ہی ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضیافات، ج ۵، ص ۳۴۲.

②..... یعنی دھونی لینا۔

③..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، ج ۹، ص ۵۶۴.

④..... المرجع السابق.

⑤..... ایک زیور جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہیں، اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے۔

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، ج ۹، ص ۵۶۴.

مسئلہ ۵ چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا بلکہ اس میں وقت دیکھنا بھی ناجائز ہے، کہ گھڑی کا استعمال یہی ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش و زینت کے لیے ہوں، مثلاً قرینہ سے^(۲) یہ برتن و قلم و دوات لگا دیے، کہ مکان آراستہ ہو جائے اس میں حرج نہیں۔ یوں سونے چاندی کی کرسیاں یا میز یا تخت وغیرہ سے مکان سجا رکھا ہے، ان پر بیٹھنا نہیں ہے تو حرج نہیں۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ بچوں کو بسم اللہ پڑھانے کے موقع پر چاندی کی دوات قلم سختی لا کر رکھتے ہیں، یہ چیزیں استعمال میں نہیں آتیں، بلکہ پڑھانے والے کو دے دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔

مسئلہ ۸ سونے چاندی کے سوا ہر قسم کے برتن کا استعمال جائز ہے، مثلاً تانبے، پیتل، سیسہ، بلور وغیرہا۔ مگر مٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر کہ حدیث میں ہے کہ ”جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرشتے اُس کی زیارت کو آئیں گے۔“ تانبے اور پیتل کے برتنوں پر قلعی ہونی چاہیے، بغیر قلعی ان کے برتن استعمال کرنا مکروہ ہے۔^(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۹ جس برتن میں سونے چاندی کا کام بنا ہوا ہے اس کا استعمال جائز ہے، جبکہ موضع استعمال^(۵) میں سونا چاندی نہ ہو، مثلاً کٹورے یا گلاس میں چاندی کا کام ہو تو پانی پینے میں اس جگہ موٹھ نہ لگے جہاں سونا یا چاندی ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ وہاں ہاتھ بھی نہ لگے، اور قول اول اصح ہے۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ چھڑی کی موٹھ^(۷) سونے چاندی کی ہو تو اس کا استعمال ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ موٹھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، لہذا موضع استعمال میں سونا چاندی ہوئی اور اگر اُس کی شام^(۸) سونے چاندی کی ہو، دستہ سونے چاندی کا نہ ہو تو استعمال میں حرج نہیں، کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پر سونا چاندی نہیں ہے۔ اسی طرح قلم کی نب اگر سونے چاندی کی ہو تو اس سے لکھنا ناجائز ہے کہ وہی موضع استعمال ہے اور اگر قلم کے بالائی حصہ میں ہو تو ناجائز نہیں۔

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۵.

②..... یعنی سجا کر، ترتیب سے رکھنا۔

③..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۶.

④..... المرجع السابق.

⑤..... استعمال کی جگہ۔

⑥..... ”الدرالمختار“، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۷.

⑦..... یعنی چھڑی کا دستہ۔ ⑧..... یعنی چھڑی کے سروں پر چڑھایا جانے والا کسی دھات کا چھلے کی طرح کا خول۔

مسئلہ ۱۱ چاندی سونے کا کرسی یا تخت میں کام بنا ہوا ہے یا زین میں کام بنا ہوا ہے تو اس پر بیٹھنا جائز ہے، جبکہ سونے چاندی کی جگہ سے بچ کر بیٹھے۔ محصل (۱) یہ ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی ہے، اُس کا استعمال مطلقاً ناجائز ہے اور اگر اس میں جگہ جگہ سونا چاندی ہے تو اگر موضع استعمال میں ہے تو ناجائز، ورنہ جائز۔ مثلاً چاندی کی انگلیٹھی سے بخور کرنا مطلقاً ناجائز ہے، اگرچہ دھونی لیتے وقت اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اسی طرح اگر حقہ کی فرشی (۲) چاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا ناجائز ہے، اگرچہ یہ شخص فرشی پر ہاتھ نہ لگائے۔

اسی طرح حقہ کی مونہ نال (۳) سونے چاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا ناجائز ہے اور اگر نیچے (۴) پر جگہ جگہ چاندی سونے کا تار ہو تو اس سے حقہ پی سکتا ہے، جبکہ استعمال کی جگہ پر تار نہ ہو۔ کرسی میں استعمال کی جگہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور اس کا تکیہ ہے جس سے پیٹھ لگاتے ہیں اور اس کے دستے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تخت میں موضع استعمال بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح زین میں اور رکاب بھی سونے چاندی کی ناجائز ہے اور اس میں کام بنا ہوا ہو تو موضع استعمال میں نہ ہو۔ یہی حکم لگام اور دُپچی (۵) کا ہے۔ (۶) (ہدایہ، درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ برتن پر سونے چاندی کا ملمع ہو (۷) تو اس کے استعمال میں حرج نہیں۔ (۸) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۳ آئینہ کا حلقہ جو بوقت استعمال پکڑنے میں نہ آتا ہو اس میں سونے چاندی کا کام ہو، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ (۹) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۱۴ تلوار کے قبضے میں اور چھری یا پیش قبض (۱۰) کے دستے میں چاندی یا سونے کا کام ہے تو ان کا بھی وہی حکم ہے۔ (۱۱) (ہدایہ، درمختار)

①..... خلاصہ۔ ②..... یعنی پیدا۔ ③..... دھات وغیرہ کی بنی ہوئی چھوٹی سی تلی جسے حقے میں لگاتے ہیں۔

④..... حقہ کی تلیاں۔ ⑤..... یعنی تسمہ جو زین کے پچھلے حصے سے جڑا ہوتا ہے، دُم کے نیچے سے گزرتا اور زین کو آگے کی طرف سے جانے سے روکتا ہے۔

⑥..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الأکل والشرب، ج ۲، ص ۳۶۳۔

و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۷۔

⑦..... یعنی برتن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہو۔

⑧..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الأکل والشرب، ج ۲، ص ۳۶۴۔

⑨..... المرجع السابق۔

و"الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۸۔

⑩..... یعنی خنجر۔

⑪..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الأکل والشرب، ج ۲، ص ۳۶۴۔

و"الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۸۔

مسئلہ ۱۵ کپڑے میں سونے چاندی کے حروف بنائے گئے، اس کے استعمال کا بھی وہی حکم ہے۔^(۱) (درمختار) اس میں تفصیل ہے جو لباس کے بیان میں آئے گی۔

مسئلہ ۱۶ ٹوٹے ہوئے برتن کو چاندی یا سونے کے تار سے جوڑنا، جائز ہے اور اس کا استعمال بھی جائز ہے، جبکہ اس جگہ سے استعمال نہ کرے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لکڑی کا پیالہ تھا، وہ ٹوٹ گیا تو چاندی کے تار سے جوڑا گیا۔^(۲) اور یہ پیالہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔^(۳)

خبر کہاں معتبر ہے؟

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ

نُدُوبًا ۝ ﴿٤﴾

”اے ایمان والو! اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اُسے خوب جانچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناواقفی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔“

مسئلہ ۱ اپنے نوکر یا غلام کو گوشت لانے کے لیے بھیجا، اگرچہ یہ مجوسی یا ہندو ہو وہ گوشت لایا اور کہتا ہے کہ مسلمان یا کتابی سے خرید کر لایا ہوں تو یہ گوشت کھایا جاسکتا ہے اور اگر اس نے آ کر یہ کہا کہ مشرک مثلاً مجوسی یا ہندو سے خرید کر لایا ہوں تو اس گوشت کا کھانا حرام ہے کہ خریدنا بیچنا معاملات میں ہے اور معاملات میں کافر کی خبر معتبر ہے، اگرچہ حلت و حرمت^(۵) دیانات^(۶) میں سے ہیں اور دیانات میں کافر کی خبر نامقبول ہے، مگر چونکہ اصل خبر خریدنے کی ہے اور حلت و حرمت اس مقام پر ضمنی چیز ہے، لہذا جب وہ خبر معتبر ہوئی تو ضمنیہ بھی ثابت ہو جائے گی اور اصل خبر حلت و حرمت کی ہوتی تو نامعتبر ہوتی۔^(۷) (ہدایہ، درمختار)

①..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۸.

②..... "صحيح البخاري"، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر... إلخ، الحديث: ۳۱۰۹، ج ۲، ص ۳۴۴.

③..... "صحيح البخاري"، كتاب الأشربة، باب الشرب... إلخ، الحديث: ۵۶۳۸، ج ۳، ص ۵۹۵.

④..... پ ۲۶، الحجر: ۶.

⑤..... یعنی حلال و حرام ہونا۔ ⑥..... اس کی وضاحت صفحہ ۴۰۰ پر آرہی ہے۔

⑦..... "الهداية"، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب، ج ۲، ص ۳۶۴.

و "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۶۹.

مسئلہ ۲ معاملات میں کافر کی خبر معتبر ہونا اس وقت ہے، جب غالب گمان یہ ہو کہ سچ کہتا ہے اور اگر غالب گمان اس کا جھوٹا ہونا ہو تو اس پر عمل نہ کرے۔^(۱) (جوہرہ)

مسئلہ ۳ گوشت خریدنا پھر یہ معلوم ہوا کہ جس سے خریدا ہے وہ مشرک ہے، پھیرنے^(۲) کو لے گیا، اس نے کہا کہ اس جانور کو مسلم نے ذبح کیا ہے، اب بھی اس گوشت کو کھانا ممنوع ہے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ لونڈی غلام اور بچے کی ہدیہ کے متعلق خبر معتبر ہے، مثلاً بچے نے کسی کے پاس کوئی چیز لاکر یہ کہا کہ میرے والد نے آپ کے پاس یہ ہدیہ بھیجا ہے، وہ شخص چیز کو لے سکتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے، کھانے کی چیز ہو تو کھا سکتا ہے۔ اسی طرح لونڈی غلام نے کوئی چیز دی اور یہ کہا کہ میرے مولیٰ نے یہ چیز ہدیہ بھیجی ہے، بلکہ یہ دونوں خود اپنے متعلق اس کی خبر دیں کہ ہمارے مولیٰ نے خود ہمیں ہدیہ کیا ہے یہ خبر بھی مقبول ہے۔ فرض کرو لونڈی نے یہ خبر دی تو اس سے یہ شخص وٹی بھی کر سکتا ہے۔^(۴) (زیلعی)

مسئلہ ۵ ان لوگوں نے یہ خبر دی کہ ہمارے ولی یا مولیٰ نے ہمیں خریدنے کی اجازت دی ہے یہ خبر بھی معتبر ہے، جبکہ غالب گمان ان کی سچائی ہو، لہذا بچہ نے کوئی چیز خریدی مثلاً نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا اور کہتا ہے ہم کو اس کی اجازت ہے تو اس کے ہاتھ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ مثلاً اسے چند پیسوں کی مٹھائی یا پھل وغیرہ خریدنا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مجھے اجازت ہے اس کا اعتبار نہ کیا جائے، جبکہ اس صورت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ اُس کو پیسے اس لیے نہیں ملے ہیں کہ مٹھائی وغیرہ خرید کر کھالے۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار) یعنی جبکہ گمان غالب یہ ہو کہ اسے خریدنے کی اجازت نہیں ہے، مثلاً یہ گمان ہے کہ چھپا کر لایا ہے، مٹھائی خرید رہا ہے، اس کے گھر والے ایسے کہاں ہیں کہ مٹھائی کھانے کو پیسے دے دیں اس صورت میں اس کے ہاتھ مٹھائی کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔

مسئلہ ۶ کافر یا فاسق نے یہ خبر دی کہ میں فلاں شخص کا اس چیز کے بیچنے میں وکیل ہوں، اس کی خبر اعتبار کی جاسکتی ہے اور اُس چیز کو خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی ان کی خبریں مقبول ہیں، جبکہ ظن غالب یہ ہو کہ سچ کہتا ہے۔^(۶) (درمختار)

①..... الجوہرۃ النیرۃ، کتاب الحظر والاباحۃ، جز ۲، ص ۳۶۲.

②..... واپس کرنے۔

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والاباحۃ، ج ۹، ص ۵۶۹.

④..... "تبيين الحقائق"، کتاب الکراہیۃ، ج ۷، ص ۲۸.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والاباحۃ، ج ۹، ص ۵۷۰.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والاباحۃ، ج ۹، ص ۵۷۰.

مسئلہ ۷ دیانات میں مخبر^(۱) کا عادل ہونا ضروری ہے۔ دیانات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بندہ اور رب کے مابین ہے۔ مثلاً حلت، حرمت، نجاست، طہارت اور گردیانت کے ساتھ زوال ملک بھی ہو مثلاً میاں بی بی کے متعلق کسی نے یہ خبر دی کہ یہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے فقط عدالت کافی نہیں، بلکہ عدد اور عدالت دونوں چیزیں درکار ہیں یعنی خبر دینے والے دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں ہوں اور یہ سب عادل ہوں۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ پانی کے متعلق کسی مسلم عادل نے یہ خبر دی کہ یہ نجس ہے تو اس سے وضو نہ کرے، بلکہ اگر دوسرا پانی نہ ہو تو تیمم کرے اور اگر فاسق یا مستور^(۳) نے خبر دی کہ پانی نجس ہے تو تحری (غور) کرے اگر دل پر یہ بات جمتی ہے کہ سچ کہتا ہے تو پانی کو پھینک دے اور تیمم کرے وضو نہ کرے اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ جھوٹ کہتا ہے تو وضو کرے اور احتیاط یہ ہے کہ وضو کے بعد تیمم بھی کر لے اور اگر کافر نے نجاست کی خبر دی اور غالب گمان یہ ہے کہ سچ کہتا ہے جب بھی بہتر یہ ہے کہ اسے پھینک دے پھر تیمم کرے۔^(۴) (درمختار)

مسئلہ ۹ ایک عادل نے یہ خبر دی کہ پاک ہے اور دوسرے عادل نے نجاست کی خبر دی یا ایک نے خبر دی کہ یہ مسلم کا ذبیحہ ہے اور دوسرے نے یہ کہ مشرک کا ذبیحہ ہے، اس میں بھی تحری کرے، جدھر غالب گمان ہو اس پر عمل کرے۔^(۵) (ردالمحتار)

لباس کا بیان

حدیث ۱ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”تُو جوجا ہے کھا اور تُو جوجا ہے پہن، جب تک دو باتیں نہ ہوں، اسراف و تکبر۔“^(۶)

حدیث ۲ امام احمد و نسائی و ابن ماجہ بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو، جب تک اسراف و تکبر کی آمیزش نہ ہو۔“^(۷)

①..... خبر دینے والا۔

②..... ”الدر المختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر و الإباحة، ج ۹، ص ۵۷۱۔

③..... مستور: یعنی وہ شخص جس کا عادل یا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو۔

④..... ”الدر المختار“، کتاب الحظر و الإباحة، ج ۹، ص ۵۷۱۔

⑤..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر و الإباحة، ج ۹، ص ۵۷۳۔

⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾، ج ۴، ص ۴۵۔

⑦..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب اللباس، باب البس ما شئت... إلخ، الحدیث: ۳۶۰۵، ج ۴، ص ۱۶۲۔

و ”سنن النسائی“، کتاب الزکاة، باب الإختیال فی الصدقة، الحدیث: ۲۵۵۵، ص ۴۲۰۔

حدیث ۳ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حمرہ بہت پسند تھا۔ یہ ایک قسم کی دھاری دار چادر ہوتی تھی جو یمن میں بنتی تھی۔^(۱)

حدیث ۴ ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سرخ حُلّہ^(۲) پہنے ہوئے تھے یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھیں، میں کبھی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔^(۳)

حدیث ۵ صحیح بخاری و مسلم میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیوند لگی ہوئی کملی اور موٹا تہبند نکالا اور یہ کہا، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی وفات انھیں میں ہوئی۔^(۴) (یعنی بوقت وفات اسی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے)۔

حدیث ۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ”جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے (یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے) اُس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔“^(۵) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، ”جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا، اس کی طرف اللہ (عزوجل) نظر رحمت نہیں کرے گا۔“^(۶) صحیح بخاری کی انھیں سے روایت ہے، کہ ”ایک شخص اترانے کے طور پر تہبند گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھنسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔“^(۷)

حدیث ۷ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مُخْنُوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے، وہ آگ میں ہے۔“^(۸)

حدیث ۸ ابوداؤد و ابن ماجہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب البرود والحبرة... إلخ، الحدیث: ۵۸۱۳، ج ۴، ص ۵۴.

②..... حُلّہ: چادر تہبند کے مجموعہ کو کہتے ہیں یعنی جوڑا۔

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی الرخصة فی لبس الحمرة للرجال، الحدیث: ۲۸۲۰، ج ۴، ص ۳۷۰.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب الأكسية والخمائن، الحدیث: ۵۸۱۸، ج ۴، ص ۵۵.

⑤..... المرجع السابق، باب من جر ثوبه من الخیلاء، الحدیث: ۵۷۸۸، ج ۴، ص ۴۶.

⑥..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۷۹۱، ج ۴، ص ۴۷.

⑦..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۷۹۰، ج ۴، ص ۴۷.

⑧..... المرجع السابق، باب ما أسفل من الكعبین فهو فی النار، الحدیث: ۵۷۸۷، ج ۴، ص ۴۶.

وسلم فرماتے ہیں: ”مومن کا تہبند آدھی پنڈلیوں تک ہے اور اس کے اور ٹخنوں کے درمیان میں ہو، اس میں بھی حرج نہیں اور اس سے جو نیچے ہو آگ میں ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، جو تہبند کو ازراہ تکبر گھسیٹے۔“ (1)

حدیث ۹ — ابوداؤد نسائی وابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسبال یعنی کپڑے کے نیچا کرنے کی ممانعت تہبند و قمیص و عمامہ سب میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: ایک باشت لٹکالیں (یعنی آدھی پنڈلی کے نیچے ایک باشت لٹکائیں) عرض کی، اب تو عورتوں کے قدم کھل جائیں گے، ارشاد فرمایا: ایک ہاتھ لٹکالیں اس سے زیادہ نہیں۔“ (2)

حدیث ۱۰ — صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا تہبند کچھ لٹک رہا تھا، ارشاد فرمایا: ”عبد اللہ! اپنے تہبند کو اونچا کرو۔“ میں نے اونچا کر لیا پھر فرمایا: ”زیادہ اونچا کرو۔“ میں نے زیادہ کر لیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا۔ کسی نے عبد اللہ سے پوچھا، کہاں تک اونچا کیا جائے؟ کہا، نصف پنڈلی تک۔“ (3)

حدیث ۱۱ — صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے نیچا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرا تہبند لٹک جاتا ہے، مگر اس وقت کہ میں پورا خیال رکھوں (یعنی ان کے شکم پر تہبند رکتا نہیں تھا، سرک جاتا تھا)۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”تم ان میں سے نہیں جو براہ تکبر لٹکاتے ہیں۔“ (4) (یعنی جو بالقصد تہبند کو نیچا کرتے ہیں، ان کے لیے وہ وعید ہے۔)

حدیث ۱۲ — ابوداؤد نے عکرمہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ ان کے تہبند کا حاشیہ پشت قدم پر تھا، میں نے کہا: آپ اس طرح کیوں تہبند باندھتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح تہبند باندھے ہوئے دیکھا ہے۔“ (5)

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب اللباس، باب موضع الإزارین ہو، الحدیث: ۳۵۷۳، ج ۴، ص ۱۴۸.

و ”مشکاة المصابیح“، کتاب اللباس، الحدیث: ۴۳۳۱، ج ۲، ص ۴۷۲.

②..... ”سنن أبي داود“، کتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، الحدیث: ۴۰۹۴، ج ۴، ص ۸۳.

و باب في قدر الذيل، الحدیث: ۴۱۱۷، ج ۴، ص ۸۹.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء... إلخ، الحدیث: ۴۷- (۲۰۸۶)، ص ۱۱۵۶.

④..... ”صحیح البخاري“، کتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، الحدیث: ۵۷۸۴، ج ۴، ص ۴۵.

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، الحدیث: ۴۰۹۶، ج ۴، ص ۸۳.

حدیث ۱۳ ترمذی و ابوداؤد نے اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین گٹے تک تھی۔^(۱)

حدیث ۱۴ امام احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سپید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں اور انھیں میں اپنے مردے کفناؤ۔“^(۲)

حدیث ۱۵ ابن ماجہ نے ابوداؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب میں اچھے وہ کپڑے جنھیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو، سپید ہیں یعنی سپید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے۔“^(۳)

حدیث ۱۶ ترمذی و ابوداؤد نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں: ایک شخص سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرے اور انھوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو سلام کیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے سلام کا جواب نہیں دیا۔“^(۴)

حدیث ۱۷ ابوداؤد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا باریک کپڑے پہن کر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے آئیں، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے مونہ پھیر لیا اور یہ فرمایا: ”اے اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے، سوا مونہ اور ہتھیلیوں کے۔“^(۵)

حدیث ۱۸ امام مالک علقمہ بن ابی علقمہ سے وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں، کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس باریک دوپٹا اوڑھ کر آئیں، حضرت عائشہ نے ان کا دوپٹا پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹا دے دیا۔^(۶)

حدیث ۱۹ ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکاتے۔^(۷)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب اللباس، باب ما جاء في القميص، الحديث: ٤٠٢٧، ج ٤، ص ٦١.

و ”مشكاة المصابيح“، كتاب اللباس، الحديث: ٤٣٢٩، ج ٢، ص ٤٧٢.

②..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند البصريين، حديث سمرة بن جندب، الحديث: ٢٠١٧٤، ج ٧، ص ٢٦٠.

③..... ”سنن ابن ماجه“، كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث: ٣٥٦٨، ج ٤، ص ١٤٦.

④..... ”سنن الترمذی“، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال، الحديث: ٢٨١٦، ج ٤، ص ٣٦٨.

⑤..... ”سنن أبي داود“، كتاب اللباس، باب فيما تبدى المرأة من زينتها، الحديث: ٤١٠٤، ج ٤، ص ٨٥.

⑥..... ”الموطأ“ للإمام مالك، كتاب اللباس، باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب، الحديث: ١٧٣٩، ج ٢، ص ٤١٠.

⑦..... ”سنن الترمذی“، كتاب اللباس، باب في سدل العمامة بين الكتفين، الحديث: ١٧٤٢، ج ٣، ص ٢٨٦.

حدیث ۲۰ بیہقی نے شعب الایمان میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عمامہ باندھنا اختیار کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔“ (1)

حدیث ۲۱ ترمذی نے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا کہ

”ہمارے اور مشرکین کے مابین یہ فرق ہے کہ ہمارے عمامہ ٹوپوں پر ہوتے ہیں۔“ (2)

حدیث ۲۲ ترمذی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے

مجھ سے یہ فرمایا: ”عائشہ! اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے اور مال داروں کے پاس بیٹھنے سے بچو اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو، جب تک پیوند نہ لگا لو۔“ (3)

حدیث ۲۳ ابوداؤد نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا سنتے نہیں ہو، کیا سنتے نہیں ہو؟ ردی حالت میں ہونا (4) ایمان سے ہے، ردی حالت میں ہونا ایمان سے ہے۔“ (5)

حدیث ۲۴ امام احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔“ (6)

لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے یا جو شخص درویش نہ ہو، وہ ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھیں یا عالم نہ ہو اور علما کے سے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جتاتا ہے یعنی کپڑے سے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو۔

حدیث ۲۵ ابوداؤد نے ایک صحابی سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو باوجود

قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلقہ پہنائے گا۔“ (7)

حدیث ۲۶ امام احمد و نسائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے

①..... ”شعب الایمان“، باب فی الملابس، فصل فی العمائم، الحدیث: ۶۲۶۲، ج ۵، ص ۱۷۶.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب اللباس، باب العمائم علی القلائس، الحدیث: ۱۷۹۱، ج ۳، ص ۳۰۵.

③..... المرجع السابق، باب ما جاء فی ترقیع الثوب، الحدیث: ۱۷۸۷، ج ۳، ص ۳۰۲.

④..... یعنی لباس کی سادگی۔

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الترجل، باب النهی عن کثیر من الإرفاء، الحدیث: ۴۱۶۱، ج ۴، ص ۱۰۳.

⑥..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث: ۵۶۶۸، ج ۲، ص ۴۰۳.

⑦..... ”سنن أبي داود“، کتاب الادب، باب من کظم غیظاً، الحدیث: ۴۷۷۸، ج ۴، ص ۳۲۶.

یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرمایا: ”کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا فرمایا: کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی، جس سے کپڑے دھولے۔“ (1)

حدیث ۲۷ — ترمذی نے عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندہ پر ظاہر ہو۔“ (2)

حدیث ۲۸ — امام احمد و نسائی نے ابوالاحوص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے کپڑے گھنٹیا تھے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں ہے۔ فرمایا: کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی، خدا کا دیا ہوا ہر قسم کا مال ہے۔ اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے، غلام۔ فرمایا: جب خدا نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت و کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے۔“ (3)

حدیث ۲۹ — صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمرو انس و ابن زبیر و ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو دنیا میں ریشم پہنے گا، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔“ (4)

حدیث ۳۰ — صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو دنیا میں ریشم پہنے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“ (5)

حدیث ۳۱ — صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی، مگر اتنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو انگلیاں بیچ والی اور کلمہ کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔“ (6)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے خطبہ میں فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریشم کی ممانعت فرمائی ہے، مگر دو یا تین یا چار انگلیوں کی برابر یعنی کسی کپڑے میں اتنی چوڑی ریشم کی گوٹ لگائی جاسکتی ہے۔“ (7)

حدیث ۳۲ — صحیح مسلم میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے ایک کسروانی جبہ نکالا،

①..... ”سنن أبی داود“، کتاب اللباس، باب فی الخلقان و فی غسل الثوب، الحدیث: ۴۰۶۲، ج ۴، ص ۷۲.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء ان اللہ تعالیٰ یحب ان یری أثر نعمته علی عبده، الحدیث: ۲۸۲۸، ج ۴، ص ۳۷۴.

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند المکین، حدیث مالک بن نضلة أبی الأحوص، الحدیث: ۱۵۸۸۸، ج ۵، ص ۳۸۳.

و ”مشکاة المصابیح“، کتاب اللباس، الحدیث: ۴۳۵۲، ج ۲، ص ۴۷۵.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب لبس الحریر... إلخ، الحدیث: ۵۸۳۴، ج ۴، ص ۵۹.

⑤..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۸۳۵، ج ۴، ص ۵۹.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب تحریم استعمال إناء الذهب، الحدیث: ۱۲- (۲۰۶۹)، ص ۱۱۴۸.

⑦..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۵- (۲۰۶۹)، ص ۱۱۴۹.

جس کا گریبان دیباچ کا تھا اور دونوں چاکوں میں دیباچ کی گوٹ لگی ہوئی تھی اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ جب حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا میں نے لے لیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اسے دھو کر بیماروں کو بغرض شفا پلاتے ہیں۔⁽¹⁾

حدیث ۳۳ — ترمذی و نسائی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔“⁽²⁾

حدیث ۳۲ — صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، فرمایا: ”یہ کافروں کے کپڑے ہیں، انھیں تم مت پہنو۔“ میں نے کہا، انھیں دھو ڈالوں۔ فرمایا کہ ”جلا دو۔“⁽³⁾

حدیث ۳۵ — ترمذی ابوالخلیج سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درندہ کی کھال بچھانے سے منع فرمایا ہے۔⁽⁴⁾

حدیث ۳۶ — ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو دہنے سے شروع کرتے۔⁽⁵⁾

حدیث ۳۷ — ترمذی و ابوداؤد نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے، اس کا نام لیتے عمامہ یا قمیص یا چادر پھر یہ دعا پڑھتے: **اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.**⁽⁶⁾

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب تحریم استعمال إناء الذهب، الحدیث: ۱۰۔ (۲۰۶۹)، ص ۱۱۴۷۔

و ”مشکاة المصابیح“، کتاب اللباس، الحدیث: ۴۳۲۵، ج ۲، ص ۴۷۱۔

②..... ”سنن النسائی“، کتاب الزینة من السنن، باب تحریم الذهب علی الرجال، الحدیث: ۵۱۵۸، ص ۷۲۱۔

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب النهی عن لبس الرجل الثوب المعصفر، الحدیث: ۲۸، ۲۷۔ (۲۰۷۷)، ص ۱۱۵۱۔

④..... ”سنن الترمذی“، کتاب اللباس، باب ماجاء فی النهی عن جلود السباع، الحدیث: ۱۷۷۷، ج ۳، ص ۲۹۹۔

⑤..... المرجع السابق، باب ماجاء فی القمص، الحدیث: ۱۷۷۲، ج ۳، ص ۲۹۷۔

⑥..... المرجع السابق، باب ما یقول إذا لبس ثوبا جدیدا، الحدیث: ۱۷۷۳، ج ۳، ص ۲۹۷۔

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ (کپڑا) پہنایا، ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

حدیث ۳۸ ابو داؤد نے معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ** (1) تو اُس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔“ (2)

حدیث ۳۹ امام احمد نے ابو مہر سے روایت کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین درہم میں کپڑا خریدا، اُس کو پہنتے وقت یہ پڑھا: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا اتَّجَمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي**. (3) پھر یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی پڑھتے ہوئے سنا۔ (4)

حدیث ۴۰ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا اور یہ پڑھا: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي**. (5) پھر یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت یہ پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے، وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کثف و حفظ و ستر میں رہے گا۔ (6) تینوں لفظ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اُس کا حافظ و نگہبان ہے۔

حدیث ۴۱ امام احمد و ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص جس قوم سے تشبہ کرے، وہ انھیں میں سے ہے۔“ (7) یہ حدیث ایک اصل کلی ہے۔ لباس و عادات و اطوار میں کن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے۔ کفار و فساق و فجار سے مشابہت بری ہے اور اہل صلاح و تقویٰ کی مشابہت اچھی ہے پھر اس تشبہ کے بھی درجات ہیں اور انھیں کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں۔ کفار و فساق سے تشبہ کا ادنیٰ مرتبہ کراہت ہے، مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے ممتاز رکھے کہ پہچانا جاسکے اور غیر مسلم کا شبہ اس پر نہ ہو سکے۔

- 1..... تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے یہ (لباس) پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر یہ عطا فرمایا۔
- 2..... ”سنن أبي داود“، كتاب اللباس، باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا، الحديث: ٤٠٢٣، ج ٤، ص ٥٩.
- و”المستدرک“ للحاکم، كتاب اللباس، باب الدعاء عند فراغ الطعام، الحديث: ٧٤٨٦، ج ٥، ص ٢٧٠.
- و”مشکوٰۃ المصابیح“ كتاب اللباس، الفصل الثانی، الحديث ٤٣٤٣، ج ٢، ص ١١٧.
- 3..... اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت کرتا ہوں۔
- 4..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحديث: ١٣٥٢، ج ١، ص ٣٣١.
- 5..... تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں زینت کرتا ہوں اور اپنا ستر ڈھانپتا ہوں۔
- 6..... ”سنن الترمذی“، احادیث شتی، باب ١٠٧: (١٢١)، الحديث: ٣٥٧١، ج ٥، ص ٣٢٧.
- 7..... ”سنن أبي داود“، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، الحديث: ٤٠٣١، ج ٤، ص ٦٢.

حدیث ۳۲ ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے تشبہ کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں سے تشبہ کریں۔^(۱)

حدیث ۳۳ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی، جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت کی، جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔^(۲)

حدیث ۳۴ ابو داؤد عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”نہ میں سرخ زین پوش پر سوار ہوتا ہوں اور نہ کسم کارنگا ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ وہ قمیص پہنتا ہوں، جس میں ریشم کا کف لگا ہوا ہو (یعنی چار انگل سے زائد)، بن لو! مردوں کی خوشبو وہ ہے، جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس میں رنگ ہو، بونہ ہو۔“^(۳) یعنی مردوں میں خوشبو مقصود ہوتی ہے، اس کا رنگ نمایاں نہ ہونا چاہیے کہ بدن یا کپڑے رنگین ہو جائیں اور عورتیں ہلکی خوشبو استعمال کریں کہ یہاں زینت مقصود ہوتی ہے اور یہ رنگین خوشبو مثلاً خلوق سے حاصل ہوتی ہے، تیز خوشبو سے خواہ مخواہ لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی۔

حدیث ۳۵ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔^(۴)

حدیث ۳۶ ابو داؤد نے دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قبلی کپڑے لائے گئے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ایک مجھے دیا اور یہ فرمایا کہ ”اس کے دو ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑے کی قمیص بنو لو اور ایک اپنی بی بی کو دے دینا، وہ اوڑھنی بنا لے گی۔“ جب یہ چلے تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا کہ ”اپنی بی بی سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا لگالے تاکہ بدن نہ جھلکے۔“^(۵)

حدیث ۳۷ صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچھونا جس پر آرام فرماتے تھے، چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔^(۶)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب اللباس، باب في لباس النساء، الحديث: ٤٠٩٧، ج ٤، ص ٨٣.

②..... المرجع السابق، الحديث: ٤٠٩٨، ج ٤، ص ٨٣.

③..... المرجع السابق، باب من كرهه، الحديث: ٤٠٤٨، ج ٤، ص ٦٨.

④..... ”سنن الترمذی“، كتاب الأدب، باب ماجاء في الثوب الأخصر، الحديث: ٢٨٢١، ج ٤، ص ٣٧١.

⑤..... ”سنن أبي داود“، كتاب اللباس، باب في لبس القباطي للنساء، الحديث: ٤١١٦، ج ٤، ص ٨٨.

⑥..... ”صحیح مسلم“، كتاب اللباس، باب التواضع في اللباس... إلخ، الحديث: ٣٨- (٢٠٨٢)، ص ١١٥٣.

مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا تکیہ چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری تھی۔ (1)

حدیث ۳۸ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک بچھونا مرد کے لیے اور ایک اُس کی زوجہ کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے۔“ (2) یعنی گھر کے آدمیوں اور مہمانوں کے لیے بچھونے جائز ہیں اور حاجت سے زیادہ نہ چاہیے۔

مسئلہ ۱ اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے فرض ہے اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو اور یہ کہ جبکہ اللہ (عزوجل) نے دیا ہے تو اُس کی نعمت کا اظہار کیا جائے۔ یہ مستحب ہے خاص موقع پر مثلاً جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے۔ اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔

اور تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے، تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا۔ لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ بہتر یہ ہے کہ اونی یا سوتی یا کتان کے کپڑے بنوائے جائیں جو سنت کے موافق ہوں، نہ نہایت اعلیٰ درجہ کے ہوں نہ بہت گھٹیا، بلکہ متوسط (4) قسم کے ہوں کہ جس طرح بہت اعلیٰ درجہ کے کپڑوں سے نمود (5) ہوتی ہے، بہت گھٹیا کپڑے پہننے سے بھی نمائش ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صاحب کمال اور تارک الدنیا شخص ہیں۔ سفید کپڑے بہتر ہیں کہ حدیث میں اس کی تعریف آئی ہے اور سیاہ کپڑے بھی بہتر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو سراقہ پر سیاہ عمامہ تھا۔ سبز کپڑوں کو بعض کتابوں میں سنت لکھا ہے۔ (6) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ (7) (ردالمحتار) اس زمانہ میں بہت سے مسلمان پاجامہ کی جگہ جاگھیا (8) پہننے لگے ہیں۔ اس

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب التواضع فی اللباس... إلخ، الحدیث: ۳۷- (۲۰۸۲)، ص ۱۱۵۳۔

②..... المرجع السابق، باب کراهة ما زاد علی الحاجة... إلخ، الحدیث: ۴۱- (۲۰۸۴)، ص ۱۱۵۴۔

③..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۷۹۔

④..... درمیانہ۔

⑤..... نمائش۔

⑥..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۷۹۔

⑦..... المرجع السابق۔

⑧..... یعنی نیکر۔ گھٹنوں سے اوپر کا پاجامہ۔

کے ناجائز ہونے میں کیا کلام کہ گھٹنے کا کھلا ہونا حرام ہے اور بہت لوگوں کے گرتے کی آستینیں کہنی کے اوپر ہوتی ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے اور یہ دونوں کپڑے نصاریٰ کی تقلید میں پہنے جاتے ہیں، اس چیز نے ان کی قباحت میں اور اضافہ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولے، کہ وہ کفار کی تقلید اور ان کی وضع قطع سے بچیں۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو آپ نے لشکریوں کے لیے بھیجا تھا، جن میں بیشتر حضرات صحابہ کرام تھے، اس کو مسلمان پیش نظر رکھیں اور عمل کی کوشش کریں اور وہ ارشاد یہ ہے: **إِيَّاكُمْ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ** (1) عجمیوں کے بھیس سے بچو، ان جیسی وضع قطع نہ بنا لینا۔

مسئلہ ۴ ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی نرے ریشم کے کپڑے حرام ہیں، ہاں اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا، اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ (2) (ہدایہ، درمختار)

مسئلہ ۵ تانا ریشم ہو اور بانا سوت، مگر کپڑا اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے۔ (3) (عالمگیری) بعض قسم کی مخل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے روئیں ریشم کے ہوتے ہیں، اس کے پہننے کا بھی یہی حکم ہے، اس کی ٹوپی اور صدری (4) وغیرہ نہ پہنی جائے۔

مسئلہ ۶ ریشم کے بچھونے پر بیٹھنا، لیٹنا اور اس کا تکیہ لگانا بھی ممنوع ہے، اگرچہ پہننے میں بہ نسبت اس کے زیادہ برائی ہے۔ (5) (عالمگیری) مگر درمختار میں اسے مشہور کے خلاف بتایا ہے (6) اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔

مسئلہ ۷ نر، کہ ایک قسم کے ریشم کا نام ہے، بھاگلپوری کپڑے نر کے کہلاتے ہیں۔ وہ موٹا ریشم ہوتا ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے، جو باریک ریشم کا ہے۔ کاشی سلک اور چینا سلک بھی ریشم ہی ہے، اس کے پہننے کا بھی وہی حکم ہے۔ سن اور رام بانس

1..... "المقاصد الحسنة" للسخاوی، حرف الهمزة، رقم: ۲۷۲، ص ۱۴۲۔

2..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی اللبس، ج ۲، ص ۳۶۵۔

و "الدر المختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۰۔

3..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب التاسع فی اللبس ما یکرہ... الخ، ج ۵، ص ۳۳۱۔

4..... یعنی واسکت۔

5..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب التاسع فی اللبس ما یکرہ... الخ، ج ۵، ص ۳۳۱۔

6..... "الدر المختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۷۔

کے کپڑے جو بظاہر بالکل ریشم معلوم ہوتے ہوں، ان کا پہننا اگرچہ ریشم کا پہننا نہیں ہے مگر اس سے بچنا چاہیے۔ خصوصاً علما کو کہ لوگوں کو بدظنی کا موقع ملے گا یا دوسروں کو ریشم پہننے کا ذریعہ بنے گا۔ اس زمانہ میں کیلے کا ریشم چلا ہے۔ یہ ریشم نہیں ہے بلکہ کسی درخت کی چھال سے اس کو بناتے ہیں اور یہ بہت ظاہر طور پر شناخت میں آتا ہے، اس کو پہننے میں حرج نہیں۔

مسئلہ ۸ ریشم کا لحاف اوڑھنا ناجائز ہے کہ یہ بھی لباس میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازوں پر لٹکانا مکروہ ہے۔ کپڑے بیچنے والے نے ریشم کے کپڑے کندھے پر ڈال لیے جیسا کہ پھیری کرنے والے کندھوں پر ڈال لیا کرتے ہیں، یہ ناجائز نہیں کہ یہ پہننا نہیں ہے اور اگر جبہ یا کرتہ ریشم کا ہو اور اس کی آستینوں میں ہاتھ ڈال لیے، اگرچہ بیچنے ہی کے لیے لے جا رہا ہے یہ ممنوع ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ عورتوں کو ریشم پہننا ناجائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو اس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو۔^(۲) (عامہ کتب)

مسئلہ ۱۰ مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ چار انگل تک کی جائز ہے اس سے زیادہ ناجائز، یعنی اس کی چوڑائی چار انگل تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں۔ اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہو جیسا کہ بعض عمامے یا چادروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر چار انگل تک کا کنارہ ہو تو جائز ہے، ورنہ ناجائز۔^(۳) (ردالمحتار، ردالمحتار)

یعنی جبکہ اس کنارہ کی بناوٹ بھی ریشم کی ہو اور اگر سوت کی بناوٹ ہو تو چار انگل سے زیادہ بھی جائز ہے۔ عمامہ یا چادر کے پلو ریشم سے بنے ہوں تو چونکہ بانا ریشم کا ہونا ناجائز ہے، لہذا یہ پلو بھی چار انگل تک کا ہی ہونا چاہیے زیادہ نہ ہو۔

مسئلہ ۱۱ آستین یا گریبان یا دامن کے کنارہ پر ریشم کا کام ہو تو وہ بھی چار انگل ہی تک ہو صدری یا جبہ کا سا ریشم کا ہو تو چار انگل تک جائز ہے اور ریشم کی گھنڈیاں بھی جائز ہیں۔ ٹوپی کا طرہ بھی چار انگل کا جائز ہے، پانچامہ کا نیفہ بھی چار انگل تک کا جائز ہے، اچکن یا جبہ میں شانوں اور پیٹھ پر ریشم کے پان یا کیری چار انگل تک کے جائز ہیں۔^(۴) (ردالمحتار) یہ حکم اس وقت ہے کہ پان^(۵) وغیرہ مغرق ہوں^(۶) کہ کپڑا دکھائی نہ دے اور اگر مغرق نہ ہوں تو چار انگل سے زیادہ بھی جائز ہے۔

مسئلہ ۱۲ ریشم کے کپڑے کا پیوند کسی کپڑے میں لگایا اگر یہ پیوند چار انگل تک کا ہو جائز ہے اور زیادہ ہو تو ناجائز۔ ریشم کو روئی کی طرح کپڑے میں بھر دیا گیا مگر ابرا^(۷) اور استر^(۸) دونوں سوتی ہوں تو اس کا پہننا جائز ہے اور اگر ابرا یا استر دونوں

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس ما یکرہ... إلخ، ج ۵، ص ۳۳۱.

②..... المرجع السابق.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۰.

④..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۱.

⑤..... پان کے پتے کی شکل۔

⑥..... یعنی ریشم سے بالکل ڈھکا ہوا ہوں۔

⑦..... یعنی دوہرے کپڑے کی اوپری تہ۔

⑧..... یعنی دوہرے کپڑے کی نیچے کی تہ۔

میں سے کوئی بھی ریشم ہو تو ناجائز ہے۔ اسی طرح ٹوپی کا استر بھی ریشم کا ناجائز ہے اور ٹوپی میں ریشم کا کنارہ چار انگل تک جائز ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ ٹوپی میں لیس لگائی گئی یا عمامہ میں گونا گونا گونا گونا گیا، اگر یہ چار انگل سے کم چوڑا ہے جائز ہے ورنہ نہیں۔

مسئلہ ۱۴ متفرق جگہوں پر ریشم کا کام ہے، تو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا یعنی اگر ایک جگہ چار انگل سے زیادہ نہیں ہے مگر جمع کریں تو زیادہ ہو جائے گا یہ ناجائز نہیں، لہذا کپڑے کی بناوٹ میں جگہ جگہ ریشم کی دھاریاں ہوں تو جائز ہے، جبکہ ایک جگہ چار انگل سے زیادہ چوڑی کوئی دھاری نہ ہو۔ یہی حکم نقش و نگار کا ہے کہ ایک جگہ چار انگل سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔

اور اگر پھول یا کام اس طرح بنایا ہے کہ ریشم ہی ریشم نظر آتا ہو جس کو مغرق کہتے ہیں، جس میں کپڑا نظر ہی نہیں آتا تو اس کام کو متفرق نہیں کہا جاسکتا۔ اس قسم کا ریشم یا زری کا کام ٹوپی یا چکن یا صدری یا کسی کپڑے پر ہو اور چار انگل سے زائد ہو تو ناجائز ہے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار) دھاریوں کے لیے چار انگل سے زیادہ نہ ہونا، اس وقت ضروری ہے کہ بانے میں دھاریاں ہوں اور اگر تانے میں ہوں اور بانا سوت ہو تو چار انگل سے زیادہ ہونے کی صورت میں بھی جائز ہے۔

مسئلہ ۱۵ کپڑا اس طرح بنا گیا کہ ایک تا گا سوت ہے اور ایک ریشم، مگر دیکھنے میں بالکل ریشم معلوم ہوتا ہے یعنی سوت نظر نہیں آتا یہ ناجائز ہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ سونے چاندی سے کپڑا بنا جائے جیسا کہ بنا ساری کپڑے میں زری بنی جاتی ہے۔ کخواب اور پوت میں زری ہوتی ہے اور اسی طرح بنا ساری عمامہ کے کنارے اور دونوں طرف کے حاشیے زری کے ہوتے ہیں ان کا یہ حکم ہے کہ اگر ایک جگہ چار انگل سے زیادہ ہو تو ناجائز ہے، ورنہ جائز، مگر کخواب اور پوت میں چونکہ تانا بانا⁽⁴⁾ دونوں ریشم ہوتا ہے، لہذا زری اگر چہ چار انگل سے کم ہو، جب بھی ناجائز ہے۔

ہاں اگر سوتی کپڑا ہوتا یا تانا ریشم اور بانا سوت ہوتا اور اس میں زری بنی جاتی تو چار انگل تک جائز ہوتا۔ جیسا کہ عمامہ سوت کا ہوتا ہے اور اس میں زری بنی جاتی ہے، اس کا یہی حکم ہے کہ ایک جگہ چار انگل سے زیادہ ناجائز ہے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم اور سونا چاندی پہننا جائز ہے، ان کے لیے چار انگل کی تخصیص نہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۱.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۲.

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۲.

④..... وہ دھاگے جو کپڑے میں لہائی اور چوڑائی میں دیئے جاتے ہیں۔

گوٹے لچکے (1)، اگر چہ کتنے ہی چوڑے ہوں جائز ہیں اور مغرق (2) اور غیر مغرق کا فرق بھی مردوں ہی کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے مطلقاً جائز ہے۔ (3) (المستفاد من ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ زری کی بناوٹ کا جو حکم ہے وہی اس کے نقش و نگار کا بھی ہے، اب بھی زری کی ٹوپیاں بعض لوگ پہنتے ہیں، اگر کام کے درمیان سے کپڑا نظر آتا ہو تو چونکہ ایک جگہ چار انگل نہیں ہے جائز ہے اور مغرق ہو کہ بالکل کام لسا ہوا ہو (4) تو چار انگل سے زیادہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کا مدانی (5) کہ کپڑا زری کے کام سے چھپ گیا ہو تو چار انگل سے زیادہ جب ایک جگہ ہو ناجائز ہے، ورنہ جائز۔

مسئلہ ۱۸ کمر کی پٹی ریشم کی ہو تو ناجائز ہے اور اگر سوتی ہو، اس میں ریشم کی دھاری ہو اور چار انگل تک ہو تو جائز ہے۔ (6) (عالمگیری) کلابتو (7) کی پٹی ناجائز ہے۔ بعض رؤسا اپنے سپاہیوں اور چہرہ سیوں کی پٹیاں اس قسم کی بنواتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔

مسئلہ ۱۹ ریشم کی مچھردانی مردوں کے لیے بھی جائز ہے، کیونکہ اس کا استعمال پہننے میں داخل نہیں۔ (8) (درمختار)

مسئلہ ۲۰ ریشم کے کپڑے میں تعویذ سی کر گلے میں لٹکانا یا بازو پر باندھنا ناجائز ہے کہ یہ پہننے میں داخل ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی میں رکھ کر پہننا بھی ناجائز ہے اور چاندی یا سونے ہی پر تعویذ کھدا ہوا ہو، یہ بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے۔

مسئلہ ۲۱ ریشم کی ٹوپی اگر چہ عمامہ کے نیچے ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح زری کی ٹوپی بھی ناجائز ہے، اگر چہ عمامہ کے نیچے ہو۔ (9) (درمختار، ردالمحتار) زریں کلاہ جو افغانی اور سرحدی اور پنجابی عمامہ کے نیچے پہنتے ہیں اور وہ مغرق ہوتی ہے اور اس کا کام چار انگل سے زیادہ ہوتا ہے یہ ناجائز ہے، ہاں اگر چار انگل یا کم ہو تو جائز ہے۔

مسئلہ ۲۲ ریشم کا کمر بند ممنوع ہے۔ ریشم کے ڈورے میں تسبیح گوندھی جائے تو اس کو گلے میں ڈالنا منع ہے۔ اسی طرح گھڑی کا ڈورہ ریشم کا ہو تو اس کو گلے میں ڈالنا یا ریشم کی چین کا ج میں ڈال کر لٹکانا بھی ممنوع ہے، ریشم کا ڈورہ یا فیتا کلائی پر

① دیکھئے اعلام۔

② سونے چاندی سے اس طرح لپا ہو کہ اس میں کپڑا نظر نہ آئے۔

③ ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۲۔ وغیرہ

④ یعنی بالکل ڈھکا ہوا ہو۔

⑤ یعنی وہ ریشمی کپڑا جس پر سونے چاندی کے تاروں سے بوٹے کاڑھے گئے ہوں۔

⑥ ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس ما یکرہ... إلخ، ج ۵، ص ۳۳۲۔

⑦ یعنی چاندی یا سونے کے تاروں کی ڈور۔

⑧ ”الدرالمختار“ کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۳۔

⑨ ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۸۴۔

باندھنا بھی منع ہے۔ ان سب میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ چیز چار انگل سے کم ہے کیونکہ یہ چیز پوری ریشم کی ہے۔ سونے چاندی کی زنجیر گھڑی میں لگا کر اس کو گلے میں پہننا یا کاج میں لٹکانا یا کلائی پر باندھنا منع ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار) بلکہ دوسری دھات مثلاً تانبے، پیتل، لوہے وغیرہ کی چینوں کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ان دھاتوں کا بھی پہننا ناجائز ہے اور اگر ان چیزوں کو لٹکایا نہیں اور نہ کلائی پر باندھا بلکہ جیب میں پڑی رہتی ہیں تو ناجائز نہیں کہ ان کے پہننے سے ممانعت ہے، جیب میں رکھنا منع نہیں۔

مسئلہ ۲۳ → قرآن مجید کا جزدان ایسے کپڑے کا بنایا جس کا پہننا ممنوع ہے تو اس میں قرآن مجید رکھ سکتا ہے، مگر اس میں فیتا لگا کر گلے میں ڈالنا ممنوع ہے یعنی ممانعت اسی صورت میں ہے کہ جزدان ریشم یا زری کا ہو۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ → ریشم کی تھیلی میں روپیہ رکھنا منع نہیں، ہاں اس کو گلے میں لٹکانا منع ہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ → ریشم کا بٹوا گلے میں لٹکانا منع ہے اور اس میں چھالیا، تمباکو رکھ کر اسے جیب میں رکھنا اور اس میں سے کھانا منع نہیں کہ اس کا پہننا منع ہے نہ کہ مطلقاً استعمال اور زری کے بٹوے کا مطلقاً استعمال منع ہے، کیونکہ سونے چاندی کا مطلقاً استعمال منع ہے، اس میں سے چھالیا، تمباکو کھانا بھی منع ہے۔

مسئلہ ۲۶ → فسادِ فصد لیتے وقت⁽⁴⁾ پٹی باندھتا ہے تاکہ رگیں ظاہر ہو جائیں، یہ پٹی ریشم کی ہو تو مرد کو باندھنا ناجائز ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۷ → ریشم کے مُصلے پر نماز پڑھنا حرام نہیں۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار) مگر اس پر پڑھنا نہ چاہیے۔

مسئلہ ۲۸ → مکان کو ریشم، چاندی، سونے سے آراستہ کرنا مثلاً دیواروں، دروازوں پر ریشمی پردے لٹکانا اور جگہ جگہ قرینہ سے سونے چاندی کے ظروف و آلات⁽⁷⁾ رکھنا، جس سے مقصود محض آرائش و زیبائش ہو تو کراہت ہے اور اگر تکبر و تفاخر سے ایسا کرتا ہے تو ناجائز ہے۔⁽⁸⁾ (ردالمحتار) غالباً کراہت کی وجہ یہ ہوگی کہ ایسی چیزیں اگرچہ ابتداءً تکبر سے نہ ہوں، مگر

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۸۴۔

②..... المرجع السابق، ص ۵۸۵۔

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۸۴۔

④..... یعنی فصد کھولنے والا رگ سے خون نکالتے وقت۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع في اللبس ما یکرہ... الخ، ج ۵، ص ۳۳۲۔

⑥..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۸۵۔

⑦..... یعنی برتن اور اوزار۔

⑧..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۸۵۔

بالآخر عموماً ان سے تکبر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔

مسئلہ ۲۹ → فقہاء و علماء کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں تاکہ لوگوں کو ان سے استفادہ (۱) کا موقع ملے اور علم کی وقعت لوگوں کے ذہن نشین ہو۔ (۲) (ردالمحتار) اور اگر اُس کو اپنا ذاتی تشخص و امتیاز مقصود ہو تو یہ مذموم ہے۔

مسئلہ ۳۰ → کھانے کے وقت بعض لوگ گھٹنوں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ اگر شور باٹپکے تو کپڑے خراب نہ ہوں، جو کپڑا گھٹنوں پر ڈالا گیا اگر ریشم ہے تو ناجائز ہے۔ ریشم کا رومال ناک وغیرہ پونچھنے یا وضو کے بعد ہاتھ مونھ پونچھنے کے لیے جائز ہے یعنی جبکہ اس سے پونچھنے کا کام لے، رومال کی طرح اُسے نہ رکھے اور تکبر بھی مقصود نہ ہو۔ (۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۱ → سونے چاندی کے بٹن کرتے یا اچکن میں لگانا جائز ہے، جس طرح ریشم کی گھنڈی جائز ہے۔ (۴) (درمختار) یعنی جبکہ بٹن بغیر زنجیر ہوں اور اگر زنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استعمال ناجائز ہے کہ یہ زنجیر زیور کے حکم میں ہے، جس کا استعمال مرد کو ناجائز ہے۔

مسئلہ ۳۲ → آشوب چشم (۵) کی وجہ سے مونھ پر سیاہ ریشم کا نقاب ڈالنا جائز ہے کہ یہ عذر کی صورت ہے۔ (۶) (درمختار) اس زمانے میں رنگین چشمے بکتے ہیں، جو دھوپ اور روشنی کے موقع پر لگائے جاتے ہیں، ایسا چشمہ ہوتے ہوئے ریشم کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی۔

مسئلہ ۳۳ → نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہننا حرام ہے اور گناہ پہننے والے پر ہے۔ (۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۴ → کسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا مرد کو منع ہے گہرا رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے یا ہلکا ہو کہ زرد رہے دونوں کا ایک حکم ہے۔ عورتوں کو یہ دونوں قسم کے رنگ جائز ہیں، ان دونوں رنگوں کے سوا باقی ہر قسم کے رنگ زرد، سرخ، دھانی، بسنتی، چھپٹی، نارنجی وغیرہ مردوں کو بھی جائز ہیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنے، خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہو مرد اس کو بالکل نہ پہنے۔ (۸) (درمختار، ردالمحتار)

①..... یعنی فائدہ حاصل کرنے۔ نفع اٹھانے۔

②..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۸۶۔

③..... المرجع السابق، ص ۵۸۷-۵۸۸۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۸۶۔

⑤..... یعنی آنکھ دکھنا۔

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۸۶۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع في اللبس، ج ۵، ص ۳۳۱۔

⑧..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۹۰۔

اور یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ عورتوں سے تھبہ ہوتا ہے اس وجہ سے ممانعت ہے، لہذا اگر یہ علت نہ ہو تو ممانعت بھی نہ ہوگی، مثلاً بعض رنگ اس قسم کے ہیں کہ عمامہ رنگا جاسکتا ہے اور کرتہ پا جامہ اسی رنگ سے رنگا جائے یا چادر رنگ کر اوڑھیں تو اس میں زنانہ پن ظاہر ہوتا ہے تو عمامہ کو جائز کہا جائے گا اور دوسرے کپڑوں کو مکروہ۔

مسئلہ ۳۵ جس کے یہاں میت ہوئی اسے اظہارِ غم میں سیاہ کپڑے پہننا، ناجائز ہے۔^(۱) (عالمگیری) سیاہ بلبے لگانا^(۲) بھی ناجائز ہے کہ اولاً تو وہ سوگ کی صورت ہے، دوم یہ کہ نصاریٰ کا یہ طریقہ ہے۔

ایامِ محرم میں یعنی پہلی محرم سے بارہویں تک تین قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں، سیاہ کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اور سبز کہ یہ مبتدعین یعنی تعزیہ داروں کا طریقہ ہے اور سُرخ کہ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، کہ وہ معاذ اللہ اظہارِ مسرت کے لیے سُرخ پہنتے ہیں۔^(۳) (اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ)

مسئلہ ۳۶ اون اور بالوں کے کپڑے انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ کپڑے پہنے۔ حدیث میں ہے کہ اون کے کپڑے پہن کر اپنے دلوں کو منور کرو کہ یہ دنیا میں مذلت ہے اور آخرت میں نور ہے۔^(۴) (عالمگیری)

اور صوف یعنی اون کے کپڑے، اولیائے کاملین اور بزرگانِ دین نے پہنے اور ان کو صوفی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوف یعنی اون کے کپڑے پہنتے تھے۔ اگرچہ ان کے جسم پر کالی کالی ہوتی، مگر دل مخزن انوارِ الہی اور معدن اسرارِ نامتناہی ہوتا، مگر اس زمانے میں اون کے کپڑے بہت بیش قیمت ہوتے ہیں اور ان کا شمار لبا سہائے فاخرہ میں ہوتا ہے، یہ چیزیں فقر اور غربا کو کہاں ملیں، انھیں تو امر اور وسا استعمال کرتے ہیں۔

فقہا اور حدیث کا مقصد غالباً ان بیش قیمت اونی کپڑوں سے پورا نہ ہوگا، بلکہ وہی معمولی دیسی کپڑے جو کم وقعت سمجھے جاتے ہیں، ان کے استعمال سے وہ بات پوری ہوگی۔

مسئلہ ۳۷ پا جامہ پہننا سنت ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ستر عورت ہے۔^(۵) (عالمگیری) اس کو سنت باس معنی کہا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پہنا۔ خود حضور اقدس

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس، ج ۵، ص ۳۳۳.

②.....یعنی بازو پر سیاہی پٹی لگانا۔

③.....ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۲۲، ص ۱۸۵.

④....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس، ج ۵، ص ۳۳۳.

⑤.....المرجع السابق.

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہبند پہنا کرتے تھے، پاجامہ پہننا ثابت نہیں۔

مسئلہ ۳۸ → مرد کو ایسا پاجامہ پہننا جس کے پانچے کے اگلے حصے پشت قدم پر رہتے ہوں مکروہ ہے۔ کپڑوں میں اسبال یعنی اتنا نیچا کرتے، جبہ، پاجامہ، تہبند پہننا کہ ٹخنے چھپ جائیں ممنوع ہے، یہ کپڑے آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک ہوں یعنی ٹخنے نہ چھپنے پائیں۔^(۱) (عالمگیری)

مگر پاجامہ یا تہبند بہت اونچا پہننا آج کل وہابیوں کا طریقہ ہے، لہذا اتنا اونچا بھی نہ پہنے کہ دیکھنے والا وہابی سمجھے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے پاجامے بہت نیچے پہننے شروع کر دیے ہیں کہ ٹخنے تو کیا ایڑیاں بھی چھپ جاتی ہیں، حدیث میں اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا: ”ٹخنے سے جو نیچا ہو، وہ جہنم میں ہے۔“^(۲)

اور بعض لوگ اتنا اونچا پہنتے ہیں کہ گھٹنے بھی کھل جاتے ہیں جس کو نیکر کہتے ہیں، یہ نصرانیوں سے سیکھا ہے، اونچا پہنتے ہیں تو گھٹنے کھول دیتے ہیں اور نیچا پہنتے ہیں تو ایڑیاں چھپا دیتے ہیں۔ افراط و تفریط سے علیحدہ ہو کر مسنون طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ بعض لوگ چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں، اس میں بھی ٹخنے چھپتے ہیں اور عضو کی پوری ہیأت نظر آتی ہے۔ عورتوں کو بالخصوص چوڑی دار پاجامہ نہیں پہننا چاہیے، عورتوں کے پاجامے ڈھیلے ڈھالے ہوں اور نیچے ہوں کہ قدم چھپ جائیں، ان کے لیے جہاں تک پاؤں کا زیادہ حصہ چھپے اچھا ہے۔

مسئلہ ۳۹ → موٹے کپڑے پہننا اور پرانا ہو جائے تو پیوند لگا کر پہننا اسلامی طریقہ ہے۔^(۳) (عالمگیری) حدیث میں فرمایا کہ ”جب تک پیوند لگا کر پہن نہ لو، کپڑے کو پرانا نہ سمجھو۔“^(۴)

اور بہت باریک کپڑے نہ پہنے جس سے بدن کی رنگت جھلکے، خصوصاً تہبند کہ اگر یہ باریک ہے تو ستر عورت نہ ہو سکے گا۔ اس زمانہ میں ایک یہ بلا بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ساڑھی کا تہبند پہنتے ہیں جس سے بالکل ستر عورت نہیں ہوتا اور اسی کو پہن کر بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کی نماز بھی نہیں ہوتی کہ ستر عورت نماز میں فرض ہے۔ بعض لوگ پاجامہ اور تہبند کی جگہ دھوتی باندھتے ہیں، دھوتی باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے اور اس سے ستر عورت بھی نہیں ہوتا، چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے اور نظر آتا ہے۔

مسئلہ ۳۰ → سدل یعنی سر یا شانے پر کپڑا ڈال کر اس کے کنارے لٹکائے رکھنا نماز میں مکروہ ہے، جس کا بیان گزر چکا

①..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس، ج ۵، ص ۳۳۳۔

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب ما اسفل من الکعبین فهو فی النار، الحدیث: ۵۷۸۷، ج ۴، ص ۴۶۔

③..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس، ج ۵، ص ۳۳۳۔

④..... ”سنن الترمذی“، کتاب اللباس، باب ماجاء فی ترفیع الثوب، الحدیث: ۱۷۸۷، ج ۳، ص ۳۰۲۔

مگر نماز میں نہ ہو تو مکروہ ہے یا نہیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کرتہ یا پاجامہ یا تہبند پہنے ہوئے ہے اور چادر کو سر یا شانوں سے لٹکا دیا تو مکروہ نہیں اور اگر کرتہ نہیں پہنے ہوئے ہے تو سدل مکروہ ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ پوتین (2) پہننا جائز ہے۔ بزرگانِ دین، علما و مشائخ نے پہنی ہے۔ جو جانور حلال نہیں، اگر اس کو ذبح کر لیا ہو یا اس کے چمڑے کی دباغت کر لی ہو تو اس کی پوتین بھی پہنی جاسکتی ہے اور اس کی ٹوپی اور ڈھی جاسکتی ہے، مثلاً لومڑی کی پوتین یا سمور کی پوتین کہ بلی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے جس کی پوتین بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح سنجاب کی پوتین، یہ گھونس (3) کی شکل کا جانور ہوتا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ درندہ جانور شیر چیتا وغیرہ کی پوتین میں بھی حرج نہیں اس کو پہن سکتے ہیں، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ (5) (عالمگیری) اگرچہ افضل اس سے بچنا ہے۔ حدیث میں ”چیتے کی کھال پر سوار ہونے کی ممانعت آئی ہے۔“ (6)

مسئلہ ۳۳ ناک مونھ پونچھنے کے لیے رومال رکھنا یا وضو کے بعد ہاتھ مونھ پونچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے، اسی طرح پسینہ پونچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے اور اگر براہِ تکبر ہو تو منع ہے۔ (7) (عالمگیری)

عمامہ کا بیان

عمامہ باندھنا سنت ہے، خصوصاً نماز میں کہ جو نماز عمامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عمامہ کے متعلق چند حدیثیں اور پر ذکر کی جا چکی ہیں۔

مسئلہ ۱ عمامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا لے۔ شملہ کتنا ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔ (8) (عالمگیری) بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے، یہ سنت کے خلاف ہے اور بعض شملہ کو اوپر لاکر عمامہ میں گھرس دیتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے خصوصاً حالتِ نماز میں ایسا ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیہ، الباب التاسع فی اللبس، ج ۵، ص ۳۳۳.

②..... یعنی کھال کا کوٹ یا کرتہ۔ ③..... یعنی بڑا چوہا۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیہ، الباب التاسع فی اللبس، ج ۵، ص ۳۳۳.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... "المصنف" لعبد الرزاق، کتاب الطہارۃ، باب جلود السباع، رقم: ۲۲۰، ج ۱، ص ۵۴.

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیہ، الباب التاسع فی اللبس، ج ۵، ص ۳۳۳.

⑧..... المرجع السابق، ص ۳۳۰.

مسئلہ ۲ — عمامہ کو جب پھر سے باندھنا ہو تو اسے اتار کر زمین پر پھینک نہ دے، بلکہ جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح اودھیڑا جائے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ — ٹوپی پہننا خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔^(۲) (عالمگیری) مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عمامہ بھی باندھتے تھے یعنی عمامہ کے نیچے ٹوپی ہوتی اور یہ فرمایا کہ ”ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہے۔“^(۳) یعنی ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں اور وہ صرف عمامہ ہی باندھتے ہیں، اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے۔ چنانچہ یہاں کے کفار بھی اگر پگڑی باندھتے ہیں تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے۔

بعض نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا کہ صرف ٹوپی پہننا مشرکین کا طریقہ ہے، مگر یہ قول صحیح نہیں کیونکہ مشرکین عرب بھی عمامہ باندھا کرتے تھے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چھوٹا عمامہ سات ہاتھ کا اور بڑا عمامہ بارہ ہاتھ کا تھا۔^(۴) بس اسی سنت کے مطابق عمامہ رکھے، اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے۔ بعض لوگ بہت بڑے عمامے باندھتے ہیں، ایسا نہ کرے کہ سنت کے خلاف ہے۔ مارواڑ کے علاقے میں بہت سے لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں، جو بہت کم چوڑی ہوتی ہیں اور چالیس پچاس گز لمبی ہوتی ہیں، اس طرح کی پگڑیاں مسلمان نہ باندھیں۔

متفرق مسائل: بزرگانِ دین، اولیا و صالحین کے مزاراتِ طیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحبِ مزار کی وقعت نظر عوام میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں ان کے برکات حاصل کریں۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ — یادداشت کے لیے یعنی اس غرض سے کہ بات یاد رہے بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں یا کسی جگہ انگلی وغیرہ پر ڈور باندھ لیتے ہیں، یہ جائز ہے اور بلا وجہ ڈور باندھ لینا مکروہ ہے۔^(۶) (درمختار)

مسئلہ ۵ — گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہو یعنی آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ^(۷) یا ادعیہ^(۸) سے تعویذ کیا

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع فی اللبس... إلخ، ج ۵، ص ۳۳۰.

②..... المرجع السابق.

③..... "سنن الترمذی"، کتاب اللباس، باب العمامۃ علی القلائس، الحدیث: ۱۷۹۱، ج ۳، ص ۳۰۵.

④..... "مرقاۃ المفاتیح" شرح "مشکاۃ المصابیح"، کتاب اللباس، الباب الثانی، تحت الحدیث: ۴۳۴۰، ج ۸، ص ۱۴۸.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۹۹.

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۹۹.

⑦..... اللہ تعالیٰ کے ناموں۔

⑧..... دعاؤں۔

جائے اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے، اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث و ادعیہ کو رکابی میں لکھ کر مریض کو بہ نیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنب و حائض و نفسا بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ غلاف میں ہوں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - بچھونے یا مُصلے پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑھی گئی ہو⁽²⁾ یا روشنائی سے لکھی ہو، اگرچہ حروف مفردہ لکھے ہوں کیونکہ حروف مفردہ⁽³⁾ کا بھی احترام ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار) اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا، اُن پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔

مسئلہ ۷ - بعض کاشتکار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت پر پڑے گی اور اُس صورت میں زراعت کو نظر نہیں لگے گی، ایسا کرنا ناجائز نہیں کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے یہ کہے:

تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ .

یا اردو میں یہ کہدے کہ اللہ (عزوجل) برکت کرے۔ اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

جوتا پہننے کا بیان

حدیث ۱ - صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”جو تے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوئے ہے، گویا وہ سوار ہے یعنی کم تھکتا ہے۔“⁽⁶⁾

حدیث ۲ - صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ایسی

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۶۰۰.

②..... یعنی کڑھائی کی گئی ہو۔ ③..... یعنی جُدا جُدا لکھے ہوئے حروف۔

④..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۶۰۰.

⑤..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۶۰۱.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب إستحباب لبس النعال... إلخ، الحدیث: ۶۷- (۲۰۹۷)، ص ۶۱۱۱.

نعلین پہنے دیکھا، جن میں بال نہ تھے۔⁽¹⁾

حدیث ۳ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی نعلین میں دو قبائل تھے۔⁽²⁾ یعنی انگلیوں کے مابین دو تھے۔

حدیث ۴ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب جوتا پہنے تو پہلے دہنے پاؤں میں پہنے اور جب اوتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اُتارے کہ دہنا پہننے میں پہلے ہو اور اُتارنے میں پیچھے۔“⁽³⁾

حدیث ۵ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں اُتاروے یا دونوں پہن لے۔“⁽⁴⁾

حدیث ۶ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو تے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو فقط ایک جوتا پہن کر نہ چلے بلکہ تسمہ کو درست کر لے اور ایک موزہ پہن کر نہ چلے۔“⁽⁵⁾

حدیث ۷ ترمذی نے جابر سے اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔⁽⁶⁾

یہ حکم ان جوتوں کا ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں دقت ہوتی ہے، جن میں تسمے باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بوٹ جوتا بھی بیٹھ کر پہنے کہ اس میں بھی فیتہ باندھنا پڑتا ہے اور کھڑے ہو کر باندھنے میں دشواری ہوتی ہے اور جو اس قسم کے نہ ہوں جیسے سلیم شاہی یا پمپ یا وہ چپل جس میں تسمہ باندھنا نہیں ہوتا، ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں مضائقہ نہیں۔

حدیث ۸ ترمذی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ایک نعل پہن کر بھی چلے ہیں۔⁽⁷⁾ یہ بیان جواز کے لیے ہوگا یا دو ایک قدم چلنا ہوگا مثلاً حجرے کا دروازہ کھولنے کے لیے۔

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب النعال السبئية وغيرها، الحدیث: ۵۸۵۱، ج ۴، ص ۶۴.

②..... المرجع السابق، باب قبالات فی نعل... إلخ، الحدیث: ۵۸۵۷، ج ۴، ص ۶۶.

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۱۰۰۱۰، ج ۳، ص ۴۹۴.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب لايمشي في نعل واحدة، الحدیث: ۵۸۵۶، ج ۴، ص ۶۶.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب انتهى عن اشتمال الصماء، الحدیث: ۷۱- (۲۰۹۹)، ص ۱۱۶۲.

⑥..... ”سنن ابن ماجه“، کتاب اللباس، باب الانتعال قائما، الحدیث: ۳۶۱۸، ج ۴، ص ۱۶۷.

⑦..... ”سنن الترمذی“، کتاب اللباس، باب ماجاء في الرخصة في المشي... إلخ، الحدیث: ۱۷۸۴، ج ۳، ص ۳۰۱.

حدیث ۹ → ابو داؤد نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ایک عورت (مردوں کی طرح) جوتے پہنتی ہے۔ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔^(۱) یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے، ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے سے ممانعت ہے، نہ مرد عورت کی وضع اختیار کرے، نہ عورت مرد کی۔

حدیث ۱۰ → ابو داؤد نے عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ کسی نے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو پراگندہ سردیکھتا ہوں؟ انھوں نے کہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو کثرتِ ارفاء یعنی بنے سنورے رہنے سے منع فرماتے تھے۔ اُس نے کہا، کیا بات ہے کہ آپ کو ننگے پاؤں دیکھتا ہوں؟ انھوں نے کہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو حکم فرماتے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں۔^(۲)

مسئلہ ۱ → بال کے چمڑے کی جوتیاں جائز ہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اس قسم کی نعلین استعمال فرمائی ہیں۔ لوہے کی کیلوں سے سلے ہوئے جوتے جائز ہیں، بلکہ اس زمانے میں ایسے بہت جوتے بنتے ہیں جن کی سلائی کیلوں سے ہوتی ہے۔^(۳) (عالمگیری)

انگوٹھی اور زیور کا بیان

حدیث ۱ → صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ کسریٰ و قیصر و نجاشی کو خطوط لکھے جائیں تو کسی نے یہ عرض کی، کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، جس میں یہ نقش تھا ”محمد رسول اللہ“۔^(۴) امام بخاری کی روایت میں ہے، کہ ”انگوٹھی کا نقش تین سطر میں تھا۔

ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول، تیسری میں اللہ۔“^(۵)

حدیث ۲ → صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب اللباس، باب في لباس النساء... إلخ، الحديث: ٤٠٩٩، ج ٤، ص ٨٤.

②..... ”سنن أبي داود“، كتاب الترجل، باب النهي عن كثير من الارقاء... إلخ، الحديث: ٤١٦٠، ج ٤، ص ١٠٢.

③..... ”الفتاوى الهندية“، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس... إلخ، ج ٥، ص ٣٣٣.

④..... ”صحیح مسلم“، كتاب اللباس، باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما... إلخ، الحديث: ٥٦ - (٢٠٩٢)، ص ١١٥٩.

⑤..... ”صحیح البخاری“، كتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، الحديث: ٥٨٧٨، ج ٤، ص ٧١.

نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ (1)

اور ایک روایت میں ہے، کہ اس کو دہنے ہاتھ میں پہنا پھر اس کو پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی، جس میں یہ نقش تھا۔ محمد رسول اللہ اور یہ فرمایا کہ ”کوئی شخص میری انگوٹھی کے نقش کے موافق اپنی انگوٹھی میں نقش کندہ نہ کرے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) جب انگوٹھی پہنتے تو گنینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا۔“ (2)

حدیث ۳ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا گنینہ بھی تھا۔ (3)

حدیث ۴ صحیح بخاری و مسلم میں انھیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دہنے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنی اور اس کا گنینہ حبشی ساخت کا تھا اور گنینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے۔ (4)

حدیث ۵ مسلم کی روایت انھیں سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگلی میں تھی یعنی بائیں ہاتھ کی چھنگلیا میں۔ (5)

حدیث ۶ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں یا اس میں یعنی بیچ والی میں یا کلمہ کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے مجھے منع فرمایا۔ (6)

حدیث ۷ ابن ماجہ نے عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابو داؤد و نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ (7) اور ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ (8)

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب تحریم خاتم الذهب علی الرجال... إلخ، الحدیث: ۵۳۔ (۲۰۹۱)، ص ۱۱۵۷۔

②..... المرجع السابق، باب لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، الحدیث: ۵۵۔ (۲۰۹۱)، ص ۱۱۵۸۔

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب فص الخاتم، الحدیث: ۵۸۷۰، ج ۴، ص ۶۹۔

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب فی عاتم الورق فصہ حبشی، الحدیث: ۶۲۔ (۲۰۹۴)، ص ۱۱۶۰۔

⑤..... المرجع السابق، باب فی لبس الخاتم فی الخنصر من الید، الحدیث: ۶۳۔ (۲۰۹۵)، ص ۱۱۶۰۔

⑥..... المرجع السابق، باب النهی عن التختم فی الوسطی... إلخ، الحدیث: ۶۵۔ (۲۰۹۵)، ص ۱۱۶۱۔

⑦..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الخاتم، باب ماجاء فی التختم فی الیمین أو الیسار، الحدیث: ۴۲۲۶، ج ۴، ص ۱۲۳۔

⑧..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۲۲۷، ج ۴، ص ۱۲۴۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی دہنے میں پہنی اور کبھی بائیں میں، مگر یہی بتی نے کہا کہ دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا منسوخ ہے۔⁽¹⁾

حدیث ۸ ابوداؤد نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دہنے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا پھر یہ فرمایا کہ ”یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں“⁽²⁾

حدیث ۹ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسی (یہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے) اور کسم کے رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔⁽³⁾

حدیث ۱۰ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اُس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لے گئے۔ کسی نے ان سے کہا، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم! میں اُسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُسے پھینک دیا۔⁽⁴⁾

حدیث ۱۱ ابوداؤد نسائی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چتے کی کھال پر سوار ہونے سے اور سونا پہننے سے ممانعت فرمائی، مگر ریزہ ریزہ کر کے یعنی اگر کپڑے میں سونے کے باریک باریک ریزہ لگائے جائیں تو ممنوع نہیں۔⁽⁵⁾

حدیث ۱۲ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں فرماتے ہیں، کہ بچوں کو سونا پہنانا برا جانتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے ممانعت فرمائی۔“⁽⁶⁾ لہذا مردوں کے لیے برا ہے، چھوٹے اور بڑے دونوں کے لیے۔

حدیث ۱۳ ترمذی و ابوداؤد نسائی نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے

①.....انظر: "التوشیح" شرح "الحامع الصحیح" للسیوطی، کتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم فی بطن کفہ،

تحت الحدیث: ۵۸۷۶، ج ۸، ص ۳۵۹۸.

②....."سنن أبي داود"، کتاب اللباس، باب فی الحریر للنساء، الحدیث: ۴۰۵۷، ج ۴، ص ۷۱.

③....."صحیح مسلم"، کتاب اللباس، باب النهی عن لبس الرجل الثوب المعصفر، الحدیث: ۲۹- (۲۰۷۸)، ص ۱۱۵۲.

④.....المرجع السابق، باب تحريم خاتم الذهب علی الرجال... إلخ، الحدیث: ۵۲- (۲۰۹۰)، ص ۱۱۵۷.

⑤....."سنن أبي داود"، کتاب الخاتم، باب ماجاء فی الذهب للنساء، الحدیث: ۴۲۳۹، ج ۴، ص ۱۲۷.

⑥....."الموطأ" للإمام مالک، کتاب اللباس، باب ماجاء فی لبس الثياب المصبغة والذهب، الحدیث: ۱۷۳۷، ج ۲، ص ۴۰۹.

ہوئے تھے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، فرمایا: کیا بات ہے کہ تم جہنیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا: چاندی کی بناؤ اور ایک مثقال پورا نہ کرو یعنی ساڑھے چار ماشہ سے کم کی ہو۔“ (1)

ترمذی کی روایت میں ہے کہ لوہے کے بعد سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: کہ ”کیا بات ہے کہ تم کو جنتیوں کا زیور پہنے دیکھتا ہوں۔“ (2) یعنی سونا تو اہل جنت میں پہنیں گے۔

حدیث ۱۴ ابو داؤد و نسائی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) دس چیزوں کو برہماتا تھے:

① زروی یعنی مرد کو خلوق استعمال کرنا۔ ② سپید بالوں میں سیاہ خضاب کرنا۔ ③ تہبند لٹکانا۔ ④ سونے کی انگوٹھی پہننا۔ ⑤ بے محل عورت کا زینت کو ظاہر کرنا یعنی شوہر اور محارم کے سوا دوسروں کے سامنے اظہار زینت۔ ⑥ پانسا پھینکنا یعنی چوسر اور شطرنج وغیرہ کھیلنا۔ ⑦ جھاڑ پھونک کرنا، مگر معوذات سے یعنی جس میں ناجائز الفاظ ہوں ان سے جھاڑ پھونک منع ہے۔ اور ⑧ تعویذ باندھنا یعنی وہ تعویذ باندھنا جس میں خلاف شرع الفاظ ہوں۔ اور ⑨ پانی کو غیر محل میں گرانا یعنی وطی کے بعد منیٰ کو باہر گرانا کہ یہ آزاد عورت میں بغیر اجازت ناجائز ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد لواطت ہو۔ اور ⑩ بچہ کو فاسد کر دینا، مگر اس دسویں کو حرام نہیں کیا یعنی بچہ کے دودھ پینے کے زمانے میں اس کی ماں سے وطی کرنا کہ اگر وہ حاملہ ہوگئی تو بچہ خراب ہو جائے گا۔ (3)

حدیث ۱۵ ابو داؤد نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور اُس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت عمر نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ”ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔“ (4)

حدیث ۱۶ ابو داؤد نے روایت کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک لڑکی آئی، جس کے پاؤں میں

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الخاتم، باب ماجاء في خاتم الحديد، الحديث: ٤٢٢٣، ج ٤، ص ١٢٢.

②..... ”سنن الترمذي“، كتاب اللباس، باب ماجاء في خاتم الحديد، الحديث: ١٧٩٢، ج ٣، ص ٣٠٥.

③..... ”سنن أبي داود“، كتاب الخاتم، باب ماجاء في خاتم الذهب، الحديث: ٤٢٢٢، ج ٤، ص ١٢١.

④..... المرجع السابق، باب ماجاء في الحلال، الحديث: ٤٢٣٠، ج ٤، ص ١٢٤.

گھنگروں کر رہے تھے، فرمایا کہ اسے میرے پاس نہ لانا، جب تک اس کے گھنگرو کاٹ نہ لینا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، کہ ”جس گھر میں جرس یعنی گھنٹی یا گھنگرو ہوتے ہیں، اس میں فرشتے نہیں آتے۔“ (1)

مسئلہ ۱ - مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے، جو وزن میں ایک مثقال یعنی ساڑھے چار ماشہ سے کم ہو اور سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے۔ تلوار کا حلیہ چاندی کا جائز ہے یعنی اس کے نیام اور قبضہ یا پرتلے (2) میں چاندی لگائی جاسکتی ہے، بشرطیکہ وہ چاندی موضع استعمال میں نہ ہو۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جاسکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔

حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا: کیا بات ہے کہ تم سے بُت کی لو آتی ہے؟ انھوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا: کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زور دیکھتا ہوں؟ انھوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ ”چاندی کی اور اس کو ایک مثقال پورا نہ کرنا۔“ (4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - بعض علما نے یشب (5) اور عقیق (6) کی انگوٹھی جائز بتائی اور بعض نے ہر قسم کے پتھر کی انگوٹھی کی اجازت دی اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں۔

لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چاندی کے سوا ہر قسم کی انگوٹھی سے بچا جائے، خصوصاً جبکہ صاحب ہدایہ جیسے جلیل القدر کا میلان ان سب کے عدم جواز (7) کی طرف ہے۔

مسئلہ ۴ - انگوٹھی سے مراد حلقہ ہے گلیہ نہ نہیں، گلیہ ہر قسم کے پتھر کا ہو سکتا ہے۔ عقیق، یا قوت، زمر، فیروزہ وغیرہ سب کا گلیہ جائز ہے۔ (8) (درمختار)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الخاتم، باب ماجاء في الحلاجل، الحديث: ٤٢٣١، ج ٤، ص ١٢٥.

②..... یعنی وہ پٹنی یا چوڑا تسمہ جس میں تلوار لگی رہتی ہے۔

③..... ”الدر المختار“ و ”رد المختار“، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ٩، ص ٥٩٢.

④..... ”الدر المختار“ و ”رد المختار“، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ٩، ص ٥٩٣.

⑤..... ”سنن أبي داود“، كتاب الخاتم، باب ماجاء في خاتم الحديد، الحديث: ٤٢٢٣، ج ٤، ص ١٢٢.

⑥..... یعنی ایک قیمتی پتھر کا نام جو مائل بہ بزی ہوتا ہے۔ ⑦..... یعنی ناجائز ہونے۔

⑧..... ”الدر المختار“، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ٩، ص ٥٩٥.

مسئلہ ۵ جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور پہننا بھی ممنوع ہوا کہ یہ ناجائز کام پر اعانت^(۱) ہے۔ ہاں بیچ کی^(۲) ممانعت ویسی نہیں جیسی پہننے کی ممانعت ہے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۶ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی ممانعت نہیں۔^(۴) (عالمگیری) اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندرتانے یا لوہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور اوپر سے سونے کا پتر چڑھا دیتے ہیں، اس کا پہننا جائز ہے۔

مسئلہ ۷ انگوٹھی کے گیندے میں سوراخ کر کے اس میں سونے کی کیل ڈال دینا جائز ہے۔^(۵) (ہدایہ)

مسئلہ ۸ انگوٹھی انھیں کے لیے مسنون ہے جن کو مہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علما جو فتویٰ پر مہر کرتے ہیں، ان کے سوا دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو مسنون نہیں مگر پہننا جائز ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ مرد کو چاہیے کہ اگر انگوٹھی پہنے تو اس کا گیندہ ہتھیلی کی طرف رکھے اور عورتیں گیندہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھیں کہ ان کا پہننا زینت کے لیے ہے اور زینت اسی صورت میں زیادہ ہے کہ گیندہ باہر کی جانب رہے۔^(۷) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۰ دہنے یا بائیں جس ہاتھ میں چاہیں انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور چھٹنگلیا میں پہنی جائے۔^(۸) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ انگوٹھی پر اپنا نام کندہ کرا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا نام پاک بھی کندہ کرا سکتا ہے، مگر ”محمد رسول اللہ“ یعنی یہ عبارت کندہ نہ کرائے کہ یہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی انگشتری پر تین سطروں میں کندہ تھی، پہلی سطر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)، دوسری رسول، تیسری اسم جلالہ اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرما دیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اپنی انگوٹھی پر یہ نقش کندہ نہ کرائے۔ گیندہ پر انسان یا کسی جانور کی تصویر کندہ نہ کرائے۔^(۹) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ انگوٹھی وہی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو یعنی ایک گیندہ کی ہو اور اگر اس میں کئی گیندے ہوں تو اگرچہ

①..... مرد۔ ②..... یعنی فروخت کرنے کی۔

③..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۹۵.

④..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، ج ۵، ص ۳۳۵.

⑤..... ”الہدایۃ“، کتاب الکراہیۃ، فصل في اللبس، ج ۴، ص ۳۶۷.

⑥..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة، ج ۵، ص ۳۳۵.

⑦..... ”الہدایۃ“، کتاب الکراہیۃ، فصل في اللبس، ج ۴، ص ۳۶۷.

⑧..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۵۹۶.

⑨..... المرجع السابق.

وہ چاندی ہی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔^(۱) (ردالمحتار) اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔

مسئلہ ۱۳ ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے کے تار سے بندھوانا جائز ہے اور اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہو تو سونے کی ناک بنا کر لگا سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کہا گیا، کیونکہ چاندی کے تار سے دانت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن^(۲) پیدا ہوگا۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ دانت گر گیا اسی دانت کو سونے یا چاندی کے تار سے بندھوا سکتا ہے، دوسرے شخص کا دانت اپنے میں نہیں لگا سکتا۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا، وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

برتن چھپانے اور سونے کے وقت کے آداب

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب رات کی ابتدائی تاریکی آجائے یا یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو بچوں کو سمیٹ لو کہ اُس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے، اب انھیں چھوڑ دو اور بِسْمِ اللہ کہہ کر دروازے بند کر لو کہ اس طرح جب دروازہ بند کیا جائے تو شیطان نہیں کھول سکتا اور بِسْمِ اللہ کہہ کر مشکوں کے دہانے باندھو اور بِسْمِ اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھا تک دو، ڈھا تکو نہیں تو یہی کرو کہ اس پر کوئی چیز آڑی کر کے رکھ دو اور چراغوں کو بجھا دو۔“^(۶)

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، کہ ”برتن چھپا دو اور مشکوں کے مونہ بند کر دو اور دروازے بھینٹ دو اور بچوں کو

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۹۷.

②..... بدو۔

③..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب العاشر فی استعمال الذهب والفضة، ج ۵، ص ۳۳۶.

④..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب العاشر فی استعمال الذهب والفضة، ج ۵، ص ۳۳۶.

⑤..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۹۸.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشریۃ، باب الأمر بتغطیۃ الإناء... إلخ، الحدیث: ۹۷۔ (۲۰۱۲)، ص ۱۱۱۴.

سمیٹ لو، شام کے وقت کیونکہ اس وقت جن منتشر ہوتے ہیں اور اچک لیتے ہیں اور سوتے وقت چراغ بجھا دو کہ کبھی چوہا بتی گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور گھر جل جاتا ہے۔“ (1)

مسلم کی ایک روایت میں ہے، ”برتن چھپا دو اور مشک کا مونھ باندھ دو اور دروازے بند کر دو اور چراغ بجھا دو کہ شیطان مشک کو نہیں کھولے گا اور نہ دروازہ اور برتن کھولے گا، اگر کچھ نہ ملے تو یتیم اللہ کہہ کر ایک لکڑی آڑی کر کے رکھ دے۔“ (2)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کہ ”سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا مونھ باندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔“ (3)

حدیث ۲ امام احمد و مسلم و ابوداؤد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب آفتاب ڈوب جائے تو جب تک عشا کی سیاہی جاتی نہ رہے اپنے چوپایوں اور بچوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔“ (4)

حدیث ۳ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو۔“ (5)

حدیث ۴ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ مدینہ میں ایک مکان رات میں جل گیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ ”یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو بجھا دیا کرو۔“ (6)

حدیث ۵ شرح السنہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آواز سنو تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو کہ وہ اُس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے اور جب پھیل بند ہو جائے (7) تو گھر سے کم نکلو کہ اللہ عزوجل رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے، زمین پر منتشر کرتا ہے۔“ (8)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... إلخ، الحدیث: ۳۳۱۶، ج ۲، ص ۴۰۸.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء... إلخ، الحدیث: ۹۶- (۲۰۱۲)، ص ۱۱۱۴.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۹۹- (۲۰۱۴)، ص ۱۱۱۵.

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۹۸- (۲۰۱۳)، ص ۱۱۱۵.

⑤..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، الحدیث: ۶۲۹۳، ج ۴، ص ۱۸۶.

⑥..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۲۹۴، ج ۴، ص ۱۸۶.

⑦..... یعنی جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے۔

⑧..... ”شرح السنہ“، کتاب الأشربة، باب إيكاء الأسقية وتخميم الآنية، الحدیث: ۲۹۵۴، ج ۶، ص ۱۴۱-۱۴۲.

بیٹھنے اور سونے اور چلنے کے آداب

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْتَشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۱۹۰ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝۱۹۱ ﴾ (1)

”(لقمان نے بیٹے سے کہا) کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ ٹیڑھا نہ کر اور زمین پر اتر اتانہ چل، بے شک اللہ (عزوجل) کو پسند نہیں ہے کوئی اترانے والا، فخر کرنے والا اور میانہ چال اور اپنی آواز پست کر، بے شک سب آوازوں میں بُری آواز گدھے کی آواز ہے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿ وَلَا تَنْتَشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۗ إِنَّكَ لَنْ تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا ۝۱۹۲ ﴾ (2)

”اور زمین میں اتر اتانہ چل، بے شک تو ہرگز نہ تو زمین چیر ڈالے گا اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچے گا۔“

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَسَوَّنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۱۹۳ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۱۹۴ ﴾ (3)

”اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جاہل جب ان سے مخاطبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں: سلام اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔“

اور فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا ۖ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ ﴾ (4)

”اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دو، اللہ (عزوجل) تم کو جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور علم والوں کو درجات بلندی کرے گا۔“

①..... پ ۲۱، لقمن: ۱۸ - ۱۹.

②..... پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۷.

③..... پ ۱۹، الفرقان: ۶۳ - ۶۴.

④..... پ ۲۸، المحادلة: ۱۱.

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا نہ کرے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے لیکن ہٹ جایا کرو اور جگہ کشادہ کر دیا کرو۔“ (1) یعنی بیٹھنے والوں کو یہ چاہیے کہ آنے والے کے لیے سرک جائیں اور جگہ دے دیں کہ وہ بھی بیٹھ جائے یا یہ کہ آنے والا کسی کو نہ اٹھائے بلکہ ان سے کہے کہ سرک جاؤ، مجھے بھی جگہ دیدو۔

صحیح بخاری میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور یہ اس کی جگہ پر بیٹھیں۔ (2) حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا یہ فعل کمال ورع سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جی نہ چاہتا ہو اور محض ان کی خاطر سے جگہ چھوڑ دی ہو۔

حدیث ۲ ابوداؤد نے سعید بن ابی الحسن سے روایت کی، کہتے ہیں: کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس ایک شہادت میں آئے۔ ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ”کوئی شخص ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ پونچھے جس کو یہ کپڑا پہنایا نہیں ہے۔“ (3)

اس حدیث میں بھی اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا ہو، بلکہ وہ شخص خود اٹھ گیا تھا اور بظاہر یہ صورت ممانعت کی نہیں ہے مگر یہ کمال احتیاط ہے کہ انہوں نے اس صورت میں بھی بیٹھنا گوارا نہ کیا کہ اگرچہ اٹھنے کو کہا نہیں مگر اٹھنا چونکہ انھیں کے لیے ہوا، لہذا یہ خیال کیا کہ کہیں یہ بھی اٹھانے ہی کے حکم میں نہ ہو۔

حدیث ۳ صحیح مسلم میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا، پھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حق دار ہے۔“ (4) یعنی جبکہ جلد آ جائے۔

حدیث ۴ ابوداؤد نے ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیٹھتے اور ہم لوگ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس بیٹھتے اور اٹھ کر تشریف لے جاتے مگر واپسی کا ارادہ ہوتا تو نعلین مبارک یا کوئی چیز وہاں چھوڑ جاتے اس سے صحابہ کو یہ پتا چلتا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لائیں گے اور سب لوگ ٹھہرے رہتے۔ (5)

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب تحریم إقامة الإنسان من موضعه... إلخ، الحدیث: ۲۸- (۲۱۷۷)، ص ۱۱۹۸.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ... إلخ﴾، الحدیث: ۶۲۷۰، ج ۴، ص ۱۷۹.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه، الحدیث: ۴۸۲۷، ج ۴، ص ۳۳۹.

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، الحدیث: ۳۱- (۲۱۷۹)، ص ۱۱۹۹.

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب إذا قام من مجلسه ثم رجع، الحدیث: ۴۸۵۴، ج ۴، ص ۳۴۶.

حدیث ۵ — ترمذی و ابوداؤد نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کسی کو یہ حلال نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کر دے (یعنی دونوں کے درمیان میں بیٹھ جائے)، مگر ان کی اجازت سے۔“ (1)

حدیث ۶ — بیہقی نے شعب الایمان میں واثلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس کے لیے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اپنی جگہ سے سرک گئے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) جگہ کشادہ موجود ہے، (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں)۔ ارشاد فرمایا: ”مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے، اس کے لیے سرک جائے۔“ (2)

حدیث ۷ — رزین نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے دونوں ہاتھوں سے احتبا کرتے۔“ (3)

احتبا کی صورت یہ ہے کہ آدمی سرین کو زمین پر رکھ دے اور گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے گھیر لے اور ایک ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لے اس قسم کا بیٹھنا تواضع اور انکسار میں شمار ہوتا ہے۔

حدیث ۸ — ابوداؤد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے چارزانو بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔“ (4)

حدیث ۹ — ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص سایہ میں ہو اور سایہ سمٹ گیا کچھ سایہ میں ہو گیا کچھ دھوپ میں تو وہاں سے اٹھ جائے۔“ (5)

حدیث ۱۰ — ابوداؤد نے عمرو بن شریدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں: میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے کر لیا اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی پر ٹیک لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

①.....”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی کراہیة الجلوس... إلخ، الحدیث: ۲۷۶۱، ج ۴، ص ۳۴۶.

②.....”شعب الایمان“، باب فی مقاربتہ وموادۃ اهل الدین، فصل فی قیام المرء... إلخ، الحدیث: ۸۹۳۳، ج ۶، ص ۴۶۸.

③.....”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب الجلوس... إلخ، الحدیث: ۴۷۱۳، ج ۳، ص ۲۱.

④.....”سنن أبی داؤد“، کتاب الادب، باب فی الرجل یجلس مترعبا، الحدیث: ۴۸۵۰، ج ۴، ص ۳۴۵.

⑤.....المرجع السابق، باب فی الجلوس بین الظل الشمس، الحدیث: ۴۸۲۱، ج ۴، ص ۳۳۷.

میرے پاس سے گزرے اور یہ فرمایا: ”کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو، جن پر خدا کا غضب ہے۔“ (1)

حدیث ۱۱ — ابوداؤد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہاں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی یعنی مجلس کے کنارہ پر بیٹھتے اسے چیر کر اندر نہیں گھتے۔ (2)

حدیث ۱۲ — طبرانی نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ جگہ میں وسعت کر دیں، تو اللہ عزوجل پر حق ہے کہ ان کو راضی کرے۔“ (3)

حدیث ۱۳ — ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چند کلمات ہیں کہ جو شخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو تین مرتبہ کہہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور جو شخص مجلس خیر و مجلس ذکر میں ان کو کہے گا، تو اللہ عزوجل ان کو اس خیر پر مہر کر دے گا، جس طرح کوئی شخص انگوٹھی سے مہر کرتا ہے۔ وہ یہ ہیں:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔“ (4)

حدیث ۱۴ — حاکم نے متدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے وہاں سے متفرق ہو گئے۔ انہوں نے نقصان کیا اگر اللہ عزوجل چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔“ (5)

حدیث ۱۵ — بزار نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب بیٹھو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔“ (6)

حدیث ۱۶ — صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ چت لیٹا ہو۔ (7)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في الجلسة المكروهة، الحديث: ٤٨٤٨، ج ٤، ص ٣٤٥.

②..... المرجع السابق، باب في التحلق، الحديث: ٤٨٢٥، ج ٤، ص ٣٣٩.

③..... ”كنز العمال“، كتاب الصحبة، رقم: ٢٥٣٧٠، ج ٩، ص ٥٨.

④..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس، الحديث: ٤٨٥٧، ج ٤، ص ٣٤٧.

⑤..... ”المستدرک“، كتاب الدعاء والتكبير... إلخ، باب ما عمل آدمي من عمل... إلخ، الحديث: ١٨٦٩، ج ٢، ص ١٦٨.

⑥..... ”كنز العمال“، كتاب الصحبة، رقم: ٢٥٣٩٠، ج ٩، ص ٥٩.

⑦..... ”صحیح مسلم“، كتاب اللباس... إلخ، باب في منع الاستلقاء... إلخ، الحديث: ٧٢- (٢٠٩٩)، ص ١١٦٢.

حدیث ۱۷ صحیح بخاری و مسلم میں عباد بن تمیم سے روایت ہے، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے میں نے دیکھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھا تھا۔“ (1) یہ بیان جواز کے لیے ہے اور اس صورت میں کہ ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو، اور پہلی حدیث اس صورت میں ہے کہ ستر کھلنے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً آدمی تہبند پہنے ہو اور چت لیٹ کر ایک پاؤں کھڑا کر کے اس پر دوسرے کو رکھے تو ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر پاؤں پھیلا کر ایک کو دوسرے پر رکھے تو اس صورت میں کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔

حدیث ۱۸ شرح سنہ میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات میں منزل میں اترتے تو دہنی کروٹ پر لیٹتے اور جب صبح سے کچھ ہی پہلے اترتے تو دہنے ہاتھ کو کھڑا کرتے اور اس کی ہتھیلی پر سر رکھ کر لیٹتے۔“ (2)

حدیث ۱۹ ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بائیں کروٹ پر تکیہ لگائے ہوئے دیکھا۔ (3)

حدیث ۲۰ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، فرمایا: ”اس طرح لیٹنے کو اللہ (عزوجل) پسند نہیں کرتا۔“ (4)

حدیث ۲۱ ابو داؤد و ابن ماجہ نے طخفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، (یہ اصحاب صفہ میں سے تھے) کہتے ہیں، سینے کی بیماری کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کوئی شخص اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ”اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ مبعوض رکھتا ہے۔“ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ (5)

حدیث ۲۲ ابن ماجہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے ٹھوک ماری اور فرمایا: ”اے جناب (یہ حضرت ابو ذر کا نام ہے) یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔“ (6) یعنی اس طرح کافر لیٹتے ہیں یا یہ کہ جہنمی جہنم میں اس طرح لیٹیں گے۔

1..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب الاستلقاء، الحدیث: ۶۲۸۷، ج ۴، ص ۱۸۴.

2..... ”شرح السنہ“، کتاب الاستئذان، باب کیفیت النوم، الحدیث: ۳۲۵۲، ج ۶، ص ۳۸۰.

3..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء، فی الاتكاء، الحدیث: ۲۷۷۹، ج ۴، ص ۳۵۳.

4..... المرجع السابق، باب ماجاء فی کراهیة الإضطجاع علی البطن، الحدیث: ۲۷۷۷، ج ۴، ص ۳۵۲.

5..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی الرجل ینطح علی بطنہ، الحدیث: ۵۰۴۰، ج ۴، ص ۴۰۲.

6..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب النهی عن الإضطجاع علی الوجه، الحدیث: ۳۷۲۴، ج ۴، ص ۲۱۴.

و ”المشکوٰۃ المصابیح“، کتاب الآداب، باب الحلوس... إلخ، الحدیث: ۴۷۳۱، ج ۲، ص ۱۷۷.

حدیث ۲۳ ابو داؤد نے علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ایسی چھت پر رات میں رہے، جس پر روک نہیں ہے یعنی دیوار یا منڈیر نہیں ہے اس سے ذمہ بری ہے۔“ (1) یعنی اگر رات میں چھت سے گر جائے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔

حدیث ۲۴ ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چھت پر سونے سے منع فرمایا کہ جس پر روک نہ ہو۔ (2)

حدیث ۲۵ ابو یعلیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔“ (3)

حدیث ۲۶ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنہائی سے منع فرمایا۔“ (4) یعنی اس سے کہ آدمی تنہا سوئے۔

حدیث ۲۷ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک شخص دو چادریں اوڑھے ہوئے اتر کر چل رہا تھا اور گھنٹہ میں تھا، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔“ (5)

حدیث ۲۸ ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان میں چلنے سے منع فرمایا۔“ (6)

حدیث ۲۹ بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تمہارے سامنے عورتیں آجائیں تو ان کے درمیان میں نہ گزرو، داہنے یا بائیں کا راستہ لے لو۔“ (7)

مسئلہ ۱ قیلوہ (8) کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ (9) (عالمگیری) غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے

- 1..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في النوم على سطح غير محجر، الحديث: ۵۰۴۱، ج ۴، ص ۴۰۲.
- 2..... ”سنن الترمذي“، كتاب الأدب، باب الجلوس... إلخ، الحديث: ۴۷۲۰، ج ۳، ص ۲۲.
- 3..... ”المسند أبي يعلى“، مسند عائشہ رضی اللہ عنہا، الحديث: ۴۸۹۷، ج ۴، ص ۲۷۸.
- 4..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر، الحديث: ۵۶۵۴، ج ۲، ص ۴۰۱.
- 5..... ”صحیح مسلم“، كتاب اللباس، باب تحريم التبخر في المشى... إلخ، الحديث: ۵۰۰، ۴۹، (۲۰۸۸)۔ ۱۱۵۶.
- 6..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في مشى النساء مع الرجال في الطريق، الحديث: ۵۲۷۳، ج ۴، ص ۴۷۰.
- 7..... ”شعب الإيمان“، باب في تحريم الفروج، الحديث: ۵۴۴۷، ج ۴، ص ۳۷۱-۳۷۲.
- 8..... یعنی دو پہر کی تھوڑی ٹینڈیا دو پہر کا (بغیر سوئے ہوئے) آرام۔
- 9..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، كتاب الكراهية، الباب الثلاثون في المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۶.

ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ذکر الہی کرتے ہیں یا کتب بینی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہو قیلولہ سے دفع ہو جائے گا۔

مسئلہ ۲ دن کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب و عشا کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئے اور کچھ دیر دہنی کروٹ پر دہنے ہاتھ کو خسارہ کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا سو اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا، سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو تہلیل و تسبیح و تحمید پڑھے یہاں تک کہ سو جائے، کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ سو کر صبح سے پہلے ہی اٹھ جائے اور اٹھتے ہی یاد خدا کرے یہ پڑھے: **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اَلِیْہِ النُّشُوْرُ**۔ (۱) اسی وقت اس کا پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری و تقویٰ کرے گا کسی کو ستائے گا نہیں۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ بعد نماز عشا باتیں کرنے کی تین صورتیں ہیں۔

اول: علمی گفتگو کسی سے مسئلہ پوچھنا یا اس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق و تفتیش کرنا اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے۔
دوم: جھوٹے قصے کہانی کہنا مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔

سوم: موانست کی بات چیت کرنا جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے لیے کلام کرنا یہ جائز ہے اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔

مسئلہ ۴ دومر دبر ہنہ ایک ہی کپڑے کو اوڑھ کر لیٹیں یہ ناجائز ہے۔ اگر چہ بچھونے کے ایک کنارہ پر ایک لیٹنا ہو اور دوسرے کنارہ پر دوسرا ہو، اسی طرح دو عورتوں کا برہنہ ہو کر ایک کپڑے کو اوڑھ کر لیٹنا بھی ناجائز ہے۔ (۳) ”حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔“ (۴)

مسئلہ ۵ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر دس سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے یعنی لڑکا جب اتنا بڑا ہو جائے اپنی ماں یا بہن یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے صرف اپنی زوجہ یا باندی کے ساتھ سو سکتا ہے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ (۵) (درمختار، ردالمحتار)

①..... ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت (نیند) کے بعد زندگی دی اور (قیامت کے دن) اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

②..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۶۔

③..... ”الدرالمختار“، کتاب الحظر والإباحۃ، باب الإستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۲۹۔

④..... انظر: ”صحیح مسلم“، کتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، الحديث: ۷۴۔ (۳۳۸)، ص ۱۸۶۔

⑤..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الحظر والإباحۃ، باب الإستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۲۹۔

کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر پاؤں نہ ماریں جس سے ان کا چھپا ہوا سنگار معلوم ہو جائے اور اللہ (عزوجل) کی طرف توبہ کرو، اے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔“

اور فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ۝﴾ (1)

”اے نبی! اپنی ازواج اور صاحبزادیوں اور مومنین کی عورتوں سے فرمادو کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لٹکالیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ (2) وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ایذا نہیں دی جائے گی اور اللہ (عزوجل) بخشنے والا مہربان ہے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَقْعْنَ شَيْئًا بَيْنَ عَيْرِ صَبْرٍ حَتَّىٰ يَزِيَّتَهُ ۚ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ حَتَّىٰ لَهْنَهُ ۚ وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (3)

”اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگار ظاہر نہ کریں اور اس سے بچنا ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ (عزوجل) سنتا جانتا ہے۔“

حدیث ۱ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیچھے جاتی ہے، جب کسی نے کوئی عورت دیکھی اور وہ پسند آگئی اور اس کے دل میں کچھ واقع ہو تو اپنی عورت سے جماع کرے، اس سے وہ بات جاتی رہے گی جو دل میں پیدا ہوگئی ہے۔“ (4)

حدیث ۲ دارمی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ پسند آگئی تو اپنی زوجہ کے پاس چلا جائے کہ اس کے پاس بھی ویسی ہی چیز ہے جو اس کے پاس ہے۔“ (5)

1..... پ ۲۲، الاحزاب: ۵۹.

2..... بہار شریعت میں اس مقام پر ﴿ذَلِكَ آدَتِي﴾ کا ترجمہ ”یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ“ موجود نہیں تھا، لہذا متن میں کنز الایمان سے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔... علمہ

3..... پ ۱۸، النور: ۶۰.

4..... ”صحیح مسلم“، کتاب النکاح، باب ندب من رأى امرأة... إلخ، الحدیث: ۹۔ (۱۴۰۳)، ص ۷۲۶.

5..... ”سنن الدارمی“، کتاب النکاح، باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه، الحدیث: ۲۲۱۵، ج ۲، ص ۱۹۶.

حدیث ۳ صحیح مسلم میں جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا۔ ”حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے حکم دیا کہ اپنی نگاہ پھیر لو۔“ (1)

حدیث ۴ امام احمد و ابوداؤد و ترمذی و دارمی نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ”ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو (یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹالے اور دوبارہ نظر نہ کرے) کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔“ (2)

حدیث ۵ ترمذی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے جب وہ نکلتی ہے، تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔“ (3) یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔

حدیث ۶ امام احمد نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی دفعہ نظر کرے یعنی بلا قصد پھر اپنی آنکھ میچ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دے گا جس کا مزہ اس کو ملے گا۔“ (4)

حدیث ۷ بیہقی نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دیکھنے والے پر اور اُس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ (عزوجل) کی لعنت۔“ (5) یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصد اُدیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصد اُدکھائے۔

حدیث ۸ ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی شرم گاہ کی طرف کبھی نظر نہیں کی۔ (6)

حدیث ۹ ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ بروایت بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی عورت یعنی ستر کی جگہ کو محفوظ رکھو، مگر بی بی سے یا اس باندی سے جس کے تم مالک ہو۔ میں نے عرض کی،

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الآداب، باب نظر الفجاءة، الحدیث: ۴۵۔ (۲۱۵۹)، ص ۱۱۹۰۔

②..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث بريدة الأسلمي، الحدیث: ۲۳۰۵۲، ج ۹، ص ۱۸ - ۱۹۔

و ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی نظرة الفجاءة، الحدیث: ۲۷۸۶، ج ۴، ص ۳۵۶۔

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الرضاع، باب: ۱۸، الحدیث: ۱۱۷۶، ج ۲، ص ۳۹۲۔

④..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث أبي أمية الباهلي، الحدیث: ۲۲۳۴۱، ج ۸، ص ۲۹۹۔

⑤..... ”شعب الإيمان“، باب الحياء، فصل فی الحمام، الحدیث: ۷۷۸۸، ج ۶، ص ۱۶۲۔

⑥..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الطهارة، باب النهی أن یری عورة أخیه، الحدیث: ۶۶۲، ج ۱، ص ۳۶۵۔

یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) یہ فرمائیے کہ اگر مرد تنہائی میں ہو اور شاد فرمایا: ”اللہ عزوجل سے شرم کرنا زیادہ سزاوار ہے۔“ (1)

حدیث ۱۰ → ترمذی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔“ (2)

حدیث ۱۱ → ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، کہ شیطان تم میں خون کی طرح تیرتا ہے یعنی شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ ہم نے عرض کی، اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)۔ فرمایا: اور مجھ سے بھی، مگر اللہ (عزوجل) نے میری اس کے مقابل میں مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا یا میں سلامت رہتا ہوں۔“ (3) حدیث کے لفظ میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

حدیث ۱۲ → صحیح بخاری و مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔“ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)! دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ”دیور موت ہے۔“ (4) یعنی دیور کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنہ کا زیادہ احتمال ہے۔

حدیث ۱۳ → ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”برہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ (فرشتے) ہوتے ہیں جو جدا نہیں ہوتے مگر صرف پاخانہ کے وقت اور اس وقت جب مرد اپنی عورت کے پاس جاتا ہے، لہذا ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔“ (5)

حدیث ۱۴ → ترمذی و ابوداؤد نے جبر ہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران عورت ہے۔“ (6) یعنی چھپانے کی چیز ہے۔

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب النکاح، باب التستر عند الجماع، الحدیث: ۱۹۲۰، ج ۲، ص ۴۴۸.

و ”مشکاۃ المصابیح“، کتاب النکاح، باب النظر إلى المخطوبة... إلخ، الحدیث: ۳۱۱۷، ج ۲، ص ۲۰۸.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الفتن، باب ماجاء في لزوم الجماعة، الحدیث: ۲۱۷۲، ج ۴، ص ۶۷.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الرضاع، باب: ۱۷، الحدیث: ۱۱۷۵، ج ۲، ص ۳۹۱.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم... إلخ، الحدیث: ۵۲۳۲، ج ۳، ص ۳۷۲.

و ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب تحريم الخلوۃ بالأجنبية... إلخ، الحدیث: ۲۰- (۲۱۷۲)، ص ۱۱۹۶.

⑤..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء في الإستتار عند الجماع، الحدیث: ۲۸۰۹، ج ۴، ص ۳۶۵.

⑥..... ”سنن أبي داود“، کتاب الحمام، باب النهی عن التعری، الحدیث: ۴۰۱۴، ج ۴، ص ۵۶.

حدیث ۱۵ ابو داؤد ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ ”اے علی! ران کونہ کھولو اور نہ زندہ کی ران کی طرف نظر کرو نہ مردہ کی۔“ (1)

حدیث ۱۶ صحیح مسلم میں ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک مرد دوسرے مرد کی ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ دیکھے اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے۔“ (2)

حدیث ۱۷ امام احمد و ترمذی و ابوداؤد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ یہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر تھیں کہ عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ان دونوں سے فرمایا کہ ”پردہ کر لو۔“ کہتی ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! وہ تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”کیا تم دونوں اندھی ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی۔“ (3)

حدیث ۱۸ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا نہ ہو کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ رہے پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے، گویا یہ اسے دیکھ رہا ہے۔“ (4)

حدیث ۱۹ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خبردار کوئی مرد شیب عورت کے یہاں رات کونہ رہے مگر اس صورت میں کہ اس سے نکاح کرنے والا ہو یا اس کا ذی محرم ہو۔“ (5)

حدیث ۲۰ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ انصاریہ عورت سے نکاح کا میرا ارادہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ ”اسے دیکھ لو! کیونکہ انصاریہ کی آنکھوں میں کچھ ہے۔“ (6) یعنی ان کی آنکھیں کچھ بھوری ہوتی ہیں۔

1..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب ماجاء فی الجنائز، باب ماجاء فی غسل الميت، الحدیث: ۱۴۶۰، ج ۲، ص ۲۰۰.

2..... ”صحیح مسلم“، کتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، الحدیث: ۷۴- (۳۳۸)، ص ۱۸۶.

3..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی إحتجاب النساء من الرجال، الحدیث: ۲۷۸۷، ج ۴، ص ۳۵۶.

و ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث ام سلمة زوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۶۵۹۹، ج ۱۰، ص ۱۸۳.

4..... ”صحیح البخاری“، کتاب النکاح، باب لا تبأشر المرأة... إلخ، الحدیث: ۵۲۴۰، ج ۳، ص ۴۷۴.

5..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب تحريم الخلوۃ بالأجنبية... إلخ، الحدیث: ۱۹- (۲۱۷۲)، ص ۱۱۹۶.

6..... ”صحیح مسلم“، کتاب النکاح، باب ندب من اراد نکاح امرأة... إلخ، الحدیث: ۷۴- (۱۴۲۴)، ص ۷۳۹.

حدیث ۲۱ امام احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا: ”اسے دیکھ لو! کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان موافقت ہونے کا پہلو غالب ہے۔“^(۱)

مسائل فقہیہ

اس باب کے مسائل چار قسم کے ہیں۔ مرد کا مرد کو دیکھنا، عورت کا عورت کو دیکھنا، مرد کا مرد کو دیکھنا، مرد کا عورت کو دیکھنا۔ مرد مرد کے ہر حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے سوا ان اعضا کے جن کا ستر ضروری ہے۔ وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے کہ اس حصہ بدن کا چھپانا فرض ہے، جن اعضا کا چھپانا ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں۔ کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو اسے منع کرے اور ران کھولے ہوئے دیکھے تو سختی سے منع کرے اور شرم گاہ کھولے ہوئے ہو تو اسے سزا دی جائے گی۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱ بہت چھوٹے بچے کے لیے عورت نہیں یعنی اس کے بدن کے کسی حصہ کا چھپانا فرض نہیں، پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے پیچھے کا مقام چھپانا ضروری ہے۔ پھر جب اور بڑا ہو جائے دس برس سے بڑا ہو جائے تو اس کے لیے بالغ کا سا حکم ہے۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲ جس حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے اس کو چھو بھی سکتا ہے۔^(۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۳ لڑکا جب مراہق^(۵) ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ہے یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور شہوت نہ ہو تو اس کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تہائی بھی جائز ہے۔

①..... "سنن النسائی"، کتاب النکاح، باب إباحة النظر قبل التزویج، الحدیث: ۳۲۳۲، ص ۵۲۷.

و "مشکاة المصابیح"، کتاب النکاح، باب النظر إلى المخطوبة، الحدیث: ۳۱۰۷، ج ۲، ص ۲۰۶.

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۷.

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی النظر واللمس، ج ۹، ص ۶۰۲.

④..... "الہدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۷۱.

⑤..... یعنی بالغ ہونے کے قریب۔

شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے، بوسہ کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حد میں داخل ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ عورت کا عورت کو دیکھنا، اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی باقی اعضا کی طرف نظر کر سکتی ہے۔ بشرطیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔⁽²⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۵ عورت صالحہ کو یہ چاہیے کہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹا وغیرہ نہ اتارے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی، مسلمان عورت کو یہ بھی حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

گھروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور یہ بیاں ان کے سامنے اسی طرح موضع ستر کھولے ہوئے ہوتی ہیں جس طرح مسلمہ کے سامنے رہتی ہیں ان کو اس سے اجتناب⁽⁴⁾ لازم ہے۔ اکثر جگہ دایاں کافرہ ہوتی ہیں اور وہ بچہ جنانے کی خدمت انجام دیتی ہیں، اگر مسلمان دایاں مل سکیں تو کافرہ سے ہرگز یہ کام نہ کرایا جائے کہ کافرہ کے سامنے ان اعضا کے کھولنے کی اجازت نہیں۔

مسئلہ ۶ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے، جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو، کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ عورت مرد اجنبی کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی جوان ہو، اس کو شہوت ہو سکتی ہو اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت نہیں پیدا ہوگی۔⁽⁶⁾ (عالمگیری) بعض جوان عورتیں اپنے پیروں کے ہاتھ پاؤں دباتی ہیں اور بعض پیر اپنی مریدہ سے ہاتھ پاؤں دباتے ہیں اور ان میں اکثر دونوں یا ایک حد شہوت میں ہوتا ہے ایسا کرنا ناجائز ہے اور دونوں گنہگار ہیں۔

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ج ۹، ص ۶۰۲.

②..... "الهداية"، کتاب الکراهية، فصل في الوطء والنظر والمس، ج ۲، ص ۳۷۰.

③..... "الفتاوى الهندية"، کتاب الکراهية، الباب الثامن فيما يحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۷.

④..... بچنا۔

⑤..... "الفتاوى الهندية"، کتاب الکراهية، الباب الثامن فيما يحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۷.

⑥..... المرجع السابق.

مسئلہ ۸ مرد کا عورت کو دیکھنا، اس کی کئی صورتیں ہیں:

- ① مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کو دیکھنا۔ ② مرد کا اپنے محارم کی طرف نظر کرنا۔ ③ مرد کا آزاد عورت اجنبیہ کو دیکھنا۔
- ④ مرد کا دوسرے کی باندی کو دیکھنا۔

پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کر سکتا ہے شہوت اور بلا شہوت دونوں صورتوں میں دیکھ سکتا ہے، اسی طرح یہ دونوں قسم کی عورتیں اس مرد کے ہر عضو کو دیکھ سکتی ہیں، ہاں بہتر یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور نظر میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں باندی سے مراد وہ ہے جس سے وطی جائز ہے۔ (۱) (عالمگیری، درمختار و ردالمحتار)

مسئلہ ۹ جس باندی سے وطی نہ کر سکتا ہو مثلاً وہ مشرکہ ہے یا مکاتبہ یا مشترکہ یا رضاعت یا مصاہرت کی وجہ سے اس سے وطی حرام ہو وہ اجنبیہ کے حکم میں ہے۔ (۲) (درمختار)

مسئلہ ۱۰ زوجہ اور اس باندی کے ہر عضو کو چھو بھی سکتا ہے اور یہ بھی اس کے ہر عضو کو چھو سکتی ہے، یہاں تک کہ ہر ایک دوسرے کی شرم گاہ کو بھی چھو سکتا ہے۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ جماع کے وقت دونوں بالکل برہنہ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ وہ مکان بہت چھوٹا دس پانچ ہاتھ کا ہو۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ میاں بی بی جب بچھونے پر ہوں مگر جماع میں مشغول نہ ہوں، اس حالت میں ان کے محارم وہاں اجازت لے کر آ سکتے ہیں، بغیر اجازت نہیں آ سکتے۔ اسی طرح خادم یعنی غلام اور باندی بھی آ سکتی ہے۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ باندی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وطی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے یہ مکروہ ہے۔ یوہیں سوت (۶) کے سامنے بی بی سے وطی کرنا مکروہ ہے۔ (۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۴ جو عورت اس کے محارم میں ہو اس کے سر، سینہ، پنڈلی، بازو، گلانی، گردن، قدم کی طرف نظر کر سکتا

①....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۷.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی النظر والمس، ج ۹، ص ۶۰۵.

②....."الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی النظر والمس، ج ۹، ص ۶۰۴.

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۸.

④..... المرجع السابق. ⑤..... المرجع السابق.

⑥..... یعنی ایک خاوند کی دو یا زیادہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوت کہلاتی ہیں۔

⑦....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۸.

ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کی شہوت کا اندیشہ نہ ہو محارم کے پیٹ، پیٹھ اور ران کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ) اسی طرح کروٹ اور گھٹنے کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز ہے۔⁽²⁾ (ردالمحتار) کان اور گردن اور شانہ اور چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ محارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، یہ حرمت نسب سے ہو یا سبب سے مثلاً رضاعت یا مصاہرت⁽⁴⁾ اگر زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت ہو جیسے مزنیہ کے اصول و فروع⁽⁵⁾ ان کی طرف نظر کا بھی وہی حکم ہے۔⁽⁶⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۶ محارم کے جن اعضا کی طرف نظر کر سکتا ہے ان کو چھو بھی سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کی شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ مرد اپنی والدہ کے پاؤں دبا سکتا ہے مگر ران اس وقت دبا سکتا ہے جب کپڑے سے چھپی ہو، یعنی کپڑے کے اوپر سے اور بغیر حائل چھونا جائز نہیں۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے ”جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما، تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔“⁽⁸⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۸ محارم کے ساتھ سفر کرنا یا خلوت میں اس کے ساتھ ہونا، یعنی مکان میں دونوں کا تہا ہونا کہ کوئی دوسرا وہاں نہ ہو جائز ہے بشرطیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔⁽⁹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ دوسرے کی باندی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو محارم کا ہے۔ مدبرہ اور مکاتبہ کا بھی یہی حکم ہے۔⁽¹⁰⁾ (ہدایہ)

①..... ”الهدایة“، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۷۰.

②..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی النظر واللمس، ج ۹، ص ۶۰۶.

③..... ”الفتاویٰ الہندیة“، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۸.

④..... رضاعت (یعنی دودھ کے رشتے) اور مصاہرت (یعنی سسرالی رشتے) کی معلومات کے لیے ”بہار شریعت، جلد دوم، حصہ ۷“، ملاحظہ فرمائیں۔

⑤..... یعنی جس عورت سے زنا کیا، اس کی ماں اور لڑکیاں زانی کے لیے۔

⑥..... ”الهدایة“، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۷۰.

⑦..... ”الفتاویٰ الہندیة“، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۸.

⑧..... ”الدرالمختار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی النظر واللمس، ج ۹، ص ۶۰۶.

⑨..... ”الفتاویٰ الہندیة“، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۸.

⑩..... ”الهدایة“، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۷۱.

مسئلہ ۲۰ کنیز کو خریدنے کا ارادہ ہو تو اس کی کلائی اور بازو اور پنڈلی اور سینہ کی طرف نظر کر سکتا ہے، کیونکہ اس حالت میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ان اعضا کو چھو بھی سکتا ہے بشرطیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔^(۱) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۱ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے چہرہ اور ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی اس کے موافق یا مخالف شہادت دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر اسے نہ دیکھا ہو تو کیونکر گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو اور یوں بھی ضرورت ہے کہ بہت سی عورتیں گھر سے باہر آتی جاتی ہیں، لہذا اس سے بچنا بہت دشوار ہے۔ بعض علما نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے۔^(۲) (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ اجنبیہ عورت کے چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھنا اگرچہ جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں، اگرچہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ نظر کے جواز کی وجہ ضرورت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں، لہذا چھونا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے مصافحہ جائز نہیں اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوقت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ نہ فرماتے صرف زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ محل شہوت نہ ہو تو اس سے مصافحہ میں حرج نہیں۔ یوہیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنہ کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مصافحہ کر سکتا ہے۔^(۳) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۳ بہت چھوٹی لڑکی جو مشتبہ^(۴) نہ ہو اس کو دیکھنا بھی جائز ہے اور چھونا بھی جائز ہے۔^(۵) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۴ اجنبیہ عورت نے کسی کے یہاں کام کاج کرنے روٹی پکانے کی نوکری کی ہے اس صورت میں اس کی کلائی کی طرف نظر جائز ہے۔ کہ وہ کام کاج کے لیے آستین چڑھائے گی کلائی اس کی کھلیں گی اور جب اس کے مکان میں ہے تو کیوں کر بچ سکے گا، اسی طرح اس کے دانتوں کی طرف نظر کرنا بھی جائز ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ اجنبیہ عورت کے چہرہ کی طرف اگرچہ نظر جائز ہے، جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو مگر یہ زمانہ فتنہ کا ہے اس زمانے میں ویسے لوگ کہاں جیسے اگلے زمانہ میں تھے، لہذا اس زمانہ میں اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی مگر گواہ و قاضی کے لیے

①..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۷۱.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۶۱۰.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۹.

③..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۶۸، وغیرھا.

④..... یعنی قابل شہوت۔

⑤..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۶۸.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۹.

کہ بوجہ ضرورت ان کے لیے نظر کرنا جائز ہے اور ایک صورت اور بھی ہے وہ یہ کہ اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے۔ کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ”جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا۔“⁽¹⁾ اسی طرح عورت اُس مرد کو جس نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتی ہے، اگرچہ اندیشہ شہوت ہو مگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کو دیکھنا ناممکن ہو جیسا کہ اس زمانہ کا رواج یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام دے دیا تو کسی طرح بھی اسے لڑکی کو نہیں دیکھنے دیں گے یعنی اس سے اتنا زبردست پردہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سے اتنا پردہ نہیں ہوتا اس صورت میں اس شخص کو یہ چاہیے کہ کسی عورت کو بھیج کر دکھوالے اور وہ آ کر اس کے سامنے سارا حلیہ و نقشہ وغیرہ بیان کر دے تاکہ اسے اس کی شکل و صورت کے متعلق اطمینان ہو جائے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک لڑکی بھی ہے اور معلوم ہوا کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں کی شکل و صورت کی ہے اس مقصد سے کہ اس کی ماں سے نکاح کرنا ہے لڑکی کو دیکھنا جائز نہیں جبکہ یہ مشہاۃ ہو۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنے میں ضرورت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت بیمار ہے اس کے علاج میں بعض اعضا کی طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ اس کے جسم کو چھونا پڑتا ہے۔ مثلاً نبض دیکھنے میں ہاتھ چھونا ہوتا ہے یا پیٹ میں ورم کا خیال ہو تو ٹٹول کر دیکھنا ہوتا ہے یا کسی جگہ پھوڑا ہو تو اسے دیکھنا ہوتا ہے بلکہ بعض مرتبہ ٹٹولنا بھی پڑتا ہے اس صورت میں موضع مرض کی طرف نظر کرنا یا اس ضرورت سے بقدر ضرورت اس جگہ کو چھونا جائز ہے۔

یہ اس صورت میں ہے کوئی عورت علاج کرنے والی نہ ہو، ورنہ چاہیے یہ کہ عورتوں کو بھی علاج کرنا سکھایا جائے تاکہ ایسے مواقع پر وہ کام کریں کہ ان کے دیکھنے وغیرہ میں اتنی خرابی نہیں جو مرد کے دیکھنے وغیرہ میں ہے۔ اکثر جگہ دائیاں ہوتی ہیں جو پیٹ کے ورم کو دیکھ سکتی ہیں جہاں دائیاں دستیاب ہوں مرد کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ بدن کھولا جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے باقی حصہ بدن کو اچھی طرح چھپا دیا جائے کہ اس پر نظر نہ پڑے۔⁽⁵⁾ (ہدایہ وغیرہ)

①.....”سنن الترمذی“، کتاب النکاح، باب ماجاء فی النظر الی المخطوبۃ، الحدیث: ۱۰۸۹، ج ۲، ص ۳۴۶.

②.....”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی النظر والمس، ج ۹، ص ۶۱۰.

③.....”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی النظر والمس، ج ۹، ص ۶۱۱.

④.....المرجع السابق.

⑤.....”الهدایۃ“، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۶۹، وغیرہا.

مسئلہ ۲۹ عمل دینے (۱) کی ضرورت ہو تو مرد مرد کے موضع ختنہ (۲) کی طرف نظر کر سکتا ہے یہ بھی بوجہ ضرورت

جائز ہے اور ختنہ کرنے میں موضع ختنہ کی طرف نظر کرنا بلکہ اس کا چھونا بھی جائز ہے کہ یہ بھی بوجہ ضرورت ہے۔ (۳) (ہدایہ، عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ عورت کو فصد کرانے (۴) کی ضرورت ہے اور کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اچھی طرح فصد کھولے تو مرد

سے فصد کرنا جائز ہے۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ اجنبیہ عورت نے خوب موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں کہ بدن کی رنگت وغیرہ نظر نہیں آتی، تو اس صورت

میں اس کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کہ یہاں عورت کو دیکھنا نہیں ہوا بلکہ ان کپڑوں کو دیکھنا ہوا یہ اس وقت ہے کہ اس کے کپڑے

چست نہ ہوں اور اگر چست کپڑے پہنے ہو کہ جسم کا نقشہ کھنچ جاتا ہو مثلاً چست پاجامہ میں پنڈلی اور ران کی پوری ہیئت نظر آتی

ہے تو اس صورت میں نظر کرنا جائز ہے۔

اسی طرح بعض عورتیں بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں مثلاً آب رواں (۶) یا جالی یا باریک ململ ہی کا ڈوپٹا (۷) جس سے

سر کے بال یا بالوں کی سیاہی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں اور بعض باریک تزیب یا جالی کے کرتے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ

بالکل نظر آتی ہے اس حالت میں نظر کرنا حرام ہے اور ایسے موقع پر ان کو اس قسم کے کپڑے پہننا بھی ناجائز۔ (۸) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ خصی یعنی جس کے انٹین نکال لیے گئے ہوں یا محبوب جس کا عضو تناسل کاٹ لیا گیا جب ان کی عمر

پندرہ سال کی ہو تو ان کے لیے بھی اجنبیہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ یہی حکم زناخوں (۹) کا بھی ہے۔ (۱۰) (ہدایہ)

مسئلہ ۳۳ جس عضو کی طرف نظر کرنا جائز ہے اگر وہ بدن سے جدا ہو جائے تو اب بھی اس کی طرف نظر کرنا جائز

ہی رہے گا، مثلاً پیڑو کے بال (۱۱) کہ ان کو جدا کرنے کے بعد بھی دوسرا شخص دیکھ نہیں سکتا۔ عورت کے سر کے بال یا اس کے

۱..... یعنی دوادینے۔ ۲..... یعنی کسی دوا کی ترقی یا پکپکاری چڑھانے کی جگہ (یعنی پیچھے کا مقام)۔

۳..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۶۹۔

۴..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۳۰۔

۵..... یعنی رگ سے خون نکلوانے۔

۶..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۳۰۔

۷..... ایک قسم کا نہایت اچھا اور باریک کپڑا۔ ۸..... دوپٹا۔

۹..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب الثامن فیما یحل... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۹۔

۱۰..... یعنی بچھوے۔

۱۱..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی الوطء والنظر واللمس، ج ۲، ص ۳۷۲۔

۱۲..... یعنی ناف کے نیچے کے بال۔

پاؤں یا کلائی کی ہڈی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجنبی شخص اُن کو نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کے پاؤں کے ناخن کہ ان کو بھی اجنبی شخص نہیں دیکھ سکتا اور ہاتھ کے ناخن کو دیکھ سکتا ہے۔⁽¹⁾ (درمختار) اکثر دیکھا گیا ہے کہ غسل خانہ یا پاخانہ میں موئے زیر ناف موڈ کر بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں بلکہ ان کو ایسی جگہ ڈال دیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے یا زمین میں دفن کر دیں۔ عورتوں کو بھی لازم ہے کہ کنگھا کرنے میں یا سردھونے میں جو بال نکلیں انہیں چھپادیں کہ ان پر اجنبی کی نظر نہ پڑے۔

مسئلہ ۳۴ عورت کو داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو ان کا نوچنا جائز بلکہ مستحب ہے کہ کہیں اس کے شوہر کو اس سے نفرت نہ پیدا ہو۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳۵ اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت یعنی دونوں کا ایک مکان میں تنہا ہونا حرام ہے ہاں اگر وہ بالکل بوڑھی ہے کہ شہوت کے قابل نہ ہو تو خلوت ہو سکتی ہے۔ عورت کو طلاق بائن دے دی تو اس کے ساتھ تنہا مکان میں رہنا ناجائز ہے اور اگر دوسرا مکان نہ ہو تو دونوں کے مابین پردہ لگا دیا جائے، تاکہ دونوں اپنے اپنے حصہ میں رہیں یہ اس وقت ہے کہ شوہر فاسق نہ ہو اور اگر فاسق ہو تو ضروری ہے کہ وہاں کوئی ایسی عورت بھی رہے جو شوہر کو عورت سے روکنے پر قادر ہو۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳۶ محارم کے ساتھ خلوت جائز ہے، یعنی دونوں ایک مکان میں تنہا ہو سکتے ہیں۔ مگر رضاعی بہن اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں جبکہ یہ جوان ہوں۔ یہی حکم عورت کی جوان لڑکی کا ہے جو دوسرے شوہر سے ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مکان میں جانے کے لیے اجازت لینا

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِن قِيلَ لَكُمُ امْجِعُوا فَاجْعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝﴾⁽⁵⁾

①..... "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر و المس، ج، ۹، ص ۶۱۲ - ۶۱۴.

②..... "ردالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر و المس، ج، ۹، ص ۶۱۵.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر و المس، ج، ۹، ص ۶۰۷.

④..... المرجع السابق، ص ۶۰۸.

⑤..... پ ۱۸، النور: ۲۷ - ۲۹.

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ (عزوجل) اس کو جانتا ہے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں کے اندر چلے جاؤ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے اور ان میں تمہارا سامان ہے اور اللہ (عزوجل) جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو چھپاتے ہو۔“ اور فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ مَرَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصْعُقُونَ نِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْيْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ أَنْ تَطُوفُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَأْتُمْ آلَ طِفَالٍ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠١﴾ ﴿١﴾

”اے ایمان والو! چاہیے کہ تم سے اذن لیں وہ جن کے تم مالک ہو (غلام) اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے تین وقت نماز صبح سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو اور نماز عشا کے بعد یہ تین وقت تمہاری شرم کے ہیں، ان تین کے علاوہ کچھ گناہ نہیں تم پر، نہ ان پر، تمہارے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں بعض بعض کے پاس۔ یوہیں اللہ (عزوجل) تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ (عزوجل) علم و حکمت والا ہے اور جب تم میں کے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا۔ یوہیں اللہ (عزوجل) تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ (عزوجل) علم و حکمت والا ہے۔“

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے ان کے دروازہ پر جا کر تین بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو میں واپس چلا آیا۔ اب حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ میں آیا تھا اور دروازہ پر تین بار سلام کیا جب جواب نہیں ملا تو واپس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص تین بار اجازت مانگے اور جواب نہ ملے تو واپس جائے۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) یہ فرماتے ہیں کہ گواہ لاؤ کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ایسا فرمایا ہے۔ ابوسعید خدری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں میں نے جا کر گواہی دی۔ (2)

① پ ۱۸، النور: ۵۸-۵۹.

② ”صحیح مسلم“، کتاب الأدب، باب الاستئذان، الحدیث: ۳۳- (۲۱۵۳)، ص ۱۱۸۶.

حدیث ۲ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکان میں گیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو پیالے میں دودھ ملا اور فرمایا: ”ابو ہریرہ! اصحاب صفہ کے پاس جاؤ انھیں بلا لاؤ۔“ (تا کہ ان کو دودھ دیا جائے) میں انھیں بلا لایا، وہ آئے اور اجازت طلب کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اجازت دی تب وہ مکان کے اندر داخل ہوئے۔^(۱)

حدیث ۳ ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص بلایا جائے اور اسی بلانے والے کے ساتھ ہی آئے تو یہی (بلانا) اس کے لیے اجازت ہے۔“^(۲) یعنی اس صورت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ”آدمی بھیجتا ہی اجازت ہے۔“^(۳) یہ حکم اس وقت ہے کہ فوراً آئے اور قرآن سے معلوم ہو کہ صاحب خانہ انتظار میں ہے، مکان میں پردہ ہو چکا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور اگر دیر میں آئے تو اجازت حاصل کرے، جیسا کہ اصحاب صفہ نے کیا تھا۔

حدیث ۴ ترمذی و ابوداؤد نے کلدہ بن ضبل سے روایت کی، کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا میں بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت اندر چلا گیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”باہر جاؤ اور یہ کہو اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ ءَاذْخُلُ کیا اندر آ جاؤں۔“^(۴)

حدیث ۵ امام مالک نے عطاء بن یسار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ہاں۔ انھوں نے کہا میں تو اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہی ہوں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ، انھوں نے کہا، میں اس کی خدمت کرتا ہوں یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے۔ پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اجازت لے کر جاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ عرض کی نہیں، فرمایا: تو اجازت حاصل کرو۔“^(۵)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب إذا دعی الرجل فحاء هل يستأذن، الحدیث: ۶۲۴۶، ج ۴، ص ۱۷۰.

②..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب في الرجل يدعی أیکون ذلك إذنه، الحدیث: ۵۱۹۰، ج ۴، ص ۴۴۷.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۱۸۹، ج ۴، ص ۴۴۷.

④..... ”سنن الترمذی“، کتاب الاستئذان... إلخ، باب ماجاء في التسليم قبل الاستئذان، الحدیث: ۲۷۱۹، ج ۴، ص ۳۲۵.

و ”مشكاة المصابيح“، کتاب الآداب، باب الاستئذان، الحدیث: ۶۷۱، ج ۳، ص ۱۲-۱۳.

⑤..... ”الموطأ“ للإمام مالك، کتاب الاستئذان، باب الاستئذان، الحدیث: ۱۸۴۷، ج ۲، ص ۴۴۶.

حدیث ۶ بیہقی نے شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے سلام نہ کرے، اسے اجازت نہ دو۔“ (1)

حدیث ۷ ابوداؤد نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے دروازہ پر تشریف لے جاتے تو دروازہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ دہنے یا بائیں ہٹ کر کھڑے ہوتے اور یہ فرماتے: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ (2) اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے۔

حدیث ۸ ترمذی نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کسی شخص کو یہ حلال نہیں کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت حاصل کیے نظر کرے اور اگر نظر کر لی تو داخل ہی ہو گیا اور یہ نہ کرے کہ کسی قوم کی امامت کرے اور خاص اپنے لیے دعا کرے، ان کے لیے نہ کرے اور ایسا کیا تو ان کی خیانت کی۔“ (3)

حدیث ۹ امام احمد و نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت لیے جھانکے اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو نہ دیت ہے نہ قصاص (4)۔“ (5)

حدیث ۱۰ ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے اجازت سے قبل پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا اور اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کچھ نہیں اور اگر کوئی شخص ایسے دروازہ پر گیا جس پر پردہ نہیں اور اس کی نظر گھر والے کی عورت پر پڑ گئی (یعنی بلا قصد) تو اس کی خطا نہیں خطا گھر والوں کی ہے۔“ (6) (کہ انہوں نے دروازہ پر پردہ کیوں نہیں لٹکایا)۔

مسائل فقہیہ

مسئلہ ۱ جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے، تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت شروع کرے اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت

①..... ”شعب الایمان“، باب فی مقاربتہ و موادعہ اهل الدین، الحدیث: ۸۸۱۶، ج ۶، ص ۴۴۱.

②..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الأدب، باب کم مرۃ یسلم الرجل فی الاستئذان، الحدیث: ۵۱۸۶، ج ۴، ص ۴۴۶.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی کراهیۃ أن یخص الإمام نفسه بالدعاء، الحدیث: ۳۵۷، ج ۱، ص ۳۷۳.

④..... یعنی آنکھ پھوڑنے کے عوض نہ مال دیا جائے گا نہ بدلہ میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔

⑤..... ”سنن النسائی“، کتاب القسامۃ و القود، باب من إقتص وأخذ حقه دون السلطان، الحدیث: ۴۸۷۰، ص ۷۸۰.

⑥..... ”سنن الترمذی“، کتاب الاستئذان... إلخ، باب ماجاء فی الاستئذان قبالة البیت، الحدیث: ۲۷۱۶، ج ۴، ص ۳۲۴.

نہیں سلام کرے اس کے بعد کلام شروع کرے۔⁽¹⁾ (خانہ)

مسئلہ ۲ کسی کے دروازہ پر جا کر آواز دی اس نے کہا کون؟ تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے، کہ میں جیسا کہ بہت سے لوگ میں کہہ کر جواب دیتے ہیں اس جواب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔⁽²⁾ بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کرے کیونکہ میں کا لفظ تو ہر شخص اپنے کو کہہ سکتا ہے یہ جواب ہی کب ہوا۔

مسئلہ ۳ اگر تم نے اجازت مانگی اور صاحب خانہ نے اجازت نہ دی تو اس سے ناراض نہ ہو، اپنے دل میں کدورت⁽³⁾ نہ لاؤ، خوشی خوشی وہاں سے واپس آؤ۔ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت تم سے ملنے کی فرصت نہ ہو کسی ضروری کام میں مشغول ہو۔

مسئلہ ۴ اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار) یا اس طرح کہے: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ كَيْونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔⁽⁵⁾

مسئلہ ۵ آنے والے نے سلام نہیں کیا اور بات چیت شروع کر دی تو اسے اختیار ہے، کہ اسکی بات کا جواب نہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے سلام سے قبل کلام کیا، اس کی بات کا جواب نہ دو۔“⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ آنے کے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی یہاں تک کہ دونوں کے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہو جائے، جب بھی سلام کرے۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

سلام کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِّ مِمَّا أَوْرَدُوْهَا ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝۸﴾⁽⁸⁾

- ①..... "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی التسییح... إلخ، ج ۲، ص ۳۷۷.
- ②..... انظر: "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب الرجل يستأذن بالدق، الحديث: ۵۱۸۷، ج ۴، ص ۴۴۶.
- ③..... یعنی ناراضگی۔
- ④..... "ردالمحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۲.
- ⑤..... انظر: "شرح الشفاء" للقاري، الباب الرابع، فصل فی المواطن التي تستحب فيها الصلاة والسلام، ج ۲، ص ۱۱۸.
- ⑥..... "ردالمحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۲.
- ⑦..... المرجع السابق.
- ⑧..... پ ۵، النساء: ۸۶.

”جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ (عزوجل) ہر

چیز پر حساب لینے والا ہے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (1)

”جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اللہ (عزوجل) کی طرف سے تحیت ہے مبارک پاکیزہ۔“

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تھا، جب پیدا کیا یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں جو کچھ وہ تحیت کریں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہا، انہوں نے جواب میں کہا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ جواب میں ملائکہ نے وَرَحْمَةُ اللَّهِ زیادہ کیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی یہاں تک کہ اب۔ (2) (بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے)۔

حدیث ۲ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔“ (3)

حدیث ۳ نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھ حق ہیں۔ ① جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے اور ② جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو اور ③ جب وہ بلائے تو اجابت کرے، یعنی حاضر ہو اور ④ جب اس سے ملے تو سلام کرے اور ⑤ جب چھینکے تو جواب دے اور ⑥ حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔“ (4)

①.....پ ۱۸، النور: ۶۱۔

②.....”صحیح مسلم“، کتاب الجنة... إلخ، باب يدخل الجنة اقوام... إلخ، الحدیث: ۲۸- (۲۸۴۱)، ص ۱۵۲۲۔

و ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب بدء السلام، الحدیث: ۶۲۲۷، ج ۴، ص ۱۶۴۔

③.....”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، الحدیث: ۱۲، ج ۱ ص ۱۶۔

④.....”سنن النسائی“، کتاب الجنائز، باب النهی عن مسب الأموات، الحدیث: ۱۹۳۵، ص ۳۲۸۔

حدیث ۳ — ترمذی و دارمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلم کے مسلم پر چھ حقوق ہیں، معروف کے ساتھ ① جب اس سے ملے تو سلام کرے اور ② جب وہ بلائے اجابت کرے اور ③ جب چھینکے یہ جواب دے اور ④ جب بیمار ہو عیادت کرے اور ⑤ جب وہ مرجائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور ⑥ جو چیز اپنے لیے پسند کرے، اس کے لیے پسند کرے۔“ (1)

حدیث ۵ — صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جنت میں تم نہیں جاؤ گے، جب تک ایمان نہ لاؤ اور تم مومن نہیں ہو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔“ (2)

حدیث ۶ — امام احمد و ترمذی و ابو داؤد، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمتِ الہی کا زیادہ مستحق ہے۔“ (3)

حدیث ۷ — بیہقی نے شعب الایمان میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص پہلے سلام کرتا ہے، وہ تکبر سے بری ہے۔“ (4)

حدیث ۸ — ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے پھر ان دونوں کے درمیان درخت یاد یواریا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے۔“ (5)

حدیث ۹ — ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔“ (6)

حدیث ۱۰ — ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سلام بات چیت کرنے سے پہلے ہے۔“ (7)

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی تشمیت العاطس، الحدیث: ۲۷۴۵، ج ۴، ص ۳۳۸.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون... إلخ، الحدیث: ۹۳- (۵۴)، ص ۴۷.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب السلام، باب فی فضل من بدأ بالسلام، الحدیث: ۵۱۹۷، ج ۴، ص ۴۴۹.

④..... ”شعب الإیمان“، باب فی مقاربة و موادة أهل الدین، الحدیث: ۸۷۸۶، ج ۶، ص ۴۳۳.

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب السلام، باب فی الرجل یفارق الرجل... إلخ، الحدیث: ۵۲۰۰، ج ۴، ص ۴۵۰.

⑥..... ”سنن الترمذی“، کتاب الاستئذان... إلخ، باب ماجاء فی التسلیم إذا دخل بیتہ، الحدیث: ۲۷۰۷، ج ۴، ص ۳۲۰.

⑦..... المرجع السابق، باب ماجاء فی السلام قبل الکلام، الحدیث: ۲۷۰۸، ج ۴، ص ۳۲۱.

حدیث ۱۱ — ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلاؤ، جب تک وہ سلام نہ کر لے۔“ (1)

حدیث ۱۲ — ابن التجار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سوال سے پہلے سلام ہے، جو شخص سلام سے پہلے سوال کرے، اسے جواب نہ دو۔“ (2)

حدیث ۱۳ — ترمذی و ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب کسی مجلس تک کوئی پہنچے تو سلام کرے، پھر اگر وہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائے پھر جب وہاں سے اٹھے سلام کرے، کیونکہ پہلی مرتبہ کا سلام کچھلی مرتبہ کے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔“ (3) یعنی جیسے وہ سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔

حدیث ۱۴ — امام مالک و بیہقی نے شعب الایمان میں طفیل بن ابی بن کعب سے روایت کی، کہ یہ صحیح کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے۔ وہ گھنٹیا چیزوں کے بیچنے والے اور کسی بیچنے والے اور مسکین یا کسی کے سامنے سے گزرتے سب کو سلام کرتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، انھوں نے بازار چلنے کو کہا، میں نے کہا، آپ بازار جا کر کیا کریں گے نہ تو آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ سودے کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا نرخ چکاتے ہیں اور نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں؟ یہیں بیٹھے باتیں کیجیے یعنی حدیثیں سنائیے۔ انھوں نے فرمایا: ”ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جو ملے گا، اسے سلام کریں گے۔“ (4)

حدیث ۱۵ — امام احمد و بیہقی نے شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور یہ عرض کی کہ فلاں شخص کے میرے باغ میں کچھ پھل ہیں، ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے آدمی بھیج کر اسے بلایا اور یہ فرمایا کہ اپنے پھلوں کو بیچ ڈالو۔ اُس نے کہا، نہیں بیچوں گا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ہبہ کر دو۔ اس نے کہا، نہیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اس کو جنت کے پھل کے عوض بیچ دو۔ اس نے کہا، نہیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”تجھ سے بڑھ کر بخیل میں نے نہیں دیکھا، مگر وہ شخص جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔“ (5)

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب الاستئذان... إلخ، باب فی السلام قبل الکلام، الحدیث: ۲۷۰۸، ج ۴، ص ۳۲۱.

②..... ”کنز العمال“، کتاب الصحبہ، رقم: ۲۵۲۸۷، ج ۹، ص ۵۲.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الاستئذان... إلخ، باب فی التسلیم عند القیام... إلخ، الحدیث: ۲۷۱۵، ج ۴، ص ۳۲۴.

④..... ”الموطا“ للإمام مالک، کتاب السلام، باب جامع السلام، الحدیث: ۱۸۴۴، ج ۲، ص ۴۴۴ - ۴۴۵.

⑤..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۴۵۲۴، ج ۵، ص ۷۹.

حدیث ۱۶ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ فرمایا: ”جماعت کہیں سے گزری اور اس میں سے ایک نے سلام کر لیا یہ کافی ہے اور جو لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دے دیا یہ کافی ہے۔“ (1) یعنی سب پر جواب دینا ضروری نہیں۔

حدیث ۱۷ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سوار پیدل کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔“ (2) یعنی ایک طرف زیادہ ہوں اور دوسری طرف کم تو سلام وہ لوگ کریں جو کم ہیں۔ بخاری کی دوسری روایت انھیں سے یہ ہے کہ ”چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔“ (3)

حدیث ۱۸ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے سامنے سے گزرے اور بچوں کو سلام کیا۔ (4)

حدیث ۱۹ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہود و نصاریٰ کو ابتداءً سلام نہ کرو اور جب تم ان سے راستہ میں ملو تو ان کو تنگ راستہ کی طرف مضطر کرو۔“ (5)

حدیث ۲۰ صحیح بخاری و مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مجلس پر گزرے، جس میں مسلمان اور مشرکین بت پرست اور یہود سب ہی تھے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے سلام کیا۔ (6) یعنی مسلمانوں کی نیت سے۔

حدیث ۲۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السام علیک تو تم اس کے جواب میں وعلیک کہو یعنی وعلیک السلام نہ کہو۔“ (7)

سام کے معنی موت ہیں وہ لوگ حقیقۃً سلام نہیں کرتے، بلکہ مسلم کے جلد مر جانے کی دعا کرتے ہیں۔ اسی کی مثل انس

①..... ”شعب الإیمان“، باب فی مقاربتہ وموادۃ اهل الدین، فصل فی سلام الواحد... إلخ، الحدیث: ۸۹۲۲، ج ۶، ص ۴۶۶.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب یسلم الراكب علی الماشی، الحدیث: ۶۲۳۲، ج ۴، ص ۱۶۶.

③..... المرجع السابق، باب تسلیم القلیل علی الكثير، الحدیث: ۶۲۳۱، ج ۴، ص ۱۶۶.

④..... المرجع السابق، باب التسلیم علی الصبیان، الحدیث: ۶۲۴۷، ج ۴، ص ۱۷۰.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب النهی عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام... إلخ، الحدیث: ۱۳- (۲۱۶۷)، ص ۱۱۹۴.

⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب التسلیم فی مجلس فیہ... إلخ، الحدیث: ۶۲۵۴، ج ۴، ص ۱۷۲.

و ”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب السلام، الحدیث: ۴۶۳۹، ج ۳، ص ۵.

⑦..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب کیف الرد علی اهل الذمۃ بالسلام، الحدیث: ۶۲۵۷، ج ۴، ص ۱۷۴.

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، کہ ”اہل کتاب سلام کریں تو ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دو۔“ (1)

حدیث ۲۲ صحیح بخاری و مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)! ہمیں راستہ میں بیٹھنے سے چارہ نہیں، ہم وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب تم نہیں مانتے اور بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستہ کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کی، راستہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ”نظر نیچی رکھنا اور اذیت کو دور کرنا اور سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔“ (2)

دوسری روایت میں ہے اور راستہ بتانا۔ (3) ایک اور روایت میں ہے فریاد کرنے والے کی فریاد سننا اور بھولے ہوئے کو ہدایت کرنا۔ (4)

حدیث ۲۳ شرح سنہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”راستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے، مگر اس کے لیے جو راستہ بتائے اور سلام کا جواب دے اور نظر نیچی رکھے اور بوجھ لادنے پر مدد کرے۔“ (5)

حدیث ۲۴ ترمذی و ابوداؤد نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور السلام علیکم کہا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اسے جواب دیا وہ بیٹھ گیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: اس کے لیے دس یعنی دس نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے جواب دیا وہ بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا: اس کے لیے بیس۔ پھر تیسرا شخص آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو جواب دیا اور یہ بھی بیٹھ گیا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”اس کے لیے تیس۔“ (6) اور معاذ بن انس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی روایت میں ہے، کہ پھر ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”اس کے لیے چالیس۔“ (7) اور فضائل اسی طرح ہوتے ہیں یعنی جتنا کام زیادہ ہوگا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔

- 1..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب کیف الرد علی اهل الذمۃ بالسلام، الحدیث: ۶۲۵۸، ج ۴، ص ۱۷۴.
- 2..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب من حق الجلوس علی الطريق رد السلام، الحدیث: ۳۔ (۲۱۶۱)، ص ۱۱۹۱.
- 3..... ”مسند ابی داؤد“، کتاب الأدب، باب فی الجلوس بالطرق، الحدیث: ۴۸۱۶، ج ۴، ص ۳۳۷.
- 4..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۸۱۷، ج ۴، ص ۳۳۷.
- 5..... ”شرح السنۃ“، کتاب الاستئذان... الخ، باب کراہیۃ الجلوس علی الطرق، الحدیث: ۳۲۳۲، ج ۶، ص ۳۶۵.
- 6..... ”مسند ابی داؤد“، کتاب السلام، باب کیف السلام، الحدیث: ۵۱۹۵، ج ۴، ص ۴۴۹.
- 7..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۱۹۶، ج ۴، ص ۴۴۹.

حدیث ۲۵ — ترمذی میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ہمارے غیر کے ساتھ تشبہ (۱) کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہود و نصاریٰ کے ساتھ تشبہ نہ کرو، یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصاریٰ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔“ (۲)

حدیث ۲۶ — ابو داؤد و ترمذی نے ابو جری دحی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)۔ میں نے دو مرتبہ کہا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”علیک السلام نہ کہو، علیک السلام مردہ کی تحیت ہے، السلام علیک کہا کرو۔“ (۳)

مسائل فقہیہ

سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت و آبرو اور مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے، ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے۔ (۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱ — صرف اسی کو سلام نہ کرے جس کو پہچانتا ہو، بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرے چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ بلکہ بعض صحابہ کرام اسی ارادہ سے بازار جاتے تھے کہ کثرت سے لوگ ملیں گے اور زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔

مسئلہ ۲ — اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے سلام کرنا یا جواب دینا کسی نے کہا جواب دینا افضل ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب۔ بعض نے کہا کہ سلام کرنا افضل ہے کہ اس میں تواضع ہے جواب تو سبھی دے دیتے ہیں مگر سلام کرنے میں بعض مرتبہ بعض لوگ کسر شان (۵) سمجھتے ہیں۔ (۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ — ایک شخص کو سلام کرے تو اس کے لیے بھی لفظ جمع ہونا چاہیے یعنی السَّلَامُ عَلَیْكُمْ کہے اور جواب دینے والا بھی وَعَلَیْكُمْ السَّلَامُ کہے بجائے عَلَیْكُمْ عَلَیْكُمْ نہ کہے اور دو یا دو سے زیادہ کو سلام کرے جب بھی عَلَیْكُمْ کہے اور بہتر یہ ہے کہ سلام میں رحمت و برکت کا بھی ذکر کرے یعنی السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہے اور جواب دینے والا بھی وہی کہے

①..... یعنی مشابہت کرے۔

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الاستئذان... إلخ، باب ماجاء فی کراهیة إشارة الید بالسلام، الحدیث: ۲۷۰، ج ۴، ص ۳۱۹۔

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الاستئذان... إلخ، باب ماجاء فی کراهیة أن یقول... إلخ، الحدیث: ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ج ۴، ص ۳۳۱۔

④..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۲۔

⑤..... یعنی خلاف شان۔

⑥..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراهیة، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۴، ۳۲۵۔

بَرَكَاتُهُ پر سلام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور الفاظ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ جواب میں واؤ ہونا یعنی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہنا بہتر ہے اور اگر صرف عَلَيْكُمْ السَّلَامُ بغیر واؤ کہا یہ بھی ہو سکتا

ہے اور اگر جواب میں اس نے بھی وہی السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہہ دیا تو اس سے بھی جواب ہو جائے گا۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ اگرچہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بھی سلام ہے مگر یہ لفظ شیعوں میں اس طرح جاری ہے کہ اس کے کہنے سے سننے والے

کا ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہوتا ہے، کہ یہ شخص شیعہ ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔

مسئلہ ۶ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بلا عذر تاخیر کی تو گنہگار ہو اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا، بلکہ

توبہ کرنی ہوگی۔⁽³⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ جن لوگوں کو اس نے سلام کیا ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا، بلکہ کسی اور نے جو اس مجلس سے خارج تھا

جواب دیا تو یہ جواب اہل مجلس کی طرف سے نہیں ہوا یعنی وہ لوگ بری الذمہ نہ ہوئے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی اور کسی نے سلام نہ کیا تو سب نے سنت کو ترک کیا، سب پر الزام

ہے⁽⁵⁾ اور اگر ان میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب بری ہو گئے اور افضل یہ ہے کہ سب ہی سلام کریں۔ یوہیں اگر ان میں سے کسی نے

جواب نہ دیا تو سب گنہگار ہوئے اور اگر ایک نے جواب دے دیا تو سب بری ہو گئے اور افضل یہ ہے کہ سب جواب دیں۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ ایک شخص مجلس میں آیا اور اس نے سلام کیا اہل مجلس پر جواب دینا واجب ہے اور دوبارہ پھر سلام کیا تو جواب دینا

واجب نہیں۔ مجلس میں آ کر کسی نے السلام علیک کہا یعنی صیغہ واحد بولا اور کسی ایک شخص نے جواب دے دیا تو جواب ہو گیا خاص اس کو

جواب دینا واجب نہیں جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی شخص کا نام لے کر سلام کیا کہ فلاں صاحب السلام

علیک تو خاص اس شخص کو جواب دینا ہوگا، دوسرے کا جواب اس کے جواب کے قائم مقام نہیں ہوگا۔⁽⁷⁾ (خانہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ اہل مجلس پر سلام کیا ان میں سے کسی نابالغ عاقل نے جواب دے دیا تو یہ جواب کافی ہے اور بڑھیا نے

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۴، ۳۲۵.

②..... المرجع السابق.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۳.

④..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۲.

⑤..... یعنی سب گنہگار ہوں گے۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۵.

⑦..... "الفتاویٰ الخانیۃ"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی التسییح والتسلیم، ج ۲، ص ۳۷۷.

و "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۵.

جواب دیا، یہ جواب بھی ہو گیا۔ جوان عورت یا مجنون یا ناسمجھ بچہ نے جواب دیا، یہ ناکافی ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ سائل نے دروازہ پر آ کر سلام کیا اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ کچھری میں قاضی جب اجلاس کر رہا ہو، اس کو سلام کیا گیا قاضی پر جواب دینا واجب نہیں۔ لوگ کھانا کھا رہے ہوں اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے، ہاں اگر یہ بھوکا ہے اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کر لے۔⁽²⁾ (خانہ، بزازیہ) یہ اس وقت ہے کہ کھانے والے کے مونہ میں لقمہ ہے اور وہ چبارہا ہے کہ اس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے اور ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ عاجز نہیں۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ ایک شخص شہر سے آ رہا ہے دوسرا دیہات سے، دونوں میں کون سلام کرے؟ بعض نے کہا شہری دیہاتی کو سلام کرے اور بعض علما فرماتے ہیں دیہاتی شہری کو سلام کرے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرا یہاں سے گزرا تو یہ گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور سوار پیدل کو سلام کرے اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں، ایک شخص پیچھے سے آیا، یہ آگے والے کو سلام کرے۔⁽⁴⁾ (بزازیہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے اور اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے اور وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔⁽⁵⁾ (خانہ)

مسئلہ ۱۴ جب اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرے بچوں کے سامنے گزرے تو ان بچوں کو سلام کرے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵ کفار کو سلام نہ کرے اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے مگر جواب میں صرف عَلَیْكُمْ کہے اگر ایسی جگہ گزرنا ہو جہاں مسلم و کافر دونوں ہوں تو السَّلَامُ عَلَیْكُمْ کہے اور مسلمانوں پر سلام کا ارادہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ

①..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۳.

②..... "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی التسبیح والتسلیم، ج ۲، ص ۳۷۷.

و "البزازیہ" ہامش علی "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیہ، نوع فی السلام، ج ۶، ص ۳۵۴-۳۵۵.

③..... "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۵.

④..... "البزازیہ" ہامش علی "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیہ، نوع فی السلام، ج ۶، ص ۳۵۵.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیہ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۵.

⑤..... "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی التسبیح... إلخ، ج ۲، ص ۳۷۷.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیہ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۵.

السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰى كَيْفَ - (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ - کافر کو اگر حاجت کی وجہ سے سلام کیا، مثلاً سلام نہ کرنے میں اس سے اندیشہ ہے تو حرج نہیں اور بقصد تعظیم کافر کو ہرگز ہرگز سلام نہ کرے کہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۱۷ - سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت ہے۔ لہذا جو شخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن و تسبیح و درود میں مشغول ہیں یا انتظارِ نماز میں بیٹھے ہیں تو سلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں۔ اسی واسطے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دیں یا نہ دیں۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیں تو آنے والے سلام کریں۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۸ - کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے تو اس کو سلام نہ کرے۔ اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ جمعہ و عیدین کے وقت سلام نہ کرے۔ سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں، دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے، مثلاً عالم وعظ کہہ رہا ہے یا دینی مسئلہ پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں، آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے سلام نہ کرے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۹ - عالم دین تعلیم علم دین میں مشغول ہے، طالب علم آیا تو سلام نہ کرے اور سلام کیا تو اس پر جواب دینا واجب نہیں۔ (5) (عالمگیری) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ پڑھانہ رہا ہو سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ یہ اس کی ملاقات کو نہیں آیا ہے کہ اس کے لیے سلام کرنا مسنون ہو بلکہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، جس طرح قاضی کے پاس جو لوگ اجلاس میں جاتے ہیں وہ ملنے کو نہیں جاتے بلکہ اپنے مقدمہ کے لیے جاتے ہیں۔

مسئلہ ۲۰ - جو شخص ذکر میں مشغول ہو اس کے پاس کوئی شخص آیا تو سلام نہ کرے اور کیا تو ذکر (6) پر جواب واجب نہیں۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۱ - جو شخص پیشاب پاخانہ پھر رہا ہے یا کبوتر اڑا رہا ہے یا گار رہا ہے یا حمام یا غسل خانہ میں ننگا نہا رہا ہے، اس کو

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۵.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۱.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۵.

④..... المرجع السابق، ص ۳۲۵ - ۳۲۶. ⑤..... المرجع السابق، ص ۳۲۶.

⑥..... یعنی ذکر کرنے والا۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۶.

سلام نہ کیا جائے اور اس پر جواب دینا واجب نہیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری) پیشاب کے بعد ڈھیلا لے کر استنجا سکھانے کے لیے ٹہلتے ہیں، یہ بھی اسی حکم میں ہے کہ پیشاب کر رہا ہے۔

مسئلہ ۲۲ جو شخص علانیہ فسق کرتا ہو اسے سلام نہ کرے کسی کے پرس میں فساق رہتے ہیں، مگر ان سے یہ اگر سختی برتا ہے تو وہ اس کو زیادہ پریشان کریں گے اور نرمی کرتا ہے ان سے سلام کلام جاری رکھتا ہے تو وہ ایذا پہنچانے سے باز رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہری طور پر میل جول رکھنے میں یہ معذور ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ جو لوگ شطرنج کھیل رہے ہوں ان کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، جو علماء سلام کرنے کو جائز فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سلام اس مقصد سے کرے کہ اتنی دیر تک کہ وہ جواب دیں گے، کھیل سے باز رہیں گے۔ یہ سلام ان کو معصیت سے بچانے کے لیے ہے، اگرچہ اتنی ہی دیر تک سہی۔ جو فرماتے ہیں کہ سلام کرنا ناجائز ہے ان کا مقصد زجر و توبیخ ہے کہ اس میں ان کی تذلیل ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا اس پر سلام پہنچانا واجب ہے اور جب اس نے سلام پہنچایا تو جواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کو اس کے بعد اس کو جس نے سلام بھیجا ہے یعنی یہ کہے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَام۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے اس کا التزام کر لیا ہو یعنی کہہ دیا ہو کہ ہاں تمہارا سلام کہہ دوں گا کہ اس وقت یہ سلام اس کے پاس امانت ہے جو اس کا حقدار ہے اس کو دینا ہی ہوگا ورنہ یہ بمنزلہ ودیعت ہے کہ اس پر یہ لازم نہیں کہ سلام پہنچانے وہاں جائے۔ اسی طرح حاجیوں سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں میرا سلام عرض کر دینا یہ سلام بھی پہنچانا واجب ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۵ خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے اور یہاں جواب دو طرح ہوتا ہے، ایک یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے۔⁽⁶⁾ (ردالمحتار، مگر چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا تو اگر فوراً تحریری جواب نہ ہو جیسا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا خواہ

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۶.

②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق. ④..... المرجع السابق.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۵.

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۵.

مخوہ کچھ دیر ہوتی ہے تو زبان سے جواب فوراً دے دے، تاکہ تاخیر سے گناہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے علامہ سید احمد طحاوی نے اس جگہ فرمایا: وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ⁽¹⁾ یعنی لوگ اس سے غافل ہیں۔

اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جو السَّلَامُ عَلَیْكُمْ لکھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھتے۔

مَسْئَلَةٌ ۲۶ سلام کی میم کو ساکن کہا یعنی سَلَامٌ عَلَیْكُمْ، جیسا کہ اکثر جاہل اسی طرح کہتے ہیں یا سَلَامٌ عَلَیْكُمْ میم کے پیش کے ساتھ کہا، ان دونوں صورتوں میں جواب واجب نہیں کہ یہ مسنون سلام نہیں۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مَسْئَلَةٌ ۲۷ ابتداء کسی نے یہ کہا عَلَیْكَ السَّلَامُ یا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ، تو اس کا جواب نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ ”یہ مُردوں کی تحیت ہے۔“⁽³⁾

مَسْئَلَةٌ ۲۸ سلام اتنی آواز سے کہے کہ جس کو سلام کیا ہے وہ سن لے اور اگر اتنی آواز نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں، جواب سلام میں بھی اتنی آواز ہو کہ سلام کرنے والا سن لے اور اتنا آہستہ کہا کہ وہ سن نہ سکا تو واجب ساقط نہ ہو اور اگر وہ بہرا ہے تو اس کے سامنے ہونٹ کو جنبش دے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ جواب دے دیا۔ چھینک کے جواب کا بھی یہی حکم ہے۔⁽⁴⁾ (بزازیہ)

مَسْئَلَةٌ ۲۹ انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ ”انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہتھیلی سے اشارہ کرنا نصاریٰ کا۔“⁽⁵⁾

مَسْئَلَةٌ ۳۰ بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض صرف آنکھوں کے اشارہ سے جواب دیتے ہیں یوں جواب نہیں ہوا، ان کو مونہ سے جواب دینا واجب ہے۔

مَسْئَلَةٌ ۳۱ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں، یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے۔

مَسْئَلَةٌ ۳۲ اس زمانہ میں کئی طرح کے سلام لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ ان میں سب سے بُرا یہ ہے جو بعض لوگ

①..... ”حاشیة الطحطاوی“ علی ”الدرالمختار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۴، ص ۲۰۷.

②..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمختار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۶.

③..... ”ردالمختار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۶.

و ”سنن أبي داود“، کتاب السلام، باب کراهیة أن يقول علیک السلام، الحدیث: ۵۲۰۹، ج ۴، ص ۳۵۲.

④..... ”البرزازیة“ هامش علی ”الفتاویٰ الہندیة“، کتاب الکراهیة، نوع فی السلام، ج ۶، ص ۳۵۵.

⑤..... ”سنن الترمذی“، کتاب الإستئذان والآداب، باب فی کراهیة إشارة الید بالسلام، الحدیث: ۲۷۰۴، ج ۴، ص ۳۱۹.

کہتے ہیں بندگی عرض یہ لفظ ہرگز نہ کہا جائے۔ بعض لوگ آداب عرض کہتے ہیں، اگرچہ اس میں اتنی برائی نہیں مگر سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ تسلیم یا تسلیمات عرض کہتے ہیں، اس کو سلام کہا جاسکتا ہے کہ یہ سلام ہی کے معنی میں ہے۔

بعض کہتے ہیں سلام۔ اس کو بھی سلام کہا جاسکتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ جب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾⁽¹⁾ انھوں نے آ کر سلام کہا، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا یعنی اگر کسی نے کہا سلام تو سلام کہہ دینے سے جواب ہو جائے گا۔

بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ خود تو کیا سلام کریں گے، اگر ان کو سلام کیا جاتا ہے تو بگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمیں برابر کا سمجھ لیا ہے، یعنی کوئی غریب آدمی سلام مسنون کرے تو وہ اپنی کسر شان⁽²⁾ سمجھتے ہیں۔

اور بعض یہ چاہتے ہیں کہ انھیں آداب عرض کہا جائے یا جھک کر ہاتھ سے اشارہ کیا جائے اور بعض یہاں تک بے باک ہیں کہ یہ کہتے ہیں، کیا ہمیں دُھنا⁽³⁾ جو لا با⁽⁴⁾ مقرر کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی آنکھیں کھولے۔

مسئلہ ۳۳ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، مثلاً موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، نبی اور فرشتہ کے سوا کسی دوسرے کے نام کے ساتھ یوں نہ کہا جائے۔

مسئلہ ۳۴ اکثر جگہ یہ طریقہ ہے کہ چھوٹا جب بڑے کو سلام کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے جیتے رہو۔ یہ سلام کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ جواب جاہلیت میں کفار دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے حیاک اللہ۔ اسلام نے یہ بتایا کہ جواب میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہا جائے۔

مصافحہ و معافقہ و بوسہ و قیام کا بیان

حدیث ۱ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب دو مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“⁽⁵⁾

اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، ”جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں اور اللہ (عزوجل) کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔“⁽⁶⁾

①.....پ ۱۴، الحجر: ۵۲۔

②.....یعنی اپنی بے عزتی۔ ③.....یعنی روٹی دُھنسنے والا۔ ④.....یعنی کپڑا لٹپنے والا۔

⑤.....”سنن الترمذی“، کتاب الإمتدذان... إلخ، باب ماجاء فی المصافحہ، الحدیث: ۲۷۳۶، ج ۴، ص ۳۳۳۔

⑥.....”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی المصافحہ، الحدیث: ۵۲۱۱، ج ۴، ص ۴۵۳۔

حدیث ۲ بیہقی نے شعب الایمان میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص دوپہر سے پہلے چار رکعتیں (نماز چاشت) پڑھے تو گویا اس نے شب قدر میں پڑھیں اور دو مسلمان مصافحہ کریں تو کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، مگر جھڑ جائے گا۔“ (1)

حدیث ۳ صحیح بخاری میں قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مصافحہ کا دستور تھا؟ کہا: ”ہاں۔“ (2)

حدیث ۴ امام مالک نے عطاء خراسانی سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آپس میں مصافحہ کرو، دل کی کپٹ جاتی رہے گی (3) اور باہم ہدیہ کرو، محبت پیدا ہوگی اور عداوت نکل جائے گی۔“ (4)

حدیث ۵ امام احمد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا (مصافحہ کیا) تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں یہ حق ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوارضائے الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ! تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔“ (5)

حدیث ۶ طبرانی نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے (مصافحہ کرے) تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔“ (6)

حدیث ۷ ابن التجار نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور جو شخص اپنے بھائی کی طرف نظر محبت سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو

①..... ”شعب الایمان“، باب فی مقاربتہ و موادۃ اهل الدین، فصل فی المصافحۃ... إلخ، الحدیث: ۸۹۵۵، ج ۶، ص ۴۷۴.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الإستئذان باب المصافحۃ، الحدیث: ۶۲۶۳، ج ۴، ص ۱۷۷.

③..... یعنی کینہ ختم ہو جائے گا۔

④..... ”الموطأ“ للإمام مالک، کتاب حسن الخلق، باب ما جاء فی المهاجرة، الحدیث: ۱۷۳۱، ج ۲، ص ۴۰۷.

⑤..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحدیث: ۱۲۴۵۴، ۱۲۴۵۶، ج ۴، ص ۲۸۶.

⑥..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۶۱۵۰، ج ۶، ص ۲۵۶.

نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔“ (1)

حدیث ۸ → امام احمد و ترمذی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے اور پوری تحیت یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے۔“ (2)

حدیث ۹ → ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والہ وسلم)! کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے لیے جھک جائے؟ فرمایا: ”نہیں۔“ اس نے کہا، تو

کیا اس سے چپٹ جائے اور بوسہ لے؟ فرمایا: ”نہیں۔“ اس نے کہا، تو کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ فرمایا: ”ہاں۔“ (3)

حدیث ۱۰ → ابو داؤد نے روایت کی، کہ ایک شخص نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم لوگ جب حضور (صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے ملتے تھے تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) تم سے مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: میں نے جب کبھی

ملاقات کی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے مصافحہ کیا۔ ایک دن حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے آدمی بھیجا، میں گھر پر

موجود نہ تھا، جب آیا تو مجھے مطلع کیا گیا میں حاضر ہوا، اس وقت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) تخت پر تھے، مجھے چٹایا تو یہ

خوب ہی اچھا تھا، خوب اچھا۔ (4)

حدیث ۱۱ → صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریاخت کیا، کہ

وہ یہاں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے انہیں گلے لگایا اور وہ بھی چپٹ

گئے۔ پھر فرمایا: ”اے اللہ (عزوجل)! میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ اور اسے محبوب بنا لے جو اسے محبوب رکھے۔“ (5)

حدیث ۱۲ → امام احمد نے یعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑ

کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے انہیں چٹایا اور فرمایا: ”اولادِ بخل

اور بزدلی کا سبب ہوتی ہے۔“ (6)

①..... ”کنز العمال“، کتاب الصحبة، رقم: ۲۵۳۵۸، ج ۹، ص ۵۷.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الإستئذان... إلخ، باب ما جاء في المصافحة، الحدیث: ۲۷۴۰، ج ۴، ص ۳۳۴.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۷۳۷، ج ۴، ص ۳۳۳.

④..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب في المعانقة، الحدیث: ۵۲۱۴، ج ۴، ص ۴۵۳.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الحسن والحسين رضی اللہ عنہما، الحدیث: ۵۷- (۲۴۲۱)، ص ۱۳۱۹.

⑥..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث یعلی بن مرة الثقفی، الحدیث: ۱۷۵۷۳، ج ۶، ص ۱۷۸.

حدیث ۱۳ ترمذی نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں آئے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرے مکان میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کپڑا اگھسیٹتے ہوئے برہنہ یعنی بغیر چادر اوڑھے ہوئے چل دیے۔ واللہ! میں نے کبھی اس کے پہلے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو برہنہ یعنی بغیر چادر اوڑھے کسی کے پاس جاتے نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اس طرح دیکھا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے انھیں گلے لگایا اور بوسہ دیا۔^(۱)

حدیث ۱۴ ابوداؤد نے اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک انصاری شخص جن کی طبیعت میں مزاج تھا، وہ باتیں کر رہے تھے اور لوگوں کو ہنسارہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے ان کی کمر میں کونچا دیا۔ انہوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے عرض کی، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) قمیص پہنے ہوئے ہیں، میرے بدن پر قمیص نہیں ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے قمیص ہٹا دی، وہ چپٹ گئے اور پہلو کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ میرا مقصد یہی تھا۔^(۲) (بدلہ لینا مقصود نہ تھا)

حدیث ۱۵ ابوداؤد و بیہقی نے عامر شعمی سے مرسل روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان سے معانقہ فرمایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔^(۳)

حدیث ۱۶ ابوداؤد نے زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں آیا تھا، یہ بھی اس وفد میں تھے، یہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ میں پہنچے، اپنی منزلوں سے جلدی جلدی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دیتے۔^(۴)

حدیث ۱۷ ابوداؤد نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ان کی طرف کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کو بوسہ دیتے پھر اپنی جگہ بٹھاتے اور جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتیں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا ہاتھ پکڑ لیتیں اور بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔^(۵)

①..... "سنن الترمذی"، کتاب الإستئذان... الخ، باب ما جاء في المعانقة والقبلة، الحدیث: ۲۷۴۱، ج ۴، ص ۳۳۵.

②..... "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في قبلة الجسد، الحدیث: ۵۲۲۴، ج ۴، ص ۴۵۶.

③..... المرجع السابق، باب في قبلة ما بين العينين، الحدیث: ۵۲۲۰، ج ۴، ص ۴۵۵.

④..... المرجع السابق، باب قبلة الرجل، الحدیث: ۵۲۲۵، ج ۴، ص ۴۵۶.

⑤..... المرجع السابق، باب في القيام، الحدیث: ۵۲۱۷، ج ۴، ص ۴۵۴.

حدیث ۱۸ ابو داؤد نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع شروع میں مدینہ میں آئے تھے میں ان کے ساتھ ان کے یہاں گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخار میں لیٹی ہوئی تھیں، حضرت ابو بکر ان کے پاس گئے اور پوچھا بیٹی کیسی ہو اور ان کے رخسارہ پر بوسہ دیا۔^(۱)

حدیث ۱۹ ترمذی نے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ دو یہودی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ کھلی ہوئی ٹونشائیاں کیا ہیں؟ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ① اللہ (عزوجل) کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ② اور چوری نہ کرو۔ ③ اور زنا نہ کرو۔ ④ اور جس جان کو اللہ (عزوجل) نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ ⑤ اور جو جرم سے بری ہو اسے بادشاہ کے پاس قتل کے لیے نہ لے جاؤ۔ ⑥ اور جادو نہ کرو۔ ⑦ اور سود نہ کھاؤ۔ ⑧ اور عقیقہ^(۲) پر زنا کی تہمت نہ دھرو۔ ⑨ اور لڑائی کے دن مونہ پھیر کر نہ بھاگو اور خاص تم یہودی ہفتہ کے متعلق حد سے تجاوز نہ کرو۔“ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ فرمایا تو انھوں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے ہاتھوں اور قدموں کو بوسہ دیا۔^(۳)

حدیث ۲۰ ابو داؤد نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہتے ہیں کہ ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے قریب گئے اور ہاتھ کو بوسہ دیا۔^(۴)

حدیث ۲۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ جب بنی قریظہ^(۵) اپنے قلعہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اترے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور وہ وہاں سے قریب میں تھے۔ جب مسجد کے قریب آ گئے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے انصار سے فرمایا: ”اپنے سردار کے پاس اٹھ کر جاؤ۔“^(۶)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في قبلة الخد، الحديث: ۵۲۲۲، ج ۴، ص ۴۵۵.

②..... پاکدامن عورت۔

③..... ”سنن الترمذی“، كتاب الاستئذان... إلخ، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، الحديث: ۲۷۴۲، ج ۴، ص ۳۳۵.

④..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في قبلة اليد، الحديث: ۵۲۲۳، ج ۴، ص ۴۵۶.

⑤..... یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام ہے۔

⑥..... ”صحیح البخاری“، كتاب الجهاد، باب اذا نزل العدو على حكم رجل، الحديث: ۳۰۴۳، ج ۲، ص ۳۲۲.

و كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب... إلخ، الحديث: ۴۱۲۱، ج ۳، ص ۵۶.

و ”صحیح مسلم“، كتاب الجهاد... إلخ، باب جواز قتال من نقض العهد... إلخ، الحديث: ۶۴- (۱۷۶۸)، ص ۹۷۲.

حدیث ۲۲ بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ہم سے باتیں کرتے جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کھڑے ہوتے ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھ لیتے کہ بعض ازواج مطہرات کے مکان میں تشریف لے گئے۔^(۱)

حدیث ۲۳ ترمذی و ابوداؤد نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔“^(۲)

حدیث ۲۴ ابوداؤد نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگا کر باہر تشریف لائے۔ ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا: ”اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جیسے عجمی کھڑے ہوا کرتے ہیں کہ ان میں کا بعض بعض دوسرے کی تعظیم کیا کرتا ہے۔“^(۳)

یعنی عجمیوں کا کھڑے ہونے میں جو طریقہ ہے وہ قبیح و مذموم ہے، اس طرح کھڑے ہونے کی ممانعت ہے، وہ یہ ہے کہ امر ایشیہ ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بوجہ تعظیم ان کے قریب کھڑے رہتے ہیں۔ دوسری صورت عدم جواز کی وہ ہے کہ وہ خود پسند کرتا ہو کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوا کریں اور کوئی کھڑا نہ ہو تو برامانے جیسا کہ ہندوستان میں اب بھی بہت جگہ رواج ہے کہ امیروں، رئیسوں، زمین داروں کے لیے ان کی رعایا کھڑی ہوتی ہے، نہ کھڑی ہو تو زد و کوب تک نوبت آتی ہے۔ ایسے ہی متکبرین و متحیرین کے متعلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں وعید آئی ہے^(۴) اور اگر ان کی طرف سے یہ نہ ہو بلکہ یہ کھڑا ہونے والا اس کو مستحق تعظیم سمجھ کر ثواب کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا تواضع کے طور پر کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ناجائز نہیں بلکہ مستحب ہے۔

مسئلہ ۱ مصافحہ سنت ہے اور اس کا ثبوت تو اتر سے ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ”جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی، اس کے تمام گناہ گرجائیں گے۔“ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ مطلقاً مصافحہ کا جواز یہ بتاتا ہے کہ نماز فجر و عصر کے بعد جو اکثر جگہ مصافحہ کرنے کا مسلمانوں میں رواج ہے یہ بھی جائز ہے اور بعض کتابوں میں جو اس کو بدعت کہا گیا، اس سے مراد بدعتِ حسنہ ہے۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

①..... ”شعب الایمان“، باب فی مقاربتہ و مواداة اهل الدین، فصل فی قیام المرء... إلخ، الحدیث: ۸۹۳۰، ج ۶، ص ۴۶۷.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ما جاء فی کراهیة قیام الرجل للرجل، الحدیث: ۲۷۶۴، ج ۴، ص ۳۴۷.

③..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الأدب، باب الرجل یقوم للرجل یعظمہ بذلك، الحدیث: ۵۲۳۰، ج ۴، ص ۴۵۸.

④..... انظر: ”سنن أبی داؤد“، کتاب الأدب، باب فی قیام الرجل للرجل، الحدیث: ۵۲۲۹، ج ۴، ص ۴۵۷.

⑤..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر و الإباحة، باب الإستبراء و غیرہ، ج ۹، ص ۶۲۸.

مسئلہ ۲ جس طرح فجر و عصر کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے دوسری نمازوں کے بعد بھی مصافحہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اصل مصافحہ کرنا جائز ہے تو کسی وقت بھی کیا جائے جائز ہی ہے، جب تک شرع مطہر سے ممانعت ثابت نہ ہو۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ مصافحہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ہتھیلی دوسرے کی ہتھیلی سے ملائے، فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ مصافحہ کا ایک طریقہ وہ ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔“^(۳) یعنی ہر ایک کا ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو۔ دوسرا طریقہ جس کو بعض فقہانے بیان کیا اور اس کی نسبت بھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ہر ایک اپنا داہنا ہاتھ دوسرے کے دہنے سے اور بائیں بائیں سے ملائے اور انگوٹھے کو دبائے کہ انگوٹھے میں ایک رگ ہے کہ اس کے پکڑنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔^(۴)

مسئلہ ۵ مصافحہ مسنون یہ ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملیں تو پہلے سلام کیا جائے اس کے بعد مصافحہ کریں۔ رخصت کے وقت بھی عموماً مصافحہ کرتے ہیں، اس کے مسنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری۔ مگر اصل مصافحہ کا جواز^(۵) حدیث سے ثابت ہے تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے گا۔

مسئلہ ۶ معانقہ کرنا^(۶) بھی جائز ہے جبکہ خوف فتنہ اور اندیشہ شہوت نہ ہو۔ چاہیے کہ جس سے معانقہ کیا جائے وہ صرف تہبند یا فقط پا جامہ پہنے ہوئے نہ ہو، بلکہ کرتا یا اچکن بھی پہنے ہو یا چادر اوڑھے ہو یعنی کپڑا حائل ہو۔^(۷) (زیلعی) حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے معانقہ کیا۔^(۸)

مسئلہ ۷ بعد نماز عیدین مسلمانوں میں معانقہ کا رواج ہے اور یہ بھی اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ معانقہ بھی جائز ہے، جبکہ محل فتنہ نہ ہو مثلاً امر دُخو بصورت سے معانقہ کرنا کہ یہ محل فتنہ ہے۔

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۲۸.

②..... المرجع السابق، ص ۶۲۹.

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الاستئذان، باب المصافحة، ج ۴، ص ۱۷۷.

حدیث پاک کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا ”کہ میرا ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔“..... علمہ

④..... انظر ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۲۹.

⑤..... یعنی جائز ہونا۔ ⑥..... یعنی گلے ملنا۔

⑦..... ”تبيين الحقائق“، کتاب الکراهية، فصل في الاستبراء وغیرہ، ج ۷، ص ۵۶.

⑧..... انظر: ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب في قبلة ما بين العينين، الحديث: ۵۲۲۰، ج ۴، ص ۴۵۵.

مسئلہ ۸ بوسہ دینا اگر بشہوت ہو تو ناجائز ہے اور اکرام و تعظیم کے لیے ہو تو ہو سکتا ہے۔ پیشانی پر بوسہ بھی انہیں شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان کو بوسہ دیا۔^(۱) اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی بوسہ دینا ثابت ہے۔

مسئلہ ۹ بعض لوگ مصافحہ کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں یہ مکروہ ہے،^(۲) ایسا نہیں کرنا چاہیے۔^(۳) (زیلعی)

مسئلہ ۱۰ عالم دین اور بادشاہ عادل کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے، بلکہ اس کے قدم چومنا بھی جائز ہے۔ بلکہ اگر کسی نے عالم دین سے یہ خواہش کی کہ آپ اپنا ہاتھ یا قدم مجھے دیجیے کہ میں بوسہ دوں تو اس کے کہنے کے مطابق وہ عالم اپنا ہاتھ پاؤں بوسہ کے لیے اس کی طرف بڑھا سکتا ہے۔^(۴) (در مختار)

مسئلہ ۱۱ عورت نے عورت کے مونہ یا رخسارہ کو بوقت ملاقات یا بوقت رخصت بوسہ دیا، یہ مکروہ ہے۔^(۵) (در مختار)

مسئلہ ۱۲ عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام ہے۔ جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہوا، دونوں گنہگار ہوئے۔^(۶) (زیلعی)

مسئلہ ۱۳ بوسہ کی چھ قسمیں ہیں:

- ① بوسہ رحمت، جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا۔
- ② بوسہ شفقت، جیسے اولاد کا والدین کو بوسہ دینا۔
- ③ بوسہ محبت، جیسے ایک شخص اپنے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دے۔
- ④ بوسہ تحیت، جیسے بوقت ملاقات ایک مسلم دوسرے مسلم کو بوسہ دے۔
- ⑤ بوسہ شہوت، جیسے مرد عورت کو بوسہ دے اور
- ⑥ ایک قسم بوسہ دیانت ہے، جیسے حجر اسود کا بوسہ۔^(۷) (زیلعی)

①..... "سنن ابن ماجہ"، کتاب الحنائن، باب ذکر وفاتہ ودفنہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۶۲۷، ج ۲، ص ۲۸۳.

②..... لیکن اگر حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کسی سے مصافحہ کیا پھر برکت کیلئے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی

ہے۔ (جد الممتار، کتاب الحظر والاباحۃ، باب الاستبراء وغیرہ، (مقولہ: ۴۶۸۳)، ج ۷، ص ۶۵)۔... علمیہ

③..... "تبیین الحقائق"، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الاستبراء وغیرہ، ج ۷، ص ۵۶.

④..... "الدر المختار"، کتاب الحظر والاباحۃ، باب الاستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۳۱.

⑤..... المرجع السابق، ص ۶۳۲.

⑥..... "تبیین الحقائق"، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الاستبراء وغیرہ، ج ۷، ص ۵۶.

⑦..... المرجع السابق.

مسئلہ ۱۳ - مصحف یعنی قرآن مجید کو بوسہ دینا بھی صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصحف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے۔^(۱) (درمختار)

مسئلہ ۱۵ - سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت بطور اکرام کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے اور اگر بقصد عبادت ہو تو سجدہ کرنے والا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ - بادشاہ کو بروجہ تحیت سجدہ کرنا یا اس کے سامنے زمین کو بوسہ دینا کفر نہیں، مگر یہ شخص گنہگار ہو اور اگر عبادت کے طور پر سجدہ کیا تو کفر ہے۔ عالم کے پاس آنے والا بھی اگر زمین کو بوسہ دے، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے، کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گنہگار ہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ - ملاقات کے وقت جھکننا منع ہے۔^(۴) (عالمگیری) یعنی اتنا جھکننا کہ صدر کو ع تک ہو جائے۔

مسئلہ ۱۸ - آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز بلکہ مندوب ہے، جبکہ ایسے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جو مستحق تعظیم ہے، مثلاً عالم دین کی تعظیم کو کھڑا ہونا۔ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص آ گیا جس کی تعظیم کرنی چاہیے تو اس حالت میں بھی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ - جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اس کی یہ بات ناپسند و مذموم ہے۔^(۶) (ردالمحتار) احادیث میں اسی قیام کی مذمت ہے یا اس قیام کو برائیاں کیا گیا ہے۔ جو اعاجم میں مروج ہے کہ سلاطین بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس تعظیم کے طور پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، آنے والے کے لیے کھڑا ہونا اس قیام ممنوع میں داخل نہیں۔ قیام میلاد شریف کی ممانعت پر ان احادیث سے دلیل لانا جہالت ہے۔

مسئلہ ۲۰ - جہاں یہ اندیشہ ہو کہ تعظیم کے لیے اگر کھڑا نہ ہو تو اس کے دل میں بغض و عداوت پیدا ہوگا، خصوصاً ایسی

①....."الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۳۴.

②....."ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۳۲.

③....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن والعشرون فی ملاقات الملوك، ج ۵، ص ۳۶۸ - ۳۶۹.

④.....المرجع السابق، ص ۳۶۹.

⑤....."الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۳۲.

⑥....."ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۳۳.

جگہ جہاں قیام کا رواج ہے تو قیام کرنا چاہیے تاکہ ایک مسلم کو بغض و عداوت سے بچایا جائے۔^(۱) (ردالمحتار)

چھینک اور جمائی کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر یہ حق ہے کہ یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے، اُسے دفع کرے کیونکہ جب جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔“^(۲) یعنی خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے، ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ”جب وہ (با) کہتا ہے شیطان ہنستا ہے۔“^(۳)

حدیث ۲ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی کو چھینک آئے تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہے جب یہ یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہہ لے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ کہے یَهْدِیْکُمْ اللّٰہ وَیُصْلِحْ بِاَلْکُمْ۔“^(۴)

ترمذی اور دارمی کی روایت میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ جب چھینک آئے تو یہ کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَلٰی کُلِّ خَال۔^(۵)

حدیث ۳ طبرانی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی کو چھینک آئے تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہے۔“^(۶)

حدیث ۴ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”جب کسی کو چھینک آئے اور وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں: رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور اگر وہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: رَحِمَکَ اللّٰہ۔“^(۷)

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغیرہ، ج ۹، ص ۶۳۳.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب اذا تناوب فلیضع یدہ علی فیہ، الحدیث: ۶۲۲۶، ج ۴، ص ۱۶۳.

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس و جنوده، الحدیث: ۳۲۸۹، ج ۲، ص ۴۰۲.

و ”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب العطاس والتثاؤب، الحدیث: ۴۷۳۲، ج ۳، ص ۲۴.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب اذا عطس کیف یشمت، الحدیث: ۶۲۲۴، ج ۴، ص ۱۶۲.

⑤..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء کیف یشمت العاطس، الحدیث: ۲۷۵۰، ج ۴، ص ۳۴۰.

⑥..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۰۳۲۶، ج ۱۰، ص ۱۶۲.

⑦..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۲۲۸۴، ج ۱۱، ص ۳۵۸.

حدیث ۵ — ترمذی نے نافع سے روایت کی، کہ ایک شخص کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس چھینک آئی۔ اس نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ۔ ابن عمر نے فرمایا: یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ مگر اس کے کہنے کی یہ جگہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس موقع پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ کہیں۔ (1)

حدیث ۶ — ترمذی و ابو داؤد نے ہلال بن یساف سے روایت کی، کہتے ہیں: ہم سالم بن عبید کے پاس تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ۔ سالم نے کہا: وَعَلَیْکَ وَعَلٰی اُمِّکَ اسے اس کا رنج ہوا۔ (کہ مجھے ایسا جواب کیوں دیا)۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، کہ اس نے کہا: میری ماں کا آپ نے ذکر نہ کیا ہوتا۔ نہ اچھا، نہ برا تو اچھا ہوتا۔ سالم نے کہا: میں نے وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: وَعَلَیْکَ وَعَلٰی اُمِّکَ۔ جب کسی کو چھینک آئے تو کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور جواب دینے والا کہے یُرْحَمُکَ اللّٰہُ اور وہ کہے یَغْفِرُ اللّٰہُ لَیْ وِلَکُمْ۔ (2)

حدیث ۷ — صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں کو چھینک آئی۔ آپ نے ایک کو جواب دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)! حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اُس کو جواب دیا اور مجھے نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا: ”اس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہا اور تو نے نہیں کہا۔“ (3)

حدیث ۸ — صحیح مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ”جب کوئی چھینکے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہے تو اسے جواب دو اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نہ کہے تو اسے جواب مت دو۔“ (4)

حدیث ۹ — صحیح مسلم میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اس کے جواب میں یُرْحَمُکَ اللّٰہِ کہا، پھر دوبارہ چھینک آئی تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”اسے زکام ہو گیا ہے۔“ (5)

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ما یقول العاطس اذا عطس، الحدیث: ۲۷۴۷، ج ۴، ص ۳۳۹.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء کیف یشمت العاطس، الحدیث: ۲۷۴۹، ج ۴، ص ۳۳۹.

و ”سنن ابی داؤد“، کتاب الأدب، باب کیف تشمیت العاطس، الحدیث: ۵۰۳۱، ج ۴، ص ۳۹۹.

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب لا یشمت العاطس اذا لم یحمد اللّٰہ، الحدیث: ۶۲۲۵، ج ۴، ص ۱۶۳.

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزہد... إلخ، باب تشمیت العاطس... إلخ، الحدیث: ۵۴- (۲۹۹۲)، ص ۱۵۹۶.

⑤..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۵- (۲۹۹۳)، ص ۱۵۹۶.

اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ چھینک آئی تب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ایسا فرمایا۔⁽¹⁾ یعنی جب بار بار چھینک آئے تو جواب کی حاجت نہیں۔

حدیث ۱۰ - ترمذی و ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو مونہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپالیتے اور آواز کو پست کرتے۔⁽²⁾

حدیث ۱۱ - صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ جب کسی کو جمائی آئے تو مونہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ شیطان مونہ میں گھس جاتا ہے۔⁽³⁾

حدیث ۱۲ - طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آجائے۔“⁽⁴⁾ اور حکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ ”جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آجائے تو وہ حق ہے۔“⁽⁵⁾ اور ابو نعیم کی روایت انھیں سے ہے، کہ ”دعا کے وقت چھینک آجانا سچا گواہ ہے۔“⁽⁶⁾

حدیث ۱۳ - بیہقی نے شعب الایمان میں عبادہ بن صامت و شداد بن اوس و واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز کو بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔“⁽⁷⁾

مسئلہ ۱ - چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ چھینکنے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے اور اس کا جواب بھی فوراً دینا اور اس طرح جواب دینا کہ وہ سن لے، واجب ہے۔ جس طرح سلام کے جواب میں ہے یہاں بھی ہے۔⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دو بارہ چھینک آئی اور اس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا تو دو بارہ جواب واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری)

①..... "سنن الترمذی"، کتاب الأدب، باب ماجاء کم یشمیت العاطس، الحدیث: ۲۷۵۳، ج ۴، ص ۳۴۲.

②..... المرجع السابق، باب ماجاء فی خفض الصوت... إلخ، الحدیث: ۲۷۵۴، ج ۴، ص ۳۴۳.

③..... "صحیح مسلم"، کتاب الزہد... إلخ، باب تسمیت العاطس... إلخ، الحدیث: ۵۷، (۲۹۹۵)، ص ۱۵۹۷.

④..... "المعجم الأوسط"، باب الحجیم، الحدیث: ۳۳۶۰، ج ۲، ص ۳۰۲.

⑤..... "نوادر الاصول فی احادیث الرسول"، ج ۳، ص ۵.

⑥..... "کنز العمال"، کتاب الصحبہ، رقم: ۲۵۵۲۰، ج ۹، ص ۶۸.

⑦..... "شعب الایمان"، باب فی تسمیت العاطس، فصل فی خفض الصوت بالعطاس، الحدیث: ۹۳۵۵، ج ۷، ص ۳۲.

⑧..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر و الإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۳.

⑨..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۶.

مسئلہ ۳ - جس کو چھینک آئے اسے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہے۔

جب اس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہا تو سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں۔ ایک مجلس میں کئی مرتبہ کسی کو چھینک آئی تو صرف تین بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔⁽¹⁾ (بزازیہ)

مسئلہ ۴ - جس کو چھینک آئے وہ یہ کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ اور اس

کے جواب میں دوسرا شخص یوں کہے یُرْحَمُکَ اللّٰہُ⁽²⁾ پھر چھینکنے والا یہ کہے یَغْفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمْ⁽³⁾ یا یہ کہے یَهْدِیْکُمْ اللّٰہُ وَیُصَلِّحُ بِاَلْکُمْ⁽⁴⁾ اس کے سوا دوسری بات نہ کہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - عورت کو چھینک آئی اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ

وہ نہ سنے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ - خطبہ کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کو جواب نہ دے۔⁽⁷⁾ (خانہ)

مسئلہ ۷ - کافر کو چھینک آئی اور اس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہا تو جواب میں یَهْدِیْکَ اللّٰہُ کہا جائے۔⁽⁸⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی نہ سنے اور جواب دے۔ چھینک کا جواب بعض حاضرین

نے دیدیا تو سب کی طرف سے ہو گیا اور بہتر یہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں۔⁽⁹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - دیوار کے چبھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے۔⁽¹⁰⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ - چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہا تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں اور

①..... "الیزازیہ" ہامش علی "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، نوع فی السلام، ج ۶، ص ۳۵۵.

②..... اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے۔

③..... اللہ عزوجل ہمیں ہدایت دے اور تمہاری مغفرت فرمائے۔

④..... اللہ عزوجل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع فی السلام، ج ۵، ص ۳۲۶.

⑥..... المرجع السابق، ص ۳۲۷.

⑦..... "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی التسبیح والتسلیم، ج ۲، ص ۳۷۷.

⑧..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۴.

⑨..... المرجع السابق.

⑩..... المرجع السابق.

کانوں کے درد اور تخمہ (1) سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ (2) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ چھینک کے وقت سر جھکالے اور منہ چھپالے اور آواز کو پست کرے، چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ (3) (ردالمحتار)

فائدہ: حدیث میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آجانا شاہد عدل ہے۔ (4)

مسئلہ ۱۲ بہت لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں، مثلاً کسی کام کے لیے جارہا ہے اور کسی کو چھینک آگئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا، یہ جہالت ہے کہ بدفالی کوئی چیز نہیں اور ایسی چیز کو بدفالی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا، سخت غلطی ہے۔

خرید و فروخت (5) کا بیان

مسئلہ ۱ جب تک خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہ ہوں کہ کون سی بیع جائز ہے اور کون ناجائز، اس وقت تک تجارت نہ کرے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ انسان کے پاخانہ کا بیع کرنا ممنوع ہے، گو برکاً بیچنا ممنوع نہیں۔ انسان کے پاخانہ میں مٹی یا راکھ مل کر غالب ہو جائے، جیسے کھات میں مٹی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بیع بھی جائز ہے اور اس کو کام میں لانا مثلاً کھیت میں ڈالنا بھی جائز ہے۔ (7) (ہدایہ)

مسئلہ ۳ یہ معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص کی کنیز (8) ہے اور دوسرا شخص اسے بیع کر رہا ہے، یہ بائع (9) کہتا ہے کہ اس نے مجھے بیع کا وکیل کیا ہے یا اس سے میں نے خرید لی ہے یا اس نے مجھے ہبہ کر دی ہے (10) تو اس کو خریدنا اور اس سے واپس کرنا جائز ہے۔ جبکہ وہ شخص ثقہ ہو یا غالب گمان یہ ہو کہ سچ کہتا ہے اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس خبر میں جھوٹا ہے تو اس کے لیے ایسا

①..... یعنی بدبھمی۔

②..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۴۔

و "کنز العمال"، کتاب الصحبة، حرف العین، الحدیث: ۲۵۵۳۹، ۲۵۵۴۰، ج ۹، ص ۷۰۔

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۴۔

④..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۵۔

و "کنز العمال"، کتاب الصحبة، حرف العین، الحدیث: ۲۵۵۱۸، ۲۵۵۱۹، ج ۹، ص ۶۸۔

⑤..... خرید و فروخت کا مفصل بیان حصہ یازدہم میں گزر چکا ہے وہاں سے معلوم کریں۔ ۱۲ منہ

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس والعشرون فی البیع... إلخ، ج ۵، ص ۳۶۳۔

⑦..... "الہدایہ"، کتاب الکراہیۃ، فصل فی البیع، ج ۲، ص ۳۷۵۔

⑧..... لوٹری۔ ⑨..... یعنی بیچنے والا۔ ⑩..... یعنی تحفہ مالک بنا دیا۔

کرنا جائز نہیں اور اگر اس کو خود اس کا علم نہیں کہ یہ فلاں کی ہے، مگر اس بائع ہی نے بتایا کہ یہ فلاں کی ہے اور مجھے اس نے بیع کا وکیل کیا ہے اور وہ بائع ثقہ ہے یا غالب گمان یہ ہے کہ سچ کہتا ہے تو اس کو خریدنا وغیرہ جائز ہے۔⁽¹⁾ (ہدایہ) اسی طرح دوسری اشیاء کے متعلق یہ علم ہے کہ فلاں کی ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ اس نے مجھے بیع کا وکیل کیا ہے یا میں نے خرید لی ہے یا اس نے ہبہ کر دی ہے تو اس کو خریدنا اور اس چیز سے نفع اٹھانا انھیں شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

مسئلہ ۴ جو شخص چیز کو بیع کر رہا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز میرے پاس اس طرح آئی اور مشتری⁽²⁾ کو معلوم ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے تو جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ یہ چیز اس کو یوں ملی ہے، اسے نہ خریدے۔ مشتری کو یہ نہیں معلوم ہے کہ چیز کسی دوسرے شخص کی ہے تو بیچنے والے سے خریدنا جائز ہے کہ اس کے قبضہ میں ہونا اس کی ملک کی دلیل ہے اور اس کا معارض پایا نہیں گیا۔ پھر اس کی کوئی وجہ نہیں کہ خواہ مخواہ دوسرے کی ملک کا تو ہم کیا جائے۔

ہاں اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس جیسے شخص کی نہیں ہو سکتی مثلاً وہ چیز بیش قیمت ہے اور یہ شخص ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کی ہوگی یا جاہل کے پاس کتاب ہے اور اس کے باپ دادا بھی عالم نہ تھے کہ اسے میراث میں ملی ہو تو اس صورت میں اس کی خریداری سے بچنا چاہیے اور اس کے باوجود اس نے خرید ہی لی تو خریدنا جائز ہے، کیونکہ خریدار نے دلیل شرعی پر اعتماد کر کے خریدا ہے یعنی قبضہ کو ملک کی دلیل قرار دیا ہے۔⁽³⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۵ مشترک چیز میں جو اس کا حصہ ہے اسے نہ بیچے جب تک شریک کو مطلع نہ کر دے، اگر وہ شریک خرید لے فبہا ورنہ جس کے ہاتھ چاہے بیچ ڈالے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کو مطلع کرنا مستحب ہے اور بغیر مطلع کیے بیچنا مکروہ ہے یہ مطلب نہیں کہ بغیر اطلاع بیچ ہی نا جائز ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ اگر بازار والے ایسے لوگوں سے مال خریدتے ہیں، جن کا غالب مال حرام ہے اور ان میں سود اور عقوق و فاسدہ جاری ہیں، ان سے خریدنے میں تین صورتیں ہیں۔ جس چیز کے متعلق گمان غالب یہ ہے کہ ظلم کے طور پر کسی کی چیز بازار میں لا کر بیچ گیا، ایسی چیز خریدی نہ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال حرام بعینہ موجود ہے مگر مال حلال میں اس طرح مل گیا کہ جدا کرنا ناممکن ہے، اس طرح مل جانے سے اس کی ملک ہوگئی مگر اس کو بھی خریدنا نہ چاہیے، جب تک بائع اس مالک کو

①..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی البیع، ج ۲، ص ۳۷۵.

②..... یعنی خریدنے والا۔

③..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، فصل فی البیع، ج ۲، ص ۲۷۲.

④..... "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب الخامس والعشرون فی البیع... الخ، ج ۵، ص ۳۶۴.

عوض دے کر راضی نہ کر لے اور اگر خرید ہی لی تو مشتری کی ملک ہو جائے گی اور کراہت رہے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ معلوم ہے کہ جس کو غصب کیا تھا یا چوری وغیرہ کا مال تھا، وہ بعینہ باقی نہ رہا تو دوکان دار سے چیز خریدنی جائز ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - تاجر اپنی تجارت میں اس طرح مشغول نہ ہو کہ فرائض فوت ہو جائیں، بلکہ جب نماز کا وقت آجائے تو تجارت چھوڑ کر نماز کو چلا جائے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ - نجس کپڑے کو بیچ سکتا ہے، مگر جب یہ گمان ہو کہ خریدار اس میں نماز پڑھے گا تو اس کو ظاہر کر دے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ - جتنے میں چیز خریدی، بائع کو اس سے کچھ زیادہ دیا تو جب تک یہ نہ کہدے کہ یہ زیادتی تمہارے لیے حلال ہے یا یہ کہ میں نے تمہیں مالک کر دیا، اس زیادتی کو لینا جائز نہیں۔⁽⁴⁾ (عالمگیری) خریدنے کے بعد بہت سے لوگ روکھ⁽⁵⁾ لیتے ہیں کہ بیع جتنی طے ہوئی ہے، اس سے کچھ زیادہ لیتے ہیں بغیر بائع کی رضامندی کے یہ ناجائز ہے اور روکھ مانگنا بھی نہ چاہیے کہ یہ ایک قسم کا سوال ہے اور بغیر حاجت سوال کی اجازت نہیں۔

مسئلہ ۱۰ - گوشت یا مچھلی یا پھل وغیرہ ایسی چیز جو جلد خراب ہو جانے والی ہے کسی کے ہاتھ بیچی اور مشتری غائب ہو گیا اور بائع کو اندیشہ ہے کہ اس کے انتظار میں چیز خراب ہو جائے گی، ایسی صورت میں اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچ سکتا ہے اور جس کو ایسا معلوم ہے، وہ خرید سکتا ہے۔⁽⁶⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - جو شخص بیمار ہے اس کا باپ یا بیٹا بغیر اس کی اجازت کے ایسی چیزیں خرید سکتا ہے جس کی مریض کو حاجت ہے، مثلاً دوا وغیرہ۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - اچھے، صاف گیہوں میں خاک دھول ملا کر بیچنا ناجائز ہے، اگر چہ وہاں ملانے کی عادت ہو۔⁽⁸⁾ (عالمگیری) اسی طرح دودھ میں پانی ملا کر بیچنا ناجائز ہے۔

مسئلہ ۱۳ - جس جگہ بازار میں روٹی گوشت کا نرخ مقرر ہے کہ اس حساب سے فروخت ہوتی ہے کسی نے خریدی بائع

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس والعشرون فی البیع... إلخ، ج ۵، ص ۳۶۴.

②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس والعشرون فی البیع... إلخ، ج ۵، ص ۳۶۵.

⑤..... یعنی کسی چیز کی خریداری کے بعد تھوڑی سی چیز جو مفت میں لیتے ہیں۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس والعشرون فی البیع... إلخ، ج ۵، ص ۳۶۵.

⑦..... المرجع السابق. ⑧..... المرجع السابق.

نے کم دی مگر خریدار کو اس وقت یہ نہیں معلوم ہوا کہ کم ہے بعد کو معلوم ہوا تو جو کچھ کمی ہے وصول کر سکتا ہے جبکہ مشتری کو بھی نرخ معلوم ہے اور اگر خریدار پر دیسی ہے، وہاں کا نہیں ہے تو روٹی میں جو کمی ہے، وصول کر سکتا ہے۔ گوشت میں جو کمی ہے، وصول نہیں کر سکتا کیونکہ روٹی کا نرخ قریب قریب سب شہروں میں یکساں ہوتا ہے اور گوشت میں یہ بات نہیں۔⁽¹⁾ (زیلعی)

مسئلہ ۱۳ لوہے، پیتل وغیرہ کی انگوٹھی جس کا پہننا مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے، اس کا بیچنا مکروہ ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری) اسی طرح ایفون وغیرہ جس کا کھانا ناجائز ہے، ایسوں کے ہاتھ فروخت کرنا جو کھاتے ہوں ناجائز ہے کہ اس میں گناہ پر اعانت⁽³⁾ ہے۔

مسئلہ ۱۵ مسلمان کا کافر پر دین ہے، اس نے شراب بیچ کر اس کے ثمن سے دین ادا کیا۔ مسلم کے علم میں ہے کہ یہ روپیہ شراب کا ثمن ہے، اس کا لینا جائز ہے کیونکہ کافر کا کافر کے ہاتھ شراب بیچنا جائز ہے اور ثمن میں جو روپیہ اسے ملا، وہ جائز ہے، لہذا مسلم اپنے دین میں لے سکتا ہے اور مسلم نے شراب بیچی تو چونکہ یہ بیچ ناجائز ہے اس کا ثمن بھی ناجائز ہے، اس روپیہ کو دین میں لینا ناجائز ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار) یہی حکم ہر ایسی صورت میں ہے جہاں یہ معلوم ہے کہ یہ مال بعینہ خبیث و حرام ہے تو اس کو لینا ناجائز ہے، مثلاً معلوم ہے کہ چوری یا غصب کا مال ہے۔

مسئلہ ۱۶ رنڈیوں کو ناچ گانے کی جو اجرت ملی ہے یہ بھی خبیث ہے، جس کسی کو دین یا کسی مطالبہ میں دے اس کا لینا ناجائز ہے۔ جس شخص نے ظلم یا رشوت کے طور پر مال حاصل کیا ہو، مرنے کے بعد اس کا مال ورثہ کو نہ لینا چاہیے کہ یہ مال حرام ہے۔ بلکہ ورثہ یہ کریں کہ اگر معلوم ہے کہ یہ مال فلاں کا ہے تو جس سے مورث نے حاصل کیا ہے، اسے واپس دے دیں اور معلوم نہ ہو کہ کس سے لیا ہے تو فقرا پر تصدق کر دیں کہ ایسے مال کا یہی حکم ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷ پنساری کو روپیہ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روپیہ سودے میں کٹا رہے گا یا دیتے وقت یہ شرط نہ ہو کہ سودے میں کٹ جائے گا، مگر معلوم ہے کہ یوہیں کیا جائے گا تو اس طرح روپیہ دینا ممنوع ہے کہ اس قرض سے یہ نفع ہوا کہ اس کے پاس رہنے میں اس کے ضائع ہونے کا احتمال تھا اب یہ احتمال جاتا رہا اور قرض سے نفع اٹھانا، ناجائز ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

①..... "تبیین الحقائق"، کتاب الکراہیۃ، فصل فی البیع، ج ۷، ص ۶۳.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس والعشرون فی البیع... إلخ، ج ۵، ص ۳۶۵.

③..... مدد کرنا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۳۵.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۳۵.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۴۹.

مسئلہ ۱۸ احتکار ممنوع ہے۔ احتکار کے یہ معنی ہیں کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گراں ہونے پر فروخت کرے گا۔ احادیث^(۱) میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔

ایک حدیث میں یہ ہے ”جو چالیس روز تک احتکار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جذام و افلاس میں مبتلا کرے گا۔“^(۲) دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ”وہ اللہ (عزوجل) سے بری اور اللہ (عزوجل) اُس سے بری۔“^(۳) تیسری حدیث میں یہ ہے کہ ”اُس پر اللہ (عزوجل) اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کے نفل قبول کرے گا نہ فرض۔“^(۴)

احتکار انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً اناج اور انگور بادام وغیرہ اور جانوروں کے چارہ میں بھی ہوتا ہے جیسے گھاس، بھوسا۔^(۵) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ احتکار وہیں کہلائے گا جبکہ اس کا غلہ روکنا وہاں والوں کے لیے مضر ہو یعنی اس کی وجہ سے گرانی ہو جائے یا یہ صورت ہو کہ سارا غلہ اسی کے قبضہ میں ہے، اس کے روکنے سے قحط پڑنے کا اندیشہ ہے، دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا۔^(۶) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۰ احتکار کرنے والے کو قاضی یہ حکم دے گا کہ اپنے گھر والوں کے خرچ کے لائق غلہ رکھ لے اور باقی فروخت کر ڈالے، اگر وہ شخص قاضی کے اس حکم کے خلاف کرے یعنی زائد غلہ نہ بیچے تو قاضی اس کو مناسب سزا دے گا اور اس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلہ ہے، قاضی خود بیع کر دے گا کیونکہ ضرر عام سے بچنے کی یہی صورت ہے۔^(۷) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۱ بادشاہ کو رعایا کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو احتکار کرنے والوں سے غلہ لے کر رعایا پر تقسیم کر دے۔ پھر جب ان کے پاس غلہ ہو جائے تو جتنا جتنا لیا ہے، واپس دیدیں۔^(۸) (درمختار)

①..... احتکار کے متعلق چند حدیثیں حصہ یازدہم بیع مکروہ کے بیان میں لکھی جا چکی ہیں۔ ۱۲ منہ

②..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب التجارات، باب الحکرۃ والحلب، الحدیث: ۲۱۵۵، ج ۳، ص ۱۴،

و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۵۷.

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر، الحدیث: ۴۸۸۰، ج ۲، ص ۲۷۰.

④.....

⑤..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۵۶-۶۵۷.

⑥..... ”الهدایۃ“، کتاب الکراہیۃ، فصل فی البیع، ج ۲، ص ۳۷۷.

⑦..... المرجع السابق، ص ۳۷۸.

⑧..... ”الدرالمختار“، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۵۸.

مسئلہ ۲۲ اپنی زمین کا غلہ روک لینا احتکار نہیں۔ ہاں اگر یہ شخص گرانی یا قحط کا منتظر ہے تو اس بری نیت کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور اس صورت میں بھی اگر عام لوگوں کو غلہ کی حاجت ہو اور غلہ دستیاب نہ ہوتا ہو تو قاضی اسے بیع کرنے پر مجبور کرے گا۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳ دوسری جگہ سے غلہ خرید کر لایا، اگر وہاں سے عموماً یہاں غلہ آتا ہے تو اس کا روکنا بھی احتکار ہے اور اگر وہاں سے یہاں غلہ لانے کی عادت جاری نہ ہو تو روکنا احتکار نہیں۔ مگر اس صورت میں بھی بیع ڈالنا مستحب ہے کہ روکنے میں یہاں بھی ایک قسم کی کراہت ہے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴ حاکم کو یہ نہ چاہیے کہ اشیا کا نرخ مقرر کر دے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نرخ گراں ہو گیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نرخ مقرر فرمادیں۔ ارشاد فرمایا: ”نرخ مقرر کرنے والا، جنگی کشادگی کرنے والا، روزی دینے والا اللہ (عزوجل) ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا سے اس حالت میں ملوں کہ کوئی شخص خون یا مال کے معاملہ میں مجھ سے کسی حق کا مطالبہ نہ کرے۔“^(۳)

مسئلہ ۲۵ تاجروں نے اگر چیزوں کا نرخ بہت زیادہ کر دیا ہے اور بغیر نرخ مقرر کیے کام چلتا نظر نہ آتا ہو تو اہل الرائے سے مشورہ لے کر قاضی نرخ مقرر کر سکتا ہے اور مقرر شدہ نرخ کے موافق جو بیع ہوئی یہ بیع جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بیع مکڑہ ہے کیونکہ یہاں بیع پر اکراہ نہیں، قاضی نے اسے بیچنے پر مجبور نہیں کیا۔ اسے اختیار ہے کہ اپنی چیز بیچے یا نہ بیچے، صرف یہ کیا ہے کہ اگر بیچے تو جو نرخ مقرر ہوا ہے، اس سے گراں نہ بیچے۔^(۴) (ہدایہ)

مسئلہ ۲۶ انسان کے کھانے اور جانوروں کے چارہ میں نرخ مقرر کرنا صورت مذکورہ میں جائز ہے اور دوسری چیزوں میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر تاجروں نے بہت زیادہ گراں کر دی ہوں تو ان میں بھی نرخ مقرر کیا جاسکتا ہے۔^(۵) (درمختار)

قرآن مجید پڑھنے کے فضائل

قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے بہت فضائل ہیں۔ اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

- ①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۵۸.
- ②..... المرجع السابق.
- ③..... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في التسعير، الحديث: ۳۴۵۱، ج ۴، ص ۴۷۴.
- ④..... "الهداية"، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ج ۲، ص ۳۷۸.
- ⑤..... "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۶۱.

اس پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبیر، آدمی کو خدا تک پہنچاتا ہے۔
اس موقع پر اس کے متعلق چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ صحیح بخاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں بہتر وہ شخص ہے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔“ (1)

حدیث ۲ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے اور وہاں سے دو اونٹنیاں کوہان والی لائے، اس طرح کہ گناہ اور قطع رحم نہ ہو یعنی جائز طور پر۔ ہم نے عرض کی، کہ یہ بات ہم سب کو پسند ہے۔ فرمایا: ”پھر کیوں نہیں صبح کو مسجد میں جا کر کتاب اللہ کی دو آیتوں کو سیکھتا، کہ یہ دو اونٹیوں سے بہتر ہیں اور تین تین سے بہتر اور چار چار سے بہتر۔“ (2) **وعلى هذا القياس۔**

حدیث ۳ صحیح بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مومن قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا، وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے۔ اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا، وہ اندران کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے، وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا۔“ (3)

حدیث ۴ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بہت لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کو پست کرتا ہے۔“ (4) یعنی جو اس پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں، اُن کے لیے بلندی ہے اور دوسروں کے لیے پستی ہے۔

حدیث ۵ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، وہ کراما کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اُس پر شاق ہے یعنی اُس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اُس کے لیے دوا جبر ہیں۔“ (5)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن وعلمه، الحدیث: ۵۰۲۷، ج ۳، ص ۴۱۰۔

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين... إلخ، باب فضل قراءة القرآن... إلخ، الحدیث: ۲۵۱- (۸۰۳)، ص ۴۰۲۔

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأطعمة، باب ذکر الطعام، الحدیث: ۵۴۲۷، ج ۳، ص ۵۳۵۔

و ”مشكاة المصابيح“، کتاب فضائل القرآن، الحدیث: ۲۱۱۴، ج ۱، ص ۵۸۲،

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين... إلخ، باب فضل من يقوم بالقرآن... إلخ، الحدیث: ۲۶۹- (۸۱۶)، ص ۴۰۸۔

⑤..... المرجع السابق، باب فضل الماهر بالقرآن... إلخ، الحدیث: ۲۴۴- (۷۹۸)، ص ۴۰۰۔

حدیث ۶ شرح سنہ میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک قرآن کہ یہ بندوں کے لیے جھگڑا کرے گا، اس کے لیے ظاہر و باطن ہے اور امانت اور رشتہ پکارے گا کہ جس نے مجھے ملایا، اُسے اللہ (عزوجل) نے مجھے کاٹا، اللہ (عزوجل) اُسے کاٹے گا۔“ (1)

حدیث ۷ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ اور تریل کے ساتھ پڑھ، جس طرح دنیا میں تریل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تیری منزل آخر آیت جو تو پڑھے گا، وہاں ہے۔“ (2)

حدیث ۸ ترمذی و دارمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے جوف میں کچھ قرآن نہیں ہے، وہ ویرانہ مکان کی مثل ہے۔“ (3)

حدیث ۹ ترمذی و دارمی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اُسے میں اُس سے بہتر دوں گا، جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے، جیسی اللہ (عزوجل) کی فضیلت اسکی مخلوق پر ہے۔“ (4)

حدیث ۱۰ ترمذی و دارمی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کلام اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، اُس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف۔“ (5)

حدیث ۱۱ ابو داؤد نے معاذ جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے، اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے۔“ (6)

①..... ”شرح السنة“، کتاب البر والصلۃ، باب ثواب صلۃ الرحم... إلخ، الحدیث: ۳۳۲۷، ج ۶، ص ۴۳۸.

②..... ”سنن أبي داود“، کتاب الوتر، باب كيف يستحب الترتيل في القراءة، الحدیث: ۱۴۶۴، ج ۲، ص ۱۰۴.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب فضائل القرآن، باب: ۱۸، الحدیث: ۲۹۲۲، ج ۴، ص ۴۱۹.

④..... المرجع السابق، باب: ۲۵، الحدیث: ۲۹۳۵، ج ۴، ص ۴۲۵.

⑤..... المرجع السابق، باب ماجاء في من قرأ حرفاً من القرآن... إلخ، الحدیث: ۲۹۱۹، ج ۴، ص ۴۱۷.

⑥..... ”سنن أبي داود“، کتاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، الحدیث: ۱۴۵۳، ج ۲، ص ۱۰۰.

حدیث ۱۲

امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا۔ اس کے گھر والوں میں سے دس شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔“ (1)

حدیث ۱۳

ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قرآن سیکھو اور پڑھو کہ جس نے قرآن سیکھا اور پڑھا اور اس کے ساتھ قیام کیا، اس کی مثال یہ ہے جیسے مشک سے تھیلی بھری ہوئی ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور جس نے سیکھا اور سو گیا یعنی قیام اللیل نہیں کیا، اس کی مثال وہ تھیلی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہے اور اس کا مونہ باندھ دیا گیا ہے۔“ (2)

حدیث ۱۴

بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! اس کی جلا کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا: ”کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔“ (3)

حدیث ۱۵

صحیح بخاری و مسلم میں جناب ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قرآن کو اس وقت تک پڑھو، جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو اور جب دل اُچاٹ ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ۔“ (4) یعنی تلاوت بند کر دو۔

حدیث ۱۶

صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ (عزوجل) کو جتنی توجہ اس نبی کی طرف ہے جو خوش آوازی سے قرآن پڑھتا ہے، کسی کی طرف اتنی توجہ نہیں۔“ (5)

حدیث ۱۷

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص قرآن کو تقنی یعنی خوش آوازی سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔“ (6) اس حدیث کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقنی سے مراد استغنا ہے یعنی قرآن پڑھنے کے عوض میں کسی سے کچھ لینا نہ چاہیے۔

①.....”سنن الترمذی“، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل قارئ القرآن، الحدیث: ۲۹۱۴، ج ۴ ص ۴۱۴۔

و”سنن ابن ماجہ“، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن... إلخ، الحدیث: ۲۱۶، ج ۱ ص ۱۴۱۔

②.....”سنن الترمذی“، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل سورة البقرة... إلخ، الحدیث: ۲۸۸۵، ج ۴ ص ۴۰۱۔

③.....”شعب الایمان“، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی ادمان تلاوته، الحدیث: ۲۰۱۴، ج ۲ ص ۳۵۲-۳۵۳۔

④.....”صحیح البخاری“، کتاب فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن... إلخ، الحدیث: ۵۰۶۱، ج ۳ ص ۳۱۹۔

⑤.....”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ ولا تنفع الشفاعة... إلخ، الحدیث: ۷۴۸۲، ج ۴ ص ۵۶۹۔

⑥.....المرجع السابق، باب قول اللہ تعالیٰ واسرؤا قولکم او اجہروا... إلخ، الحدیث: ۷۵۲۷، ج ۴ ص ۵۸۶۔

حدیث ۱۸ امام احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و دارمی نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔“ (1) اور دارمی کی روایت میں ہے کہ ”اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھادیتی ہے۔“ (2)

حدیث ۱۹ بیہقی نے عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے قرآن والو! قرآن کو تکیہ نہ بناؤ یعنی سستی اور تغافل نہ برتو اور رات اور دن میں اسکی تلاوت کرو جیسا تلاوت کا حق ہے اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو یعنی اچھی آواز سے پڑھو یا اس کا معاوضہ نہ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے غور کرو، تاکہ تم کو فلاح ملے، اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔“ (3) (جو آخرت میں ملنے والا ہے)

حدیث ۲۰ ابوداؤد و بیہقی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ اعرابی اور عجمی بھی تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قرآن پڑھو! تم سب اچھے ہو، بعد میں قومیں آئیں گی جو قرآن کو اس طرح سیدھا کریں گی جیسا تیر سیدھا ہوتا ہے، اس کا بدلہ جلدی لینا چاہیں گے، دیر میں لینا نہیں چاہیں گے۔“ (4) یعنی دنیا میں بدلہ لینا چاہیں گے۔

حدیث ۲۱ بیہقی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قرآن کو عرب کے لحن اور آواز سے پڑھو، اہل عشق اور یہود و نصاریٰ کے لحن سے بچو یعنی قواعد موسیقی کے مطابق گانے سے بچو اور میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو ترجیع کے ساتھ پڑھے گی، جیسے گانے اور نوحہ میں ترجیع ہوتی ہے، قرآن ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا، ان کے دل فتنہ میں مبتلا ہیں اور ان کے بھی جن کو ان کی یہ بات پسند ہے۔“ (5)

حدیث ۲۲ ابوسعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں: میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا۔ (جب نماز سے فارغ ہوا) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی

①.....”سنن الدارمی“، کتاب فضائل القرآن، باب التغنی بالقرآن، الحدیث: ۳۵۰۰، ج ۲، ص ۵۶۵.

②.....المرجع السابق، الحدیث: ۳۵۰۱، ج ۲، ص ۵۶۵.

③.....”شعب الإیمان“، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی إیمان تلاوتہ، الحدیث: ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ج ۲، ص ۳۵۱، ۳۵۰.

④.....”سنن أبي داود“، کتاب الصلاة، باب ما یجزئ الامی والاعجمی من القراءة، الحدیث: ۸۳۰، ج ۱، ص ۳۱۷.

⑤.....”شعب الإیمان“، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی ترک التعمق فیہ، الحدیث: ۲۶۴۹، ج ۲، ص ۵۴۰.

و”مرفاة المفاتیح“، کتاب فضائل القرآن، الحدیث: ۲۲۰۷، ج ۴، ص ۷۰۶.

خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)! میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے ﴿إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ (1) اللہ ورسول (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے پاس حاضر ہو جاؤ، جب وہ تمہیں بلائیں۔

پھر فرمایا: مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن میں جو سب سے بڑی سورت ہے، وہ بتا دوں گا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جب نکلنے کا ارادہ ہوا۔ میں نے عرض کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے یہ فرمایا تھا کہ ”مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت کی تعلیم کروں گا۔ فرمایا کہ ﴿أَلْحَسْبُ لِلَّهِ الْعَلِيمِينَ﴾ وہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے، جو مجھے ملا ہے۔“ (2)

حدیث ۲۳ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ نماز میں تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے اُمّ القرآن یعنی سورت فاتحہ کو پڑھا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! نہ اس کی مثل تورات میں کوئی سورت اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا۔“ (3)

حدیث ۲۴ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ (4) (دارمی، بیہقی)

حدیث ۲۵ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں: جبرئیل علیہ السلام حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں حاضر تھے۔ اوپر سے ایک آواز آئی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ اترا، جبرئیل علیہ السلام نے کہا: یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے سلام کیا اور یہ کہا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو بشارت ہو کہ دوؤں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو دیے گئے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ دوؤں پر یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا خاتمہ، جو حرف آپ پڑھیں گے وہ دیا جائے گا۔ (5)

حدیث ۲۶ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

①..... پ ۹، الأنفال: ۲۴.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب التفسیر، باب ماجاء فی فاتحة الكتاب، الحدیث: ۴۴۷۴، ج ۳، ص ۱۶۳.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل فاتحة الكتاب، الحدیث: ۲۸۸۴، ج ۴، ص ۴۰۰.

④..... ”سنن الدارمی“، کتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، الحدیث: ۳۳۷۰، ج ۲، ص ۵۳۸.

و ”شعب الإيمان“، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی فضائل السور والآیات، الحدیث: ۲۳۶۷، ج ۲، ص ۴۵۰.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين... إلخ، باب فضل الفاتحة... إلخ، الحدیث: ۲۵۴- (۸۰۶)، ص ۴۰۳.

”اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔“ (1)

حدیث ۲۷ صحیح مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ ”قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ دو چمک دار سورتیں بقرہ و آل عمران کو پڑھو کہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو ابر ہیں یا دو سائبان ہیں یا صدف بستہ پرندوں کی دو جماعتیں، وہ دونوں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی یعنی ان کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور اہل باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔“ (2)

حدیث ۲۸ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ابوالمنذر (یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے) تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟“ میں نے کہا اللہ ورسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اعلم ہیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: اے ابوالمنذر تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت تمہارے پاس سب میں بڑی ہے۔ میں نے عرض کی، ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْقَيُّومُ﴾ (یعنی آیۃ الکرسی)۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: ”ابوالمنذر تم کو علم مبارک ہو۔“ (3)

حدیث ۲۹ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکاۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت مجھے سپرد فرمائی تھی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تجھے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج عیال دار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ابو ہریرہ! تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)! اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا: وہ تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔

میں نے سمجھ لیا وہ پھر آئے گا، کیونکہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرما دیا ہے۔ میں اس کے انتظار میں تھا وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين... إلخ، باب إستجاب صلاة النافلة... إلخ، الحدیث: ۲۱۲- (۷۸۰)، ص ۳۹۳.

②..... المرجع السابق، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، الحدیث: ۲۵۲- (۸۰۴)، ص ۴۰۳.

③..... المرجع السابق، باب فضل سورة الكهف... إلخ، الحدیث: ۲۵۸- (۸۱۰)، ص ۴۰۴.

نے فرمایا: ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے حاجت شدیدہ اور عیال داری کی شکایت کی، مجھے رحم آیا، اسے چھوڑ دیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: وہ تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔

میں اس کے انتظار میں تھا وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے پکڑا اور کہا: تجھے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے پاس پیش کروں گا تین مرتبہ ہو چکا تو کہتا ہے نہیں آئے گا پھر آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ (عزوجل) تم کو نفع دے گا، جب تم بچھونے پر جاؤ آیت الکرسی ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ آخر آیت تک پڑھ لو، صبح تک اللہ (عزوجل) کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے کہا چند کلمات تم کو سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: یہ بات اس نے سچ کہی اور وہ بڑا جھوٹا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔⁽¹⁾

حدیث ۳۰ صحیح بخاری و مسلم میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو شخص رات میں پڑھ لے، وہ اس کے لیے کافی ہیں۔“⁽²⁾

حدیث ۳۱ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس میں سے دو آیتیں جو سورہ بقرہ کے ختم پر ہیں، نازل فرمائیں۔ جس گھر میں تین راتوں تک پڑھی جائیں، شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔“⁽³⁾ (ترمذی و دارمی)

حدیث ۳۲ سورہ بقرہ کے خاتمہ کی دو آیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانہ میں سے ہیں، جو عرش کے نیچے ہے اللہ (عزوجل) نے مجھے یہ دونوں آیتیں دیں انھیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ وہ رحمت ہیں اور اللہ (عزوجل) سے نزدیکی اور دعا ہیں۔⁽⁴⁾ (دارمی)

حدیث ۳۳ صحیح مسلم میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں جو شخص یاد کرے، وہ وہ جہاں سے محفوظ رہے گا۔“⁽⁵⁾

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الوکالۃ، باب إذا وکل رجلاً... إلخ، الحدیث: ۲۳۱۱، ج ۲، ص ۸۲.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب المغازی، الحدیث: ۴۰۰۸، ج ۳، ص ۲۱.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی آخر سورة البقرة، الحدیث: ۲۸۹۱، ج ۴، ص ۴۰.

④..... ”سنن الدارمی“، کتاب فضائل القرآن، باب فضل اول سورة البقرة وآية الكرسي، الحدیث: ۳۳۹۰، ج ۲، ص ۵۴۲.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين... إلخ، باب فضل سورة الكهف... إلخ، الحدیث: ۲۵۷- (۸۰۹)، ص ۴۰۴.

- ۳۳ حدیث جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا، اس کے لیے دو جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا۔⁽¹⁾ (بیہقی)
- ۳۵ حدیث ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل **لیس** ہے، جس نے **لیس** پڑھی دس مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔⁽²⁾ (ترمذی و دارمی)
- ۳۶ حدیث اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے **طلہ و لیس** پڑھا، جب فرشتوں نے سنا، یہ کہا: مبارک ہو، اس امت کے لیے جس پر یہ اتارا جائے اور مبارک ہو، ان جو فوں کے لیے جو اس کے حامل ہوں اور مبارک ہو، ان زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھیں۔⁽³⁾ (دارمی)
- ۳۷ حدیث جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے **لیس** پڑھے گا، اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔⁽⁴⁾ (بیہقی)
- ۳۸ حدیث جو شخص **حَمَّ الْمُؤْمِنِينَ** کو ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ تک اور آیتہ الکرسی صبح کو پڑھ لے گا، شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لے گا، صبح تک محفوظ رہے گا۔⁽⁵⁾ (ترمذی و دارمی)
- ۳۹ حدیث جو شخص **حَمَّ الدُّخَانِ** شب جمعہ میں پڑھے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔⁽⁶⁾ (ترمذی)
- ۴۰ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک **الْحَمْدُ تَنْزِيلٌ** اور **تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ** نہ پڑھ لیتے سوتے نہ تھے۔⁽⁷⁾ (احمد، ترمذی، دارمی)
- ۴۱ حدیث خالد بن معدان نے کہا، نجات دینے والی سورت کو پڑھو وہ **الْحَمْدُ تَنْزِيلٌ** ہے۔ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص اس کو پڑھتا تھا اس کے سوا کچھ نہیں پڑھتا تھا اور وہ بہت گنہگار تھا، اس سورت نے اپنا بازو اس پر بچھا دیا اور کہا اے رب! اس کی مغفرت فرما دے کہ یہ مجھ کو کثرت سے پڑھتا تھا۔ رب تعالیٰ نے اس کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا کہ ”اس کی ہر خطا کے بدلے میں ایک نیکی لکھو اور ایک درجہ بلند کرو۔“

- ①..... "السنن الكبرى" للبيهقي، كتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة... إلخ، الحديث: ۵۹۹۶، ج ۳، ص ۳۵۳.
- ②..... "سنن الترمذی"، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة لیس، الحديث: ۲۸۹۶، ج ۴، ص ۴۰۶.
- ③..... "سنن الدارمی"، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة طلہ و لیس، الحديث: ۳۴۱۴، ج ۲، ص ۵۴۷-۵۴۸.
- ④..... "شعب الإيمان"، باب في تعظيم القرآن، فصل في فضائل السور.. إلخ، الحديث: ۲۴۵۸، ج ۲، ص ۴۷۹.
- ⑤..... "سنن الترمذی"، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي، الحديث: ۲۸۸۸، ج ۴، ص ۴۰۲.
- ⑥..... المرجع السابق، باب ما جاء في فضل حَمَّ الدُّخَانِ، الحديث: ۲۸۹۸، ج ۴، ص ۴۰۷.
- ⑦..... المرجع السابق، باب ما جاء في فضل سورة الملك الحديث: ۲۹۰۱، ج ۴، ص ۴۰۸.

اور خالد نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرے گی، کہے گی الہی! اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت قبول فرما اور تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو اس میں سے مجھے مٹا دے۔ اور وہ پرند کی طرح اپنے بازو اس پر بچھا دے گی اور شفاعت کرے گی اور عذابِ قبر سے بچائے گی۔

اور خالد نے تبارک کے متعلق بھی ایسا ہی کہا اور جب تک ان دونوں کو پڑھ نہ لیتے خالد سوتے نہ تھے اور طاؤس نے کہا کہ یہ دونوں سورتیں قرآن کی ہر ایک سورۃ پر ساٹھ حسنہ کے ساتھ فضیلت رکھتی ہیں۔⁽¹⁾ (دارمی)

حدیث ۳۲ قرآن میں تیس آیت کی ایک سورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ **تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمَلِكُ** ہے۔⁽²⁾ (احمد و ترمذی و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ)

حدیث ۳۳ بعض صحابہ نے قبر پر خیمہ گاڑ دیا انھیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اس میں کسی شخص نے **تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمَلِكُ** ختم سورۃ تک پڑھا، جب انھوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ مانع ہے، وہ منجی ہے، عذاب الہی سے نجات دیتی ہے۔“⁽³⁾ (ترمذی)

حدیث ۳۴ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحب زادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر رات میں اس کو پڑھا کریں۔⁽⁴⁾ (بیہقی)

حدیث ۳۵ کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز ایک ہزار آیتیں پڑھا کرو، لوگوں نے عرض کی اس کی کون استطاعت رکھتا ہے کہ ہر روز ہزار آیتیں پڑھا کرے؟ فرمایا: کیا اس کی استطاعت نہیں کہ **أَلْهَكُمُ الشَّكْرُ** پڑھ لیا کرو۔⁽⁵⁾ (بیہقی)

حدیث ۳۶ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کی، تہائی قرآن کیونکر کوئی پڑھ لے گا؟ فرمایا کہ **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** تہائی کی برابر ہے۔⁽⁶⁾ (بخاری، مسلم)

①.....”سنن الدارمی“، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل سورۃ تنزیل السجدۃ و تبارک، الحدیث: ۳۴۰۸، ۳۴۱۰، ۳۴۱۲، ج ۲، ص ۵۴۶-۵۴۷.

②.....”سنن الترمذی“، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل سورۃ الملک، الحدیث: ۲۹۰۰، ج ۴، ص ۴۰۸.

③.....المرجع السابق، باب ماجاء فی فضل سورۃ الملک، الحدیث: ۲۸۹۹، ج ۴، ص ۴۰۷.

④.....”شعب الإیمان“، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی فضائل السور والآیات، الحدیث: ۲۴۹۹، ج ۲، ص ۴۹۱-۴۹۲.

⑤.....المرجع السابق، الحدیث: ۲۵۱۸، ج ۲، ص ۴۹۸.

⑥.....”صحیح مسلم“، کتاب صلاة المسافرين... إلخ، باب فضل قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ... إلخ، الحدیث: ۲۵۹- (۸۱۱)، ص ۴۰۵.

پڑھ کر آدمیوں سے سوال کریں گے۔⁽¹⁾ (احمد، ترمذی)

حدیث ۵۴ جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے کھانا مانگے گا، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرہ پر

گوشت نہ ہوگا، نری ہڈیاں ہوں گی۔⁽²⁾ (بیہقی)

حدیث ۵۵ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مصحف لکھنے کی اجرت سے سوال ہوا۔ انھوں نے فرمایا: اس میں

حرج نہیں، وہ لوگ نقش بناتے ہیں اور اپنی دست کاری سے کھاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک قسم کی دست کاری ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز ہے۔⁽³⁾ (رزین)

قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے مسائل حصہ سوم میں مذکور ہو چکے ہیں وہاں سے معلوم کیے جائیں۔ مصحف شریف کے متعلق بعض باتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

قرآن مجید اور کتابوں کے آداب

مسئلہ ۱ قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ اس سے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اس میں

اعراب و نقطے لگانا بھی مستحسن ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اکثر لوگ اسے صحیح نہ پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح آیت سجدہ پر سجدہ لکھنا اور وقف کی علامتیں لکھنا اور رکوع کی علامت لکھنا اور تعشیر یعنی دس دس آیتوں پر نشان لگانا جائز ہے۔ اسی طرح سورتوں کے نام لکھنا اور یہ لکھنا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں یہ بھی جائز ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

اس زمانہ میں قرآن مجید کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے اگر ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ طبع کرنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے مگر تمہا ترجمہ طبع نہ کیا جائے۔

مسئلہ ۲ تاریخ کے اوراق قرآن مجید کی جلد یا تفسیر و فقہ کی کتابوں پر بطور غلاف چڑھانا جائز ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار)

مسئلہ ۳ قرآن مجید کی کتابت نہایت خوش خط اور واضح حروف میں کی جائے، کاغذ بھی بہت اچھا، روشنائی بھی

①..... "سنن الترمذی"، کتاب فضائل القرآن، باب من قرأ القرآن فليسأل الله به... إلخ، الحدیث: ۲۹۲۶، ج ۴، ص ۴۲۱.

②..... "شعب الإيمان"، باب في تعظيم القرآن، فصل في ترك قراءة القرآن في المساجد والأسواق ليعطى ويستأكل به، الحدیث: ۲۶۲۵، ج ۲، ص ۵۳۲ - ۵۳۳.

③..... "مشكاة المصابيح"، کتاب البيوع، باب الكسب و طلب الحلال، الحدیث: ۲۷۸۲، ج ۲، ص ۱۳۳.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۳۶.

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۳۷.

خوب اچھی ہو کہ دیکھنے والے کو بھلا معلوم ہو۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار) بعض اہل مطالع⁽²⁾ نہایت معمولی کاغذ پر بہت خراب کتابت و روشنائی سے چھپواتے ہیں یہ ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

مسئلہ ۳ قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔⁽³⁾ (درمختار) مثلاً آج کل بعض اہل مطالع نے تعویذی قرآن مجید چھپوائے ہیں جن کا قلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ حائل⁽⁴⁾ بھی نہ چھپوائی جائے کہ اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے۔

مسئلہ ۵ قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے، تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ لغت و نحو صرف کا ایک مرتبہ ہے، ان میں ہر ایک کی کتاب کو دوسرے کی کتاب پر رکھ سکتے ہیں اور ان سے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں ان کے اوپر فقہ اور احادیث و مواعظ و دعوات ماثورہ⁽⁶⁾ فقہ سے اوپر اور تفسیر کو ان کے اوپر اور قرآن مجید کو سب کے اوپر رکھیں۔ قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے۔⁽⁷⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔⁽⁸⁾ (خانہ)

مسئلہ ۸ قرآن مجید پر اگر بقصد توہین پاؤں رکھا کافر ہو جائے گا۔⁽⁹⁾ (عالمگیری)

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۳۷.

②..... یعنی چھاپنے والے۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۳۷.

④..... یعنی چھوٹے سائز کا قرآن جسے گلے میں لٹکاتے ہیں۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس في آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۳.

⑥..... دعوات ماثورہ: یعنی قرآن و حدیث سے منقول دعائیں ماثورہ کہلاتی ہیں۔

⑦..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس في آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۳ - ۳۲۴.

⑧..... "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في آداب المسجد، ج ۲، ص ۳۷۸.

⑨..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس في آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۲.

مسئلہ ۹ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو، اس میں بی بی سے صحبت کرنا جائز ہے جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہو۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اذان کہنے میں خوش گلوئی سے کام لے یعنی اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، لہٰذا کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی مراعات کرے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ قرآن مجید کو معروف و شاذ دونوں قراءتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا مکروہ ہے تو فقط قراءت شاذہ کے ساتھ پڑھنا بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار) بلکہ عوام کے سامنے وہی قراءت پڑھی جائے جو وہاں رائج ہے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے انکار کر بیٹھیں۔

مسئلہ ۱۲ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے یہ ادب کی بات ہے۔ مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا، اس کی اصل نہیں ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہو۔

مسئلہ ۱۳ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلانے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔

مسئلہ ۱۴ قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانہ سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔

مسئلہ ۱۵ نئے قلم کا تراشہ ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں مگر مستعمل قلم کا تراشہ احتیاط کی جگہ میں رکھا جائے پھینکا نہ جائے۔ اسی طرح مسجد کا گھاس کوڑا موضع احتیاط^(۴) میں ڈالا جائے ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کے خلاف ہو۔^(۵) (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... الخ، ج ۵، ص ۳۲۲.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۴.

③..... المرجع السابق، ص ۶۹۵.

④..... یعنی احتیاط کی جگہ۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... الخ، ج ۵، ص ۳۲۴.

مسئلہ ۱۶ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے اور تھیلی پر اسمائے الہی لکھے ہوں اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پونچھنا مکروہ ہے۔^(۱) (عالمگیری)

آداب مسجد^(۲) و قبلہ

مسجد کو چونے اور گچ سے منقش کرنا جائز ہے، سونے چاندی کے پانی سے نقش و نگار کرنا بھی جائز ہے جبکہ کوئی شخص اپنے مال سے ایسا کرے مال وقف سے ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ متولی مسجد نے اگر مال وقف سے سونے چاندی کا نقش کرایا تو اسے تاوان دینا ہوگا، ہاں اگر بانی مسجد نے نقش کرایا تھا جو خراب ہو گیا تو متولی مسجد مال مسجد سے بھی نقش و نگار کر سکتا ہے۔ بعض مشائخ دیوار قبلہ میں نقش و نگار کرنے کو مکروہ بتاتے ہیں، کہ نمازی کا دل ادھر متوجہ ہوگا۔^(۳) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱ مسجد کی دیواروں میں گچ اور پلاستر کرنا جائز ہے کہ اس کی وجہ سے عمارت محفوظ رہے گی۔ مسجد میں پلاستر کرانے یا قلعی^(۴) یا کہگل^(۵) کرانے میں ناپاک پانی استعمال نہ کیا جائے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ مسجد میں درس دینا جائز ہے اگرچہ بوقت درس مسجد کی جانمازوں اور چٹائیوں کو استعمال کرتا ہو۔ مسجد میں کھانا کھانا اور سونا معتکف کو جائز ہے غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا یا سونا چاہتا ہو تو وہ بہ نیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو اور ذکر کرے یا نماز پڑھے اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے۔^(۷) (عالمگیری)

ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ یہ رواج ہے کہ ماہ رمضان میں عام طور پر مسجد میں روزہ افطار کرتے ہیں، اگر خارج مسجد کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں افطار کریں جب تو مسجد میں افطار نہ کریں۔ ورنہ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں اب افطار کرنے میں حرج نہیں، مگر اس بات کا اب بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ مسجد کا فرش یا چٹائیاں آلودہ نہ کریں۔

مسئلہ ۳ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مثلاً مسجد کے دو دروازے ہیں اور اس کو کہیں جانا ہے آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازہ سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے۔ ایسا نہ کرے اگر کوئی شخص اس نیت سے گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۲.

②..... مسجد کے متعلق مسائل حصہ سوم میں مفصل ذکر کیے گئے ہیں، کچھ باتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ۱۲ منہ

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۳۶.

④..... یعنی سفیدی۔ ⑤..... یعنی مٹی کی لپائی۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۱۹.

⑦..... المرجع السابق، ص ۳۲۰، ۳۲۱.

دوسرے سے نکل جائے گا، اندر جانے کے بعد اپنے اس فعل پر نام ہو تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ شخص پہلے نماز پڑھے پھر نکلے اور بعض نے فرمایا کہ اگر بے وضو ہے تو جس دروازہ سے گیا ہے، اسی سے نکلے مسجد میں جوتے پہن کر جانا مکروہ ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - جامع مسجد میں تعویذ بیچنا، ناجائز ہے جیسا کہ تعویذ والے کیا کرتے ہیں کہ اس تعویذ کا یہ ہدیہ ہے اتنا دو اور تعویذ لے جاؤ۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - مسجد میں عقد نکاح کرنا مستحب ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری) مگر یہ ضرور ہے کہ بوقت نکاح شور و غل اور ایسی باتیں جو احترام مسجد کے خلاف ہیں نہ ہونے پائیں، لہذا اگر معلوم ہو کہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رہے گا تو مسجد میں نکاح نہ پڑھوائیں۔

مسئلہ ۶ - جس کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو وہ مسجد میں نہ جائے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے۔

- ① جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے بشرطیکہ جو لوگ وہاں موجود ہیں، ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ۔
- ② وقت مکروہ نہ ہو تو دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے۔
- ③ خرید و فروخت نہ کرے۔
- ④ تنگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے۔
- ⑤ گئی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے۔
- ⑥ ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے۔
- ⑦ دنیا کی باتیں نہ کرے۔
- ⑧ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔
- ⑨ جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے۔
- ⑩ اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو۔
- ⑪ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۱۔

②.....المرجع السابق۔

③.....المرجع السابق۔

④.....المرجع السابق۔

۱۲) مسجد میں تھوک کھنکار نہ ڈالے۔

۱۳) انگلیاں نہ چٹکائے۔

۱۴) نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے۔

۱۵) ذکر الہی کی کثرت کرے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مسجد میں جگہ تنگ ہوگئی تو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کہہ سکتا ہے کہ سرک جاؤ نماز پڑھنے کی جگہ دے دو۔ اگرچہ وہ شخص ذکر و درس یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا معتکف ہو۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ مسجد کے سائل کو دینا منع ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہیں۔ مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، یہ جائز کلام کے متعلق ہے ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ نماز پڑھنے کے بعد مصلے کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، مگر بعض لوگ جانماز کا صرف کونا لوٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا یہ بے اصل ہے۔

مسئلہ ۱۱ مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے، گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر مسجد میں تنگی ہو نمازیوں کی کثرت ہو تو چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں^(۴)، جیسا کہ بمبئی اور کلکتہ میں مسجد کی تنگی کی وجہ سے چھت پر بھی جماعت ہوتی ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ طالب علم نے مسجد کی چٹائی کا تنکا نشانی کے لیے کتاب میں رکھ لیا یہ معاف ہے۔^(۵) (عالمگیری) اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی چٹائی سے تنکا توڑ کر نشانی بنائے، کہ اس طرح بار بار کرنے سے چٹائی خراب ہو جائے گی۔

مسئلہ ۱۳ قبلہ کی جانب ہدف یعنی نشانہ بنا کر اس پر تیر مارنا یا اس پر گولی مارنا مکروہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف چاند ماری کرنا مکروہ ہے۔^(۶) (ردالمحتار)

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۱.

②..... المرجع السابق، ص ۳۲۲.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۸، ۶۹۰.

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۲.

⑤..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد... إلخ، ج ۵، ص ۳۲۲.

⑥..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۶.

عیادت و علاج کا بیان

عیادت کے فضائل کے متعلق چند احادیث حصہ چہارم کتاب الجنائز میں ذکر کی گئی ہیں۔ علاج کے متعلق کچھ حدیثیں یہاں لکھی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری۔“ (1)

حدیث ۲ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب بیماری کو دوا پہنچ جائے گی، اللہ (عزوجل) کے حکم سے اچھا ہو جائے گا۔“ (2)

حدیث ۳ امام احمد و ترمذی و ابوداؤد نے اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہم دوا کریں؟ فرمایا: ”ہاں اے اللہ (عزوجل) کے بندو! دوا کرو، کیونکہ اللہ (عزوجل) نے بیماری نہیں رکھی مگر اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، سو ایک بیماری کے وہ بڑھا پاپ ہے۔“ (3)

حدیث ۴ ابوداؤد نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیماری اور دوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی، پس تم دوا کرو مگر حرام سے دوامت کرو۔“ (4)

حدیث ۵ امام احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوا خبیث سے ممانعت فرمائی۔“ (5)

حدیث ۶ ترمذی و ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔“ (6)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الطب، باب ما أنزل اللہ داء الانزل له شفاء، الحدیث: ۵۶۷۸، ج ۴، ص ۱۶.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب لكل داء دواء... إلخ، الحدیث: ۶۹۔ (۲۲۰۴)، ص ۱۲۱۰.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الطب، باب الرجل يتداوى، الحدیث: ۳۸۵۵، ج ۴، ص ۵.

و ”سنن الترمذی“، کتاب الطب، باب ماجاء في الدواء... إلخ، الحدیث: ۲۰۴۵، ج ۴، ص ۴.

④..... ”سنن أبي داود“، کتاب الطب، باب في الادوية المكروهة، الحدیث: ۳۸۷۴، ج ۴، ص ۱۰.

⑤..... المرجع السابق، الحدیث: ۳۸۷۰، ج ۴، ص ۹.

⑥..... ”سنن الترمذی“، کتاب الطب، باب ماجاء لا تکرهوا مرضا کم علی الطعام والشرب، الحدیث: ۲۰۴۷، ج ۴، ص ۵.

حدیث ۷ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مریض کھانے کی خواہش کرے تو اسے کھلا دو۔“ (1) یہ حکم اس وقت ہے کہ کھانے کا اشتہائے صادق ہو۔ (2)

حدیث ۸ ابوداؤد نے أم منذر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے یہاں تشریف لائے۔ حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو نقاہت تھی یعنی بیماری سے ابھی اچھے ہوئے تھے، مکان میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ان میں سے کھجوریں تناول فرمائیں۔ حضرت علی نے کھانا چاہا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تم نقیہ ہو۔ کہتی ہیں کہ جو اور چقندر پکا کر حاضر لائی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت علی سے فرمایا: ”اس میں سے لو کہ یہ تمہارے لیے نافع ہے۔“ (3) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مریض کو پرہیز کرنا چاہیے جو چیزیں اس کے لیے مضر (4) ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔

حدیث ۹ امام احمد و ترمذی و ابوداؤد نے عمران بن حصین اور ابن ماجہ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جھاڑ پھونک نہیں مگر نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے۔“ (5) یعنی ان دونوں میں زیادہ مفید ہے۔

حدیث ۱۰ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، انھوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اولادِ جعفر کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے، کیا جھاڑ پھونک کراؤں؟ فرمایا: ”ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی۔“ (6)

حدیث ۱۱ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے۔“ (7)

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الطب، باب المریض یشتهي الشئ، الحدیث: ۳۴۴۰، ج ۴، ص ۸۹.

②..... یعنی کھانے کی سچی خواہش ہو۔

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الطب، باب في الحمية، الحدیث: ۳۸۵۶، ج ۴، ص ۵.

④..... نقصان دو۔

⑤..... ”سنن الترمذی“، کتاب الطب، باب ماجاء في الرخصة في ذلك، الحدیث: ۲۰۶۴، ج ۴، ص ۱۲.

⑥..... المرجع السابق، باب ماجاء في الرقية من العين، الحدیث: ۲۰۶۶، ج ۴، ص ۱۳.

⑦..... ”صحیح البخاری“، کتاب الطب، باب رقية العين، الحدیث: ۵۷۳۸، ج ۴، ص ۳۱.

حدیث ۱۲ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس کے چہرہ میں زردی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے جھاڑ پھونک کراؤ، کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔“ (1)

حدیث ۱۳ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا۔ عمرو بن حزم کے گھر والوں نے حاضر ہو کر یہ کہا، کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے جھاڑنے کو منع فرمایا اور ہمارے پاس بچھوکا جھاڑ ہے اور اس کو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے سامنے پیش کیا۔ ارشاد فرمایا: ”اس میں کچھ حرج نہیں جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے، نفع پہنچائے۔“ (2)

حدیث ۱۴ صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم جاہلیت میں جھاڑا کرتے تھے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) حضور کا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ ”میرے سامنے پیش کرو، جھاڑ پھونک میں حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔“ (3)

حدیث ۱۵ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عدوی نہیں، یعنی مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں ہے اور نہ بدقالی ہے اور نہ ہامہ (4) ہے، نہ صفر (5) اور مجذوم سے بھاگو، جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔“ (6)

دوسری روایت میں ہے، کہ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح (صاف ستھرا) ہوتا ہے اور خارشٹی اونٹ (7) جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے بھی خارشٹی کر دیتا ہے؟ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”پہلے کو کس نے مرض لگا دیا۔“ (8) یعنی جس طرح پہلا اونٹ

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الطب، باب رقیۃ العین، الحدیث: ۵۷۳۹، ج ۴، ص ۳۱۔

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب السلام، باب إستحباب الرقیۃ من العین... إلخ، الحدیث: ۶۳۔ (۲۱۹۹)، ص ۱۲۰۷۔

③..... المرجع السابق، باب لا بأس بالرقی مالم یکن فیہ شرک، الحدیث: ۶۴۔ (۲۲۰۰)، ص ۱۲۰۸۔

④..... ہامہ سے مراد اُلو ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس کے متعلق مختلف قسم کے خیالات رکھتے تھے اور اب بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔

جو کچھ بھی ہو حدیث نے اس کے متعلق یہ ہدایت کی ہے کہ اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ ۱۲ منہ

⑤..... ماہ صفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، حدیث میں فرمایا: یہ کوئی چیز نہیں۔ ۱۲ منہ

⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب الطب، باب الحذام، الحدیث: ۵۷۰۷، ج ۴، ص ۲۴۔

⑦..... یعنی وہ اونٹ جسے خارشٹی ہو۔

⑧..... ”صحیح البخاری“، کتاب الطب، باب لا صفر... إلخ، الحدیث: ۵۷۱۷، ج ۴، ص ۲۶۔

خارشتی ہو گیا دوسرا بھی ہو گیا۔

مرض کا متعدی ہونا (1) غلط ہے اور مجزوم سے بھاگنے کا حکم سد ذرائع (2) کے قبیل سے ہے، کہ اگر اس سے میل جول میں دوسرے کو جذام پیدا ہو جائے تو یہ خیال ہوگا کہ میل جول سے پیدا ہوا، اس خیالِ فاسد (3) سے بچنے کے لیے یہ حکم ہوا کہ اس سے علیحدہ رہو۔

حدیث ۱۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بدفالی کوئی چیز نہیں اور فال اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی، فال کیا چیز ہے؟ فرمایا: ”اچھا کلمہ جو کسی سے سنے۔“ (4) یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان سے اگر اچھا کلمہ نکل گیا، یہ فال حسن ہے۔

حدیث ۱۷ ابوداؤد و ترمذی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طیرہ (بدفالی) شرک ہے۔ اس کو تین مرتبہ فرمایا (یعنی مشرکین کا طریقہ ہے)۔ جو کوئی ہم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو، وہ اللہ (عزوجل) پر توکل کر کے چلا جائے۔“ (5)

حدیث ۱۸ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو پسند تھی کہ یار اشد، یا نجیح سنیں۔“ (6) یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ان ناموں کے ساتھ کسی کو پکارتا یہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو اچھا معلوم ہوتا کہ یہ کامیابی اور فلاح کی فال نیک ہے۔

حدیث ۱۹ ابوداؤد نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی (7) نہیں لیتے، جب کسی عامل کو بھیجتے اس کا نام دریافت کرتے اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرہ میں ظاہر ہوتے اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو اس کے آثار حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے چہرہ میں دکھائی دیتے اور جب کسی بستی میں جاتے اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرہ میں دکھائی دیتے اور ناپسند ہوتا تو کراہیت کے آثار چہرہ میں دکھائی دیتے۔ (8)

①..... یعنی ایک کا مرض دوسرے کو لگنا۔ ②..... یعنی ذرائع روکنے۔ ③..... یعنی بُرے خیال۔

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الطب، باب الطیرة، الحدیث: ۵۷۵۴، ج ۴، ص ۳۶۔

⑤..... ”سنن أبي داود“، کتاب الطب، باب في الطیرة، الحدیث: ۳۹۱۰، ج ۴، ص ۲۳۔

⑥..... ”سنن الترمذی“، کتاب السیر، باب ماجاء في الطیرة، الحدیث: ۱۶۲۲، ج ۳، ص ۲۸۸۔

⑦..... بدفالی۔

⑧..... ”سنن أبي داود“، کتاب الطب، باب في الطیرة، الحدیث: ۳۹۲۰، ج ۴، ص ۲۵۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ناموں سے آپ بدشگوننی لیتے بلکہ یہ کہ اچھے نام حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو پسند تھے اور برے نام ناپسند تھے۔

حدیث ۲۰ ابو داؤد نے عروہ بن عامر سے مرسل روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بدشگوننی کا ذکر ہوا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: قال اچھی چیز ہے اور براشگون کسی مسلم کو واپس نہ کرے یعنی کہیں جا رہا تھا اور براشگون ہوا تو واپس نہ آئے، چلا جائے جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے یعنی براشگون پائے تو یہ کہے۔
اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (1)

حدیث ۲۱ صحیح بخاری و مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے، تو وہاں نہ جاؤ اور جب وہاں ہو جائے جہاں تم ہو، تو وہاں سے نہ نکلو۔“ (2)

حدیث ۲۲ صحیح مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طاعون عذاب کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا، جب سنو کہ کہیں ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب وہاں ہو جائے جہاں تم ہو تو بھاگو مت۔“ (3)

حدیث ۲۳ امام احمد و بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طاعون عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے۔ اس کو اللہ (عزوجل) نے مومنین کے لیے رحمت کر دیا۔ جہاں طاعون واقع ہو اور اس شہر میں جو شخص صبر کر کے اور طلبِ ثواب کے لیے ٹھہرا رہے اور یہ یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ (عزوجل) نے لکھ دیا ہے، اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔“ (4)

حدیث ۲۴ امام بخاری و مسلم و احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ (5) سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طاعون ہر مسلم کے لیے شہادت ہے۔“ (6)

①.....”سنن أبي داود“، كتاب الطب، باب في الطيرة، الحديث: ۳۹۱۹، ج ۴، ص ۲۵.

②.....”صحيح البخاري“، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، الحديث: ۵۷۲۸، ج ۴، ص ۲۸.

③.....”صحيح مسلم“، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة... إلخ، الحديث: ۹۳- (۲۲۱۸)، ص ۱۲۱۵.

④.....”صحيح البخاري“، كتاب القدر، الحديث: ۶۶۱۹، ج ۴، ص ۲۷۸.

⑤..... ہمیں یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بجائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی اسی لیے متن میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بجائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا ہے۔... علمہ

⑥.....”صحيح البخاري“، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، الحديث: ۵۷۳۲، ج ۴، ص ۳۰.

مسئلہ ۱ - مریض کی عیادت کرنا (۱) سنت ہے، اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گراں گزرے گا ایسی حالت میں عیادت نہ کرے۔ عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے اور نہ سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی (۲) معلوم ہوں، اس کی مزاج پر سی کرے اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے۔ فاسق کی عیادت بھی جائز ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے۔ یہودی یا نصرانی اگر ذمی (۳) ہو تو اس کی عیادت بھی جائز ہے۔ (۴) (درمختار، ردالمحتار)

مجوسی کی عیادت کو جائے یا نہ جائے اس میں علما کو اختلاف ہے یعنی جبکہ یہ ذمی ہو۔ (۵) (عنایہ) ہنود مجوس کے حکم میں ہیں، ان کے احکام وہی ہیں جو مجوسیوں کے ہیں، اہل کتاب جیسے ان کے احکام نہیں۔ ہندوستان کے یہودی، نصرانی، مجوسی، بت پرست ان میں کوئی بھی ذمی نہیں۔

مسئلہ ۲ - دوا علاج کرنا جائز ہے جبکہ یہ اعتقاد (۶) ہو کہ شافی (۷) اللہ (عزوجل) ہے، اس نے دوا کو ازالہ مرض (۸) کے لیے سبب بنا دیا ہے اور اگر دوا ہی کو شفا دینے والا سمجھتا ہو تو ناجائز ہے۔ (۹) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - انسان کے کسی جز کو دوا کے طور پر استعمال کرنا حرام ہے۔ خنزیر کے بال یا ہڈی یا کسی جز کو دوا استعمال کرنا حرام ہے۔ دوسرے جانوروں کی ہڈیاں دوا میں استعمال کی جاسکتی ہیں بشرطیکہ ذبیحہ کی ہڈیاں ہوں یا خشک ہوں کہ اس میں رطوبت باقی نہ ہو۔ ہڈیاں اگر ایسی دوا میں ڈالی گئی ہوں جو کھائی جائے گی تو یہ ضروری ہے کہ ایسے جانور کی ہڈی ہو جس کا کھانا حلال ہے اور ذبح بھی کر دیا ہو، مردار کی ہڈی کھانے میں استعمال نہیں کی جاسکتی۔ (۱۰) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا ناجائز ہے، کہ حدیث میں ارشاد فرمایا: ”جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی ہے۔“ (۱۱) بعض کتب میں یہ مذکور ہے کہ اگر اس چیز کے متعلق یہ علم ہو کہ اسی میں شفا

۱..... بیمار پر سی کرنا۔ ۲..... اچھی۔ ۳..... وہ غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں مطیع الاسلام ہو کر رہے اور جزیہ ادا کرے۔

۴..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۳۹، ۶۴۰۔

۵..... ”العیانہ“ علی ”فتح القدر“، کتاب الکراہیۃ، مسائل متفرقہ، ج ۸، ص ۴۹۷۔

۶..... عقیدہ، یقین۔ ۷..... صحت یا شفا دینے والا۔ ۸..... یعنی مرض کو دور کرنے۔

۹..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن عشر فی التداوی، ج ۵، ص ۳۵۴۔

۱۰..... المرجع السابق۔

۱۱..... انظر: ”المعجم الكبير“ للطبرانی، الحدیث: ۷۴۹، ج ۲۳، ص ۳۲۶۔

ہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں اس کا حاصل بھی وہی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی نسبت ہرگز یہ یقین نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اس سے مرض زائل ہی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ظن اور گمان ہو سکتا ہے نہ کہ علم و یقین، خود علم طب کے قواعد و اصول ہی ظنی ہیں لہذا یقین حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں، یہاں ویسا یقین بھی نہیں ہو سکتا جیسا بھوکے کو حرام لقمہ کھانے سے یا پیاسے کو شراب پینے سے جان بچ جانے میں ہوتا ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

انگریزی دوائیں بکثرت ایسی ہیں جن میں اسپرٹ اور شراب کی آمیزش ہوتی ہے ایسی دوائیں ہرگز استعمال نہ کی جائیں۔

مسئلہ ۵ بیماری کے متعلق طبیب نے یہ کہا کہ خون کا غلبہ ہے، فصد وغیرہ کے ذریعہ سے خون نکالا جائے۔ مریض نے ایسا نہ کیا اور مر گیا تو اس علاج کے نہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ اس علاج سے شفا ہو ہی جائے گی۔⁽²⁾ (خانہ)

مسئلہ ۶ دست آتے ہیں یا آنکھیں دکھتی ہیں یا کوئی دوسری بیماری ہے اس میں علاج نہیں کیا اور مر گیا گنہگار نہیں ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری) یعنی علاج کرنا ضروری نہیں کہ اگر دوا نہ کرے اور مر جائے تو گنہگار ہو۔ اور بھوک پیاس میں کھانے پینے کی چیز دستیاب ہو اور نہ کھائے پے یہاں تک کہ مر جائے تو گنہگار ہے، کہ یہاں یقیناً معلوم ہے کہ کھانے پینے سے وہ بات جاتی رہے گی۔

مسئلہ ۷ عورت کو حمل ہے تو جب تک شکم میں بچہ حرکت نہ کرے نہ فصد کھلوائے، نہ چھپنے لگوائے اور بچہ حرکت کرنے لگے تو فصد وغیرہ کرا سکتی ہے، مگر جب ولادت کا زمانہ قریب آجائے تو نہ کرائے کیونکہ بچہ کو ضرر پہنچ جانے کا اندیشہ ہے، ہاں اگر فصد نہ کرانے میں خود عورت ہی کو سخت نقصان پہنچے گا تو کرا سکتی ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ مہینہ کی پہلی سے پندرہ تاریخوں تک چھپنے نہ لگوائے جائیں، پندرہویں کے بعد چھپنے کرائیں خصوصاً ہفتہ کا دن اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ شراب سے خارجی علاج بھی ناجائز ہے مثلاً زخم میں شراب لگائی یا کسی جانور کو زخم ہے اس پر شراب لگائی

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۴۱.

②..... "الفتاوی الخانیة"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۲، ص ۳۶۵.

③..... "الفتاوی الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب الثامن عشر فی التداوی، ج ۵، ص ۳۵۵.

④..... المرجع السابق.

⑤..... المرجع السابق.

یا بچہ کے علاج میں شراب کا استعمال، ان سب میں وہ گنہگار ہوگا جس نے اس کو استعمال کرایا۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ انگلی میں ایک قسم کا پھوڑا نکلتا ہے اور اس کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے کہ جانور کا پتہ اس انگلی میں باندھ دیا

جاتا ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ بعض اورام⁽³⁾ میں آنا گوندھ کر باندھا جاتا ہے یا لٹی پکا کر⁽⁴⁾ باندھتے ہیں یا کچی پکی روٹی باندھتے ہیں

یہ جائز ہے۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ علاج کے لیے حقنہ کرنے یعنی عمل دینے میں حرج نہیں جبکہ حقنہ ایسی چیز کا نہ ہو جو حرام ہے مثلاً

شراب۔⁽⁶⁾ (ہدایہ)

مسئلہ ۱۳ بعض امراض میں مریض کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے، تاکہ گوشت کاٹا جاسکے یا ہڈی وغیرہ کو جوڑا جاسکے یا زخم

میں ٹانکے لگائے جائیں، اس ضرورت سے دوا سے بے ہوش کرنا جائز ہے۔⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۴ حقنہ دینے میں بعض مرتبہ اس جگہ کی طرف نظر کرنے یا چھونے کی نوبت آتی ہے، بوجہ ضرورت ایسا کرنا

جائز ہے۔⁽⁸⁾ (زیلعی)

مسئلہ ۱۵ اسقاط حمل کے لیے دوا استعمال کرنا یا داکئی سے حمل ساقط کرنا منع ہے۔ بچہ کی صورت بنی ہو یا نہ بنی ہو

دونوں کا ایک حکم ہے، ہاں اگر عذر ہو مثلاً عورت کے شیر خوار بچہ ہے اور باپ کے پاس اتنا نہیں کہ دایہ مقرر کرے یا دایہ دستیاب

نہیں ہوتی اور حمل سے دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو اس مجبوری سے حمل ساقط کیا جاسکتا ہے،

بشرطیکہ اس کے اعضا نہ بنے ہوں اور اس کی مدت ایک سو بیس دن ہے۔⁽⁹⁾ (ردالمحتار)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن عشر فی التداوی، ج ۵، ص ۳۵۵.

②..... المرجع السابق.

③..... ورم کی جمع، سوجن۔

④..... یعنی گھلا ہوا آنا جو آگ پر پکا کر گاڑھا گیا ہو۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثامن عشر فی التداوی، ج ۵، ص ۳۵۶.

⑥..... "الہدایۃ"، کتاب الکراہیۃ، مسائل متفرقہ، ج ۲، ص ۳۸۱.

⑦.....

⑧..... "تبیین الحقائق"، کتاب الکراہیۃ، فصل فی النظر واللمس، ج ۹، ص ۴۰.

⑨..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۸، ۷۰۹.

لہو و لعب کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَدْرِ عَلِيمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١﴾

”اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ (عزوجل) کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔“

حدیث ۱ → ترمذی و ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے، سب باطل ہیں مگر کمان سے تیر چلانا اور گھوڑے کو ادب دینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعبت کہ یہ تینوں حق ہیں۔“ (2)

حدیث ۲ → امام احمد و مسلم و ابوداؤد و ابن ماجہ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے زرد شیر کھیلنا گویا سوڑ کے گوشت و خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔“ (3)

دوسری روایت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ ”اس نے اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی نافرمانی کی۔“ (4)

حدیث ۳ → امام احمد نے ابو عبد الرحمن خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص زرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سوڑ کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔“ (5)

حدیث ۴ → دیلمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اصحاب شاہ جہنم میں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے بادشاہ کو مار ڈالا۔“ (6) اس سے مراد شطرنج کھیلنے والے ہیں جو بادشاہ پر شہ دیا کرتے ہیں اور مات کرتے ہیں۔

①..... پ ۲۱، لقمن: ۶.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب فضائل الجہاد، باب ماجاء فی فضل الرمی فی سبیل اللہ، الحدیث: ۱۶۴۳، ج ۳، ص ۲۳۸.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب الشعر، باب تحریم اللعب بالنرد شیر، الحدیث: ۱۰- (۲۲۶۰)، ص ۱۲۴۰.

④..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی النهی عن اللعب بالنرد، الحدیث: ۴۹۳۸، ج ۴، ص ۳۷۱.

⑤..... ”المسند للإمام أحمد بن حنبل“، احادیث رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۳۱۹۹، ج ۹، ص ۵۰.

⑥..... ”کنز العمال“، کتاب اللہو... إلخ، رقم: ۴۰۶۴۷، ج ۱۵، ص ۹۵.

حدیث ۵ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں، شطرنج عجمیوں کا جو ہے۔ اور ابن شہاب نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ شطرنج نہیں کھیلے گا مگر خطا کار۔ اور انھیں سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ باطل سے ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو دوست نہیں رکھتا۔⁽¹⁾

حدیث ۶ ابو داؤد ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے اور ابن ماجہ نے انس و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتری کے پیچھے بھاگتے دیکھا، فرمایا: ”شیطانہ کے پیچھے پیچھے شیطان جا رہا ہے۔“⁽²⁾

حدیث ۷ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوپایوں کو لڑانے سے منع فرمایا۔“⁽³⁾

حدیث ۸ بزار نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نغمہ کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔“⁽⁴⁾

حدیث ۹ بیہقی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”گانے سے دل میں نفاق اوگتا ہے، جس طرح پانی سے کھیتی اُگتی ہے۔“⁽⁵⁾

حدیث ۱۰ طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گانے سے اور گانا سننے سے اور غیبت سے اور غیبت سننے سے اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا۔“⁽⁶⁾

حدیث ۱۱ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے شراب اور جو اور کوبہ (ڈھول) حرام کیا اور فرمایا: ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔“⁽⁷⁾

حدیث ۱۲ ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: میں گڑیاں کھیلا کرتی تھی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے وقت تشریف لاتے کہ لڑکیاں میرے پاس ہوتیں۔ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لاتے لڑکیاں چلی جاتیں اور جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) چلے جاتے لڑکیاں آ جاتیں۔⁽⁸⁾

①..... ”شعب الإیمان“، باب فی تحریم الملاعب والملاھی، الحدیث: ۶۵۱۸، ج ۵، ص ۲۴۱.

②..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی اللعب بالحمام، الحدیث: ۴۹۴۰، ج ۴، ص ۳۷۱.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الجہاد، باب ماجاء فی کراہیۃ التحریش بین البہائم... إلخ، الحدیث: ۱۷۱۴، ج ۳، ص ۲۷۱.

④..... ”مجمع الزوائد“، کتاب الجنائز، باب فی النوح، الحدیث: ۴۰۱۷، ج ۳، ص ۱۰۰.

⑤..... ”شعب الإیمان“، باب فی حفظ اللسان، فصل فی حفظ اللسان عن الغناء، الحدیث: ۵۱۰۰، ج ۴، ص ۲۷۹.

⑥..... ”کنز العمال“، کتاب اللہو... إلخ، رقم: ۴۰۶۵۵، ج ۱۵، ص ۹۵.

⑦..... ”تاریخ بغداد“، الرقم: ۴۳۳۷، الحکم بن مروان، ج ۸، ص ۲۲۱.

⑧..... ”السنن الكبرى“ للبيهقي، کتاب الشهادات، باب ما يدل علی رد شهادة... إلخ، الحدیث: ۲۰۹۴۳، ج ۱۰، ص ۳۶۰.

⑧..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب اللعب بالبنات، الحدیث: ۴۹۳۱، ج ۴، ص ۳۶۹.

حدیث ۱۳ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہتی ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ چند دوسری لڑکیاں بھی کھیلتیں۔ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) تشریف لاتے وہ چھپ جاتیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ان کو میرے پاس بھیج دیتے، وہ میرے پاس آ کر کھیلنے لگتیں۔^(۱)

حدیث ۱۴ ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے تشریف لائے اور ان کے طاق پر گڑیاں تھیں اور پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی اور پردہ کا کنارہ ہٹ گیا، حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی گڑیاں دکھائی دیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: عائشہ یہ کیا ہیں؟ عرض کی، میری گڑیاں ہیں۔ ان گڑیوں کے درمیان میں کپڑے کا ایک گھوڑا تھا جس کے دو بازو تھے۔

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ گڑیوں کے بیچ میں یہ کیا ہے؟ عرض کی، یہ گھوڑا ہے۔ ارشاد فرمایا: گھوڑے کے یہ کیا ہیں؟ عرض کی، یہ گھوڑے کے بازو ہیں۔ ارشاد فرمایا: گھوڑے کے لیے بازو۔ حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے عرض کی، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بازو تھے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے سن کر تبسم فرمایا۔^(۲)

مسئلہ ۱ نوبت بجانا اگر تقاضا کے لیے ہو تو ناجائز ہے اور اگر لوگوں کو اس سے متنبہ کرنا مقصود ہو اور نفحات صور یاد لانے کے لیے ہو تو تین وقتوں میں نوبت بجانے کی اجازت ہے بعد عصر اور بعد عشا اور بعد نصف شب کہ ان اوقات میں نوبت کو نفع صور سے مشابہت ہے۔^(۳) (درمختار)

یہ نیت بہت اچھی ہے اگر نوبت بجوانے والے کو بھی اس کا دھیان ہو اور کاش سننے والے کو بھی نوبت کی آواز سن کر نفحات صور یاد آئیں، مگر اس زمانہ میں ایسے لوگ کہاں، یہاں تو نوبت سے مقصود دھوم دھام اور شادی بیاہ کی رونق و زینت ہے۔

مسئلہ ۲ عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں، اس میں جھانج نہ ہوں اور قواعد موسیقی پر نہ بجائے جائیں یعنی محض ڈھپ ڈھپ کی بے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو۔^(۴) (ردالمحتار، عالمگیری)

①..... "صحیح البخاری"، کتاب الأدب، باب الإنبساط الی الناس، الحدیث: ۶۱۳۰، ج ۴، ص ۱۳۴۔

و "صحیح مسلم"، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضائل عائشة... إلخ، الحدیث: ۸۱- (۲۴۴۰)، ص ۱۳۲۵۔

②..... "سنن أبي داود"، کتاب الأدب، باب اللعب بالبنات، الحدیث: ۴۹۳۲، ج ۴، ص ۳۶۹۔

③..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۷۸۔

④..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۷۹۔

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب السابع عشر فی الغناء، ج ۵، ص ۳۵۲۔

مسئلہ ۳ لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادہ سے بگل بجانا جائز ہے، جیسے حمام میں بگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا۔ رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجاتے ہیں، جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے یہ جائز ہے، کہ یہ صورت لہو و لعب میں داخل نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

اسی طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے وقت اور ختم کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے یہ جائز ہے، کہ لہو مقصود نہیں بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائی جاتی ہے۔ اسی طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے یا اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے یہ بھی جائز ہے۔

مسئلہ ۴ گنجفہ⁽²⁾، چوسر⁽³⁾ کھیلانا جائز ہے، شطرنج کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح لہو و لعب کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں صرف تین قسم کے لہو کی حدیث میں اجازت ہے، بی بی سے ملاعبت اور گھوڑے کی سواری اور تیر اندازی کرنا۔⁽⁴⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۵ ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارہ، دو تارہ، ہارمونیم، چنگ، طنبورہ بجانا، اسی طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ متصوفہ زمانہ کہ مزامیر کے ساتھ توالی سنتے ہیں اور کبھی اوچھلتے کودتے اور ناچنے لگتے ہیں اس قسم کا گانا بجانا ناجائز ہے، ایسی محفل میں جانا اور وہاں بیٹھنا ناجائز ہے، مشائخ سے اس قسم کے گانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو چیز مشائخ سے ثابت ہے وہ فقط یہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے ان کے سامنے کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جو ان کے حال و کیف کے موافق ہے تو ان پر کیفیت و رقت طاری ہوگئی اور بے خود ہو کر کھڑے ہو گئے اور اس حال و رفتگی میں ان سے حرکات غیر اختیار یہ صادر ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔

مشائخ و بزرگان دین کے احوال اور ان متصوفہ کے حال و قال میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں مزامیر کے ساتھ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں فساق و فجار کا اجتماع ہوتا ہے، نااہلوں کا مجمع ہوتا ہے، گانے والوں میں اکثر بے شرع ہوتے

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۵۷۹.

②..... یعنی ایک کھیل کا نام جو تاش کی طرح کھیلا جاتا ہے، اس میں 96 پتے اور آٹھ رنگ ہوتے ہیں اور تین کھلاڑی کھیلتے ہیں۔

③..... یعنی نزد شیر (چوسر) ایک کھیل ہے، ایک بادشاہ آرد شیر بن با بک نے یہ جو ایجاد کیا تھا۔

④..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۵۰، وغیرہ.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۵۱.

ہیں، تالیاں بجاتے اور مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں اور خوب اچھلتے کودتے ناچتے تھرکتے ہیں اور اس کا نام حال رکھتے ہیں ان حرکات کو صوفیہ کرام کے احوال سے کیا نسبت، یہاں سب چیزیں اختیاری ہیں وہاں بے اختیاری تھیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۷ کبوتر پالنا اگر اڑانے کے لیے نہ ہو تو جائز ہے اور اگر کبوتروں کو اڑاتا ہے تو ناجائز کہ یہ بھی ایک قسم کا لہو ہے اور اگر کبوتر اڑانے کے لیے چھت پر چڑھتا ہے جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہے یا اڑانے میں کنکریاں پھینکتا ہے جن سے لوگوں کے برتن ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو سختی سے منع کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی اور اس پر بھی نہ مانے تو حکومت کی جانب سے اس کے کبوتر ذبح کر کے اسی کو دے دیے جائیں، تاکہ اڑانے کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۸ جانوروں کو لڑانا مثلاً مرغ، شیر، تیتڑ، مینڈھے، بھینسے وغیرہ کہ ان جانوروں کو بعض لوگ لڑاتے ہیں یہ حرام ہے⁽³⁾ اور اس میں شرکت کرنا یا اس کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔

مسئلہ ۹ آم کے زمانے میں نوروز کرنے⁽⁴⁾ نوجوان لڑکے باغوں میں جاتے ہیں اور بعد میں چھلکے گٹھلی سے کھیلتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ کشتی لڑنا اگر لہو و لعب کے طور پر نہ ہو بلکہ اس لیے ہو کہ جسم میں قوت آئے اور کفار سے لڑنے میں کام دے، یہ جائز و مستحسن و کار ثواب ہے بشرطیکہ ستر پوشی کے ساتھ ہو۔ آج کل برہنہ ہو کر صرف ایک لنگوٹ یا جا نگیا پہن کر لڑتے ہیں کہ ساری رانیں کھلی ہوتی ہیں یہ ناجائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکانہ سے کشتی لڑی اور تین مرتبہ پچھاڑا، کیونکہ رکانہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو ایمان لاؤں گا پھر یہ مسلمان ہو گئے۔⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ ہنسی مذاق میں اگر بیہودہ باتیں، گالی گلوچ اور کسی مسلم کی ایذا رسانی⁽⁷⁾ نہ ہو محض پر لطف اور دل خوش کن باتیں ہوں جن سے اہل مجلس کو ہنسی آئے اور خوش ہوں، اس میں حرج نہیں۔⁽⁸⁾ (عالمگیری)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء، ج ۵، ص ۳۵۲.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۱.

③..... "الفتاویٰ الرضویۃ" (الحدیدۃ)، ج ۲۴، ص ۶۵۵.

④..... یعنی نئے پھل کا جشن منانے۔

⑤..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء، ج ۵، ص ۳۵۲.

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۶.

⑦..... یعنی مسلمان کو تکلیف دینا۔

⑧..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء، ج ۵، ص ۳۵۲.

اشعار کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۗ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ ۝ (1)

”اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، کیا تو نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ (عزوجل) کی یاد کی اور بدلا لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا۔“ یعنی ان کے لیے وہ حکم نہیں۔

حدیث ۱ صحیح بخاری میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بعض اشعار حکمت ہیں۔“ (2)

حدیث ۲ صحیح بخاری و مسلم میں براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ”مشرکین کی بھوکرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسان سے فرماتے: تم میری طرف سے جواب دو۔ الہی تو روح القدس سے حسان کی تائید فرما۔“ (3)

حدیث ۳ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسان سے یہ فرماتے سنا کہ ”روح القدس ہمیشہ تمہاری تائید میں ہے، جب تک تم اللہ و رسول (عزوجل) صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے رہو گے۔“ (4)

حدیث ۴ دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شعر کا ذکر آیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”وہ ایک کلام ہے، اچھا ہے تو اچھا ہے اور برا ہے تو برا۔“ (5)

①..... پ ۱۹، الشعراء: ۲۲۴ - ۲۲۷.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر... إلخ، الحدیث: ۶۱۴۵، ج ۴، ص ۱۳۹.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، الحدیث: ۱۵۱ - (۲۴۸۵)،

و: ۱۵۳ - (۲۴۸۶)، ص ۱۳۵۰، ۱۳۵۱.

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، الحدیث: ۱۵۷ - (۲۴۹۰)، ص ۱۳۵۲.

⑤..... ”سنن الدار قطنی“، کتاب الوکالة، خبر الواحد یوجب العمل، الحدیث: ۴۲۶۱، ج ۴، ص ۱۸۳.

حدیث ۵ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جو اسے فاسد کر دے، یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرا ہو۔“ (1)

حدیث ۶ صحیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ عرج میں جا رہے تھے، ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”شیطان کو پکڑو آدمی کا جوف پیپ سے بھرا ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرا ہو۔“ (2)

حدیث ۷ امام احمد نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ ظاہر نہ ہوں جو اپنی زبانوں کے ذریعہ سے کھائیں گے، جس طرح گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔“ (3)

یعنی ان کا ذریعہ رزق لوگوں کی تعریف و مذمت کرنا ہے اور اس میں حق و ناحق کا بالکل خیال نہ کریں گے، جس طرح گائے اس کا خیال نہیں کرتی ہے کہ یہ چیز مفید ہے یا مضر جو چیز زبان کے سامنے آگئی کھا گئی۔

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اشعار اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اگر اللہ و رسول (ﷺ) اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعریف کے اشعار ہوں یا ان میں حکمت کی باتیں ہوں اچھے اخلاق کی تعلیم ہو تو اچھے ہیں اور اگر لغو و باطل پر مشتمل ہوں تو برے ہیں اور چونکہ اکثر شعر ایسے ہی بے تکی ہاکتے ہیں اس وجہ سے ان کی مذمت کی جاتی ہے۔

مسئلہ ۱ جو اشعار مباح ہوں ان کے پڑھنے میں حرج نہیں، اشعار میں اگر کسی مخصوص عورت کے اوصاف کا ذکر ہو اور وہ زندہ ہو تو پڑھنا مکروہ ہے اور مر چکی ہو یا خاص عورت کا ذکر نہ ہو تو پڑھنا جائز ہے۔ شعر میں لڑکے کا ذکر ہو تو وہی حکم ہے جو عورت کے متعلق اشعار کا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ اشعار کے پڑھنے سے اگر یہ مقصود ہو کہ ان کے ذریعہ سے تفسیر و حدیث میں مدد ملے یعنی عرب کے محاورات اور اسلوب کلام پر مطلع ہو، جیسا کہ شعراء جاہلیت کے کلام سے استدلال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ (5) (عالمگیری)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب ما یکرہ أن یكون الغالب علی الإنسان... إلخ، الحدیث: ۶۱۵۵، ج ۴، ص ۱۴۳.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب الشعر، الحدیث: ۹۔ (۲۲۵۹)، ص ۱۲۳۹.

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، الحدیث: ۱۵۹۷، ج ۱، ص ۳۸۹.

④..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء، ج ۵، ص ۳۵۱ - ۳۵۲.

⑤..... المرجع السابق، ص ۳۵۲.

جھوٹ کا بیان

جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں تمام ادیان میں یہ حرام ہے اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی، قرآن مجید میں بہت مواقع پر اس کی مذمت فرمائی اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی۔ حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی، اس کے متعلق بعض احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ (عزوجل) کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ (عزوجل) کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“ (1)

حدیث ۲ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے (یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے) اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے وسط جنت میں مکان بنایا جائے گا اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجہ میں مکان بنایا جائے گا۔“ (2)

حدیث ۳ ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔“ (3)

حدیث ۴ ابوداؤد نے سفیان بن اسد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔“ (4)

1..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر... إلخ، باب قبح الکذب... إلخ، الحدیث: ۱۰۵- (۲۶۰۷)، ص ۱۴۰۵.

2..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء فی المرء، الحدیث: ۲۰۰۰، ج ۳، ص ۴۰۰.

3..... المرجع السابق، باب ماجاء فی الصدق والکذب، الحدیث: ۱۹۷۹، ج ۳، ص ۳۹۲.

4..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی المعارض، الحدیث: ۴۹۷۱، ج ۴، ص ۳۸۱.

حدیث ۵ امام احمد و بیہقی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ۔“ (1) یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

حدیث ۶ امام مالک و بیہقی نے صفوان بن سلیم سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ پھر عرض کی گئی، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ پھر کہا گیا، کیا مومن کذاب ہوتا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ (2)

حدیث ۷ امام احمد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔“ (3)

حدیث ۸ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے، اگر چہ سچا ہو۔“ (4)

حدیث ۹ امام احمد و ترمذی و ابوداؤد و دارمی نے بروایت بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔“ (5)

حدیث ۱۰ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلہ سے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔“ (6)

حدیث ۱۱ ابوداؤد و بیہقی نے عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

①..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبي امامة الباهلي، الحدیث: ۲۲۲۳۲، ج ۸، ص ۲۷۶.

②..... "الموطأ"، كتاب الكلام، باب ماجاء في الصدق والكذب، الحدیث: ۱۹۱۳، ج ۲، ص ۴۶۸.

③..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق، الحدیث: ۱۶، ج ۱، ص ۲۲.

④..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۸۶۳۸، ج ۳، ص ۲۶۸.

⑤..... "سنن الترمذی"، كتاب الزهد، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، الحدیث: ۲۳۲۲، ج ۴، ص ۱۴۲.

⑥..... "شعب الإيمان"، باب في حفظ اللسان، الحدیث: ۴۸۳۲، ج ۴، ص ۲۱۳.

و "مشكاة المصابيح"، كتاب الآداب، باب ماجاء حفظ اللسان... إلخ، الحدیث: ۴۸۳۶، ج ۳، ص ۴۱.

علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا: ”اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔“ (1)

حدیث ۱۲ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جھوٹ سے مونہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہے۔“ (2)

حدیث ۱۳ صحیح بخاری و مسلم میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے۔“ (3) یعنی ایک کی طرف سے دوسرے کے پاس اچھی بات کہتا ہے جو بات اس نے نہیں کہی ہے وہ کہتا ہے، مثلاً اس نے تمہیں سلام کہا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا۔

حدیث ۱۴ ترمذی نے اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر تین جگہوں میں، مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے بات کرے اور لڑائی میں جھوٹ بولنا اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔“ (4)

مسئلہ ۱ تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اس میں گناہ نہیں۔

ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکا دینا جائز ہے، اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرنا چاہتا ہے، مثلاً ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا یا اس نے تمہیں سلام کہا بھیجا ہے اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تا کہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ بی بی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے۔ (5) (عالمگیری)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب التشديد في الكذب، الحديث: ٤٩٩١، ج ٤، ص ٣٨٧.

②..... ”شعب الإيمان“، باب في حفظ اللسان، الحديث: ٤٨١٣، ج ٤، ص ٢٠٨.

③..... ”صحيح مسلم“، كتاب البر... إلخ، باب تحريم الكذب... إلخ، الحديث: ١٠١- (٢٦٠٥)، ص ١٤٠٤.

④..... ”سنن الترمذی“، كتاب البر والصلوة، باب ماجاء في إصلاح ذات البين، الحديث: ١٩٤٥، ج ٣، ص ٣٧٧.

⑤..... ”الفتاوى الهندية“، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء، ج ٥، ص ٣٥٢.

مسئلہ ۲ - تور یہ یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہیں وہ غلط ہیں مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں، ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں اور حاجت ہو تو جائز ہے۔ تور یہ کی مثال یہ ہے کہ تم نے کسی کو کھانے کے لیے بلا یا وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھالیا۔ اس کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ اس وقت کا کھانا کھالیا ہے مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھالیا ہے یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - احیائے حق کے لیے تور یہ جائز ہے مثلاً شفیق کورات میں جائدادِ مشفقہ کی بیع کا علم ہو اور اس وقت لوگوں کو گواہ نہ بنا سکتا ہو تو صبح کو گواہوں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بیع کا اس وقت علم ہوا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ لڑکی کورات کو حیض آیا اور اس نے خیار بلوغ کے طور پر اپنے نفس کو اختیار کیا مگر گواہ کوئی نہیں ہے تو صبح کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے اس وقت خون دیکھا۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - جس اچھے مقصد کو سچ بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو اور جھوٹ بول کر بھی حاصل کر سکتا ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر جھوٹ سے حاصل کر سکتا ہو، سچ بولنے میں حاصل نہ ہو سکتا ہو تو بعض صورتوں میں کذب بھی مباح ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے، جیسے کسی بے گناہ کو ظالم شخص قتل کرنا چاہتا ہے یا ایذا دینا چاہتا ہے وہ ڈر سے چھپا ہوا ہے، ظالم نے کسی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں اگرچہ جانتا ہو یا کسی کی امانت اس کے پاس ہے کوئی اسے چھیننا چاہتا ہے پوچھتا ہے کہ امانت کہاں ہے؟ یہ انکار کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ - کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا ہے، اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے یہ کام کیا؟ وہ انکار کر سکتا ہے کیونکہ ایسے کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ دوسرا گناہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اپنے مسلم بھائی کے بھید پر مطلع ہو تو اس کے بیان کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے اور اگر جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہو تو حرام ہے اور اگر شک ہو معلوم نہیں کہ سچ بولنے میں فساد ہوگا یا جھوٹ بولنے میں، جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - جس قسم کے مبالغہ کا عادی رواج ہے لوگ اسے مبالغہ ہی پر محمول کرتے ہیں اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے

①....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء، ج ۵، ص ۳۵۲.

②....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۴.

③....."ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۵.

④.....المرجع السابق.

⑤.....المرجع السابق.

وہ جھوٹ میں داخل نہیں، مثلاً یہ کہا کہ میں تمہارے پاس ہزار مرتبہ آیا یا ہزار مرتبہ میں نے تم سے یہ کہا۔ یہاں ہزار کا عدد مراد نہیں بلکہ کئی مرتبہ آنا اور کہنا مراد ہے، یہ لفظ ایسے موقع پر نہیں بولا جائے گا کہ ایک ہی مرتبہ آیا ہو یا ایک ہی مرتبہ کہا ہو اور اگر ایک مرتبہ آیا اور یہ کہہ دیا کہ ہزار مرتبہ آیا تو جھوٹا ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ تعریف کی بعض صورتیں جن میں لوگوں کا دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ ”جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی۔“⁽²⁾ یا ”میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔“⁽³⁾ (ردالمحتار)

زبان کو روکنا اور گالی گلوچ غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنا

حدیث ۱ صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان کا اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔“⁽⁴⁾ یعنی زبان اور شرمگاہ کو ممنوعات سے بچانے پر جنت کا وعدہ ہے۔

حدیث ۲ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا یعنی یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو درجوں بلند کرتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں دھرتا یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا، اس کلمہ کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔“⁽⁵⁾

اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ”جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔“⁽⁶⁾

حدیث ۳ ترمذی وابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۵.

②..... انظر: ”سنن الترمذی“، کتاب الشمائل، باب ماجاء فی صفة... إلخ، الحدیث: ۲۳۹، ج ۵، ص ۵۴۵.

③..... انظر: ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء فی المزاح، الحدیث: ۱۹۹۱، ج ۳، ص ۳۹۹.

و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۶.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، الحدیث: ۶۴۷۴، ج ۴، ص ۲۴۰.

⑤..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۴۷۸، ج ۴، ص ۲۴۱.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزهد... إلخ، باب التکلم بالكلمة... إلخ، الحدیث: ۵۰- (۲۹۸۸)، ص ۱۰۹۵.

نے فرمایا: ”جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے، وہ تقویٰ اور حسن خلق ہے اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ دو جوف دار (کھکل) چیزیں ہیں، مونہ اور شرمگاہ۔“ (1)

حدیث ۳ امام احمد و ترمذی و دارمی و بیہقی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو چپ رہا، اسے نجات ہے۔“ (2)

حدیث ۵ امام احمد و ترمذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے (یعنی بے کار ادھر ادھر نہ جاؤ) اور اپنی خطا پر گریہ کرو۔“ (3)

حدیث ۶ ترمذی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ ”ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضا زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں، کہ تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔“ (4)

حدیث ۷ امام مالک و احمد نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمذی اور بیہقی نے دونوں سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لایعنی چیز چھوڑ دے۔“ (5) یعنی جو چیز کا آئینہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان و دل و جوارح کو بے کار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔

حدیث ۸ ترمذی نے سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سب سے زیادہ کس چیز کا مجھ پر خوف ہے؟ یعنی کس چیز کے ضرر کا زیادہ اندیشہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا: ”یہ ہے۔“ (6)

- 1..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الزہد، باب ذکر الذنوب، الحدیث: ۴۲۴۶، ج ۴، ص ۴۸۹.
- 2..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی حسن الخلق، الحدیث: ۲۰۱۱، ج ۳، ص ۴۰۴.
- 3..... ”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة... إلخ، باب: ۱۱۵، الحدیث: ۲۵۰۹، ج ۴، ص ۲۲۵.
- 4..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبي امامة الباهلي، الحدیث: ۲۲۲۹۸، ج ۸، ص ۲۹۰.
- 5..... ”جامع الترمذی“، کتاب الزہد، باب ماجاء فی حفظ اللسان، الحدیث: ۲۴۱۴، ج ۴، ص ۱۸۲.
- 6..... ”سنن الترمذی“، کتاب الزہد، باب ماجاء فی حفظ اللسان، الحدیث: ۲۴۱۵، ج ۴، ص ۱۸۳.
- 7..... ”الموطأ“ للإمام مالك، کتاب حسن الخلق، باب ماجاء فی حسن الخلق، الحدیث: ۱۷۱۸، ج ۲، ص ۴۰۳.
- 8..... ”سنن الترمذی“، کتاب الزہد، باب ماجاء فی حفظ اللسان، الحدیث: ۲۴۱۸، ج ۴، ص ۱۸۴.

حدیث ۹ بیہقی نے شعب الایمان میں عمران بن حطان سے روایت کی، کہتے ہیں میں ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انھیں کالی کملی اوڑھے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا، ابوذر یہ تنہائی کیسی؟ انھوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”تنہائی اچھی ہے برے ہم نشین سے اور ہم نشین صالح تنہائی سے بہتر ہے اور اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔“ (1)

حدیث ۱۰ بیہقی نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سکوت پر قائم رہنا ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے۔“ (2)

حدیث ۱۱ بیہقی نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) مجھے وصیت فرمائیے، ارشاد فرمایا: میں تم کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ اس سے تمہارے سب کام آراستہ ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی اور وصیت فرمائیے، فرمایا: کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کرلو، کہ اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں نے کہا اور وصیت فرمائیے، ارشاد فرمایا: زیادتی خاموشی کو لازم کرلو، کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد دے گی۔

میں نے عرض کی اور وصیت کیجیے، فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو کہ یہ دل کو مُردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کے نور کو دور کرتا ہے۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے۔ فرمایا: حق بولو اگرچہ کڑوا ہو۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے، فرمایا کہ اللہ (عزوجل) کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے، فرمایا: تم کو دوسرے لوگوں سے روکے وہ چیز جو تم اپنے نفس سے جانتے ہو۔ (3) یعنی جو اپنے عیوب کی طرف نظر رکھے گا دوسروں کے عیوب میں نہ پڑے گا اور کام کی بات یہ ہے کہ اپنے عیب پر نظر کی جائے تاکہ اسکے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔

حدیث ۱۲ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ابوذر! کیا میں تم کو ایسی دو باتیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر ہلکی ہیں اور میزان میں بھاری ہیں؟ انھوں نے کہا، ہاں۔ ارشاد فرمایا: زیادہ خاموش رہنا اور خوبی اخلاق، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تمام مخلوقات نے ان کی مثل پر عمل نہیں کیا۔“ (4)

①..... ”شعب الایمان“، باب فی حفظ اللسان، فصل فی فضل السکوت... إلخ، الحدیث: ۴۹۹۳، ج ۴، ص ۲۵۶.

②..... المرجع السابق، فصل فی فضل السکوت عما لایعنیہ، الحدیث: ۴۹۵۳، ج ۴، ص ۲۴۵.

③..... المرجع السابق، فصل فی فضل السکوت عما لایعنیہ، الحدیث: ۴۹۴۲، ج ۴، ص ۲۴۲.

④..... ”شعب الایمان“، باب فی حسن الخلق، الحدیث: ۸۰۰۶، ج ۶، ص ۲۳۹.

یعنی ان کی مثل کوئی چیز نہیں جس پر عمل کیا جائے۔

حدیث ۱۳ → امام مالک نے اسلم سے روایت کی، کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کی، کیا بات ہے اللہ (عزوجل) آپ کی مغفرت کرے، حضرت صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: اس نے مجھے مہالک (1) میں ڈالا ہے۔ (2)

حدیث ۱۴ → امام احمد و بیہقی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ ① جب بات کرو سچ بولو اور ② جب وعدہ کرو اسے پورا کرو اور ③ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو اور ④ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور ⑤ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور ⑥ اپنے ہاتھوں کو روکو۔“ (3) یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔

حدیث ۱۵ → ترمذی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بے ہودہ ہوتا ہے۔“ (4)

حدیث ۱۶ → ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن کو یہ نہ چاہیے کہ لعنت کرنے والا ہو۔“ (5)

حدیث ۱۷ → صحیح مسلم میں ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ”جو لوگ لعنت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے، نہ کسی کے سفارشی۔“ (6)

حدیث ۱۸ → ترمذی و ابوداؤد نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ (عزوجل) کی لعنت و غضب اور جہنم کے ساتھ آپس میں لعنت نہ کرو۔“ (7)

حدیث ۱۹ → ابوداؤد نے ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

①..... یعنی ہلاکتوں۔

②..... ”الموطأ“ للإمام مالک، کتاب الکلام، باب ماجاء فیما یخاف من اللسان، الحدیث: ۱۹۰۶، ج ۲، ص ۴۶۶۔

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث عبادہ بن الصامت الحدیث: ۲۲۸۲۱، ج ۸، ص ۴۱۲۔

④..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء فی اللعنة، الحدیث: ۱۹۸۴، ج ۳، ص ۳۹۳۔

⑤..... المرجع السابق، باب ماجاء فی اللعن واللعن، الحدیث: ۲۰۲۶، ج ۳، ص ۴۱۰۔

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر... إلخ، باب النهی عن لعن الدواب وغیرھا، الحدیث: ۸۶۔ (۲۵۹۸)، ص ۱۴۰۰۔

⑦..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء فی اللعنة، الحدیث: ۱۹۸۳، ج ۳، ص ۳۹۳۔

و ”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان... إلخ، الحدیث: ۴۸۴۹، ج ۳، ص ۴۳۔

کو یہ فرماتے سنا کہ ”جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کو جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں پھر زمین پر اتاری جاتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں پھر دہنے بائیں جاتی ہے، جب کہیں راستہ نہیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، اگر اسے اس کا اہل پاتی ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ بھیجنے والے پر آ جاتی ہے۔“ (1)

حدیث ۲۰ ترمذی و ابوداؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ ایک شخص کی چادر کو ہوا کے تیز جھونکے لگے، اس نے ہوا پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہوا پر لعنت نہ کرو کہ وہ خدا کی طرف سے مامور ہے اور جو شخص ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کی اہل نہ ہو تو لعنت اُسی پر لوٹ آتی ہے۔“ (2)

حدیث ۲۱ ترمذی نے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہوا کو گالی نہ دو اور جب دیکھو کہ تمہیں بری لگتی ہے تو یہ کہو کہ الہی امیں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس میں خیر ہے اور جس خیر کا اسے حکم ہوا اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں شر ہے اور اس کے شر سے جس کا اسے حکم ہوا۔“ (3)

حدیث ۲۲ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس سے اتر جاؤ ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو، اپنے اوپر اور اپنی اولاد و اموال پر بددعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بددعا اس ساعت میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے۔“ (4)

حدیث ۲۳ طبرانی نے ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی مثل ہے اور جو شخص مومن مرد یا عورت پر کفر کی تہمت لگائے تو یہ اس کے قتل کی مثل ہے۔“ (5)

حدیث ۲۴ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو اس کلمہ کے ساتھ دونوں میں سے ایک لوٹے گا۔“ (6) یعنی یہ کلمہ دونوں میں سے ایک پر پڑے گا۔

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في اللعن، الحديث: ۴۹۰۵، ج ۴، ص ۳۶۱.

②..... المرجع السابق، الحديث: ۴۹۰۸، ج ۴، ص ۳۶۲.

③..... ”سنن الترمذی“، كتاب الفتن، باب ماجاء في النهی عن سب الرياح، الحديث: ۲۲۵۹، ج ۴، ص ۱۱۱.

④..... ”صحیح مسلم“، كتاب الزهد، باب حدیث جابر الطویل... إلخ، الحديث: ۳- (۳۰۰۹)، ص ۱۶۰۴.

⑤..... ”المعجم الكبير“، الحديث: ۱۳۳۰، ج ۲، ص ۷۳.

⑥..... ”صحیح البخاری“، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأویل فهو كما قال، الحديث: ۶۱۰۴، ج ۴، ص ۱۲۷.

و ”صحیح مسلم“، كتاب الإيمان، باب بیان حال ایمان من قال لأخيه المسلم یا کافر، الحديث: ۱۱۱- (۶۰)، ص ۵۱.

حدیث ۲۵ صحیح بخاری میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص دوسرے کو فسق اور کفر کی تہمت لگائے اور وہ ایسا نہ ہو تو اس کہنے والے پر لوٹنا ہے۔“ (1)

حدیث ۲۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کسی کو کافر کہہ کر بلائے یا دشمنِ خدا کہے اور وہ ایسا نہیں ہے تو اسی کہنے والے پر لوٹے گا۔“ (2)

حدیث ۲۷ بخاری و مسلم و احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلم سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کفر ہے۔“ (3)

حدیث ۲۸ صحیح مسلم میں انس و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو شخص گالی گلوچ کرنے والے انھوں نے جو کچھ کہا سب کا وبال اس کے ذمہ ہے جس نے شروع کیا ہے، جب تک مظلوم تجاؤز نہ کرے۔“ (4) یعنی جتنا پہلے نے کہا، اس سے زیادہ نہ کہے۔

حدیث ۲۹ طبرانی نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہنا ہی چاہتا ہے تو نہ اس پر افترا کرے، نہ اس کے والدین کو گالی دے، نہ اس کی قوم کو گالی دے، ہاں اگر اس میں ایسی بات ہے جو اس کے علم میں ہے تو یوں کہے کہ تو بخیل ہے یا تو بزدل ہے یا تو جھوٹا ہے یا بہت سونے والا ہے۔“ (5)

حدیث ۳۰ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فحش جس چیز میں ہوگا، اسے عیب دار کر دے گا اور حیا جس میں ہوگی، اسے آراستہ کر دے گی۔“ (6)

حدیث ۳۱ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب لوگوں میں بدتر مرتبہ اس کا ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔“ (7) اور ایک روایت میں ہے کہ ”اُس کے فحش سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔“ (8)

①.....”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب ما ینھی من السباب واللعن، الحدیث: ۶۰۴۵، ج ۴، ص ۱۱۱.

②.....”صحیح مسلم“، کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لایحیہ المسلم: یا کافر، الحدیث: ۱۱۲- (۶۱)، ص ۵۱.

③.....”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب ما ینھی من السباب واللعن، الحدیث: ۶۰۴۴، ج ۴، ص ۱۱۱.

④.....”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب النهی عن السباب، الحدیث: ۶۸- (۲۵۸۷)، ص ۱۳۹۶.

⑤.....”المعجم الکبیر“، الحدیث: ۷۰۳۰، ج ۷، ص ۲۵۳.

⑥.....”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الفحش والتفحش، الحدیث: ۱۹۸۱، ج ۳، ص ۳۹۲.

⑦.....”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا... إلخ، الحدیث: ۶۰۳۲، ج ۴، ص ۱۰۸.

⑧.....”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب مداراة من یتقی فحشہ، الحدیث: ۷۳- (۲۵۹۱)، ص ۱۳۹۷.

حدیث ۳۲ بخاری و مسلم و احمد و ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے کہ وہ ہر کو برا کہتا ہے، دہر تو میں ہوں میرے ہاتھ میں سب کام ہیں، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں۔“ (1) یعنی زمانہ کو برا کہنا اللہ (عزوجل) کو برا کہنا ہے کہ زمانہ میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

حدیث ۳۳ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص یہ کہے کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہ ہے۔“ (2) یعنی جو شخص تمام لوگوں کو گنہگار اور مستحق ناربتائے تو سب سے بڑھ کر گنہگار وہ خود ہے۔

حدیث ۳۳ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے، جو ذوالوجہین ہو۔“ (3)

یعنی دور خا آدمی کہ ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے یعنی منافقوں کی طرح کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں کچھ کہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک طرح کی بات سب جگہ کہے۔

حدیث ۳۵ دارمی نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص دنیا میں دور خا ہوگا، قیامت کے دن آگ کی زبان اس کے لیے ہوگی۔“ (4) ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ”اس کے لیے دوزبانیں آگ کی ہوں گی۔“ (5)

حدیث ۳۶ صحیح بخاری و مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ ”جنت میں چغزل خور نہیں جائے گا۔“ (6)

حدیث ۳۷ بیہقی نے شعب الایمان میں عبدالرحمن بن غنم و اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ (عزوجل) کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آئے اور

1..... ”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾، الحدیث: ۷۴۹۱، ج ۴، ص ۵۷۲.

2..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب النهی عن قول: هلك الناس، الحدیث: ۱۳۹- (۲۶۲۳)، ص ۱۴۱۲.

3..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب ما قيل في ذی الوجہین، الحدیث: ۶۰۵۸، ج ۴، ص ۱۱۵.

4..... ”سنن الدارمی“، کتاب الرقائق، باب ما قيل في ذی الوجہین، الحدیث: ۲۷۶۴، ج ۲، ص ۴۰۵.

5..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب في ذی الوجہین، الحدیث: ۴۸۷۳، ج ۴، ص ۳۵۲.

6..... ”صحیح مسلم“، کتاب الایمان، باب بیان غلظ تحریم التمیمۃ، الحدیث: ۱۶۹- (۱۰۵)، ص ۶۷.

اللہ (عزوجل) کے برے بندے وہ ہیں، جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور جو شخص جرم سے بری ہے، اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔“ (1)

حدیث ۳۸ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ ورسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کی، اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو جو میں کہتا ہوں (جب تو غیبت نہیں ہوگی)۔ فرمایا: ”جو کچھ تم کہتے ہو، اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں ہو نہیں، یہ بہتان ہے۔“ (2)

حدیث ۳۹ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں ایسی ہیں یعنی پستہ قد ہیں، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ ”تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آجائے۔“ (3) یعنی کسی پستہ قد کو نانا بھگنا کہنا بھی غیبت میں داخل ہے، جبکہ بلا ضرورت ہو۔

حدیث ۴۰ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، دو شخصوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور وہ دونوں روزہ دار تھے، جب نماز پڑھ چکے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تم دونوں وضو کرو اور نماز کا اعادہ کرو اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزہ کی قضا کرنا۔ انھوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہ حکم کس لیے؟ ارشاد فرمایا: ”تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔“ (4)

حدیث ۴۱ ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں، اگرچہ میرے لیے اتنا اتنا ہو۔“ (5) یعنی نقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابل میں درست نہیں ہو سکتا۔

1..... ”شعب الإیمان“، باب فی الاصلاح بین الناس... إلخ، الحدیث: ۱۱۱۰۸، ج ۷، ص ۴۹۴.

و ”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان... إلخ، الحدیث: ۴۸۷۱، ج ۳، ص ۴۶.

2..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلوة... إلخ، باب تحريم الغيبة، الحدیث: ۷۰- (۲۵۸۹)، ص ۱۳۹۷.

3..... ”سنن أبي داؤد“، کتاب الأدب، باب فی الغيبة، الحدیث: ۴۸۷۵، ج ۴، ص ۳۵۳.

4..... ”شعب الإیمان“، باب فی تحريم اعراض الناس، الحدیث: ۶۷۲۹، ج ۵، ص ۳۰۳.

5..... ”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة... إلخ، باب: ۱۱۶، الحدیث: ۲۵۱۰، ج ۴، ص ۲۲۵.

حدیث ۳۲ بیہقی نے شعب الایمان میں ابوسعید و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) زنا سے زیادہ سخت غیبت کیونکر ہے۔ فرمایا کہ ”مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی، جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت ہے۔“ (1)

اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ”زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔“ (2)

حدیث ۳۳ بیہقی نے دعوات کبیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کے کفارہ میں یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے استغفار کرے، یہ کہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لِهٖ۔ (3)

”الہی! ہمیں اور اسے بخش دے۔“

حدیث ۳۴ ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم کیا گیا تھا، دو شخص آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک نے دوسرے سے کہا، اسے تو دیکھو کہ اللہ (عزوجل) نے اس کی پردہ پوشی کی تھی مگر اس کے نفس نے نہ چھوڑا، کتے کی طرح رجم کیا گیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے سن کر سکوت فرمایا۔ کچھ دیر تک چلتے رہے، راستہ میں مرا ہوا گدھا ملا جو پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ان دونوں شخصوں سے فرمایا: جاؤ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! اسے کون کھائے گا؟ ارشاد فرمایا: ”وہ جو تم نے اپنے بھائی کی آبروریزی کی، وہ اس گدھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ (معاذ) اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔“ (4)

حدیث ۳۵ امام احمد و نسائی و ابن ماجہ و حاکم نے اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے اللہ کے بندو! اللہ (عزوجل) نے حرج اٹھالیا، مگر جو شخص کسی مرد مسلم کی بطور ظلم آبروریزی کرے، وہ حرج میں ہے اور ہلاک ہوا۔“ (5)

①..... ”شعب الایمان“، باب فی تحریم إعراض الناس، الحدیث: ۶۷۴۱، ج ۵، ص ۳۰۶.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۷۴۲، ج ۵، ص ۳۰۶.

③..... ”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان... إلخ، الحدیث: ۴۸۷۷، ج ۳، ص ۴۷.

④..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الحدود، باب رجم ما عزی بن مالک، الحدیث: ۴۴۲۸، ج ۴، ص ۱۹۷.

⑤..... ”کنز العمال“، کتاب الأخلاق، الحدیث: ۸۰۱۴، ج ۳، ص ۲۳۴.

حدیث ۳۶ امام احمد و ابوداؤد و حاکم نے مسطور بن شداد^(۱) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔“^(۲)

حدیث ۳۷ امام احمد و ابوداؤد نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی نفیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے گا اور جس کی اللہ (عزوجل) ٹٹول کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔“^(۳)

حدیث ۳۸ امام احمد و ابوداؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مجھے معراج ہوئی، ایک قوم پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے مونہ اور سینے کو نوچتے تھے۔ میں نے کہا: جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، ”یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔“^(۴)

حدیث ۳۹ ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کا خون آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔“^(۵)

حدیث ۵۰ ابوداؤد نے معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مسلمان پر کوئی بات کہے اس سے مقصد عیب لگانا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پیل صراط پر روکے گا جب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی۔“^(۶)

حدیث ۵۱ ابوداؤد نے جابر بن عبد اللہ اور ابوطلمحہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ

- ۱..... بہارِ شریعت کے نسخوں میں مسور بن شداد لکھا ہے، یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، جسے ہم نے ”مسطور بن شداد“ لکھ کر صحیح کر دیا ہے۔... علمہ
- ۲..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في الغيبة، الحديث: ۴۸۸۱، ج ۴، ص ۳۵۴.
- ۳..... ”المستند“ للإمام أحمد بن حنبل، حديث المستورد بن شداد، الحديث: ۱۸۰۳۳، ج ۶، ص ۲۹۴.
- ۴..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في الغيبة الحديث: ۴۸۸۰، ج ۴، ص ۳۵۴.
- ۵..... ”المستند“ للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي برزة الاسلمي، الحديث: ۱۹۷۹۷، ج ۷، ص ۱۸۱.
- ۶..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في الغيبة، الحديث: ۴۸۷۸، ج ۴، ص ۳۵۳.
- ۷..... المرجع السابق، الحديث: ۴۸۸۲، ج ۴، ص ۳۵۴.
- ۸..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب من رد عن مسلم غيبة، الحديث: ۴۸۸۳، ج ۴، ص ۳۵۵.

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جہاں مرد مسلم کی ہتک حرمت کی جاتی ہو اور اس کی آبروریزی کی جاتی ہو ایسی جگہ جس نے اُس کی مدد نہ کی، یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور اُن کو منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ مدد کی جائے اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جہاں اُس کی ہتک حرمت اور آبروریزی کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا ایسے موقع پر جہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔“ (1)

حدیث ۵۲ شرح سنہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا اور اگر باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔“ (2)

حدیث ۵۳ بیہقی نے اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے اس کی غیبت میں روکے یعنی مسلمان کی غیبت کی جا رہی تھی، اس نے روکا تو اللہ (عزوجل) پر حق ہے کہ اُسے جہنم سے آزاد کر دے۔“ (3)

حدیث ۵۴ شرح سنہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو سے روکے یعنی کسی مسلم کی آبروریزی ہوتی تھی اس نے منع کیا تو اللہ (عزوجل) پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی۔“

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (4)

”مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔“

حدیث ۵۵ ترمذی و ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی چیزوں کو ہلاک ہونے سے بچائے اور غیبت میں اس کی حفاظت کرے۔“ (5)

1..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب من رد عن مسلم غيبة، الحديث: ٤٨٨٤، ج ٤، ص ٣٥٥.

2..... ”شرح السنة“، كتاب البر والصلة، باب الذب عن المسلمين، الحديث: ٣٤٢٤، ج ٦، ص ٤٩٥.

و”مشكاة المصابيح“، كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الحديث: ٤٩٨٠، ج ٣، ص ٦٩.

3..... ”شعب الإيمان“، باب في التعاون على البر والتقوى، الحديث: ٧٦٤٣، ج ٦، ص ١١٢.

و”مشكاة المصابيح“، كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الحديث: ٤٩٨١، ج ٣، ص ٧٠.

4..... ”شرح السنة“، كتاب البر والصلة، باب الذب عن المسلمين، الحديث: ٣٤٢٢، ج ٦، ص ٤٩٤.

پ ٢١، الروم: ٤٧.

5..... ”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب في النصيحة والحيطة، الحديث: ٤٩١٨، ج ٤، ص ٣٦٥.

حدیث ۵۶ امام احمد و ترمذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپادی تو ایسا ہے جیسے موؤدہ (یعنی زندہ درگور) کو زندہ کیا۔“ (1)

حدیث ۵۷ ابو نعیم نے معرفہ میں شیبہ بن سعد بلوی سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بندہ کو قیامت کے دن اس کا دفتر کھلا ہوا ملے گا، وہ اس میں ایسی نیکیاں بھی دیکھے گا جن کو کیا نہیں ہے، عرض کرے گا، اے رب! یہ میرے لیے کہاں سے آئیں؟ میں نے تو انھیں کیا نہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو تیری لاعلمی میں لوگوں نے تیری غیبت کی تھی۔“ (2)

حدیث ۵۸ ترمذی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عا رد لایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔“ (3)

حدیث ۵۹ ترمذی نے واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اپنے بھائی کی شامت نہ کر یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔“ (4)

حدیث ۶۰ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری ساری امت عافیت میں ہے مگر مجاہرین یعنی جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں یہ عافیت میں نہیں ان کی غیبت اور برائی کی جائے گی اور آدمی کی بے باکی سے یہ ہے کہ رات میں اس نے کوئی کام کیا یعنی گناہ کا کام اور خدا نے اس کو چھپایا اور یہ صبح کو خود کہتا ہے، کہ آج رات میں میں نے یہ کیا، خدا نے اس پر پردہ ڈالا تھا اور یہ شخص پردہ الہی کو ہٹا دیتا ہے۔“ (5)

حدیث ۶۱ طبرانی و بیہقی نے بروایت بہز بن حکیم عن ابی عن جدہ روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

1..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل حدیث عقبہ بن عامر الجہنی، الحدیث: ۱۷۳۳۴، ج ۶، ص ۱۲۶.

و "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في الستر على المسلم، الحدیث: ۴۸۹۱، ج ۴، ص ۳۵۷.

2..... "كنز العمال"، كتاب الاخلاق، رقم: ۸۰۴۳، ج ۳، ص ۲۳۶.

3..... "سنن الترمذی"، كتاب صفة القيامة... إلخ، باب: ۱۱۸، الحدیث: ۲۵۱۳، ج ۴، ص ۲۲۶.

4..... المرجع السابق، باب: ۱۱۹، الحدیث: ۲۵۱۴، ج ۴، ص ۲۲۷.

5..... "صحیح البخاری"، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، الحدیث: ۶۰۶۹، ج ۴، ص ۱۱۸.

و "صحیح مسلم"، كتاب الزهد، باب النهی عن هتك الانسان ستر نفسه، الحدیث: ۵۲- (۲۹۹۰)، ص ۱۵۹۵.

و "مشكاة المصابيح"، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان... إلخ، الحدیث: ۴۸۳۱، ج ۳، ص ۴۰.

فرمایا: کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہو اس کو لوگ کب پہچانیں گے، فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔“ (1)

حدیث ۶۲ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے حیا کی چادر ڈال دی اس کی غیبت نہیں۔“ (2) یعنی ایسوں کی برائی بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔

حدیث ۶۳ طبرانی نے معاویہ بن حیدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فاسق کی غیبت نہیں ہے۔“ (3)

حدیث ۶۴ صحیح مسلم میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مبالغہ کے ساتھ مدح کرنے والوں کو جب تم دیکھو، تو ان کے مونہ میں خاک ڈال دو۔“ (4)

حدیث ۶۵ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ دوسرے کی تعریف کرتا ہے اور تعریف میں مبالغہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”تم نے اسے ہلاک کر دیا یا اس کی پیٹھ توڑ دی۔“ (5)

حدیث ۶۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”تجھے ہلاکت ہو تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی اس کو تین مرتبہ فرمایا، جس شخص کو کسی کی تعریف کرنی ضروری ہی ہو تو یہ کہے کہ میرے گمان میں فلاں ایسا ہے اگر اس کے علم میں یہ ہو کہ وہ ایسا ہے اور اللہ (عزوجل) اس کو خوب جانتا ہے اور اللہ (عزوجل) پر کسی کا تزکیہ نہ کرے۔“ (6) یعنی جزم اور یقین کے ساتھ کسی کی تعریف نہ کرے۔

حدیث ۶۷ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے، رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے لگتا ہے۔“ (7)

①.....”السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الشهادات باب الرجل من أهل الفقه... إلخ، الحدیث: ۲۰۹۱۴، ج ۱۰، ص ۳۵۴.

②.....المرجع السابق، الحدیث: ۲۰۹۱۵، ج ۱۰، ص ۳۵۴.

③.....”المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۱۱، ج ۱۹، ص ۴۱۸.

④.....”صحیح مسلم، کتاب الزہد... إلخ، باب النهی عن المدح إذا کان فیہ إفراط... إلخ، الحدیث: ۶۹، (۳۰۰۲)، ص ۱۵۹۹.

⑤.....”صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب ما یکرہ من التمداح، الحدیث: ۶۰۶۰، ج ۴، ص ۱۱۵.

⑥.....”صحیح مسلم، کتاب الزہد... إلخ، باب النهی عن المدح... إلخ، الحدیث: ۶۵، (۳۰۰۰)، ص ۱۵۹۹.

⑦.....”شعب الإیمان، باب فی حفظ اللسان، الحدیث: ۴۸۸۶، ج ۴، ص ۲۳۰.

مسائل فقہیہ

غیبت کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو (جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو) اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (1)

”تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کو تو تم برا سمجھتے ہو۔“

احادیث میں بھی غیبت کی بہت برائی آئی ہے، چند حدیثیں ذکر کر دی گئیں انھیں غور سے پڑھو، اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، بہت کم مجالیں ایسی ہوتی ہیں جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہوں۔

مسئلہ ۱ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر پہنچاتا ہے اس کی اس ایذا رسانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں، کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز اور روزے سے دھوکا کھا جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ”کیا تم فاجر کے ذکر سے ڈرتے ہو جو خرابی کی بات اس میں ہے بیان کر دو تا کہ لوگ اس سے پرہیز کریں اور بچیں۔“ (2) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ ایسے شخص کا حال جس کا ذکر اوپر گزرا اگر بادشاہ یا قاضی سے کہا تا کہ اسے سزا ملے اور اپنی حرکت سے باز آجائے یہ چغلی اور غیبت میں داخل نہیں۔ (3) (درمختار) یہ حکم فاسق و فاجر کا ہے جس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں پر اس کی برائی کھول دینا جائز ہے اور غیبت نہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ بد عقیدہ لوگوں کا ضرر فاسق کے ضرر سے بہت زائد ہے فاسق سے جو ضرر پہنچے گا وہ اس سے بہت کم ہے، جو بد عقیدہ لوگوں سے پہنچتا ہے فاسق سے اکثر دنیا کا ضرر ہوتا ہے اور بد مذہب سے تو دین و ایمان کی بربادی کا ضرر ہے اور بد مذہب اپنی بد مذہبی پھیلانے کے لیے نماز روزہ کی بظاہر خوب پابندی کرتے ہیں، تا کہ ان کا

① پ ۲۶، الحجرات: ۱۲۔

② ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۳۔

”شعب الإيمان“، باب فی الستر... إلخ، الحدیث: ۹۶۶۶، ج ۷، ص ۱۰۹۔

③ ”الدرالمختار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۳۔

وقار لوگوں میں قائم ہو پھر جو گمراہی کی بات کریں گے ان کا پورا اثر ہوگا، لہذا ایسوں کی بد مذہبی کا اظہار فاسق کے فسق کے اظہار سے زیادہ اہم ہے اس کے بیان کرنے میں ہرگز دریغ نہ کریں۔

آج کل کے بعض صوفی اپنا تقدس یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے یہ شیطانی دھوکا ہے مخلوق خدا کو گمراہوں سے بچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے جس کو ناکارہ تاویلات سے چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بنوں، کیوں کسی کو اپنا مخالف کروں۔

مسئلہ ۳ یہ معلوم ہے کہ جس میں برائی پائی جاتی ہے اگر اس کے والد کو خبر ہو جائے گی تو وہ اس حرکت سے روک دے گا، تو اسکے باپ کو خبر کر دے زبانی کہہ سکتا ہو تو زبانی کہے یا تحریر کے ذریعہ مطلع کر دے اور اگر معلوم ہے کہ اپنے باپ کا کہا بھی نہیں مانے گا اور باز نہیں آئے گا تو نہ کہے کہ بلا وجہ عداوت پیدا ہوگی۔ اسی طرح بیوی کی شکایت اس کے شوہر سے کی جاسکتی ہے اور رعایا کی بادشاہ سے کی جاسکتی ہے۔⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار) مگر یہ ضرور ہے کہ ظاہر کرنے سے اس کی برائی کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اصلی مقصد یہ ہو کہ وہ لوگ اس برائی کا انسداد⁽²⁾ کریں اور اس کی یہ عادت چھوٹ جائے۔

مسئلہ ۴ کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی برائی افسوس کے طور پر کی کہ مجھے نہایت افسوس ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے یہ غیبت نہیں، کیونکہ جس کی برائی کی اگر اسے خبر بھی ہوگئی تو اس صورت میں وہ برانہ مانے گا، برا اس وقت مانے گا جب اسے معلوم ہو کہ اس کہنے والے کا مقصود ہی برائی کرنا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس چیز کا اظہار اس نے حسرت و افسوس ہی کی وجہ سے کیا ہو ورنہ یہ غیبت ہے بلکہ ایک قسم کا نفاق اور ریا اور اپنی مدح سرائی ہے، کیونکہ اس نے مسلمان بھائی کی برائی کی اور ظاہر یہ کیا کہ برائی مقصود نہیں یہ نفاق ہوا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ یہ کام میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برا جانتا ہوں یہ ریا ہے اور چونکہ غیبت کو غیبت کے طور پر نہیں کیا، لہذا اپنے کو صلحا میں سے ہونا بتایا یہ تزکیہ نفس اور خود ستائی ہوئی۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۵ کسی ہستی یا شہر والوں کی برائی کی، مثلاً یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہ غیبت نہیں کیونکہ ایسے کلام کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہاں کے سب ہی لوگ ایسے ہیں بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں اور جن بعض کو کہا گیا وہ معلوم نہیں، غیبت اس صورت میں ہوتی ہے جب معین و معلوم اشخاص کی برائی ذکر کی جائے اور اگر اس کا مقصود وہاں کے تمام لوگوں کی برائی کرنا ہے تو یہ غیبت ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۳.

②..... یعنی برائی کی روک تھام۔

③..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۳.

④..... المرجع السابق، ص ۶۷۴.

مسئلہ ۶ - فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ غیبت چار قسم کی ہے:

ایک کفر اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو۔ کہنے لگا یہ غیبت نہیں میں سچا ہوں، اس شخص نے ایک حرام قطع کو حلال بتایا۔

دوسری صورت نفاق ہے کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے، وہ اس کو جانتا پہچانتا ہے، لہذا یہ غیبت کرتا ہے اور اپنے کو پرہیزگار ظاہر کرتا ہے، یہ ایک قسم کا نفاق ہے۔

تیسری صورت معصیت ہے وہ یہ کہ غیبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ حرام کام ہے ایسا شخص توبہ کرے۔ چوتھی صورت مباح ہے وہ یہ کہ فاسق معلن یا بد مذہب کی برائی بیان کرے، بلکہ جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ - جو شخص علانیہ برا کام کرتا ہے اور اس کو اس کی کوئی پروا نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، اس کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں، مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا، اس کی غیبت نہیں۔“^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ - جس سے کسی بات کا مشورہ لیا گیا وہ اگر اس شخص کا عیب و برائی ظاہر کرے جس کے متعلق مشورہ ہے یہ غیبت نہیں۔ حدیث میں ہے، ”جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔“^(۳) لہذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت ہے، مثلاً کسی کے یہاں اپنا یا اپنی اولاد وغیرہ کا نکاح کرنا چاہتا ہے دوسرے سے اس کے متعلق تذکرہ کیا کہ میرا ارادہ ایسا ہے تمہاری کیا رائے ہے اس شخص کو جو کچھ معلومات ہیں بیان کر دینا غیبت نہیں۔

اسی طرح کسی کے ساتھ تجارت وغیرہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا چاہتا ہے یا کسی کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے یہ شخص اس کی برائی بیان کرے غیبت نہیں۔^(۴) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ - جو بد مذہب اپنی بد مذہبی چھپائے ہوئے ہے، جیسا کہ روافض کے یہاں تقیہ ہے یا آج کل کے بہت سے وہابی بھی اپنی وہابیت چھپاتے اور خود کو سنی ظاہر کرتے ہیں اور جب موقع پاتے ہیں تو بد مذہبی کی آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے ہیں۔

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۴.

②..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۴.

”شعب الإيمان“، باب في الستر... إلخ، الحدیث: ۹۶۶۴، ج ۷، ص ۱۰۸.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب في المشورة، الحدیث: ۵۱۲۸، ج ۴، ص ۴۲۹-۴۳۰.

④..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۵.

ان کی بدنہ ہی کا اظہارِ غیبت نہیں کہ لوگوں کو ان کے مکروشر سے بچانا ہے اور اگر اپنی بدنہ ہی کو چھپاتا نہیں بلکہ علانیہ ظاہر کرتا ہے، جب بھی غیبت نہیں کہ وہ علانیہ برائی کرنے والوں میں داخل ہے۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۰ کسی کے ظلم کی شکایت حاکم کے پاس کرنا بھی غیبت نہیں، مثلاً یہ کہ فلاں شخص نے مجھ پر یہ ظلم و زیادتی کی ہے، تاکہ حاکم اس کا انصاف و دادرسی کرے۔ اسی طرح مفتی کے سامنے استفتا پیش کرنے میں کسی کی برائی کی کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اس سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ نام نہ لے، بلکہ یوں کہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کے ساتھ یہ کیا بلکہ زید و عمرو سے تعبیر کرے، جیسا کہ اس زمانہ میں استفتا کی عموماً یہی صورت ہوتی ہے پھر بھی اگر نام لے دیا جب بھی جائز ہے اس میں بھی قباحت نہیں۔

جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا، کہ ہند نے ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں شکایت کی کہ وہ بخیل ہیں اتنا نفقہ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو مگر جبکہ میں ان کی لاعلمی میں کچھ لے لوں، ارشاد فرمایا کہ ”تم اتنا لے سکتی ہو جو معروف کے ساتھ تمہارے اور بچوں کے لیے کافی ہو۔“⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ ایک صورت اس کے جواز کی یہ ہے کہ اس سے مقصود بیع کا عیب بیان کرنا ہو مثلاً غلام کو بیچنا چاہتا ہے اور اس غلام میں کوئی عیب ہے چور یا زانی ہے اس کا عیب مشتری کے سامنے بیان کر دینا جائز ہے۔ یوہیں کسی نے دیکھا کہ مشتری بائع کو خراب روپیہ دیتا ہے اس سے اس کی حرکت کو ظاہر کر سکتا ہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ ایک صورت جواز کی یہ بھی ہے کہ اس عیب کے ذکر سے مقصود اس کی برائی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی معرفت و شناخت مقصود ہے مثلاً جو شخص ان عیوب کے ساتھ ملقب ہے تو مقصود معرفت ہے نہ بیان عیب۔ جیسے اعمی، اعمش، اعرج، احول، صحابہ کرام میں عبد اللہ بن أم مکتوم ناپینا تھے اور روایتوں میں ان کے نام کے ساتھ اعمی آتا ہے۔ محدثین میں بڑے زبردست پایہ کے سلیمان اعمش ہیں اعمش کے معنی چندھے کے ہیں یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی بعض مرتبہ محض پہچاننے کے لیے کسی کو اندھایا کانایا ٹھگنایا لبا کہا جاتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ حدیث کے راویوں اور مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۵.

②..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۵.

”صحیح البخاری“، کتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه... إلخ، الحدیث: ۵۳۶۴، ج ۳، ص ۵۱۶.

③..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۵.

④..... المرجع السابق.

اگر رాయిوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح مصنفین کے حالات نہ بیان کیے جائیں تو کتب معتمدہ وغیر معتمدہ میں فرق نہ رہے گا۔ گواہوں پر جرح نہ کی جائے تو حقوق مسلمین کی نگہداشت نہ ہو سکے گی، اول سے آخر تک گیارہ صورتیں وہ ہیں، جو بظاہر غیبت ہیں اور حقیقت میں غیبت نہیں اور ان میں عیوب کا بیان کرنا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۳ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے فعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ ہو سب صورتیں حرام ہیں، برائی کو جس نوعیت سے سمجھائے گا سب غیبت میں داخل ہے۔ تعریض کی یہ صورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے وقت یہ کہا کہ الحمد للہ میں ایسا نہیں جس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے کسی کی برائی لکھ دی یہ بھی غیبت ہے سر وغیرہ کی حرکت بھی غیبت ہو سکتی ہے، مثلاً کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا اس نے سر کے اشارہ سے یہ بتانا چاہا کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان سے تم واقف نہیں، ہونٹوں اور آنکھوں اور بھوؤں اور زبان یا ہاتھ کے اشارہ سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت ہمارے پاس آئی، جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ وہ گھنگنی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ”تم نے اس کی غیبت کی۔“^(۲) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۵ ایک صورت غیبت کی نقل ہے مثلاً کسی لنگڑے کی نقل کرے اور لنگڑا کر چلے یا جس چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتاری جائے یہ بھی غیبت ہے، بلکہ زبان سے کہہ دینے سے یہ زیادہ برا ہے کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے کہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۶ غیبت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ کہا کہ ایک شخص ہمارے پاس اس قسم کا آیا تھا یا میں ایک شخص کے پاس گیا جو ایسا ہے اور مخاطب کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کا ذکر کرتا ہے، اگرچہ متکلم نے کسی کا نام نہیں لیا مگر جب مخاطب کو ان لفظوں سے سمجھا دیا تو غیبت ہو گئی کیونکہ جب مخاطب کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس فلاں آیا تھا یا یہ فلاں کے پاس گیا تھا تو اب نام لینا نہ لینا دونوں کا ایک حکم ہے، ہاں اگر مخاطب نے شخص معین کو نہیں سمجھا مثلاً اس کے پاس بہت سے لوگ آئے یا یہ بہتوں کے یہاں

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۵.

②..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۶.

انظر: ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضی اللہ عنہا، الحدیث: ۲۵۱۰۳، ج ۹، ص ۴۶۳.

و ”شعب الإیمان“ للبيهقي، باب فی تحریم أعراض الناس، الحدیث: ۶۷۶۷، ج ۵، ص ۳۱۳.

③..... ”الدرالمختار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۶.

گیا تھا مخاطب کو یہ پتا نہ چلا کہ یہ کس کے متعلق کہہ رہا ہے تو غیبت نہیں۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۱۷ جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے، جبکہ وہ صورتیں نہ ہوں جن میں عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ مسلم کی غیبت جس طرح حرام ہے کافر ذمی کی بھی ناجائز ہے کہ ان کے حقوق بھی مسلم کی طرح ہیں کافر حربی کی برائی کرنا غیبت نہیں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۸ کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ بھی ہو جبکہ غیبت میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا معتبر ہو مگر یہ اس سے بڑھ کر حرام ہے کیونکہ غیبت میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایذا مسلم ہے وہ یہاں بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے غیبت میں تو یہ احتمال ہے کہ اسے اطلاع ملے یا نہ ملے اگر اسے اطلاع نہ ہوئی تو ایذا بھی نہ ہوئی، مگر احتمال ایذا کو یہاں ایذا قرار دے کر شرع مطہر نے حرام کیا اور مؤنہ پر اس کی مذمت کرنا تو حقیقتہً ایذا ہے پھر یہ کیوں حرام نہ ہو۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کی غیبت کیوں کرتے ہو، وہ نہایت دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں مجھے اس کا ڈر پڑا ہے چلو میں اس کے مؤنہ پر یہ باتیں کہہ دوں گا ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت و حرام ہے اور مؤنہ پر کہو گے تو یہ دوسرا حرام ہوگا اگر تم اس کے سامنے کہنے کی جرأت رکھتے ہو تو اس کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہوگی۔

مسئلہ ۱۹ غیبت کے طور پر جو عیوب بیان کیے جائیں وہ کئی قسم کے ہیں، اس کے بدن میں عیب ہو مثلاً اندھا، کانا، لنگڑا، لولا، ہونٹ کٹنا، ناک چپٹا وغیرہ یا نسب کے اعتبار سے وہ عیب سمجھا جاتا ہو مثلاً اس کے نسب میں یہ خرابی ہے اس کی دادی، نانی چھاری تھی، ہندوستان والوں نے پیشہ کو بھی نسب ہی کا حکم دے رکھا ہے، لہذا بطور عیب کسی کو دھنا جو لاہا کہنا بھی غیبت و حرام ہے، اخلاق و افعال کی برائی یا اس کی بات چیت میں خرابی مثلاً ہکلا یا تو تلیا یا دین داری میں وہ ٹھیک نہ ہو یہ سب صورتیں غیبت میں داخل ہیں، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اچھے نہ ہوں یا مکان اچھا نہ ہو ان چیزوں کو بھی اس طرح ذکر کرنا جو اسے برا معلوم ہو، ناجائز ہے۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۰ جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے مثلاً کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف و اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے اور اگر ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے ایسا نہ کرنے

①..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۶.

②..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۶.

③..... المرجع السابق.

④..... المرجع السابق.

میں سننے والا بھی گناہ گار ہوگا، غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ حدیث میں ہے، ”جس نے اپنے مسلم بھائی کی آبرو و غیبت سے بچائی، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔“ (1) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۱۔ جس کی غیبت کی اگر اس کو اس کی خبر ہوگئی تو اس سے معافی مانگنی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا برائی کی تم معاف کر دو اس سے معاف کرائے اور توبہ کرے تب اس سے بری الذمہ ہوگا اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی ہو تو توبہ اور ندامت کافی ہے۔ (2) (درمختار)

مسئلہ ۲۲۔ جس کی غیبت کی ہے اسے خبر نہ ہوئی اور اس نے توبہ کر لی اس کے بعد اسے خبر ملی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے آیا اس کی توبہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں علما کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ توبہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمادے گا، جس نے غیبت کی اس کی مغفرت توبہ سے ہوئی اور جس کی غیبت کی گئی اس کو جو تکلیف پہنچی اور اس نے درگزر کیا، اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ معلق رہے گی اگر وہ شخص جس کی غیبت ہوئی خبر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تو توبہ صحیح ہے اور توبہ کے بعد اسے خبر پہنچ گئی تو صحیح نہیں، جب تک اس سے معاف نہ کرائے۔ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضرور ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ (3) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۳۔ معافی مانگنے میں یہ ضرور ہے کہ غیبت کے مقابل میں اس کی ثناء حسن کرے اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرے کہ اس کے دل سے یہ بات جاتی رہے اور فرض کرو اس نے زبان سے معاف کر دیا مگر اس کا دل اس سے خوش نہ ہوا تو اس کا معافی مانگنا اور اظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہو جائے گا اور آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ (4) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۴۔ اس نے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا مگر اس نے سچائی اور خلوص دل سے معافی نہیں مانگی تھی محض ظاہری اور نمائشی یہ معافی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں مواخذہ ہو، کیونکہ اس نے یہ سمجھ کر معاف کیا تھا کہ یہ خلوص کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے۔ (5) (ردالمحتار)

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۷.

”مجمع الزوائد“، کتاب الأدب، باب فيمن ذب... إلخ، الحديث: ۱۳۱۵۰، ج ۸، ص ۱۷۹.

②..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۷.

③..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۷.

④..... المرجع السابق.

⑤..... المرجع السابق.

مسئلہ ۲۵ → امام غزالی علیہ الرحمۃ یہ فرماتے ہیں، کہ جس کی غیبت کی وہ مرگیا یا کہیں غائب ہو گیا اس سے کیونکر معافی مانگے یہ معاملہ بہت دشوار ہو گیا، اس کو چاہیے کہ نیک کام کی کثرت کرے تاکہ اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں اسے دے دی جائیں، جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔^(۱) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۶ → اگر اس کی ایسی برائیاں بیان کی ہیں جن کو وہ چھپاتا تھا یعنی یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ان پر مطلع ہوں تو معافی مانگنے میں ان عیوب کی تفصیل نہ کرے، بلکہ مبہم طور پر یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارے عیوب لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں تم معاف کر دو اور اگر ایسے عیوب نہ ہوں تو تفصیل کے ساتھ بیان کرے۔ اسی طرح اگر وہ باتیں ایسی ہوں جن کے ظاہر کرنے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ظاہر نہ کرے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ حقوق مجہولہ کو معاف کر دینا بھی صحیح ہے اور اس طرح بھی معافی ہو سکتی ہے، لہذا اس قول پر بنا کی جائے اور ایسی خاص صورتوں میں تفصیل نہ کی جائے۔^(۲) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۷ → دو شخصوں میں جھگڑا تھا دونوں نے معذرت کے ساتھ مصافحہ کیا یہ بھی معافی کا ایک طریقہ ہے۔ جس کی غیبت کی ہے وہ مرگیا تو ورثہ کو یہ حق نہیں کہ معاف کریں ان کے معاف کرنے کا اعتبار نہیں۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۸ → کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا منع ہے اور پیٹھ پیچھے تعریف کی مگر یہ جانتا ہے کہ میرے اس تعریف کرنے کی خبر اس کو پہنچ جائے گی یہ بھی منع ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ پس پشت تعریف کرتا ہے اس کا خیال بھی نہیں کرتا کہ اسے خبر پہنچ جائے گی یا نہ پہنچے گی یہ جائز ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ تعریف میں جو خوبیاں بیان کرے وہ اس میں ہوں، شعراء کی طرح ان ہوئی باتوں کے ساتھ تعریف نہ کرے کہ یہ نہایت درجہ قبیح ہے۔^(۴) (عالمگیری)

بغض و حسد کا بیان

قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

﴿ وَلَا تَسْتَمُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ
وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ﴿۵﴾

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۷.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق، ص ۶۷۸.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثالث والعشرون فی الغیبۃ، ج ۵، ص ۳۶۳.

⑤..... پ ۵، النساء: ۳۲.

”اور اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ (عزوجل) نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ اور اللہ (عزوجل) سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ (عزوجل) ہر چیز کو جانتا ہے۔“ اور فرماتا ہے:

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾⁽¹⁾

”تم کہو! میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے، جب وہ حسد کرتا ہے۔“

حدیث ۱ ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔“⁽²⁾ اسی کی مثل ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

حدیث ۲ دیلمی نے مسند الفردوس میں معاویہ بن حیدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے، جس طرح ایلوا⁽³⁾ شہد کو بگاڑتا ہے۔“⁽⁴⁾

حدیث ۳ امام احمد و ترمذی نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی وہ بیماری حسد و بغض ہے، وہ مونڈنے والا ہے دین کو مونڈتا ہے بالوں کو نہیں مونڈتا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے! جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ اور مومن نہیں ہو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب اسے کرو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔“⁽⁵⁾

حدیث ۴ طبرانی نے عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حسد اور چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔“⁽⁶⁾ یعنی مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل تعلق نہ ہونا چاہیے۔

①..... پ ۳۰، الفلق: ۵.

②..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الزہد، باب الحسد، الحدیث: ۴۲۱۰، ج ۴ ص ۴۷۳.

③..... ایلوا: ایک کڑوے درخت کا جما ہوا رس ہے۔

④..... ”الجامع الصغیر“ للسیوطی، حرف الحاء، الحدیث: ۳۸۱۹، ص ۲۳۲.

⑤..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند الزبیر بن العوام، الحدیث: ۱۴۱۲، ۱۴۳۰، ج ۱، ص ۳۴۸، ۳۵۲.

و ”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة... إلخ، باب: ۱۲۱، الحدیث: ۲۵۱۸، ج ۴، ص ۲۲۸.

⑥..... ”مجمع الزوائد“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی الغیبة والنمیمة، الحدیث: ۱۳۱۲۶، ج ۸، ص ۱۷۲-۱۷۳.

حدیث ۵ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آپس میں نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو اور اللہ (عزوجل) کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو۔“ (1)

حدیث ۶ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”حسد نہیں ہے مگر دو پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے کتاب دی یعنی قرآن کا علم عطا فرمایا وہ اس کے ساتھ رات میں قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ کہ خدا نے اسے مال دیا وہ دن اور رات کے اوقات میں صدقہ کرتا ہے۔“ (2)

حدیث ۷ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں پر ایک وہ شخص جسے خدا نے قرآن سکھایا وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا، کاش! مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اُس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص کہ خدا نے اسے مال دیا وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے، کسی نے کہا، کاش! مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا۔“ (3)

ان دونوں حدیثوں میں حسد سے مراد غبطہ ہے جس کو لوگ رشک کہتے ہیں، جس کے یہ معنی ہیں کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ویسی مجھے بھی مل جائے اور یہ آرزو نہ ہو کہ اسے نہ ملتی یا اس سے جاتی رہے اور حسد میں یہ آرزو ہوتی ہے، اسی وجہ سے حسد مذموم ہے اور غبطہ مذموم نہیں۔ امام بخاری کے ترجمہ الباب سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں میں غبطہ مراد ہے، لہذا ان حدیثوں کے یہ معنی ہوئے کہ یہی دو چیزیں غبطہ کرنے کی ہیں، کہ یہ دونوں خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں غبطہ ان پر کرنا چاہیے نہ کہ دوسری نعمتوں پر، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حدیث ۸ بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں شب میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے اور جو رحم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے اور عداوت والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔“ (4)

حدیث ۹ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر ہفتہ میں دو بار دو شنبہ اور پنج شنبہ کو لوگوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے مگر وہ شخص کہ اس کے اور

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَجْتَنِبُوا...﴾، الحديث: ۶۰۶۶، ج ۴، ص ۱۱۷.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل القرآن، باب إغتياب صاحب القرآن، الحديث: ۵۰۲۵، ج ۳، ص ۴۱۰.

③..... المرجع السابق، الحديث: ۵۰۲۶، ج ۳، ص ۴۱۰.

④..... ”شعب الإيمان“، باب في الصيام، ماجاء في ليلة النصف من شعبان، الحديث: ۳۸۳۵، ج ۳، ص ۳۸۲-۳۸۳.

اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہوان کے متعلق یہ فرماتا ہے: ”انھیں چھوڑ دو اس وقت تک کہ باز آ جائیں۔“ (1)

حدیث ۱۰ طبرانی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دوشنبہ اور پنج شنبہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرمادیتا ہے مگر جو شخص باہم عداوت رکھتے ہیں اور وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے۔“ (2)

حدیث ۱۱ امام احمد و ابوداؤد و ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دوشنبہ اور پنج شنبہ کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جس بندہ نے شرک نہیں کیا ہے اسکی مغفرت کی جاتی ہے، مگر جو شخص ایسا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے انھیں مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔“ (3)

مسائل فقہیہ

حسد حرام ہے، احادیث میں اس کی بہت مذمت وارد ہوئی۔ حسد کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص میں خوبی دیکھی اس کو اچھی حالت میں پایا اس کے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے اور اگر یہ تمنا ہے کہ میں بھی ویسا ہو جاؤں مجھے بھی وہ نعمت مل جائے یہ حسد نہیں اس کو غبطہ کہتے ہیں جس کو لوگ رشک سے تعبیر کرتے ہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱ یہ آرزو کہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ بعینہا (5) مجھے مل جائے یہ حسد ہے، کیونکہ بعینہ وہی چیز اس کو جب ملے گی کہ اس سے جاتی رہے اور اگر یہ آرزو ہے کہ اس کی مثل مجھے ملے یہ غبطہ ہے کیونکہ اس سے زائل ہونے کی آرزو نہیں پائی گئی۔ (6) (عالمگیری) حدیث میں فرمایا ہے کہ ”حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، ایک وہ شخص جس کو خدا نے مال دیا ہے اور وہ راہ حق میں صرف کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے علم دیا ہے، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور علم کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔“ (7)

1..... "کنز العمال"، کتاب الاخلاق، رقم: ۷۴۴۹، ج ۳، ص ۱۸۷.

2..... "المعجم الكبير"، باب الالف، الحدیث: ۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۷.

3..... "سنن أبي داود"، کتاب الأدب، باب فیمن یهجر أحاه المسلم، الحدیث: ۴۹۱۶، ج ۴، ص ۳۶۴.

و "سنن الترمذی"، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی المتہاجرین، الحدیث: ۲۰۳۰، ج ۳، ص ۴۱۲.

4..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثالث والعشرون فی الغیبة، ج ۵، ص ۳۶۲-۳۶۳.

5..... یعنی ویسے ہی۔

6..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثالث والعشرون فی الغیبة، ج ۵، ص ۳۶۳.

7..... "صحیح البخاری"، کتاب العلم، باب الإغتیاط فی العلم والحکمة، الحدیث: ۷۳، ج ۱، ص ۴۳.

اس حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں حسد جائز ہے مگر بغور دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی حسد حرام ہے، بعض علما نے یہ بتایا کہ اس حدیث میں حسد بمعنی غبطہ ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ کے ترجمۃ الباب سے بھی یہی پتا چلتا ہے۔

اور بعض نے کہا کہ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان میں جائز ہوتا مگر ان میں بھی ناجائز ہے۔ جیسا کہ حدیث لَا شُؤْمَ إِلَّا فِي الدَّارِ (1) (الحديث) میں اسی قسم کی تاویل کی جاتی ہے۔ اور بعض علما نے فرمایا کہ معنی حدیث یہ ہیں کہ حسد انھیں دونوں میں ہو سکتا ہے اور چیزیں تو اس قابل ہی نہیں کہ ان میں حسد پایا جاسکے کہ حسد کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے میں کوئی نعمت دیکھے اور یہ آرزو کرے کہ وہ مجھے مل جائے اور دنیا کی چیزیں نعمت نہیں کہ جن کی تحصیل کی فکر ہو دنیا کی چیزوں کا مال اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا ہے، لہذا نعمت جس کا نام ہے وہ یہی ہیں ان میں حسد ہو سکتا ہے۔ (2) (عالمگیری وغیرہ)

ظلم کی مذمت

قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی برائی ذکر کی گئی اور احادیث اس کے متعلق بہت ہیں بعض ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہے۔ (3) یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت مصیبتوں اور تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

حدیث ۲ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی:

﴿وَكذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَالِمٌ﴾ (4)

”ایسی ہی تیرے رب کی پکڑ ہے، جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے۔“

حدیث ۳ جس کے ذمہ اس کے بھائی کا کوئی حق ہو وہ آج اس سے معاف کرالے، اس سے پہلے کہ نہ اشرفی ہوگی نہ روپیہ بلکہ اس کے عمل صالح کو بقدر حق لے کر دوسرے کو دیدیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں

1..... "صحیح مسلم"، کتاب الأدب، باب لا عدوی ولا طیرة، الحدیث: ۱۱۷- (۲۲۲۵)، ص ۱۲۲۳.

کتب حدیث میں یہ حدیث ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملی صحیح مسلم میں یہ حدیث ان الفاظ "الشؤم فی الدار والمرأة والفرس" کے ساتھ موجود ہے اس وجہ سے صحیح مسلم کا حوالہ ذکر کر دیا۔... علمہ

2..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثالث والعشرون فی الغیبة، ج ۵، ص ۳۶۲، وغیرہ.

3..... "صحیح البخاری"، کتاب المظالم، باب الظلم ظلمات یوم القیامة، الحدیث: ۲۴۴۷، ج ۲، ص ۱۲۷.

4..... "صحیح البخاری"، کتاب التفسیر، باب ﴿وَكذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ...﴾ الحدیث: ۴۶۸۶، ج ۳، ص ۲۴۷.

پ ۱۲، ہود: ۱۰۲.

یہی ملا کہ غصہ نہ کرو۔ (1) (بخاری)

حدیث ۲ قوی وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ قوی وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے۔ (2) (بخاری، مسلم)

حدیث ۳ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندہ نے غصہ کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ (عزوجل) کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ (3) (احمد)

حدیث ۴ قرآن مجید کی آیت ہے:

﴿ اِدْفِعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (4)

”اس کے ساتھ دفع کر جو احسن ہے پھر وہ شخص کہ تجھ میں اور اس میں عداوت ہے، ایسا ہو جائے گا گویا وہ خالص دوست ہے۔“

اس کی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ غصہ کے وقت صبر کرے اور دوسرا اس کے ساتھ برائی کرے تو یہ معاف کر دے، جب ایسا کریں گے اللہ (عزوجل) ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کا دشمن جھک جائے گا گویا وہ خالص دوست قریب ہے۔ (5) (بخاری)

حدیث ۵ غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے، جس طرح ایلو ا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ (6) (بیہقی)

حدیث ۶ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب! کون بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ فرمایا: ”وہ جو باوجود قدرت معاف کر دے۔“ (7) (بیہقی)

حدیث ۷ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، اللہ (عزوجل) اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو اپنے غصہ کو روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا اور جو اللہ (عزوجل) سے عذر کرے گا، اللہ (عزوجل) اس کے عذر کو

①.....”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، الحدیث: ۶۱۱۶، ج ۴، ص ۱۳۱.

②.....المرجع السابق، الحدیث: ۶۱۱۴، ج ۴، ص ۱۳۰.

③.....”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث: ۶۱۲۲، ج ۲، ص ۴۸۲.

④.....پ ۲۴، حم السجدة: ۳۴.

⑤.....”الدر المنثور في تفسیر المأثور“، ج ۷، ص ۳۲۷.

⑥.....”شعب الإيمان“، باب في حسن الخلق، فصل في ترك الغضب، الحدیث: ۸۲۹۴، ج ۶، ص ۳۱۱.

⑦.....المرجع السابق، الحدیث: ۸۳۲۷، ج ۶، ص ۳۱۹.

قبول فرمائے گا۔⁽¹⁾ (بیہقی)

حدیث ۸ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب کسی کو غصہ آجائے تو وضو کر لے۔⁽²⁾ (ابوداؤد)

حدیث ۹ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا جائے فبہا ورنہ لیٹ جائے۔⁽³⁾ (احمد، ترمذی)

حدیث ۱۰ بعض لوگوں کو غصہ جلد آ جاتا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے، ایک کے بدلے میں دوسرا ہے اور بعض کو دیر میں آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے یہاں بھی ایک کے بدلے میں دوسرا ہے یعنی ایک بات اچھی ہے اور ایک بری ادلا بدلا ہو گیا اور تم میں بہتر وہ ہیں کہ دیر میں انھیں غصہ آئے اور جلد چلا جائے اور بدتر وہ ہیں جنھیں جلد آئے اور دیر میں جائے۔ غصہ سے بچو کہ وہ آدمی کے دل پر ایک انگار ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں جو شخص غصہ محسوس کرے لیٹ جائے اور زمین سے چپٹ جائے۔⁽⁴⁾

حدیث ۱۱ میں تم کو جنت والوں کی خبر نہ دوں، وہ ضعیف ہیں جن کو لوگ ضعیف و حقیر جانتے ہیں۔ (مگر یہ یہ کہ) اگر اللہ (عزوجل) پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ (عزوجل) اس کو سچا کر دے اور کیا جہنم والوں کی خبر نہ دوں وہ سخت گوشت خوکبر کرنے والے ہیں۔⁽⁵⁾ (بخاری، مسلم)

حدیث ۱۲ جس کسی کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور جس کسی کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔⁽⁶⁾ (مسلم) دونوں جملوں کی وہی تاویل ہے جو اس مقام میں مشہور ہے۔

حدیث ۱۳ تین شخص ہیں جن سے قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زنا کار، بادشاہ کذاب اور محتاج متکبر۔⁽⁷⁾ (مسلم)

①..... "شعب الإيمان"، باب فی حسن الخلق، فصل فی ترک الغضب، الحدیث: ۸۳۱۱، ج ۶، ص ۳۱۵.

②..... "سنن أبي داود"، کتاب الأدب، باب ما يقال عند الغضب، الحدیث: ۴۷۸۴، ج ۴، ص ۳۲۷.

③..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبي ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۴۰۶، ج ۸، ص ۸۰-۸۱.

④..... "مشكاة المصابيح"، کتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الحدیث: ۵۱۴۵، ج ۳، ص ۱۰۰.

⑤..... "صحیح البخاری"، کتاب التفسیر، باب ﴿عُثْلِبٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ﴾، الحدیث: ۴۹۱۸، ج ۳، ص ۳۶۳.

⑥..... "صحیح مسلم"، کتاب الإيمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، الحدیث: ۱۴۸- (۹۱)، ص ۶۱.

⑦..... المرجع السابق، باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار والمن بالعطية... إلخ، الحدیث: ۱۷۲- (۱۰۷)، ص ۶۸.

حدیث ۱۳ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”کبریا اور عظمت میری صفتیں ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک میں مجھ سے منازعت کرے گا، اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔“ (۱) (مسلم)

حدیث ۱۵ آدمی اپنے کو (اپنے مرتبہ سے اونچے مرتبہ کی طرف) لے جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر جو انھیں پہنچے گا اسے بھی پہنچے گا۔ (۲) (ترمذی)

حدیث ۱۶ متکبرین کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کی برابر جسموں میں ہوگا اور ان کی صورتیں آدمیوں کی ہوں گی، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائے ہوئے ہوگی اور ان کو کھینچ کر جہنم کے قید خانہ کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی، جہنمیوں کا نچوڑ انھیں پلایا جائے گا جس کو طیۃ النجال کہتے ہیں۔ (۳) (ترمذی)

حدیث ۱۷ جو اللہ (عزوجل) کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ (عزوجل) اس کو بلند کرتا ہے، وہ اپنے نفس میں چھوٹا مگر لوگوں کی نظروں میں بڑا ہے اور جو بڑائی کرتا ہے اللہ (عزوجل) اس کو پست کرتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہے اور اپنے نفس میں بڑا ہے، وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سوزے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ (۴) (بیہقی)

حدیث ۱۸ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین ہلاک کرنے والی ہیں: نجات والی چیزیں یہ ہیں: پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ (عزوجل) سے تقویٰ، خوشی و ناخوشی میں حق بات بولنا، مالدارمی اور احتیاج کی حالت میں درمیانی چال چلنا۔

ہلاک کرنے والی یہ ہیں: خواہش نفسانی کی پیروی کرنا اور بخل کی اطاعت اور اپنے نفس کے ساتھ گھمنڈ کرنا، یہ سب میں سخت ہے۔ (۵) (بیہقی)

ہجر اور قطع تعلق کی ممانعت

حدیث ۱ صحیح مسلم و بخاری میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

①..... ”مشکاۃ المصابیح“، کتاب الآداب، باب الغضب والكبر، الحدیث: ۵۱۱۰، ج ۳، ص ۹۲۔

و ”سنن أبي داود“، کتاب اللباس، باب ماجاء في الكبر، الحدیث: ۴۰۹۰، ج ۴، ص ۸۱۔

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء في الكبر، الحدیث: ۲۰۰۷، ج ۳، ص ۴۰۳۔

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة... إلخ، باب: ۱۱۲، الحدیث: ۲۵۰۰، ج ۴، ص ۲۲۱۔

④..... ”شعب الإيمان“، باب في حسن الخلق، فصل في التواضع، الحدیث: ۸۱۴۰، ج ۶، ص ۲۷۶۔

⑤..... ”شعب الإيمان“، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، فصل في الطبع على القلب، الحدیث: ۷۲۵۲، ج ۵، ص ۴۵۲۔

نے فرمایا: ”آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، کہ دونوں ملتے ہیں ایک ادھر مونھ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر مونھ پھیر لیتا ہے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو ابتداءً سلام کرے۔“ (1)

حدیث ۲ — ابوداؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مسلم کے لیے یہ نہیں ہے کہ دوسرے مسلم کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، جب اس سے ملاقات ہو تو تین مرتبہ سلام کر لے، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اسی کے ذمہ ہے۔“ (2)

حدیث ۳ — ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے، اگر تین دن گزر گئے ملاقات کر لے اور سلام کرے اگر دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر میں دونوں شریک ہو گئے اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمہ ہے اور یہ شخص چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔“ (3)

حدیث ۴ — ابوداؤد نے ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑ دے، تو یہ اس کے قتل کی مثل ہے۔“ (4)

حدیث ۵ — امام احمد و ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلم کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے، پھر جس نے ایسا کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا۔“ (5)

سلوک کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ ﴾ (6)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب الهجرة، الحدیث: ۶۰۷۷، ج ۴، ص ۱۲۰.

②..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فیمن یہجر أخاه المسلم، الحدیث: ۴۹۱۳، ج ۴، ص ۳۶۴.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۹۱۲، ج ۴، ص ۳۶۳.

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۹۱۵، ج ۴، ص ۳۶۴.

⑤..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۹۱۴، ج ۴، ص ۳۶۴.

⑥..... پ ۱، البقرة: ۸۳.

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ (عزوجل) کے سوا کسی کو نہ پوجنا اور ماں باپ اور رشتہ والوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور نماز قائم کرو اور زکاۃ دو۔“

اور فرماتا ہے:

﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِ وَالتَّائِبِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱﴾﴾

”تم فرماؤ! جو کچھ نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر کے لیے ہو اور جو کچھ بھلائی کرو گے، بے شک اللہ (عزوجل) اس کو جانتا ہے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبْتَغَِنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿۲﴾ ۗ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿۳﴾﴾

”اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے آف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے عزت کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دے نرم دلی سے اور یہ کہہ کہ اے میرے پروردگار! ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ﴾ (3)

”اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً ۗ أُمُّهُ وَهُنَّاعِلٌ وَهِيَ بِفَضْلِهِ فِي عَامِنِ أَنْ اشْكُرُنِي وَلِوَالِدَيْكَ ۗ إِلَىٰ

1 پ ۲، البقرة: ۲۱۵.

2 پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲۳ - ۲۴.

3 پ ۲۰، العنکبوت: ۸.

الْمَصِيئَةِ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴿١٥﴾ (1)

”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹا دو برس میں ہے یہ کہ شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، میری ہی طرف تجھے آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں بھلائی کے ساتھ ان کا ساتھ دے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴿٢٦﴾﴾ (2)

”اور ہم نے آدمی کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جتا۔“

اور فرماتا ہے:

﴿إِنَّمَا يَسْتَدْكُرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْبَيْتَاتِ ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ يَبِغُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٦٢﴾﴾ (3)

”نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ (عزوجل) کا عہد پورا کرتے ہیں اور بات پختہ کر کے نہیں توڑتے اور جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴿٦٣﴾ أُولَٰئِكَ لَنْ تُحِبَّهُمُ النَّعْتَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٦٤﴾﴾ (4)

”اور جو لوگ اللہ (عزوجل) کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ (عزوجل) نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔“

① پ ۲۱، لقمن: ۱۴-۱۵.

② پ ۲۶، الأحقاف: ۱۵.

③ پ ۱۳، الرعد: ۱۹، ۲۱.

④ پ ۱۳، الرعد: ۲۵.

اور فرماتا ہے:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَامَ ۗ﴾ (1)

”اور اللہ (عزوجل) سے ڈرو، جس سے تم سوال کرتے ہو اور رشتہ سے۔“

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سب سے زیادہ حسنِ صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا: ”تمہاری ماں یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا: تمہارا والد۔“ (2) اور ایک روایت میں ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”سب سے زیادہ ماں ہے، پھر ماں، پھر باپ، پھر وہ جو زیادہ قریب، پھر وہ ہے جو زیادہ قریب ہے۔“ (3) یعنی احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی تین درجہ بلند ہے۔

حدیث ۲ ابوداؤد و ترمذی بروایت بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ راوی، کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا: ”اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنے باپ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو۔“ (4)

حدیث ۳ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے۔“ (5) یعنی جب باپ مر گیا یا کہیں چلا گیا ہو۔

حدیث ۴ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک میں ملے۔ (اس کو تین مرتبہ فرمایا) یعنی ذلیل ہو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کون؟ یعنی یہ کس کے متعلق ارشاد ہے۔ فرمایا: ”جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔“ (6)

①..... پ ۴، النساء: ۱.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، الحدیث: ۵۹۷۱، ج ۴، ص ۹۳.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب بر الوالدین... إلخ، الحدیث: ۲۰۱- (۲۵۴۸)، ص ۱۳۷۸، ۱۳۷۹.

④..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی بر الوالدین، الحدیث: ۱۹۰۳، ج ۳، ص ۳۵۸.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب فضل صلۃ أصدقاء... إلخ، الحدیث: ۱۲۰۱۱- (۲۵۵۲)، ص ۱۳۸۲.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر... إلخ، باب رغم من أدرك أبویہ... إلخ، الحدیث: ۱۰۰۹- (۲۵۵۱)، ص ۱۳۸۱.

یعنی ان کی خدمت نہ کی کہ جنت میں جاتا۔

حدیث ۵ صحیح بخاری و مسلم میں اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتی ہیں: جس زمانہ میں قریش

نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے معاہدہ کیا تھا میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا: ”اس کے ساتھ سلوک کرو۔“^(۱) یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔

حدیث ۶ صحیح بخاری و مسلم میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں:

① ماؤں کی نافرمانی کرنا اور ② لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور ③ دوسروں کا جو اپنے اوپر آتا ہوا سے نہ دینا اور اپنا مانگنا کہ لاؤ۔ اور یہ باتیں تمہارے لیے مکروہ کیں: ① قیل وقال یعنی فضول باتیں اور ② کثرت سوال اور ③ إضاعت مال۔“^(۲)

حدیث ۷ صحیح مسلم و بخاری میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا: ”ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔“^(۳)

صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔

حدیث ۸ شرح سنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، حارثہ بن نعمان ہیں۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا، حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔“^(۴)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب الحزیة و الموائد، الحدیث: ۳۱۸۳، ج ۲، ص ۳۷۱.

و ”صحیح مسلم“، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة و الصدقة... إلخ، الحدیث: ۵۰، ۴۹، (۱۰۰۳)، ص ۵۰۲.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الإستقراض و الدیون، باب ما ینہی عن إضاعة المال، الحدیث: ۲۴۰۸، ج ۲، ص ۱۱۱.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب الكبائر و اکبرها، الحدیث: ۱۴۶، (۹۰)، ص ۶۰.

④..... ”شرح السنہ“، کتاب البر و الصلوة، باب بر الوالدین، الحدیث: ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ج ۶، ص ۴۲۶ - ۴۲۷.

حدیث ۹ — ترمذی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پروردگاری خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگاری ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔“ (1)

حدیث ۱۰ — ترمذی وابن ماجہ نے روایت کی، کہ ایک شخص ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میری ماں مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے دوں۔ ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”والد جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اب تیری خوشی ہے کہ اس دروازہ کی حفاظت کرے یا ضائع کر دے۔“ (2)

حدیث ۱۱ — ترمذی و ابوداؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں میں اپنی بی بی سے محبت رکھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کراہت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے نہیں دی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھ سے فرمایا کہ ”اسے طلاق دے دو۔“ (3)

علماء فرماتے ہیں کہ اگر والدین حق پر ہوں جب تو طلاق دینا واجب ہی ہے اور اگر بی بی حق پر ہو جب بھی والدین کی رضامندی کے لیے طلاق دینا جائز ہے۔

حدیث ۱۲ — ابن ماجہ نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ ”وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں۔“ (4) یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہو گے۔

حدیث ۱۳ — بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق خدا کی نافرمانی کرتا

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلة، باب ماجاء من الفضل فی رضا الوالدین، الحدیث: ۱۹۰۷، ج ۳، ص ۳۶۰.

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۹۰۶، ج ۳، ص ۳۵۹.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی بر الوالدین، الحدیث: ۵۱۳۸، ج ۴، ص ۴۳۲.

④..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب بر الوالدین، الحدیث: ۳۶۶۲، ج ۴، ص ۱۸۶.

ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ فرمایا: ”اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔“ (1)

حدیث ۱۳ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا: ہاں اللہ (عزوجل) بڑا ہے اور اطیب ہے۔“ (2) یعنی اُسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جائے۔

حدیث ۱۵ امام احمد و نسائی و بیہقی نے معاویہ بن جاہمہ سے روایت کی، کہ ان کے والد جاہمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے مشورہ لینے کو حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا: تیری ماں ہے؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا: ”اس کی خدمت لازم کر لے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے۔“ (3)

حدیث ۱۶ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکو کار لکھ دیتا ہے۔“ (4)

حدیث ۱۷ نسائی و داری نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”منان یعنی احسان جتانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب خواری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“ (5)

حدیث ۱۸ ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، آیا میری توبہ

①..... ”شعب الإيمان“، باب فی بر الوالدین، فصل فی حفظ حق الوالدین بعد موتہما، فصل، الحدیث: ۷۹۱۶، ج ۶، ص ۲۰۶.

②..... ”شعب الإيمان“، باب فی بر الوالدین، الحدیث: ۷۸۵۶، ج ۶، ص ۱۸۶.

③..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث معاویہ بن جاہمہ، الحدیث: ۱۵۵۳۸، ج ۵، ص ۲۹۰.

و ”سنن النسائی“، کتاب الجہاد، باب الرخصة فی التحلف لمن له والدہ، الحدیث: ۳۱۰۱، ص ۵۰۴.

④..... ”شعب الإيمان“، باب فی بر الوالدین، فصل فی حفظ حق الوالدین بعد موتہما، الحدیث: ۷۹۰۲، ج ۶، ص ۲۰۲.

⑤..... ”سنن النسائی“، کتاب الأشربة، باب الروایة فی المذمنین فی الخمر، الحدیث: ۵۶۸۲، ص ۸۹۵.

قبول ہوگی؟ فرمایا: کیا تیری ماں زندہ ہے۔ عرض کی نہیں، فرمایا: تیری کوئی خالہ ہے۔ عرض کی ہاں، فرمایا: ”اس کے ساتھ احسان کر۔“ (1)

حدیث ۱۹ ابوداؤد و ابن ماجہ نے ابی اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ میں کا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرے والدین مر چکے ہیں اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے؟ فرمایا: ”ہاں ان کے لیے دُعا و استغفار کرنا اور جو انھوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا اور جس رشتہ والے کے ساتھ انھیں کی وجہ سے سلوک کیا جاسکتا ہو اس کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔“ (2)

حدیث ۲۰ حاکم نے مستدرک میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ منبر کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ہم سب حاضر ہوئے، جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) منبر کے پہلے درجہ پر چڑھے فرمایا: آمین، جب دوسرے درجہ پر چڑھے کہا: آمین، جب تیسرے درجہ پر چڑھے کہا: آمین۔ جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) منبر سے اترے ہم نے عرض کی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے آج ایسی بات سنی کہ کبھی ایسی نہیں سنا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ”جبریل میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ اسے رحمت الہی سے دوری ہو، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس پر میں نے آمین کہی۔ جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انھوں نے کہا، اس شخص کے لیے رحمت الہی سے دوری ہو، جس کے سامنے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا ذکر ہو اور وہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) پر درود نہ پڑھے، اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انھوں نے کہا، اس کے لیے دوری ہو، جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھا پایا اور انھوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، میں نے کہا آمین۔“ (3)

حدیث ۲۱ بیہقی نے سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ویسا ہی حق ہے، جیسا کہ باپ کا حق اولاد پر ہے۔“ (4)

حدیث ۲۲ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا، رشتہ (کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے) کھڑا ہوا اور دربار الوہیت میں استغاثہ کیا، ارشاد الہی ہوا:

①.....”سنن الترمذی“، کتاب البر و الصلۃ، باب فی ہر الخالۃ، الحدیث: ۱۹۱۱، ج ۳، ص ۳۶۲.

②.....”سنن ابی داؤد“، کتاب الأدب، باب فی ہر الوالدین، الحدیث: ۵۱۴۲، ج ۴، ص ۴۳۴.

③.....”المستدرک“ للحاکم، کتاب البر و الصلۃ، باب لعن اللہ العاق لوالدیہ... إلخ، الحدیث: ۷۳۳۸، ج ۵، ص ۲۱۲.

④.....”شعب الایمان“، باب فی ہر الوالدین، فصل فی صلۃ الرحم، الحدیث: ۷۹۲۹، ج ۶، ص ۲۱۰.

کیا ہے۔ رشتہ نے کہا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے۔ ارشاد ہوا: کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا، ہاں میں راضی ہوں، فرمایا: تو بس یہی ہے۔“ (1)

حدیث ۲۳ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: رحم (رشتہ) رحمن سے مشتق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو تجھے ملائے گا، میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا، میں اسے کاٹوں گا۔“ (2)

حدیث ۲۴ صحیح بخاری و مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے: جو مجھے ملائے گا، اللہ (عزوجل) اس کو ملائے گا اور جو مجھے کاٹے گا، اللہ (عزوجل) اسے کاٹے گا۔“ (3)

حدیث ۲۵ ابوداؤد نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ”میں اللہ ہوں اور میں رحمن ہوں، رحم (یعنی رشتہ) کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہذا جو اسے ملائے گا، میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا، میں اسے کاٹوں گا۔“ (4)

حدیث ۲۶ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کے اثر (یعنی عمر) میں تاخیر کی جائے، تو اپنے رشتہ والوں کے ساتھ سلوک کرے۔“ (5)

حدیث ۲۷ ابن ماجہ نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی مگر دعا اور بر۔“ (6) یعنی احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ یہاں تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے اور زیادتی عمر کا بھی

1..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب من وصل وصلہ اللہ، الحدیث: ۵۹۸۷، ج ۴، ص ۹۷.

2..... المرجع السابق، الحدیث: ۵۹۸۸، ج ۴، ص ۹۸.

3..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب صلة الرحم... إلخ، الحدیث: ۱۷- (۲۵۵۵)، ص ۱۳۸۳.

4..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی قطیعة الرحم، الحدیث: ۱۹۱۴، ج ۳، ص ۳۶۳.

و ”سنن أبی داؤد“، کتاب الزکاة، باب فی صلة الرحم، الحدیث: ۱۶۹۴، ج ۲، ص ۱۸۴.

5..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب صلة الرحم... إلخ، الحدیث: ۲۱- (۲۵۵۷)، ص ۱۳۸۴.

6..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الفتن، باب العقوبات، الحدیث: ۴۰۲۲، ج ۴، ص ۳۶۹.

یہی مطلب ہے کہ احسان کرنا درازی عمر کا سبب ہے اور رزق سے ثواب اُخروی مراد ہے کہ گناہ اس کی محرومی کا سبب ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں دُنیوی رزق سے بھی محروم ہو جائے۔

حدیث ۲۸ حاکم نے مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے نسب پہچانو تا کہ صلہ رحم کرو، کیونکہ اگر رشتہ کو کاٹا جائے تو اگرچہ قریب ہو وہ قریب نہیں اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں اگرچہ دور ہو۔“ (1)

حدیث ۲۹ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے نسب کو اتنا سیکھو جس سے صلہ رحم کر سکو، کیونکہ صلہ رحم اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے اس سے مال میں زیادتی اور اثر (یعنی عمر) میں تاخیر ہوگی۔“ (2)

حدیث ۳۰ حاکم نے مستدرک میں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ والوں سے سلوک کرے۔“ (3)

حدیث ۳۱ صحیح بخاری و مسلم میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“ (4)

حدیث ۳۲ بیہقی نے شعب الایمان میں عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ ”جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نہیں اُترتی۔“ (5)

حدیث ۳۳ ترمذی و ابوداؤد نے ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں۔“ (6)

①.....”المستدرک“، کتاب البر و الصلۃ، باب ان اللہ ليعمر بالقوم الزمان بصلتہم لارحامہم، الحدیث: ۷۳۶۵، ج ۵، ص ۲۲۳.

②.....”سنن الترمذی“، کتاب البر و الصلۃ، باب ماجاء فی تعلیم النسب، الحدیث: ۱۹۸۶، ج ۳، ص ۳۹۴.

③.....”المستدرک“، کتاب البر و الصلۃ، باب من سرہ ان یدفع عنہ میتۃ السوء... إلخ، الحدیث: ۷۳۶۲، ج ۵، ص ۲۲۲.

④.....”صحیح مسلم“، کتاب البر و الصلۃ... إلخ، باب صلۃ الرحم... إلخ، الحدیث: ۱۸۔ (۲۵۵۶)، ص ۱۳۸۳.

⑤.....”شعب الایمان“، باب فی صلۃ الأرحام، الحدیث: ۷۹۶۲، ج ۶، ص ۲۲۳.

⑥.....”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة، باب: ۱۲۲، الحدیث: ۲۵۱۹، ج ۴، ص ۲۲۹.

اور بیہوشی کی روایت شعب الایمان میں انھیں سے یوں ہے کہ ”جبنے گناہ ہیں ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے سوا والدین کی نافرمانی کے، کہ اس کی سزا زندگی میں موت سے پہلے دی جاتی ہے۔“ (1)

حدیث ۳۳ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صلہ رحمی اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاٹا جاتا ہے اور یہ جوڑتا ہے۔“ (2)

حدیث ۳۵ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک شخص نے عرض کی، کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میری قرابت والے ایسے ہیں کہ میں انھیں ملاتا ہوں اور وہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ”اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا تو تم ان کو گرم راکھ پھنکاتے ہو اور ہمیشہ اللہ (عزوجل) کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا، جب تک تمہاری یہی حالت رہے۔“ (3)

حدیث ۳۶ حاکم نے مستدرک میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کو گیا۔ میں نے جلدی سے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا دست مبارک پکڑ لیا اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا: ”اے عقبہ! دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ، جو تمہیں جدا کرے اور جو تم پر ظلم کرے، اسے معاف کر دو اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو، وہ اپنے رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرے۔“ (4)

مسائل فقہیہ

صلہ رحم کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے، جن رشتہ والوں کے ساتھ صلہ واجب ہے وہ کون ہیں۔ بعض علما نے فرمایا: وہ ذورحم محرم ہیں اور بعض نے فرمایا: اس سے مراد ذورحم ہیں، محرم ہوں یا نہ ہوں۔

- 1..... ”شعب الایمان“، باب فی بر الوالدین، فصل فی عقوق الوالدین وما جاء فیہ، الحدیث: ۷۸۸۹، ج ۶، ص ۱۹۷.
- 2..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمکافی، الحدیث: ۵۹۹۱، ج ۴، ص ۹۸.
- 3..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب صلۃ الرحم... إلخ، الحدیث: ۲۲- (۲۵۵۸)، ص ۱۳۸۴.
- 4..... ”المستدرک“، کتاب البر والصلۃ، باب من أراد أن یمد فی رزقہ فلیصل ذا رحمہ، الحدیث: ۷۳۶۷، ج ۵، ص ۲۲۴.

اور ظاہر یہی قول دوم ہے احادیث میں مطلقاً رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرنے کا حکم آتا ہے قرآن مجید میں مطلقاً ذوی القربیٰ فرمایا گیا مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتہ میں چونکہ مختلف درجات ہیں صلہ رحم کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا، ان کے بعد بقیہ رشتہ والوں کا علی قدر مراتب۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۱ - صلہ رحم کی مختلف صورتیں ہیں ان کو ہدیہ و تحفہ دینا اور اگر ان کو کسی بات میں تمھاری اعانت درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انھیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔⁽²⁾ (درر)

مسئلہ ۲ - اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتہ والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - یہ پردیس میں ہے والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے۔ یوہیں والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے، باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں، بعض علمائے چچا کو باپ کی مثل بتایا اور حدیث **عَمُّ الرَّجُلِ صِنُوْا اَبِيْهِ**۔⁽⁴⁾ سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ بھیجنا کفایت کرتا ہے۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ - رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتار ہے یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے علیٰ ہذا القیاس کہ اس سے محبت و اُلفت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اقربا سے جمعہ ملتا رہے یا مہینہ میں ایک بار اور تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک ہونا چاہیے۔ جب حق ان کے ساتھ ہو تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہارِ حق میں سب متحد ہو کر کام کریں، جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم ہے۔⁽⁶⁾ (درر)

مسئلہ ۵ - صلہ رحمی اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مکافاة یعنی ادلا بدلا کرنا ہے

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۸.

②..... "دررالحکام"، کتاب الکراہیۃ، الجزء الأول، ص ۳۲۳.

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۸.

④..... یعنی آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، ج ۹، ص ۶۷۸.

⑥..... "دررالحکام"، کتاب الکراہیۃ، الجزء الأول، ص ۳۲۳.

کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتہ کے حقوق کی مراعات کرو۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ حدیث میں آیا ہے کہ ”صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔“ بعض علما نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے یعنی یہاں قضا معلق مراد ہے کیونکہ قضا مبرم نل نہیں سکتی۔

﴿ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِلُونَهَا ۖ ﴾⁽²⁾

اور بعض نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے گویا وہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

اولاد پر شفقت اور یتامی پر رحمت

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں۔“⁽⁴⁾

حدیث ۲ صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں: ایک عورت اپنی دو لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی جب وہ چلی گئی، حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے، میں نے یہ واقعہ بیان کیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ”جس کو خدا نے لڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی۔“⁽⁵⁾

①..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۸.

②..... پ ۱۱، یونس: ۴۹.

ترجمہ کنز الایمان: جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔

③..... ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۸.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله... إلخ، الحدیث: ۵۹۹۸، ج ۴، ص ۱۰۰.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلوة... إلخ، باب فضل الإحسان إلى البنات، الحدیث: ۱۴۷- (۲۶۲۹)، ص ۱۴۱.

حدیث ۳ امام احمد و مسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: ایک مسکین عورت دو لڑکیوں کو لے کر میرے پاس آئی، میں نے اسے تین کھجوریں دیں، ایک ایک لڑکیوں کو دے دی اور ایک کو مونہہ تک کھانے کے لیے لے گئی کہ لڑکیوں نے اس سے مانگی، اس نے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دی۔ جب یہ واقعہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو سنایا ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور جہنم سے آزاد کر دیا۔“ (1)

حدیث ۴ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کی عیال (پرورش) میں دو لڑکیاں بلوغ تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح۔“ (2)

حدیث ۵ شرح سنہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا مگر جبکہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو اور جو شخص تین لڑکیوں یا اتنی ہی بہنوں کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انھیں بے نیاز کر دے (یعنی اب ان کو ضرورت باقی نہ رہے)، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔“ کسی نے کہا، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) یا دو (یعنی دو کی پرورش میں یہی ثواب ہو جائے)، فرمایا: دو (یعنی ان میں بھی وہی ثواب ہے) اور اگر لوگوں نے ایک کے متعلق کہا ہوتا تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ایک کو بھی فرما دیتے۔ اور جس کی کَرِیْمَتَیْنِ کو اللہ (عزوجل) نے دور کر دیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دریافت کیا گیا کَرِیْمَتَیْنِ کیا ہیں؟ فرمایا: آنکھیں۔“ (3)

حدیث ۶ ابوداؤد نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں اور وہ عورت جس کے رخسارے میلے ہیں، دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔“ (4) یعنی جس طرح کلمہ اور بیچ کی انگلیاں پاس پاس ہیں۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جو منصب و جمال والی تھی اور بیوہ ہو گئی اور اس نے یتیموں کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں۔ (یعنی بڑے ہو جائیں یا مرجائیں۔)

حدیث ۷ امام احمد و حاکم و ابن ماجہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

①.....”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلة... إلخ، باب فضل الاحسان الی البنات، الحدیث: ۱۴۸- (۲۶۳۰)، ص ۱۴۱۵.

②.....المرجع السابق، الحدیث: ۱۴۹- (۲۶۳۱)، ص ۱۴۱۵.

③.....”شرح السنہ“، کتاب البر والصلة، باب ثواب کافل الیتیم، الحدیث: ۳۳۵۱، ج ۶، ص ۴۵۲.

و”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة علی الخلق، الحدیث: ۴۹۷۵، ج ۳، ص ۶۹.

④.....”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی فضل من عال یتامی، الحدیث: ۵۱۴۹، ج ۴، ص ۴۳۵.

وسلم نے فرمایا: ”کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے، وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے، جو تمہاری طرف واپس ہوئی (یعنی اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق دے دی اور باپ کے یہاں چلی آئی) تمہارے سو اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔“ (1)

حدیث ۸ ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اولاد ذکور کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔“ (2)

حدیث ۹ ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب دے، وہ اس کے لیے ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔“ (3)

حدیث ۱۰ ترمذی و بیہقی نے بروایت ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”باپ کا اولاد کو کوئی عطیہ ادب حسن سے بہتر نہیں۔“ (4)

حدیث ۱۱ ترمذی و حاکم نے عمرو بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں، کہ اسے اچھے آداب سکھائے۔“ (5)

حدیث ۱۲ ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔“ (6)

حدیث ۱۳ ابن النجار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”باپ کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں، جس طرح اولاد کے ذمہ باپ کے حقوق ہیں۔“ (7)

حدیث ۱۴ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنی اولاد کو برابر دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا۔“ (8)

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب بر الوالد... إلخ، الحدیث: ۳۶۶۷، ج ۴، ص ۱۸۸.

②..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب في فضل من عال يتامى، الحدیث: ۵۱۴۶، ج ۴، ص ۴۳۵.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء في أدب الولد، الحدیث: ۱۹۵۸، ج ۳، ص ۳۸۲.

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۹۵۹، ج ۳، ص ۳۸۳.

⑤..... ”المستدرک“ للحاکم، کتاب الأدب، باب فضل تادیب الأولاد، الحدیث: ۷۷۵۳، ج ۵، ص ۳۷۳.

⑥..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الأدب، باب بر الوالد... إلخ، الحدیث: ۳۶۷۱، ج ۴، ص ۱۸۹.

⑦..... ”کنز العمال“، کتاب النکاح، رقم: ۴۵۳۳۶، ج ۱۶، ص ۱۸۴.

⑧..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۱۹۹۷، ج ۱۱، ص ۲۸۰.

حدیث ۱۵ طبرانی نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عطیہ میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جس طرح تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے ساتھ احسان و مہربانی میں عدل کریں۔“ (1)

حدیث ۱۶ ابن النجار نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں۔“ (2)

حدیث ۱۷ صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔“ (3)

حدیث ۱۸ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو اور مسلمانوں میں سب سے برا وہ گھر ہے، جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کی جاتی ہو۔“ (4)

حدیث ۱۹ امام احمد و ترمذی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ (عزوجل) کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا، ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں (دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا) اس طرح ہوں گے۔“ (5)

حدیث ۲۰ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص نے اپنی دل کی سختی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔“ (6)

حدیث ۲۱ طبرانی نے اوسط میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما (7) سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:

①..... "کنز العمال"، کتاب النکاح، رقم: ۴۵۳۳۹، ج ۱۶، ص ۱۸۴.

②..... "کنز العمال"، کتاب النکاح، رقم: ۴۵۳۴۲، ج ۱۶، ص ۱۸۵.

③..... "صحیح البخاری"، کتاب الطلاق، باب اللعان... إلخ، الحدیث: ۴۵۳۰، ج ۳، ص ۴۹۷.

و "صحیح مسلم"، کتاب الزہد... إلخ، باب فضل الإحسان إلى الأرملة... إلخ، الحدیث: ۴۲- (۲۹۸۳)، ص ۱۵۹۲.

④..... "سنن ابن ماجہ"، کتاب الأدب، باب حق الیتیم، الحدیث: ۳۶۷۹، ج ۴، ص ۱۹۳.

⑤..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبي أمامة الباهلی، الحدیث: ۲۲۲۱۵، ۲۲۳۴۷، ج ۸، ص ۲۷۲، ۳۰۰.

⑥..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة الحدیث: ۹۰۲۸، ج ۳، ص ۳۳۵.

⑦..... بہار شریعت میں اس مقام پر "ابو ہریرہ" رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ "المعجم الاوسط للطبرانی" میں "عبداللہ بن عباس" رضی اللہ تعالیٰ عنہما مذکور ہے، اسی وجہ سے ہم نے متن میں تصحیح کر دی ہے۔... علمہ

وسلم) نے فرمایا کہ ”لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے اور بچہ کا باپ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے۔“ (1)

پڑوسیوں کے حقوق

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (2)

”اور اللہ (عزوجل) کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسایہ اور دور کے ہمسایہ اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے باندی غلام سے، بے شک اللہ (عزوجل) کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔“

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خدا کی قسم! وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی، کون یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) فرمایا: وہ شخص کہ اس کے پروسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں۔“ (3) یعنی جو اپنے پروسیوں کو تکلیفیں دیتا ہے۔

حدیث ۲ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کا پروسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔“ (4)

حدیث ۳ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ”جبرئیل علیہ السلام مجھے پروسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پروسی کو وارث بنا دیں گے۔“ (5)

①.....”المعجم الأوسط“، باب الالف، الحدیث: ۱۲۷۹، ج ۱، ص ۳۵۱.

②.....پ ۵، النساء: ۳۶.

③.....”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب اثم من لایا من جارہ بوائفہ، الحدیث: ۶۰۱۶، ج ۴، ص ۱۰۴.

④.....”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب بیان تحریم إیذاء الجار، الحدیث: ۷۳- (۴۶)، ص ۴۳.

⑤.....”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، الحدیث: ۶۰۱۴، ج ۴، ص ۱۰۴.

حدیث ۴ — ترمذی و دارمی و حاکم نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے، جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو اور پڑوسیوں میں اللہ (عزوجل) کے نزدیک وہ بہتر ہے، جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔“ (1)

حدیث ۵ — حاکم نے متدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ (عزوجل) اور پچھلے دن (قیامت) پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔“ (2)

حدیث ۶ — ابن ماجہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: ایک شخص نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) مجھے یہ کیونکر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا: ”جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا ہے تو بے شک تم نے اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا ہے۔“ (3)

حدیث ۷ — بیہقی نے شعب الایمان میں عبدالرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم) نے وضو کا پانی لے کر مونہ وغیرہ پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: کیا چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے؟ عرض کی، اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی محبت، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”جس کی خوشی یہ ہو کہ اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے محبت کرے یا اللہ و رسول (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اس سے محبت کریں، وہ جب بات بولے سچ بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کر دے اور جو اس کے جواریں ہو، اس کے ساتھ احسان کرے۔“ (4)

حدیث ۸ — بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: ”مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔“ (5) یعنی مومن کامل نہیں۔

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی حق الجوار، الحدیث: ۱۹۵۱، ج ۳، ص ۳۷۹.

②..... ”المستدرک“ للحاکم، کتاب البر والصلۃ، باب غیر الأصحاب عند اللہ... إلخ، الحدیث: ۷۳۷۸، ج ۵، ص ۲۲۸.

③..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الزہد، باب الثناء الحسن، الحدیث: ۴۲۲۳، ج ۴، ص ۴۷۹.

④..... ”شعب الایمان“، باب فی تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجلالہ وتوقیرہ، الحدیث: ۱۵۳۳، ج ۲، ص ۲۰۱.

⑤..... ”شعب الایمان“، باب فی الزکاۃ، فصل فی کراہیۃ امساک الفضل... إلخ، الحدیث: ۳۳۸۹، ج ۳، ص ۲۲۵.

حدیث ۹ طبرانی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”جب کوئی شخص ہانڈی پکائے تو شور زیادہ کرے اور پروسی کو بھی اس میں سے کچھ دے۔“ (1)

حدیث ۱۰ دیلمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”اے عائشہ! پروسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی۔“ (2)

حدیث ۱۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”پروسی تمہاری دیوار پر کڑیاں رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کرو۔“ (3) یہ حکم دیانت کا ہے، قضاء اس کو منع کر سکتا ہے۔

حدیث ۱۲ امام احمد و بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ کثرت سے کرتی ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پروسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا: ”وہ جہنم میں ہے۔“ انھوں نے کہا، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روزہ و صدقہ و نماز میں کمی ہے (یعنی نوافل)، وہ پیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پروسیوں کو ایذا نہیں دیتی، فرمایا: ”وہ جنت میں ہے۔“ (4)

حدیث ۱۳ امام احمد و بیہقی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے مابین اخلاق کی اسی طرح تقسیم فرمائی جس طرح رزق کی تقسیم فرمائی، اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہو اور اسے بھی جو محبوب نہیں اور دین صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہے، لہذا جس کو خدا نے دین دیا اسے محبوب بنا لیا، قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو۔“ (5) یعنی جب تک دل میں تصدیق اور زبان سے اقرار نہ ہو اور مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پروسی اس کی آفتوں سے امن میں نہ ہو، اسی کی مثل حاکم نے مستدرک میں روایت کی۔

حدیث ۱۳ حاکم نے مستدرک میں نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ

①..... ”المعجم الأوسط“، باب الرءاء، الحدیث: ۳۵۹۱، ج ۲، ص ۳۷۹.

②..... ”الفردوس بما نُور الخطاب“، الحدیث: ۸۶۳۰، ج ۵، ص ۴۲۷.

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب المظالم، باب لا یمنع جار جاره أن یغرز خشبہ فی جداره، الحدیث: ۲۴۶۳، ج ۲، ص ۱۳۲.

④..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۹۶۸۱، ج ۳، ص ۴۴۱.

و ”شعب الإيمان“، باب فی إکرام الجار، الحدیث: ۹۵۴۵، ۹۵۴۶، ج ۷، ص ۷۸ - ۷۹.

⑤..... ”شعب الإيمان“، باب فی قبض اليد عن الاموال المحرمة، الحدیث: ۵۵۲۴، ج ۴، ص ۳۹۵ - ۳۹۶.

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مرد مسلم کے لیے دنیا میں یہ بات سعادت میں سے ہے، کہ اس کا پروسی صالح ہو اور مکان کشادہ ہو اور سواری اچھی ہو۔“ (1)

حدیث ۱۵ حاکم نے مستدرک میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہتی ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میرے دو پروسی ہیں، ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا: ”جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہو۔“ (2)

حدیث ۱۶ امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو شخص اپنا جھگڑا پیش کریں گے، وہ دونوں پروسی ہوں گے۔“ (3)

حدیث ۱۷ بیہقی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند ضعیف روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ پروسی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو اور جب قرض مانگے قرض دو اور جب محتاج ہو تو اسے دو اور جب بیمار ہو عیادت کرو اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارک باد دو اور جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو اور مرجائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو، کہ اس کی ہو روک دو اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو، مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پروسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔

تمہیں معلوم ہے کہ پروسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! پوری طور پر پروسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ (عزوجل) کی مہربانی ہے۔ برابر پروسی کے متعلق حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پروسی کو وارث کر دیں گے۔

پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا کہ ”پروسی تین قسم کے ہیں، بعض کے تین حق ہیں، بعض کے دو اور بعض کا ایک حق ہے۔ جو پروسی مسلم ہو اور رشتہ والا ہو، اس کے تین حق ہیں۔ حق جو اور حق اسلام اور حق قرابت۔ پروسی مسلم کے دو حق ہیں، حق جو اور حق اسلام اور پروسی کا فرک صرف ایک حق جو ہے۔“ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ان کو اپنی قربانیوں میں سے دیں؟ فرمایا کہ مشرکین کو قربانیوں میں سے کچھ نہ دو۔ (4)

①..... "المستدرک"، کتاب البر والصلۃ، باب ان اللہ لا یعطی ایمان الا من یحب، الحدیث: ۷۳۸۶، ج ۵، ص ۲۳۲.

②..... "المستدرک" للحاکم، کتاب البر والصلۃ، باب لا یشبع الرجل دون جارہ، الحدیث: ۷۳۸۹، ج ۵، ص ۲۳۲.

③..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل حدیث عقبہ بن عامر الجہنی، الحدیث: ۱۷۳۷۷، ج ۶، ص ۱۳۴.

④..... "شعب ایمان"، باب فی اکرام الجار، الحدیث: ۹۵۶۰، ج ۷، ص ۸۳ - ۸۴.

مسئلہ ۱ چھت پر چڑھنے میں دوسروں کے گھروں میں نگاہ پہنچتی ہے تو وہ لوگ چھت پر چڑھنے سے منع کر سکتے ہیں، جب تک پردہ کی دیوار نہ بنوالے یا کوئی ایسی چیز نہ لگالے جس سے بے پردگی نہ ہو اور اگر دوسرے لوگوں کے گھروں میں نظر نہیں پڑتی مگر وہ لوگ جب چھت پر چڑھتے ہیں تو سامنا ہوتا ہے تو اس کو چڑھنے سے منع نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی مستورات کو یہ چاہیے کہ وہ خود چھتوں پر نہ چڑھیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔^(۱) (در مختار)

مسئلہ ۲ اس کے مکان کی پچھیت^(۲) دوسرے کے مکان میں ہے یہ اپنی دیوار میں مٹی لگانا چاہتا ہے، مالک مکان اپنے گھر میں جانے سے اسے روکتا ہے۔ اب مٹی کیوں کر لگائی جائے مالک مکان سے کہا جائے گا کہ اسے مکان میں جانے کی اجازت دے، ورنہ وہ خود مٹی لگوادے، اس کے پیسے اس سے دلوادے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اس کی دیوار دوسرے کے مکان میں گر گئی ہے، وہاں سے مٹی اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک مکان اس کو اجازت دیدے کہ یہ وہاں سے مٹی اٹھائے اور اجازت نہیں دیتا تو خود اٹھائے۔^(۳) (عالمگیری)

مخلوق خدا پر مہربانی کرنا

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ﴾^(۴)

”نیکی اور پرہیزگاری پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم پر مدد نہ کرو۔“

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔“^(۵)

حدیث ۲ امام احمد و ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بد بخت سے۔“^(۶)

①..... ”الدر المختار“، کتاب القضاء، مسائل شتی، ج ۸، ص ۱۷۲۔

②..... یعنی مکان کے پیچھے کی دیوار۔

③..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیہ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۴۔

④..... پ ۶، المآئدہ: ۲۔

⑤..... ”صحیح البخاری“، کتاب التوحید، باب قول اللہ ﴿قُلْ اِذْعُوا لِلّٰهِ...﴾ الخ، الحدیث: ۷۳۷۶، ج ۴، ص ۵۳۱۔

⑥..... ”المسنَد“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۸۰۰۷، ج ۳، ص ۱۶۴۔

و ”سنن الترمذی“، کتاب البر و الصلۃ، باب ماجاء فی رحمة الناس، الحدیث: ۱۹۲۳، ج ۳، ص ۳۷۱۔

حدیث ۳ ابو داؤد و ترمذی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی حکومت آسمان میں ہے۔“ (1)

حدیث ۴ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔“ (2)

حدیث ۵ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی: ”جو ان اگر بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا تو اس کی عمر کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے کو مقرر کر دے گا، جو اس کا اکرام کرے۔“ (3)

حدیث ۶ ابو داؤد نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ بات اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور اس حامل قرآن کا اکرام کیا جائے جو نہ عالی ہو، نہ جانی (یعنی جو غلو کرتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ پڑھنے میں الفاظ کی صحت کا لحاظ نہیں رکھتے یا معنی غلط بیان کرتے ہیں یا ریا کے طور پر تلاوت کرتے ہیں اور جفا یہ ہے کہ اُس سے اعراض کرے، نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ اس کے احکام پر عمل کرے) اور بادشاہ عادل کا اکرام کرنا۔“ (4)

حدیث ۷ امام احمد و بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مومن اُلفت کی جگہ ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ اُلفت کرے، نہ اس سے اُلفت کی جائے۔“ (5)

حدیث ۸ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو میری اُمت میں کسی کی حاجت پوری کر دے جس سے مقصود اس کو خوش کرنا ہے، اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا، اس نے اللہ (عزوجل) کو خوش کیا اور جس نے اللہ (عزوجل) کو خوش کیا، اللہ (عزوجل) اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔“ (6)

①.....”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی رحمۃ المسلمین، الحدیث: ۱۹۳۱، ج ۳، ص ۳۷۱.

②.....المرجع السابق، باب ماجاء فی رحمۃ الصبیان، الحدیث: ۱۹۲۸، ۱۹۲۶، ج ۳، ص ۳۶۹.

③.....”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی إجلال الکبیر، الحدیث: ۲۰۲۹، ج ۳، ص ۴۱۱.

④.....”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی تنزیل الناس منازلہم، الحدیث: ۴۸۴۳، ج ۴، ص ۳۴۴.

⑤.....”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۹۲۰۹، ج ۳، ص ۳۶۲-۳۶۳.

و”شعب الإيمان“، باب فی حسن الخلق، فصل فی لین الجانب... إلخ، الحدیث: ۸۱۱۹، ج ۶، ص ۲۷۰-۲۷۱.

⑥.....”شعب الإيمان“، باب فی التعاون علی البر والتقوی، الحدیث: ۷۶۵۳، ج ۶، ص ۱۱۵.

حدیث ۹ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کسی مظلوم کی فریادرسی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہتر مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی اور بہتر سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔“ (1)

حدیث ۱۰ صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمام مومنین شخص واحد کی مثل ہیں، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوئی تو وہ کل بیمار ہے اور سر میں بیماری ہوئی تو کل بیمار ہے۔“ (2)

حدیث ۱۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مومن مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے کہ اس کا بعض بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔“ (3) یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔

حدیث ۱۲ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کر ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) مظلوم ہو تو مدد کروں گا ظالم ہو تو کیونکر مدد کروں۔ فرمایا کہ ”اس کو ظلم کرنے سے روک دے یہی مدد کرنا ہے۔“ (4)

حدیث ۱۳ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلم مسلم کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کی مدد چھوڑے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہو، اللہ (عزوجل) اس کی حاجت میں ہے اور جو شخص مسلم سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اس کی دور کر دے گا اور جو شخص مسلم کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔“ (5)

حدیث ۱۴ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“ (6)

- ①..... ”شعب الإيمان“، باب فی التعاون علی البر والتقوی، الحدیث: ۷۶۷۰، ج ۶، ص ۱۲۰.
- ②..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب تراحم المؤمنین... إلخ، الحدیث: ۶۶، ۶۷- (۲۵۸۶)، ص ۱۳۹۶.
- ③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب تعاون المؤمنین... إلخ، الحدیث: ۶۰۲۶، ج ۴، ص ۱۰۶.
- ④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأکراه، باب یمین الرجل... إلخ، الحدیث: ۶۹۵۲، ج ۴، ص ۳۸۹.
- ⑤..... ”مشکاة المصابیح“، کتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة علی الخلق، الحدیث: ۴۹۵۷، ج ۳، ص ۶۶.
- ⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب المظالم، باب لا یظلم المسلم المسلم... إلخ، الحدیث: ۲۴۴۲، ج ۲، ص ۱۲۶.
- ⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإيمان، باب الدلیل علی ان من خصال الإيمان... إلخ، الحدیث: ۷۱، ۷۲- (۴۵)، ص ۴۳.

حدیث ۱۵ صحیح مسلم میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کو تین مرتبہ فرمایا۔ ہم نے عرض کی کس کی خیر خواہی؟ فرمایا: ”اللہ ورسول اور اُس کی کتاب کی اور ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کی۔“ (1)

حدیث ۱۶ صحیح بخاری و مسلم میں جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکاۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ (2)

حدیث ۱۷ ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لوگوں کو ان کے مرتبہ میں اتارو۔“ (3) یعنی ہر شخص کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جو اس کے مرتبہ کے مناسب ہو سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ نہ ہو مگر اس میں یہ لحاظ ضرور کرنا ہوگا کہ دوسرے کی تحقیر و تذلیل نہ ہو۔

حدیث ۱۸ ترمذی و بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی اُمید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو۔“ (4)

حدیث ۱۹ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں پیارا وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔“ (5)

حدیث ۲۰ ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جہاں کہیں رہو خدا سے ڈرتے رہو اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو یہ نیکی اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔“ (6)

نرمی و حیا و خوبی اخلاق کا بیان

حدیث ۱ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی کو دوست رکھتا ہے اور مہربانی کرنے پر وہ دیتا ہے کہ سختی پر نہیں دیتا۔ (7) (مسلم)

1..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب بیان ان الدین النصیحة، الحدیث: ۹۵- (۵۵)، ص ۴۷.

2..... ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة... إلخ، الحدیث: ۵۷، ج ۱، ص ۳۵.

3..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی تنزیل الناس منازلهم، الحدیث: ۴۸۴۲، ج ۴، ص ۳۴۳.

4..... ”سنن الترمذی“، کتاب البر والصلوة، باب: ۷۶، الحدیث: ۲۲۷۰، ج ۴، ص ۱۱۶.

5..... ”شعب الإیمان“، باب فی طاعة أولى الأمر، فصل فی نصیحة الولاة، الحدیث: ۷۴۴۷، ج ۶، ص ۴۳.

6..... ”سنن الترمذی“، ابواب البر والصلوة، باب ماجاء فی معاشرۃ الناس، الحدیث: ۱۹۹۴، ج ۳، ص ۳۹۷.

7..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلوة... إلخ، باب فضل الرفق، الحدیث: ۷۷- (۲۵۹۳)، ص ۱۳۹۸.

حدیث ۲ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: نرمی کو لازم کر لو اور سختی و فحش سے بچو، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے، اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے، اُسے عیب دار کر دیتی ہے۔^(۱) (مسلم)

حدیث ۳ جو نرمی سے محروم ہو اوہ خیر سے محروم ہوا۔^(۲) (مسلم)

حدیث ۳ جس کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی خیر کا حصہ ملا اور جو شخص نرمی کے حصہ سے محروم ہو اوہ دنیا و آخرت کے خیر سے محروم ہوا۔^(۳) (شرح سنہ)

حدیث ۵ کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ کون شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام وہ شخص کہ آسانی کرنے والا نرم قریب سہل ہے۔^(۴) (احمد و ترمذی)

حدیث ۶ مومن آسانی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، جیسے نکیل والا اونٹ کہ کھینچا جائے تو کھینچ جاتا ہے اور چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے۔^(۵) (ترمذی)

حدیث ۷ ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی حیا کیوں کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے چھوڑو۔“ یعنی نصیحت نہ کرو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔^(۶) (بخاری، مسلم)

حدیث ۸ حیا نہیں لاتی ہے مگر خیر کو حیا کل ہی خیر ہے۔^(۷) (بخاری، مسلم)

حدیث ۹ یہ اگلے انبیاء کا کلام ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، جب تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کر۔^(۸) (بخاری)

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب فضل الرفق، الحدیث: ۷۹، ۷۸- (۲۵۹۴)، ص ۱۳۹۸، ۱۳۹۹.

و ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا... إلخ، الحدیث: ۶۰۳۰، ج ۴، ص ۱۰۸.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب فضل الرفق، الحدیث: ۷۵- (۲۵۹۲)، ص ۱۳۹۸.

③..... ”شرح السنۃ“، کتاب البر والصلۃ، باب الرفق، الحدیث: ۳۳۸۵، ج ۶، ص ۴۷۲.

④..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۹۳۸، ج ۲، ص ۹۰.

و ”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة... إلخ، باب: ۱۱۰، الحدیث: ۲۴۹۶، ج ۴، ص ۲۲۰.

⑤..... ”مشکااة المصابیح“، کتاب الآداب، باب الرفق والحياء... إلخ، الحدیث: ۵۰۸۶، ج ۳، ص ۸۸.

⑥..... ”صحیح البخاری“، کتاب الإیمان، باب الحياء من الإیمان، الحدیث: ۲۴، ج ۱، ص ۱۹.

⑦..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب بیان عدد شعب الإیمان... إلخ، الحدیث: ۶۱، ۶۰- (۳۷)، ص ۴۰.

⑧..... ”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبياء، باب: ۵۶، الحدیث: ۳۴۸۴، ج ۲، ص ۴۷۰.

حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بے ہودہ گوئی جفا سے ہے اور جفا جہنم میں ہے۔ (۱) (احمد، ترمذی)

حَدِيث ۱۱ ہر دین کے لیے ایک خلق ہوتا ہے یعنی عادت و خصلت اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ (۲) (امام مالک)

حَدِيث ۱۲ ایمان و حیا دونوں ساتھی ہیں ایک کو اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔ (۳) (بیہقی)

حَدِيث ۱۳ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھلے اور تجھے یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس پر اطلاع ہو جائے۔ (۴) (مسلم)

یہ حکم اس کا ہے جس کے سینے کو خدا نے منور فرمایا ہے اور قلب بیدار و روشن ہے پھر بھی یہ وہاں ہے کہ دلائل شریعہ سے اس کی حرمت ثابت نہ ہو اور اگر دلائل حرمت پر ہوں تو نہ کھلنے کا لحاظ نہ ہوگا۔

حَدِيث ۱۴ تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ (۵) (بخاری)

حَدِيث ۱۵ تم میں اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ (۶) (بخاری، مسلم)

حَدِيث ۱۶ ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ (۷) (ابوداؤد)

حَدِيث ۱۷ خلق حَسَن سے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ (۸) (بیہقی)

حَدِيث ۱۸ قیامت کے دن مومن کی میزان میں سب میں بھاری جو چیز رکھی جائے گی وہ خلق حَسَن ہے اور

اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا جو فحش گو بد زبان ہو۔ (۹) (ترمذی)

①..... "سنن الترمذی"، کتاب البر والصلة، باب ماجاء في الحياء، الحديث: ۲۰۱۶، ج ۳، ص ۴۰۶.

②..... "الموطأ"، کتاب حسن الخلق، باب ماجاء في الحياء، الحديث: ۱۷۲۴، ج ۲، ص ۴۰۵.

و "سنن ابن ماجہ"، کتاب الزهد، باب الحياء، الحديث: ۴۱۸۱، ج ۴، ص ۴۶۰.

③..... "شعب الإيمان"، باب الحياء، الحديث: ۷۷۲۷، ج ۶، ص ۱۴۰.

④..... "صحیح مسلم"، کتاب البر والصلة... إلخ، باب تفسير البر والإثم، الحديث: ۱۴- (۲۵۵۳)، ص ۱۳۸۲.

⑤..... "صحیح البخاری"، کتاب فضائل أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ،

الحديث: ۳۷۵۹، ج ۲، ص ۵۴۹.

⑥..... "صحیح البخاری"، کتاب المناقب، باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحديث: ۳۵۵۹، ج ۲، ص ۴۸۹.

⑦..... "سنن أبي داود"، کتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، الحديث: ۴۶۸۲، ج ۴، ص ۲۹۰.

⑧..... "شعب الإيمان"، باب في حسن الخلق، الحديث: ۷۹۹۲، ج ۶، ص ۲۳۵.

و "مشكاة المصابيح"، کتاب الآداب، باب الرفق والحياء... إلخ، الفصل الثاني، الحديث: ۵۰۷۸، ج ۳، ص ۸۷.

⑨..... "سنن الترمذی"، کتاب البر والصلة، باب ماجاء في حسن الخلق، الحديث: ۲۰۰۹، ج ۳، ص ۴۰۳.

۱۹. **حدیث** مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ پا جاتا ہے۔ (۱) (ابوداؤد)
۲۰. **حدیث** مومن دھوکا کھا جانے والا ہوتا ہے (یعنی اپنے کرم کی وجہ سے دھوکا کھا جاتا ہے نہ کہ بے عقلی سے) اور فاجر دھوکا دینے والا لئیم یعنی بدخلق ہوتا ہے۔ (۲) (امام احمد، ترمذی، ابوداؤد)
۲۱. **حدیث** اللہ (عزوجل) سے ڈر جہاں بھی تو ہو اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر کہ یہ اس کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کر۔ (۳) (امام احمد، ترمذی، دارمی)
۲۲. **حدیث** جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے حالانکہ کر ڈالنے پر اسے قدرت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے دے گا کہ جن حوروں میں تو چاہے چلا جائے۔ (۴) (ترمذی، ابوداؤد)
۲۳. **حدیث** میں اس لیے بھیجا گیا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ (۵) (امام مالک و احمد)

اچھوں کے پاس بیٹھنا بروں سے بچنا

۱. **حدیث** اچھے اور بُرے ہم نشین کی مثال جیسے مشک کا اٹھانے والا اور بھٹی پھونکنے والا، جو مشک لیے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں سے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا تجھے خوشبو پہنچے گی اور بھٹی پھونکنے والا تیرے کپڑے جلادے گا یا تجھے بری بو پہنچے گی۔ (۶)
۲. **حدیث** مصاحبت نہ کرو مگر مومن کی۔ (۷) یعنی صرف مومن کامل کے پاس بیٹھا کرو۔
۳. **حدیث** بڑوں کے پاس بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ (۸)
- ①..... "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، الحديث: ٤٧٩٨، ج ٤، ص ٣٣٢.
- و "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضي الله عنها، الحديث: ٢٤٤٠٩، ج ٩، ص ٣٣٢.
- ②..... "سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة، باب ماجاء في البخل، الحديث: ١٩٧١، ج ٣، ص ٣٨٨.
- ③..... المرجع السابق، باب ماجاء في معاشره الناس، الحديث: ١٩٩٤، ج ٣، ص ٣٩٧.
- ④..... "سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة، باب في كظم الغيظ، الحديث: ٢٠٢٨، ج ٣، ص ٤١١.
- و "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب من كظم غيظا، الحديث: ٤٧٧٧، ج ٤، ص ٣٢٥.
- ⑤..... "الموطأ" للمالك، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في الحياء، الحديث: ١٧٢٣، ج ٢، ص ٤٠٤.
- ⑥..... "صحيح البخاري"، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، الحديث: ٥٥٣٤، ج ٣، ص ٥٦٧.
- ⑦..... "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب من يؤمران يحالس، الحديث: ٤٨٣٢، ج ٤، ص ٣٤١.
- ⑧..... "الجامع الصغير"، الحديث: ٣٥٧٧، ص ٢١٨.

حدیث ۳ جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہیں ملتا جلتا اور ان کی تکلیف دہی پر صبر نہیں کرتا۔^(۱)

حدیث ۵ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔^(۲)

حدیث ۶ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔^(۳)

حدیث ۷ ایسے کے ساتھ نہ رہو جو تمہاری فضیلت کا قائل نہ ہو، جیسے تم اس کی فضیلت کے قائل ہو۔^(۴) یعنی جو تمہیں نظر حقارت سے دیکھتا ہو اس کے ساتھ نہ رہو یا یہ کہ وہ اپنا حق تمہارے ذمہ جانتا ہو اور تمہارے حق کا قائل نہ ہو۔

حدیث ۸ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو مگر جبکہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں اور امین وہی ہے جو اللہ (عزوجل) سے ڈرے اور فاجر کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجو رسکھائے گا اور اس کے سامنے بھید کی بات نہ کہو اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ (عزوجل) سے ڈرتے ہیں۔^(۵)

حدیث ۹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچادے گا اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے اور موت زندگی سے بہتر اور کذاب سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ معاشرت تجھے نفع نہ دے گی تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔^(۶)

①..... "سنن الترمذی"، کتاب صفة القيامة، باب: ۱۲۰، الحدیث: ۲۵۱۵، ج ۴، ص ۲۲۷.

و "سنن ابن ماجہ"، کتاب الفتن، باب الصبر علی البلاء، الحدیث: ۴۰۳۲، ج ۴، ص ۳۷۵.

②..... "الإخوان" لابن أبي الدنيا، باب من أمر بصحبته... إلخ، ص ۴۶.

③..... "الجامع الصغير"، الحدیث: ۴۰۶۳، ص ۲۴۷.

④..... "حلیة الاولیاء"، رقم: ۱۴۳۷۵، ج ۱۰، ص ۲۴.

⑤..... "الصمت" لابن أبي الدنيا، باب النهی عن الكلام فیما لا یعنیک، ص ۱۲۴.

و "شعب الإيمان"، باب فی حفظ اللسان، فصل فی فضل السکوت عما لا یعنیه، الحدیث: ۴۹۹۵، ج ۴، ص ۲۵۷.

⑥..... "تاریخ دمشق" لابن عساکر، ج ۴۲، ص ۵۱۶.

اللہ (عزوجل) کے لیے دوستی و دشمنی کا بیان

حدیث ۱ — روحوں کا لشکر مجتمع تھا جن میں وہاں تعارف تھا دنیا میں اُلفت ہوئی اور وہاں نا آشنائی رہی تو یہاں اختلاف ہوا۔^(۱)

حدیث ۲ — اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: ”کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے آج میں ان کو اپنے سایہ میں رکھوں گا، آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں۔“^(۲)

حدیث ۳ — ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے قریہ میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتہ کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اس قریہ میں میرا بھائی ہے اس سے ملنے جاتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا، کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے، جسے لینے کو جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ (عزوجل) کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا، مجھے اللہ (عزوجل) نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ (عزوجل) نے تجھے دوست رکھا کہ تو نے اللہ (عزوجل) کے لیے اس سے محبت کی۔^(۳)

حدیث ۴ — ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اس کے متعلق کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملا نہیں یعنی ان کی صحبت حاصل نہ ہوئی یا اس نے ان جیسے اعمال نہیں کیے۔ ارشاد فرمایا: ”آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت ہے۔“^(۴)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھوں سے محبت اچھا بنادیتی ہے اور اس کا حشر اچھوں کے ساتھ ہوگا اور بدوں کی محبت برا بنادیتی ہے اور اس کا حشر اُن کے ساتھ ہوگا۔

حدیث ۵ — ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) قیامت کب ہوگی؟ فرمایا: تُو نے اس کے لیے کیا طیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی طیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ ورسول (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: ”تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔“

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الانبیاء، باب الأرواح جنود محنّدة، الحدیث: ۳۳۳۶، ج ۲، ص ۴۱۳.

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب فضل الحب فی اللہ تعالیٰ، الحدیث: ۳۷- (۲۵۶۶)، ص ۱۳۸۸.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۳۸- (۲۵۶۷)، ص ۱۳۸۸.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب علامة حب اللہ... إلخ، الحدیث: ۶۱۶۹، ج ۴، ص ۱۴۷.

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمہ سے خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔⁽¹⁾

حدیث ۶ — اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک

دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہوگئی۔“⁽²⁾

حدیث ۷ — اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے

منبر ہوں گے، انبیاء و شہداء ان پر غبطہ کریں گے۔“⁽³⁾

حدیث ۸ — اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء اور خدا کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ

قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر غبطہ کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ارشاد فرمائیے یہ

کون لوگ ہیں؟ فرمایا ”یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمتِ الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کے آپس میں رشتہ ہے، نہ

مال کا لینا دینا ہے۔ خدا کی قسم! ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود نور پر ہیں ان کو خوف نہیں، جبکہ لوگ خوف میں ہوں گے اور نہ وہ

غمگین ہوں گے، جب دوسرے غم میں ہوں گے۔“ اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے یہ آیت پڑھی:

﴿ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾⁽⁴⁾

”سن لو بے شک اللہ (عزوجل) کے اولیا پر نہ خوف ہے، نہ وہ غم کریں گے۔“

حدیث ۹ — ایمان کی چیزوں میں سب میں مضبوط اللہ (عزوجل) کے بارے میں موالاة ہے اور اللہ (عزوجل) کے لیے

محبت کرنا اور بغض رکھنا۔⁽⁵⁾

حدیث ۱۰ — رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تمہیں معلوم ہے اللہ (عزوجل) کے نزدیک سب سے زیادہ

پسند کون سا عمل ہے؟ کسی نے کہا، نماز و زکاۃ اور کسی نے کہا جہاد۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”سب سے زیادہ

اللہ (عزوجل) کو پیارا، اللہ (عزوجل) کے لیے دوستی اور بغض رکھنا ہے۔“⁽⁶⁾

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب فضائل أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ... إلخ،

الحديث: ۳۶۸۸، ج ۲، ص ۵۲۷، کتاب الأدب، باب ماجاء في قول الرجل ويلك، الحديث: ۶۱۶۷، ج ۴، ص ۱۴۶.

و ”مشكاة المصابيح“، کتاب الآداب، باب الحب في اللہ... إلخ، الحديث: ۵۰۰۹، ج ۳، ص ۷۵.

②..... ”الموطأ“، للإمام مالك، کتاب الشعر، باب ماجاء في المتحابين في اللہ، الحديث: ۱۸۲۸، ج ۲، ص ۴۳۹.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الزهد، باب ماجاء في الحب في اللہ، الحديث: ۲۳۹۷، ج ۴، ص ۱۷۴.

④..... ”سنن أبي داود“، کتاب البيوع، باب في الرهن، الحديث: ۳۵۲۷، ج ۳، ص ۴۰۲، و پ ۱۱، بونس: ۶۲.

⑤..... ”کنز العمال“، کتاب الصحبة، رقم: ۲۴۶۵۲، ج ۹، ص ۴.

⑥..... ”المنسند“، للإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري، الحديث: ۲۱۳۶۱، ج ۸، ص ۶۸.

- ۱۱۔ **حدیث** جب کسی نے کسی سے اللہ (عزوجل) کے لیے محبت کی تو اس نے رب عزوجل کا اکرام کیا۔^(۱)
- ۱۲۔ **حدیث** دو شخصوں نے اللہ (عزوجل) کے لیے باہم محبت کی اور ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا: ”یہی وہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔“^(۲)
- ۱۳۔ **حدیث** جنت میں یا قوت کے ستون ہیں ان پر زبرد کے بالا خانے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ان میں کون رہے گا؟ فرمایا: ”وہ لوگ جو اللہ (عزوجل) کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔“^(۳)
- ۱۴۔ **حدیث** اللہ (عزوجل) کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے گرد یا قوت کی کرسی پر ہوں گے۔^(۴)
- ۱۵۔ **حدیث** جو کسی سے اللہ (عزوجل) کے لیے محبت رکھے، اللہ (عزوجل) کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ (عزوجل) کے لیے دے اور اللہ (عزوجل) کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔^(۵)
- ۱۶۔ **حدیث** دو شخص جب اللہ (عزوجل) کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان میں جدائی اس وقت ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک نے کوئی گناہ کیا۔^(۶) یعنی اللہ (عزوجل) کے لیے جو محبت ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ایک نے گناہ کیا تو دوسرا اس سے جدا ہو جائے۔
- ۱۷۔ **حدیث** اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی، کہ فلاں زاہد سے کہہ دو کہ تمہارا زہد اور دنیا میں بے رغبتی اپنے نفس کی راحت ہے اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا یہ تمہاری عزت ہے، جو کچھ تم پر میرا حق ہے اُس کے مقابل کیا عمل کیا۔ عرض کرے گا، اے رب! وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد ہوگا: ”کیا تم نے میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی اور میرے بارے میں کسی ولی سے دوستی کی۔“^(۷)

①.....”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث أبي امامة الباهلي، الحدیث: ۲۲۲۹۲، ج ۸، ص ۲۸۹.

②.....”شعب الإيمان“، باب في مقارنة و موادة اهل الدين، فصل في المصافحة... إلخ، الحدیث: ۹۰۲۲، ج ۶، ص ۴۹۲.

③.....”شعب الإيمان“، باب في مقارنة و موادة اهل الدين، فصل في المصافحة... إلخ، الحدیث: ۹۰۰۲، ج ۶، ص ۴۸۷.

④.....”المعجم الكبير“، الحدیث: ۳۹۷۳، ج ۴، ص ۱۵۰.

⑤.....”سنن أبي داود“، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه، الحدیث: ۴۶۸۱، ج ۴، ص ۲۹۰.

⑥.....”الأدب المفرد“ للبخاري، باب هجرة المسلم، الحدیث: ۴۰۶، ص ۱۲۱.

⑦.....”کنز العمال“، كتاب الصحبة، رقم: ۲۴۶۵۳، ج ۹، ص ۴.

و”حلیة الاولیاء“، رقم: ۱۵۳۸۴، ج ۱۰، ص ۳۳۷.

۱۸ حدیث ۱۸ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ (1)

۱۹ حدیث ۱۹ جب ایک شخص دوسرے سے بھائی چارہ کرے تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھ لے اور یہ کہ وہ

کس قبیلہ سے ہے کہ اس سے محبت زیادہ پائیدار ہوگی۔ (2)

۲۰ حدیث ۲۰ جب ایک شخص دوسرے سے محبت رکھے تو اسے خبر کر دے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ (3)

۲۱ حدیث ۲۱ ایک شخص نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی خدمت میں عرض کی، کہ میں اس شخص سے اللہ (عزوجل)

کے واسطے محبت رکھتا ہوں ارشاد فرمایا: تم نے اس کو اطلاع دیدی ہے۔ عرض کی نہیں، ارشاد فرمایا: اٹھو! اس کو اطلاع دے دو۔ اس

نے جا کر خبردار کیا، اس نے کہا جس کے لیے تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ تجھے محبوب بنالے۔ واپس آ کر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم)

سے کہہ سنایا، ارشاد فرمایا: اس نے کیا کہا؟ جو اس نے کہا تھا کہہ سنایا۔ فرمایا: ”تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی اور

تیرے لیے وہ ہے جو تو نے قصد کیا ہے۔“ (4)

۲۲ حدیث ۲۲ دوست سے تھوڑی دوستی کر عجب نہیں کہ کسی دن وہ تیرا دشمن ہو جائے اور دشمن سے دشمنی تھوڑی کر دور

نہیں کہ وہ کسی روز تیرا دوست ہو جائے۔ (5)

حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا

۱ حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے

فرمایا: ”پانچ چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی انبیاء سابقین علیہم السلام کی سنت سے ہیں۔ ① ختنہ کرنا اور ② موئے زیر ناف موٹنا

اور ③ مونچھیں کم کرنا اور ④ ناخن ترشوانا اور ⑤ بغل کے بال اکھیڑنا۔“ (6)

۲ حدیث ۲ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مونچھیں کٹو اور داڑھیاں لٹکاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔“ (7)

①..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: ۸۰۳۴، ج ۳، ص ۱۶۸-۱۶۹.

②..... "سنن الترمذی"، کتاب الزہد، باب ماجاء في إعلام الحب، الحديث: ۲۴۰۰، ج ۴، ص ۱۷۶.

③..... "سنن أبي داود"، کتاب الأدب، باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه، الحديث: ۵۱۲۴، ج ۴، ص ۴۲۸.

④..... "شعب الإيمان"، باب في مقارنة ومواد... إلخ، فصل في المصافحة... إلخ، الحديث: ۹۰۱۱، ج ۶، ص ۴۸۹.

⑤..... "سنن الترمذی"، کتاب البر والصلة، باب ماجاء في الإقتصاد في الحب والبغض، الحديث: ۲۰۰۴، ج ۳، ص ۴۰۱.

⑥..... "صحیح مسلم"، کتاب الطہارة، باب خصال الفطرة، الحديث: ۵۰- (۲۵۷)، ص ۱۵۳.

⑦..... المرجع السابق، الحديث: ۵۵- (۲۶۰)، ص ۱۵۴.

حدیث ۳ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو زیادہ کرو اور مونچھوں کو خوب کم کرو۔“ (1)

حدیث ۴ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ”نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مونچھ کو کم کرتے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے۔“ (2)

حدیث ۵ امام احمد و ترمذی و نسائی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مونچھ سے نہیں لے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔“ (3) یعنی ہمارے طریقہ کے خلاف ہے۔

حدیث ۶ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو موئے زیر ناف کو نہ مونڈے اور ناخن نہ تراشے اور مونچھ نہ کاٹے، وہ ہم میں سے نہیں۔“ (4)

حدیث ۷ ترمذی نے بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داڑھی کی چوڑائی اور لمبائی سے کچھ لیا کرتے تھے۔“ (5)

حدیث ۸ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ مونچھیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھاڑنے اور موئے زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ (6) یعنی چالیس دن کے اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں۔

حدیث ۹ ابوداؤد نے بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے، جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا۔“ (7)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، الحدیث: ۵۸۹۲، ج ۴، ص ۷۵.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی قص الشارب، الحدیث: ۲۷۶۹، ج ۴، ص ۳۴۹.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۷۷۰، ج ۴، ص ۳۴۹.

④..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث رجل من بنی غفار رضی اللہ عنہ، الحدیث: ۲۳۵۳۹، ج ۹، ص ۱۲۵.

⑤..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی الأخذ من اللحية، الحدیث: ۲۷۷۱، ج ۴، ص ۳۴۹.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب الطهارة، باب عصال الفطرة، الحدیث: ۵۱- (۲۵۸)، ص ۱۵۳.

⑦..... ”سنن أبي داود“، کتاب الرجل، باب فی نتف الشيب، الحدیث: ۴۲۰۲، ج ۴، ص ۱۱۵.

و ”شرح السنة“ للبخاری، کتاب اللباس، باب النهی عن نتف الشيب، الحدیث: ۳۰۷۴، ج ۶، ص ۲۱۱.

حدیث ۱۰ ترمذی و نسائی نے کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو اسلام میں بوڑھا ہوا، یہ بڑھا پا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔“ (1)

حدیث ۱۱ امام مالک نے روایت کی، سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سب سے پہلے مہمانوں کی ضیافت کی اور سب سے پہلے ختنہ کیا اور سب سے پہلے مونچھ کے بال تراشے اور سب سے پہلے سفید بال دیکھا۔ عرض کی، اے رب! یہ کیا ہے؟ پروردگار تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ”اے ابراہیم! یہ وقار ہے۔“ عرض کی، اے میرے رب! میرا وقار زیادہ کر۔ (2)

حدیث ۱۲ دیلمی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص قصداً سفید بال اکھاڑے گا، قیامت کے دن وہ نیزہ ہو جائے گا، جس سے اس کو بھونکا جائے گا۔“ (3)

حدیث ۱۳ طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجامت کے سوا گردن کے بال مونڈانے سے منع فرمایا۔“ (4)

حدیث ۱۴ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قزح سے منع فرمایا۔ نافع سے پوچھا گیا، قزح کیا چیز ہے؟ نافع نے کہا، بچہ کا سر کچھ مونڈ دیا جائے، کچھ متعدد جگہ چھوڑ دیا جائے۔ (5)

حدیث ۱۵ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بچہ کو دیکھا، کہ اس کا سر کچھ مونڈا ہوا ہے اور کچھ چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے لوگوں کو اس سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ ”کل مونڈ دو یا کل چھوڑ دو۔“ (6)

حدیث ۱۶ ابو داؤد و نسائی نے عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ جب حضرت جعفر شہید ہوئے تین دن تک حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے ان کی آل سے کچھ نہیں فرمایا، پھر تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ آج کے بعد سے میرے بھائی (جعفر) پر نہ رونا، پھر فرمایا کہ میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب فضائل الجہاد، باب ماجاء فی فضل من شاب شبیبہ فی سبیل اللہ، الحدیث: ۱۶۴۰، ج ۳، ص ۲۳۷.

②..... ”الموطأ“، کتاب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ماجاء فی السنة فی الفطرة، الحدیث: ۱۷۵۶، ج ۲، ص ۴۱۵.

③..... ”کنز العمال“، کتاب الزینة والتحمل، رقم: ۱۷۲۷۶، ج ۶، ص ۲۸۱.

④..... ”الجامع الصغير“ للسیوطی، حرف النون، الحدیث: ۹۴۶۲، ص ۵۶۳.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس، باب کراهة القزح، الحدیث: ۱۱۳- (۲۱۲۰)، ص ۱۱۷۳.

⑥..... ”سنن أبي داود“، کتاب الترحل، باب الذؤابة، الحدیث: ۴۱۹۵، ج ۴، ص ۱۱۳.

خدمت میں پیش کیے گئے، فرمایا: حجام کو بلاؤ، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ہمارے سر مونڈا دیے۔⁽¹⁾

حدیث ۱۷ - ابو داؤد نے ابن الحنفلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خریم اسدی بہت اچھا شخص ہے اگر اس کے سر کے بال بڑے نہ ہوتے اور تہبند نیچا نہ ہوتا۔ جب یہ خبر خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو چھری لے کر بال کاٹ ڈالے اور کانوں تک کر لیے اور تہبند کو آدھی پنڈلی تک اونچا کر لیا۔⁽²⁾

حدیث ۱۸ - ابو داؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میرے گیسوتھے۔ میری ماں نے کہا، کہ ان

کو نہیں کٹاؤں گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انھیں پکڑتے اور کھینچتے تھے۔⁽³⁾ یعنی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کا دست اقدس ان بالوں کو لگا ہے اس وجہ سے بقصد تبرک چھوڑ رکھے تھے، کٹواتی نہ تھیں۔

حدیث ۱۹ - نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو سر

مونڈانے سے منع فرمایا ہے۔⁽⁴⁾

حدیث ۲۰ - صحیح بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس

چیز کے متعلق کوئی حکم نہ ہوتا اس میں اہل کتاب کی موافقت پسند تھی (کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہوں وہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہو) اور اہل کتاب بال سیدھے رکھتے تھے اور مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے، لہذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بال سیدھے رکھے یعنی مانگ نہیں نکالی پھر بعد میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے مانگ نکالی۔⁽⁵⁾ اس سے معلوم ہوا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم ہوا۔

مسائل فقہیہ

جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ ایک حدیث ضعیف میں ہے، کہ حضور اقدس (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کتراتے اور ناخن ترشواتے۔

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الرجل، باب في حلق الرأس، الحديث: ٤١٩٢، ج ٤، ص ١١٢.

②..... المرجع السابق، باب ماجاء في إسبال الإزار، الحديث: ٤٠٨٩، ج ٤، ص ٨٠.

③..... المرجع السابق، باب ماجاء في الرخصة، الحديث: ٤١٩٦، ج ٤، ص ١١٣.

④..... ”سنن النسائي“، كتاب الزينة من السنن، باب النهي عن حلق المرأة رأسها، الحديث: ٥٠٥٩، ص ٨٠٩.

⑤..... ”صحيح البخاري“، كتاب اللباس، باب الفرق، الحديث: ٥٩١٧، ج ٤، ص ٧٩.

ایک دوسری حدیث میں ہے، کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد⁽¹⁾ یعنی دس دن تک۔

ایک حدیث میں ہے، جو ہفتہ کے دن ناخن ترشوائے، اُس سے بیماری نکل جائے گی اور شفا داخل ہوگی اور جو اتوار کے دن ترشوائے فاقہ نکلے گا اور تو نگری آئے گی اور جو پیر کے دن ترشوائے جنون جائے گا اور صحت آئے گی اور جو منگل کے دن ترشوائے مرض جائے گا اور شفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی⁽²⁾ اور جو جمعرات کے دن ترشوائے جذام جائے اور عافیت آئے اور جو جمعہ کے دن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ یہ حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں، مگر فضائل میں قابل اعتبار ہیں۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱ - حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ پہلے داہنے ہاتھ کے ناخنوں کو اس طرح ترشوائے، سب سے پہلے چھنگلیا پھر بیچ والی پھر انگوٹھا پھر منجھلی پھر کلمہ کی انگلی اور بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا پھر بیچ والی پھر چھنگلیا پھر کلمہ کی انگلی پھر منجھلی یعنی دہنے ہاتھ میں چھنگلیا سے شروع کرے اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھے سے اور ایک انگلی چھوڑ کر اور بعض میں دو چھوڑ کر کٹوائے۔ ایک روایت میں آیا ہے، کہ ”اس طرح کرنے سے کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا۔“⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲ - ناخن تراشنے کی یہ ترتیب جو مذکور ہوئی اس میں کچھ پیچیدگی ہے، خصوصاً عوام کو اس کی نگہداشت دشوار ہے لہذا ایک دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ دہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی سے شروع کرے اور چھنگلیا پر ختم کرے پھر بائیں کی چھنگلیا سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے۔ اس کے بعد دہنے

①..... ”مرقاۃ المفاتیح“، کتاب اللباس، باب الترجل، تحت الحدیث: ۴۴۲۲، ج ۸، ص ۲۱۲.

②..... اعلیٰ حضرت سے اس طرح کا سوال کیا گیا کہ ایک حدیث میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت آئی اور دوسری حدیث میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت آئی، ان دونوں روایتوں میں تطبیق یا ترجیح کی کیا صورت ہے اور بدھ کے دن ناخن تراشنا کیسا ہوگا؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ناخن کاٹنے سے متعلق کسی دن کوئی ممانعت نہیں، اس لیے کہ دن کی تعیین میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں، البتہ بعض ضعیف حدیثوں میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے، لہذا اگر بدھ کا دن وجوب کا دن آجائے، مثلاً اتالیس دن سے نہیں تراشے تھے، آج بدھ کو چالیسواں دن ہے، اگر آج نہیں تراشنا تو چالیس دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہوگا کہ بدھ کے دن تراشے اس لیے کہ چالیس دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر مذکورہ صورت نہ ہو تو بدھ کے علاوہ کسی اور دن تراشنا مناسب کہ جانب منع کو ترجیح رہتی ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۲، ص ۶۸۵، ملخصاً)

③..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۸.

④..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۹.

ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن ترشوائے، اس صورت میں دہنے ہی ہاتھ سے شروع ہوا اور دہنے پر ختم بھی ہوا۔⁽¹⁾ (درمختار) اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ کا بھی یہی معمول تھا اور یہ فقیر بھی اسی پر عمل کرتا ہے۔

مسئلہ ۳ پاؤں کے ناخن ترشوانے میں کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ناخن ترشوائے یعنی دہنے پاؤں کی چھنگلیا سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پر ختم کرے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ دانت سے ناخن نہ کھلنا چاہیے کہ مکروہ ہے اور اس میں مرض برص معاذ اللہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ مجاہد جب دار الحرب میں ہوں تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ناخن اور مونچھیں بڑی رکھیں کہ ان کی یہ شکل مہیب دیکھ کر کفار پر رعب طاری ہو۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ ہر جمعہ کو اگر ناخن نہ ترشوائے تو پندرہویں دن ترشوائے اور اس کی انتہائی مدت چالیس دن ہے اس کے بعد نہ ترشوانا ممنوع ہے۔ یہی حکم مونچھیں ترشوانے اور موئے زیر ناف دور کرنے اور بغل کے بال صاف کرنے کا ہے کہ چالیس دن سے زیادہ ہونا منع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ ”ناخن ترشوانے اور مونچھ کاٹنے اور بغل کے بال لینے میں ہمارے لیے یہ میعاد مقرر کی گئی تھی کہ چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑ رکھیں۔“⁽⁵⁾

مسئلہ ۷ موئے زیر ناف دور کرنا سنت ہے۔ ہر ہفتہ میں نہانا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور موئے زیر ناف دور کرنا مستحب ہے اور بہتر جمعہ کا دن ہے اور پندرہویں روز کرنا بھی جائز ہے اور چالیس روز سے زائد گزار دینا مکروہ و ممنوع۔ موئے زیر ناف استرے سے مونڈنا چاہیے اور اس کو ناف کے نیچے سے شروع کرنا چاہیے اور اگر مونڈنے کی جگہ ہر تال چونا یا اس زمانہ میں بال اڑانے کا صابون چلا ہے، اس سے دور کرے یہ بھی جائز ہے، عورت کو یہ بال اکھیڑ ڈالنا سنت ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار، عالمگیری)

①..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۰.

②..... المرجع السابق، ص ۶۷۰.

③..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۸.

④..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۸.

⑤..... انظر: "صحیح مسلم"، کتاب الطہارۃ، باب حصال الفطرۃ، الحدیث: ۵۱- (۲۵۸)، ص ۱۵۳.

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۱.

و "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷، ۳۵۸.

- ۸۔ مسئلہ ۸۔ بغل کے بالوں کا اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا بھی جائز ہے۔ (۱) (ردالمحتار)
- ۹۔ مسئلہ ۹۔ بہتر یہ ہے کہ گلے کے بال نہ مونڈائے انھیں چھوڑ رکھے۔ (۲) (ردالمحتار)
- ۱۰۔ مسئلہ ۱۰۔ ناک کے بال نہ اکھاڑے کہ اس سے مرض آکلہ پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ (۳) (عالمگیری)
- ۱۱۔ مسئلہ ۱۱۔ جنابت کی حالت میں نہ بال مونڈائے اور نہ ناخن ترشوائے کہ یہ مکروہ ہے۔ (۴) (عالمگیری)
- ۱۲۔ مسئلہ ۱۲۔ بھوں کے بال اگر بڑے ہو گئے تو ان کو ترشوا سکتے ہیں، چہرہ کے بال لینا بھی جائز ہے جس کو خط بنوانا کہتے ہیں، سینہ اور پیٹھ کے بال مونڈنا یا کتر وانا اچھا نہیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ پر سے بال دور کر سکتے ہیں۔ (۵) (ردالمحتار)
- ۱۳۔ مسئلہ ۱۳۔ بچی (۶) کے اغل بغل (۷) کے بال مونڈنا یا اکھیڑنا بدعت ہے۔ (۸) (عالمگیری)
- ۱۴۔ مسئلہ ۱۴۔ مونچھوں کو کم کرنا سنت ہے اتنی کم کرے کہ ابرو کی مثل ہو جائیں یعنی اتنی کم ہوں کہ اوپر والے ہونٹ کے بالائی حصہ سے نہ لٹکیں اور ایک روایت میں مونڈنا آیا ہے۔ (۹) (درمختار، ردالمحتار)
- ۱۵۔ مسئلہ ۱۵۔ مونچھوں کے دونوں کناروں کے بال بڑے بڑے ہوں تو حرج نہیں بعض سلف کی مونچھیں اس قسم کی تھیں۔ (۱۰) (عالمگیری)
- ۱۶۔ مسئلہ ۱۶۔ داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین سے ہے۔ مونڈنا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، ہاں ایک مشت سے زائد ہو جائے تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں۔ (۱۱) (درمختار)
- ۱۷۔ مسئلہ ۱۷۔ داڑھی چڑھانا یا اس میں گرہ لگانا جس طرح سکھ وغیرہ کرتے ہیں ناجائز ہے، اس زمانہ میں داڑھی مونچھ

۱..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۰.

۲..... المرجع السابق.

۳..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر في الختان، ج ۵، ص ۳۵۸.

۴..... المرجع السابق، ص ۳۵۸.

۵..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۰، وغیرہ.

۶..... یعنی وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ ۷..... آس پاس۔

۸..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر في الختان، ج ۵، ص ۳۵۸.

۹..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۱.

۱۰..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر في الختان، ج ۵، ص ۳۵۸.

۱۱..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۷۱، وغیرہ.

میں طرح طرح کی تراش خراش کی جاتی ہے، بعض داڑھی مونچھ کا بالکل صفایا کر دیتے ہیں، بعض لوگ مونچھوں کی دونوں جانب مونڈ کر بیچ میں ذرا سی باقی رکھتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ناک کے نیچے دو دکھیاں بیٹھی ہیں، کسی کی داڑھی فرنیچ کٹ اور کسی کی کرزن فیشن ہوتی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب نصاریٰ کے اتباع و تقلید میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات ایمانی اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ وہ اپنے وقار و شہار کو کھوتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے جب ان کی بے حسی اس درجہ بڑھ گئی اور حمیت و غیرت ایمانی یہاں تک کم ہو گئی کہ دوسری قوموں میں جذب ہوتے جاتے ہیں، پامردی اور استقلال کے ساتھ اسلامی روایات و احکام کی پابندی نہیں کرتے تو ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ اسلامی احکام کا احترام کرائیں گے اور حقوق مسلمین کی حفاظت کریں گے۔ مسلم کے ہر فرد کو تعلیمات اسلام کا مجسمہ ہونا چاہیے اخلاق سلف صالحین کا نمونہ ہونا چاہیے اسلامی شعار کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ دوسری قوموں پر اس کا اثر پڑے۔

مسئلہ ۱۸ بعض داڑھی منڈے یہاں تک بے باک ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کے مطابق داڑھی رکھنے پر پھبتیاں کتے ہیں۔ داڑھی مونڈنا حرام تھا، گناہ تھا مگر یہ تو سوچو یہ تم نے کس چیز کا مذاق اڑایا کس کی توہین و تذلیل کی۔ اسلام کی ہر بات اٹل ہے اور اس کے تمام اصول و فروع مضبوط ہیں ان میں کسی بات کو برا بتانا اسلام کو عیب لگانا ہے تم خود سوچو تو جو کچھ اس کا نتیجہ ہے، وہ تم پر واضح ہو جائے گا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔

مسئلہ ۱۹ مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال منڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔^(۱) (ردالمحتار)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اگرچہ منڈانا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے۔ دیگر اوقات میں مونڈانا ثابت نہیں۔^(۲) ہاں بعض صحابہ سے مونڈانا ثابت ہے مثلاً حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور عادت مونڈایا کرتے تھے۔^(۳) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کبھی نصف کان تک^(۴)، کبھی کان کی لوتک ہوتے^(۵) اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک سے چھو جاتے۔^(۶) اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) بیچ سر میں مانگ نکالتے۔^(۷)

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۲.

②..... "جمع الوسائل فی شرح الشمائل" للفقاری، باب ماجاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص ۹۹.

③..... "سنن أبي داود"، کتاب الطہارة، باب فی الغسل من الجنابة، الحدیث: ۲۴۹، ج ۱، ص ۱۱۷.

④..... "سنن أبي داود"، کتاب الترجل، باب ما جاء فی الشعر، الحدیث: ۴۱۸۶، ج ۴، ص ۱۱۱.

⑤..... انظر: "صحیح البخاری"، کتاب المناقب، باب صفة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۵۵۱، ج ۲، ص ۴۸۷.

⑥..... انظر: "صحیح البخاری"، کتاب اللباس، باب الجعد، الحدیث: ۵۹۰۴، ج ۴، ص ۷۷.

⑦..... انظر: "صحیح البخاری"، کتاب المناقب، باب صفة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۵۵۸، ج ۲، ص ۴۸۹.

مسئلہ ۲۰ → مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے، بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں (۱) بڑھالیتے ہیں جو ان کے سینہ پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں اور بعض چوٹیاں گوندتے ہیں یا جوڑے بنا لیتے ہیں یہ سب ناجائز کام اور خلاف شرع ہیں۔ تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے (۲) کا نام ہے۔

مسئلہ ۲۱ → سپید بالوں کو اوکھاڑنا یا قینچی سے چن کر نکلوانا مکروہ ہے، ہاں مجاہد اگر اس نیت سے ایسا کرے کہ کفار پر اس کا رعب طاری ہو تو جائز ہے۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ → بیچ سر کو مونڈا دینا اور باقی جگہ کو چھوڑ دینا جیسا کہ ایک زمانہ میں پان بنوانے کا رواج تھا یہ جائز ہے اور حدیث میں جو قزع کی ممانعت آئی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ متعدد جگہ سر کے بال مونڈنا اور جگہ جگہ باقی چھوڑنا، جس کو گل بنانا کہتے ہیں۔ (۴) (عالمگیری، ردالمحتار) بخاری شریف سے بھی یہی ظاہر ہے۔ (۵) پان بنوانے کو قزع سمجھنا غلطی ہے، ہاں بہتر یہی ہے کہ سر کے بال مونڈائے تو کل مونڈا ڈالے یہ نہیں کہ کچھ مونڈے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں۔

مسئلہ ۲۳ → بعض دیہاتیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیشانی کو خط کی طرح بنواتے ہیں اور دونوں جانب نوکیں نکلاتے ہیں یا اور طرح سے بنواتے ہیں یہ سنت اور سلف کے طریقہ کے خلاف ہے، ایسا نہ کریں۔

مسئلہ ۲۴ → گردن کے بال مونڈنا مکروہ ہے۔ (۶) (عالمگیری) یعنی جب سر کے بال نہ مونڈائیں صرف گردن ہی کے مونڈائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ خط بنوانے میں گردن کے بال بھی مونڈاتے ہیں اور اگر پورے سر کے بال مونڈا دیے تو اس کے ساتھ گردن کے بال بھی مونڈا دیے جائیں۔

مسئلہ ۲۵ → آج کل سر پر گھار کھنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ سب طرف سے بال نہایت چھوٹے چھوٹے اور بیچ میں بڑے بال ہوتے ہیں، یہ بھی نصاریٰ کی تقلید میں ہے اور ناجائز ہے پھر ان بالوں میں بعض داہنے یا بائیں جانب مانگ

①..... بالوں کی لڑیاں۔ ②..... ختم کرنے۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب العشرون فی الزینۃ، ج ۵، ص ۳۵۹۔

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷۔

و"ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۲۔

⑤..... انظر: "صحیح البخاری"، کتاب اللباس، باب القزع، الحدیث: ۵۹۲۰، ج ۴، ص ۸۰۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷۔

نکالتے ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے، سنت یہ ہے کہ بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے اور بعض مانگ نہیں نکالتے سیدھے رکھتے ہیں یہ بھی سنت منسوخہ اور یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔

مسئلہ ۲۶ — ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نہ پورے بال رکھتے ہیں نہ مونڈاتے ہیں بلکہ قینچی یا مشین سے بال کترواتے ہیں یہ ناجائز نہیں مگر افضل و بہتر وہی ہے کہ مونڈائے یا بال رکھے۔

مسئلہ ۲۷ — عورت کو سر کے بال کٹوانے جیسا کہ اس زمانہ میں نصرانی عورتوں نے کٹوانے شروع کر دیے ناجائز و گناہ ہے اور اس پر لعنت آئی شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی یہی حکم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گنہگار ہوگی کیونکہ شریعت کی نافرمانی کرنے میں کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔^(۱) (در مختار) سنا ہے کہ بعض مسلمان گھروں میں بھی عورتوں کے بال کٹوانے کی بلا آگئی ہے، ایسی پر قینچ عورتیں دیکھنے میں لوٹنا معلوم ہوتی ہیں۔

اور حدیث میں فرمایا کہ ”جو عورت مردانہ ہیأت میں ہو، اس پر اللہ (عزوجل) کی لعنت ہے۔“^(۲) جب بال کٹوانا عورت کے لیے ناجائز ہے تو مونڈانا بدرجہ اولیٰ ناجائز کہ یہ بھی ہندوستان کے مشرکین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مرجاتا ہے یا تیرتھ^(۳) کو جاتی ہیں تو بال مونڈا دیتی ہیں۔

مسئلہ ۲۸ — ترشوانے یا مونڈانے میں جو بال نکلے انھیں ذفن کر دے، اسی طرح ناخن کا تراشہ پاخانہ یا غسل خانہ میں انھیں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔^(۴) (عالمگیری) موئے زیر ناف کا ایسی جگہ ڈال دینا کہ دوسروں کی نظر پڑے ناجائز ہے۔

مسئلہ ۲۹ — چار چیزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ ذفن کر دی جائیں، بال، ناخن، حیض کا لتا^(۵)، خون۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ — سر میں جوئیں بھری ہیں اور بال مونڈا دیے، انھیں ذفن کر دے۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۱ — مجنونہ کے سر میں بیماری ہوگئی مثلاً کثرت سے جوئیں پڑ گئیں اور اس کا کوئی ولی نہیں تو اگر کسی نے اس کا

①..... "الدر المختار"، کتاب الحظرو الإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۱.

②..... "صحیح البخاری"، کتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء... إلخ، الحدیث: ۵۸۸۵، ج ۴، ص ۷۳.

③..... ہندوؤں وغیرہ کا مقدس مقام، متبرک دریا (گنگا، جمنا) پر نہانے کا گھاٹ۔

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۸.

⑤..... یعنی وہ کپڑا جس سے عورت حیض کا خون صاف کرے۔

⑥..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۸.

⑦..... المرجع السابق.

سرمونڈا دیا اس نے احسان کیا، مگر اس کے سر میں کچھ بال چھوڑ دے تاکہ معلوم ہو سکے کہ عورت ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ - سپید بال اکھیڑنے میں حرج نہیں جبکہ بقصد زینت ایسا نہ کرے۔ (2) (درمختار، ردالمحتار) اور ظاہر یہی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ زینت ہی کے ارادہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ سپیدی دوسروں پر ظاہر نہ ہو اور جوان معلوم ہوں، اسی وجہ سے حدیث میں اس سے ممانعت آئی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ داڑھی میں اس قسم کا تصرف زیادہ ممنوع ہوگا۔

ختنہ کا بیان

ختنہ سنت ہے اور یہ شعار اسلام میں ہے کہ مسلم وغیر مسلم میں اس سے امتیاز ہوتا ہے اسی لیے عرف عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا ختنہ کیا، اس وقت ان کی عمر شریف اسی برس کی تھی۔“ (3)

مسئلہ ۱ - ختنہ کی مدت سات سال سے بارہ سال کی عمر تک ہے اور بعض علمائے نے یہ فرمایا کہ ولادت سے ساتویں دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - لڑکے کی ختنہ کرائی گئی مگر پوری کھال نہیں کٹی، اگر نصف سے زائد کٹ گئی ہے تو ختنہ ہوگئی باقی کو کاٹنا ضروری نہیں اور اگر نصف یا نصف سے زائد باقی رہ گئی تو نہیں ہوئی یعنی پھر سے ہونی چاہیے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - بچہ پیدا ہی ایسا ہوا کہ ختنہ میں جو کھال کاٹی جاتی ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ختنہ کی حاجت نہیں اور اگر کچھ کھال ہے جس کو کھینچا جاسکتا ہے مگر اسے سخت تکلیف ہوگی اور ختنہ (سپاری) ظاہر ہے تو حجاموں کو دکھایا جائے، اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیا جائے، بچہ کو خواہ مخواہ تکلیف نہ دی جائے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - سنا جاتا ہے کہ جس بچہ میں پیدائشی ختنہ کی کھال نہیں ہوتی، اس کے باپ وغیرہ اولیا اس رسم کی ادا کے لیے اعزہ اقربا کو بلاتے ہیں اور ختنہ کے قائم مقام پان کی گلوری کاٹی جاتی ہے گویا اس سے ختنہ کی رسم ادا کی گئی۔

①..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۸.

②..... ”الدرالمختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۱.

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبیاء، باب ﴿وَأَتَعَدَّ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَتْنًا...﴾ الخ، الحدیث: ۳۳۵۶، ج ۲، ص ۴۲۲.

④..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... المرجع السابق.

یہ ایک لغو حرکت ہے جس کا کچھ محصل و فائدہ نہیں۔

مسئلہ ۵ — بوڑھا آدمی مشرف باسلام ہوا جس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں۔ بالغ شخص مشرف باسلام ہوا، اگر وہ خود ہی اپنی مسلمانی کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کر لے ورنہ نہیں، ہاں اگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جو ختنہ کرنا جانتی ہو، اس سے نکاح کرے، تو نکاح کر کے اس سے ختنہ کرا لے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ — ختنہ ہو چکی ہے مگر وہ کھال پھر بڑھ گئی اور ختنہ کو چھپا لیا تو دوبارہ ختنہ کی جائے اور اتنی زیادہ نہ بڑھی ہو تو نہیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ — ختنہ کرانا باپ کا کام ہے وہ نہ ہو تو اس کا وصی، اس کے بعد دادا پھر اس کے وصی کا مرتبہ ہے۔ ماموں اور چچا یا ان کے وصی کا یہ کام نہیں، ہاں اگر بچہ ان کی تربیت و عیال میں ہو تو کر سکتے ہیں۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ — عورتوں کے کان چھدوانے میں حرج نہیں اور لڑکیوں کے کان چھدوانے میں بھی حرج نہیں، اس لیے کہ زمانہ رسالت میں کان چھدتے تھے اور اس پر انکار نہیں ہوا۔^(۴) (عالمگیری) بلکہ کان چھدوانے کا سلسلہ اب تک برابر جاری ہے، صرف بعض لوگوں نے نصرانی عورتوں کی تقلید^(۵) میں موقوف کر دیا^(۶) جن کا اعتبار نہیں۔

مسئلہ ۹ — انسان کو خنسی کرنا حرام ہے، اسی طرح بچہ کرنا بھی۔ گھوڑے کو خنسی کرنے میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ

①..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷.

بالغ کے ختنہ کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن "فتاویٰ رضویہ" جلد 22 صفحہ 593 پر فرماتے ہیں: ہاں اگر خود کر سکتا ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے کر لے یا کوئی عورت جو اس کام کو کر سکتی ہو، ممکن ہو تو اس سے نکاح کر دیا جائے وہ ختنہ کر دے، اس کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دے یا کوئی کینز شرعی واقف ہو تو وہ خرید دی جائے۔ اور اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہو سکیں تو جام ختنہ کر دے کہ ایسی ضرورت کے لیے ستر دیکھنا دکھانا منع نہیں۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے: امام کرنی نے جامع صغیر میں فرمایا کہ بالغ آدمی کا ختنہ حمام والا کرے۔ (ت) (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷).
صدر الشریعہ، مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی "بہار شریعت" ج 2 حصہ 9 ص 384 پر فرماتے ہیں: دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا حرام، مگر ضرورت جائز، جیسے دائی اور ختنہ کرنے والے اور عمل دینے والے اور طبیب کو بوقت ضرورت اجازت ہے۔

(بہار شریعت، حدود کا بیان، زنا کی گواہی دے کر رجوع کرنا، ج ۲، حصہ ۹، ص ۳۸۳)

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷.

③..... المرجع السابق.

④..... المرجع السابق.

⑤..... یعنی پیروی۔

⑥..... چھوڑ دیا۔

جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کے خصی کرنے میں اگر فائدہ ہو مثلاً اس کا گوشت اچھا ہوگا یا خصی نہ کرنے میں شرارت کرے گا، لوگوں کو ایذا پہنچائے گا، انھیں مصالح کی بنا پر بکرے اور تیل وغیرہ کو خصی کیا جاتا ہے یہ جائز ہے اور اگر منفعت یا دفع ضرر دونوں باتیں نہ ہوں تو خصی کرنا حرام ہے۔^(۱) (ہدایہ، عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ جس غلام کو خصی کیا گیا ہو اس سے خدمت لینا ممنوع ہے، جیسا کہ امر او سلاطین کے یہاں اس قسم کے لوگوں سے خدمت لی جاتی ہے جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں، ان سے خدمت لینے میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے خصی کرنے کی جرأت کرتے اور اس حرام فعل کا ارتکاب کرتے ہیں اور اگر ایسے غلام سے کام ہی نہ لیا جائے تو خصی کرنے کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا۔^(۲) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۱ گھوڑی کو گدھے سے گابھن کرنا جس سے نخر پیدا ہوتا ہے اس میں حرج نہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کا جانور بغلہ، بیضا تھا اور اگر یہ فعل ناجائز ہوتا تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ایسے جانور کو اپنی سواری میں نہ رکھتے۔^(۳) (ہدایہ)

زینت کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہتی ہیں: حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو میں نہایت عمدہ خوشبو لگاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے سر مبارک اور داڑھی میں پاتی تھی۔^(۴)

حدیث ۲ صحیح مسلم میں نافع سے مروی، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی خالص عود (اگر) کی دھونی لیتے یعنی اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔^(۵)

حدیث ۳ ابوداؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک

①..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، مسائل متفرقة، ج ۲، ص ۳۸۰.

و "الفتاویٰ الہندیة"، کتاب الکراہیة، الباب التاسع عشر فی الختان، ج ۵، ص ۳۵۷.

②..... "الهدایة"، کتاب الکراہیة، مسائل متفرقة، ج ۲، ص ۳۸۰.

③..... المرجع السابق.

④..... "صحیح البخاری"، کتاب اللباس، باب الطیب فی الرأس واللحیة، الحدیث: ۵۹۲۳، ج ۴، ص ۸۱.

⑤..... "صحیح مسلم"، کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها، باب کراہة قول الإنسان... إلخ، الحدیث: ۲۱- (۲۲۵۴)، ص ۱۲۳۷.

قسم کی خوشبو تھی، جس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ (1)

حدیث ۳ → شرح سنہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی میں کنگھا کرتے۔ (2)

حدیث ۵ → ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے۔“ (3) یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے کنگھا کرے۔

حدیث ۶ → امام مالک نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میرے سر پر پورے بال تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، ان کو کنگھا کیا کروں؟ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”ہاں اور ان کا اکرام کرو۔“ لہذا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے فرمانے کی وجہ سے کبھی دن میں دو مرتبہ تیل لگایا کرتے۔ (4)

حدیث ۷ → ترمذی و ابو داؤد و نسائی نے عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز روز کنگھا کرنے سے منع فرمایا۔“ (5) (یہ نبی تنزیہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ مرد کو بناؤ سنگھار میں مشغول نہ رہنا چاہیے)

حدیث ۸ → امام مالک نے عطاء بن یسار سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کے درست کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ شخص درست کر کے واپس آیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔“ (6)

حدیث ۹ → ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اٹھ پتھر کا سرمہ لگاؤ کہ وہ نگاہ کو جلا دیتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے۔“ اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے یہاں سرمہ دانی تھی، جس سے ہر شب میں سرمہ لگاتے تھے تین سلاخیاں اس آنکھ میں اور تین اس میں۔ (7)

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الرجل، باب في إستحباب الطيب، الحديث: ٤١٦٢، ج ٤، ص ١٠٣.

②..... ”شرح السنة“، كتاب اللباس، باب ترجيل الشعر... إلخ، الحديث: ٣٠٥٧، ج ٦، ص ٢٠١، ٢٠٢.

③..... ”سنن أبي داود“، كتاب الرجل، باب في إصلاح الشعر، الحديث: ٤١٦٣، ج ٤، ص ١٠٣.

④..... ”الموطأ“، كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر، الحديث: ١٨١٨، ج ٢، ص ٤٣٥.

⑤..... ”سنن الترمذی“، كتاب اللباس، باب ماجاء في النهی عن الرجل الاغيبا، الحديث: ١٧٦٢، ج ٣، ص ٢٩٣.

⑥..... ”الموطأ“، كتاب الشعر، باب إصلاح الشعر، الحديث: ١٨١٩، ج ٢، ص ٤٣٥-٤٣٦.

⑦..... ”سنن الترمذی“، كتاب اللباس، باب ماجاء في الإكتحال، الحديث: ١٧٦٣، ج ٣، ص ٢٩٣.

حدیث ۱۰ ابو داؤد و نسائی نے کریمہ بنت ہمام سے روایت کی، کہتی ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منہدی لگانے کے متعلق پوچھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن میں خود منہدی لگانے کو ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بو ناپسند تھی۔^(۱)

حدیث ۱۱ ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کی، یا نبی اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) مجھے بیعت کر لیجیے۔ فرمایا: ”میں تجھے بیعت نہ کروں گا، جب تک تو اپنی ہتھیلیوں کو نہ بدل دے۔ (یعنی منہدی لگا کر ان کا رنگ نہ بدل لے) تیرے ہاتھ گویا درندہ کے ہاتھ معلوم ہو رہے ہیں۔“^(۲) (یعنی عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھوں کو رنگین کر لیا کریں)۔

حدیث ۱۲ ابو داؤد و نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے پردہ کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا یعنی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو دینا چاہا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا، عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ ”اگر عورت ہوتی تو ناخنوں کو منہدی سے رنگے ہوتی۔“^(۳)

حدیث ۱۳ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مخت حاصل لایا گیا، جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں منہدی سے رنگے تھے۔ ارشاد فرمایا: اس کا کیا حال ہے؟ (یعنی اس نے کیوں منہدی لگائی ہے) لوگوں نے عرض کی، یہ عورتوں سے تشبہ کرتا ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے حکم فرمایا، اس کو شہر بدر کر دیا گیا، مدینہ سے نکال کر قبیح کو بھیج دیا گیا۔^(۴)

حدیث ۱۴ ترمذی نے سعید بن المسیب سے روایت کی، کہتے ہیں کہ اللہ (عزوجل) طیب ہے۔ طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، سٹھرا ہے سٹھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے جواد کو دوست رکھتا ہے۔ لہذا اپنے صحن کو سٹھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔^(۵)

حدیث ۱۵ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

①.....”سنن أبي داود“، كتاب الرجل، باب في الخضاب للنساء، الحديث: ٤١٦٤، ج ٤، ص ١٠٣.

②.....المرجع السابق، الحديث: ٤١٦٥، ج ٤، ص ١٠٤. ③.....المرجع السابق، الحديث: ٤١٦٦، ج ٤، ص ١٠٤.

④.....”سنن أبي داود“، كتاب الأدب، باب الحكم في المختلن، الحديث: ٤٩٢٨، ج ٤، ص ٣٦٨.

⑤.....”سنن الترمذي“، كتاب الأدب، باب ماجاء في النظافة، الحديث: ٢٨٠٨، ج ٤، ص ٣٦٥.

فرمایا: جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، کہ کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں (یعنی یہ بات بھی تکبر ہے یا نہیں)؟ فرمایا: ”اللہ (عزوجل) جمیل ہے جمال کو دوست رکھتا ہے۔ تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا۔“ (1)

حدیث ۱۶ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو۔“ (2) یعنی خضاب کرو۔

حدیث ۱۷ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ فتح مکہ کے دن ابو قحافہ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد) لائے گئے اور ان کا سر اور داڑھی شگامہ (یہ ایک گھاس ہے) کی طرح سفید تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کو کسی چیز سے بدل دو (یعنی خضاب لگاؤ) اور سیاہی سے بچو۔“ (3) یعنی سیاہ خضاب نہ لگانا۔

حدیث ۱۸ ابوداؤد و نسائی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتر کے پوٹے، وہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔“ (4)

حدیث ۱۹ ترمذی و ابوداؤد و نسائی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے اچھی چیز جس سے سفید بالوں کا رنگ بدلا جائے، منہدی یا کتم ہے۔“ (5) یعنی منہدی لگائی جائے یا کتم۔

حدیث ۲۰ ابوداؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا جس نے منہدی کا خضاب کیا تھا، ارشاد فرمایا: یہ خوب اچھا ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص گزرا جس نے منہدی اور کتم کا خضاب کیا تھا، فرمایا: یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر ایک تیسرا شخص گزرا جس نے زرد خضاب کیا تھا، فرمایا: ”یہ ان سب سے اچھا ہے۔“ (6)

حدیث ۲۱ ابن التجار نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإیمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، الحدیث: ۱۴۷- (۹۱)، ص ۶۰.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبياء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، الحدیث: ۳۶۶۲، ج ۲، ص ۴۶۲.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب اللباس... إلخ، باب إستحباب خضاب الشیب بصفرة... إلخ، الحدیث: ۸۰- (۲۱۰۲)، ص ۱۱۶۴.

④..... ”سنن أبي داود“، کتاب الترجل، باب ماجاء في خضاب السواد، الحدیث: ۴۲۱۲، ج ۴، ص ۱۱۸.

و ”سنن النسائي“، کتاب الزينة من السنن، باب النهی عن الخضاب بالسواد، الحدیث: ۵۰۸۵، ص ۸۱۲.

⑤..... ”سنن الترمذی“، کتاب اللباس، باب ماجاء في الخضاب، الحدیث: ۱۷۵۹، ج ۳، ص ۲۹۲.

⑥..... ”سنن أبي داود“، کتاب الترجل، باب في خضاب الصفرة، الحدیث: ۴۲۱۱، ج ۴، ص ۱۱۷.

”سب سے پہلے منہدی اور کتم کا خضاب ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور سب سے پہلے سیاہ خضاب فرعون نے کیا۔“ (1)

حدیث ۲۲ طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے مستدرک میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ مومن کا خضاب زردی ہے اور مسلم کا خضاب سرخی ہے اور کافر کا خضاب سیاہی ہے۔“ (2)

حدیث ۲۳ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ (عزوجل) کی لعنت اس عورت پر جو بال ملائے یا دوسری سے بال ملوائے اور گودنے والی (3) اور گودوانے والی پر۔“ (4)

حدیث ۲۳ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ (عزوجل) کی لعنت گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر اور بال نوچنے والیوں پر یعنی جو عورت بھوں کے بال نوچ کر ابرو کو خوبصورت بناتی ہے اس پر لعنت اور خوبصورتی کے لیے دانت ریتنے والیوں پر یعنی جو عورتیں دانتوں کو ریت کر خوبصورت بناتی ہیں اور اللہ (عزوجل) کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدل ڈالتی ہیں۔ ایک عورت نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے، انہوں نے فرمایا: میں کیوں نہ لعنت کروں ان پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اس پر جو کتاب اللہ میں (ملعون) ہے اس نے کہا میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے مجھے تو اس میں یہ چیز نہیں ملی۔ فرمایا: تو نے (غور سے) پڑھا ہوتا تو ضرور اس کو پایا ہوتا کیا تو نے یہ نہیں پڑھا:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (5)

”یعنی رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔“

اس عورت نے کہا، ہاں یہ پڑھا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے یہ کہا کہ ان میں کی بعض باتیں تو آپ کی بی بی میں بھی ہیں۔ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا اندر جا کر دیکھو وہ مکان میں گئی پھر آئی، تو آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ عبد اللہ نے فرمایا اگر اس میں یہ بات ہوتی تو میرے ساتھ نہیں رہتی۔ یعنی ایسی عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے۔ (6)

حدیث ۲۵ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

①..... "الفردوس بما نُور الخطاب"، الحدیث: ۴۷، ج ۱، ص ۳۵.

②..... "المستدرک"، کتاب معرفة الصحابة، باب الصفرة خضاب المؤمن... إلخ، الحدیث: ۶۲۹۶، ج ۴، ص ۶۷۵.

③..... یعنی جسم میں سوئی وغیرہ چھید لگا کر اس میں سُرمہ یا سبزہ یا نیل بھرنے والی۔

④..... "صحیح البخاری"، کتاب اللباس، باب الوصل فی الشعر، الحدیث: ۵۹۳۷، ج ۴، ص ۸۴.

⑤..... پ ۲۸، الحشر: ۷.

⑥..... "صحیح مسلم"، کتاب اللباس، باب تحريم، فعل الواصلة والمستوصلة... إلخ، الحدیث: ۱۲۰- (۲۱۲۵)، ص ۱۱۷۵.

تقریباً حق ہے یعنی نظر لگانا صحیح ہے ایسا ہوتا ہے اور گودنے سے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے منع فرمایا۔⁽¹⁾

حدیث ۲۶ سنن ابوداؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا، بال ملانے والی اور طوانے

والی اور ابرو کے بال نوچنے والی اور نوچوانے والی اور گودنے والی اور گودوانے والی پر لعنت ہے، جبکہ بیماری سے یہ نہ کیا ہو۔⁽²⁾

حدیث ۲۷ ابوداؤد نے روایت کی، کہ جس سال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حج کیا (مدینہ

میں آئے) اور منبر پر چڑھ کر بالوں کا گچھا جو سپاہی کے ہاتھ میں تھالے کر کہا اے اہل مدینہ تمہارے علما کہاں ہیں؟ میں نے رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اس سے منع فرماتے تھے یعنی چوٹی میں بال جوڑنے سے اور

حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) یہ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اسی وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔⁽³⁾

مسئلہ ۱ انسان کے بالوں کی چوٹی بنا کر عورت اپنے بالوں میں گوندھے یہ حرام ہے۔ حدیث میں اس پر لعنت آئی

بلکہ اس پر بھی لعنت جس نے کسی دوسری عورت کے سر میں ایسی چوٹی گوندھی اور اگر وہ بال جس کی چوٹی بنائی گئی خود اسی عورت کے

ہیں جس کے سر میں جوڑی گئی جب بھی ناجائز اور اگر ان یا سیاہ تاگے کی چوٹی بنا کر لگائے تو اس کی ممانعت نہیں۔ سیاہ کپڑے کا

موباف⁽⁴⁾ بنانا جائز ہے اور کلاوہ میں تو اصلاً حرج نہیں کہ یہ بالکل ممتاز ہوتا ہے۔ اسی طرح گودنے والی اور گودوانے والی یا ریتی

سے دانت ریت کر خوبصورت کرنے والی یا دوسری عورت کے دانت ریتنے والی یا موچنے⁽⁵⁾ سے ابرو کے بالوں کو نوچ کر

خوبصورت بنانے والی اور جس نے دوسری کے بال نوچے ان سب پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔⁽⁶⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ لڑکیوں کے کان ناک چھیدنا جائز ہے اور بعض لوگ لڑکوں کے بھی کان چھدواتے ہیں اور ڈریا⁽⁷⁾ پہناتے

ہیں یہ ناجائز ہے یعنی کان چھدوانا بھی ناجائز اور اسے زیور پہنانا بھی ناجائز۔⁽⁸⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں منہدی لگانا جائز ہے کہ یہ زینت کی چیز ہے، بلا ضرورت چھوٹے بچوں کے ہاتھ

پاؤں میں منہدی لگانا نہ چاہیے۔⁽⁹⁾ (عالمگیری) لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتے ہیں جس طرح ان کو زیور پہنا سکتے ہیں۔

①..... "صحیح البخاری"، کتاب الطب، باب العین حق، الحدیث: ۵۷۴۰، ج ۴، ص ۳۲.

②..... "سنن ابی داؤد"، کتاب الترحل، باب فی صلۃ الشعر، الحدیث: ۴۱۷۰، ج ۴، ص ۱۰۶.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۱۶۷، ج ۴، ص ۱۰۵.

④..... بالوں میں دھاگہ لگا کر انہیں دراز کرنا موباف کہلاتا ہے۔ ⑤..... یعنی بال اکھاڑنے کا آلہ۔

⑥..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی النظر والمس، ج ۹، ص ۶۱۴.

⑦..... یعنی کانوں کی ٹو میں پہننے کا چھوٹا سا زیور جس میں عام طور پر صرف ایک موٹی ہوتا ہے۔

⑧..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۳.

⑨..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب العشرون فی الزینۃ، ج ۵، ص ۳۵۹.

مسئلہ ۳ عورتیں اپنی چوٹیوں میں پوت (۱) اور چاندی سونے کے دانے لگا سکتی ہیں۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ پتھر کا سرمہ استعمال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرمہ یا کاجل بقصد زینت مرد کو لگانا مکروہ ہے اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ (۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ مکان میں ذی روح کی تصویر لگانا جائز نہیں اور غیر ذی روح کی تصویر سے مکان آراستہ کرنا جائز ہے جیسا کہ طغرے اور کتبوں سے مکان سجانے کا رواج ہے۔ (۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ گرمی سے بچنے کے لیے خس یا جواسے کی ٹٹیاں (۵) لگانا جائز ہے اور اگر تکبر کے طور پر ہو تو ناجائز ہے۔ (۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۸ یہ شخص سواری پر ہے اور اس کے ساتھ اور لوگ پیدل چل رہے ہیں اگر محض اپنی شان دکھانے اور تکبر کے لیے ایسا کرتا ہے تو منع ہے۔ (۷) (عالمگیری) اور ضرورت سے ہو تو حرج نہیں مثلاً یہ بوڑھا یا کمزور ہے کہ چل نہ سکے گا یا ساتھ والے کسی طرح اسکے پیدل چلنے کو گوارا ہی نہیں کرتے، جیسا کہ بعض مرتبہ علماء و مشائخ کے ساتھ دوسرے لوگ خود پیدل چلتے ہیں اور ان کو پیدل چلنے نہیں دیتے، اس میں کراہت نہیں جبکہ اپنے دل کو قابو میں رکھیں اور تکبر نہ آنے دیں اور محض ان لوگوں کی دلجوئی منظور ہو۔

مسئلہ ۹ مرد کو داڑھی اور سر وغیرہ کے بالوں میں خضاب لگانا جائز بلکہ مستحب ہے مگر سیاہ خضاب لگانا منع ہے ہاں مجاہد کو سیاہ خضاب بھی جائز ہے کہ دشمن کی نظر میں اس کی وجہ سے ہیبت بیٹھے گی۔ (۸) (در مختار)

نام رکھنے کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا آخِذًا بِمَنُومِهِمْ وَلَا يَسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَنَّ

① پوت: یعنی شیشے یا کانچ کے دانے۔

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب العشرون فی الزینۃ، ج ۵، ص ۳۵۹۔

③ المرجع السابق۔

④ المرجع السابق۔

⑤ یعنی مخصوص گھاس کا پردہ یا قنات دروازوں وغیرہ پر لگا کر اس پر پانی چھڑکتے ہیں، تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب العشرون فی الزینۃ، ج ۵، ص ۳۵۹۔

⑦ المرجع السابق، ص ۳۶۰۔

⑧ "الدر المختار"، کتاب الحظرو الإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۶۔

خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْبِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا اَبَالَ لِقَابٍ بِسْمِ الْاِسْمِ الْقِسْوُفِيِّ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ قَا وَلَيْتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ (1)

”اے ایمان والو! ایک گروہ دوسرے گروہ سے مسخر اپن نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ اون سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخر اپن کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور اپنے کو عیب نہ لگاؤ اور برے لقبوں سے نہ پکارو، ایمان کے بعد فسوق برانام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔“

حدیث ۱ — بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔“ (2)

حدیث ۲ — اصحاب سنن اربعہ نے عبد اللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے بھائیوں کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو برے القاب سے نہ پکارو۔“ (3)

حدیث ۳ — صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں۔“ (4)

حدیث ۴ — امام احمد و ابو داؤد نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپوں کے نام سے بلا یا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو۔“ (5)

حدیث ۵ — ابو داؤد نے ابی وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو اور اللہ (عزوجل) کے نزدیک ناموں میں زیادہ پیارے نام عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں اور سچے نام حارث و ہمام ہیں اور حرب و مرہ برے نام ہیں۔“ (6)

حدیث ۶ — ویلیسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اچھوں کے نام پر نام رکھو اور اپنی حاجتیں اچھے چہرہ والوں سے طلب کرو۔“ (7)

①..... پ ۲۶، الحجرت: ۱۱.

②..... ”شعب الإيمان“، باب فی حقوق الأولاد والأهلین، الحدیث: ۸۶۵۸، ج ۶، ص ۴۰۰.

و ”کنز العمال“، کتاب النکاح، رقم: ۴۵۱۸۴، ج ۱۶، ص ۱۷۳.

③..... ”کنز العمال“، کتاب النکاح، رقم: ۴۵۲۱۱، ج ۱۶، ص ۱۷۵.

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب الآداب، باب النهی عن التکنی بأبی القاسم... إلخ، الحدیث: ۲- (۲۱۳۲)، ص ۱۱۷۸.

⑤..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الأدب، باب فی تغییر الأسماء، الحدیث: ۴۹۴۸، ج ۴، ص ۳۷۴.

⑥..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۹۵۰، ج ۴، ص ۳۷۴.

⑦..... ”المسند الفردوس“، الحدیث: ۲۳۲۹، ج ۲، ص ۵۸.

حدیث ۷ صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ کرو، کیونکہ (میری کنیت ابوالقاسم محض اس وجہ نہیں کہ میرے صاحب زادہ کا نام قاسم تھا بلکہ) میں قاسم بنایا گیا ہوں کہ تمہارے مابین تقسیم کرتا ہوں۔“ (1)

حدیث ۸ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں تھے، ایک شخص نے ابوالقاسم کہہ کر پکارا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا، میں نے اس شخص کو پکارا، ارشاد فرمایا: ”میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ کرو۔“ (2)

حدیث ۹ ابوداؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) اگر حضور کے بعد میرے لڑا پیدا ہو تو آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت کروں؟ فرمایا: ”ہاں۔“ (3)

حدیث ۱۰ ابن عساکر ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے (4)، وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں۔“ (5)

حدیث ۱۱ حافظ ابوطاہر سلفی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”روز قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انھیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے، الہی! ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے، ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں؟ فرمائے گا: ”جنت میں جاؤ! میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو، دوزخ میں نہ جائے گا۔“ (6)

1..... ”صحیح البخاری“، فرض الخمس، باب قوله تعالیٰ ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُسْئًا وَلِلْمَرْسُولِ﴾ یعنی للرسول قسم ذلك، الحدیث: ۳۱۱۴، ج ۲، ص ۳۴۶.

2..... ”صحیح البخاری“، کتاب البیوع، باب ما ذکر فی الأسواق، الحدیث: ۲۱۲۰، ج ۲، ص ۲۴.

3..... ”سنن أبي داود“، کتاب الأدب، باب فی الرخصة فی الجمع بینہما، الحدیث: ۴۹۶۷، ج ۴، ص ۳۸۰.

4..... اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ”فتاویٰ رضویہ“ جلد 24 صفحہ 691 پر فرماتے ہیں: ”بہتر یہ ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے، اس کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے کہ فضائل تنہا انھیں اسمائے مبارکہ کے وارد ہوئے ہیں۔“

5..... ”کنز العمال“، کتاب النکاح، الباب السابع فی بر الاولاد و حقوقہم، الحدیث: ۴۵۲۱۵، ج ۸، الجزء السادس عشر، ص ۱۷۵. و ”فتاویٰ رضویہ“، ج ۲۳، ص ۲۸۶.

6..... ”فردوس الاخبار“، الحدیث: ۸۵۱۵، ج ۲، ص ۵۰۳.

و ”فتاویٰ رضویہ“، ج ۲۳، ص ۲۸۷.

حدیث ۱۲ ابو نعیم نے حلیہ میں نبیط بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا، اسے عذاب نہ دوں گا۔“ (1)

حدیث ۱۳ ابن سعد طبقات میں عثمان عمری سے مرسل راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”تم میں کسی کا کیا نقصان ہے، اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں۔“ (2)

حدیث ۱۴ طبرانی کبیر میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے، وہ ضرور جاہل ہے۔“ (3)

حدیث ۱۵ حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو۔“ (4)

حدیث ۱۶ بزار نے ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو اور نہ محروم کرو۔“ (5)

حدیث ۱۷ صحیح مسلم میں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ ان کا نام برہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنا تزکیہ نہ کرو (یعنی اپنی بڑائی اور تعریف نہ کرو) اللہ (عزوجل) کو معلوم ہے کہ تم میں برا اور نیکی والا کون ہے، اس کا نام زینب رکھ دو۔“ (6)

حدیث ۱۸ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں: جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام برہ تھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ نام بدل کر جویریہ رکھا اور یہ بات حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو ناپسند تھی کہ یوں کہا جائے کہ برہ کے پاس سے چلے گئے۔“ (7)

حدیث ۱۹ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لڑکی کا

①..... ”كشف الخفاء“، حرف الخاء، الحدیث: ۱۲۴۳، ج ۱، ص ۳۴۵.

②..... ”الطبقات الكبرى“ لابن سعد، الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين، محمد بن طلحة، رقم: ۶۲۲، ج ۵، ص ۴۰.

③..... ”المعجم الكبير“، الحدیث: ۱۱۰۷۷، ج ۱۱، ص ۵۹.

④..... ”الجامع الصغير“، الحدیث: ۷۰۶، ص ۴۹.

⑤..... ”البحر الزخار المعروف بمسند البزار“، الحدیث: ۳۸۸۳، ج ۹، ص ۳۲۷.

⑥..... ”صحیح مسلم“، کتاب الآداب، باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن... إلخ، الحدیث: ۱۹، (۲۱۴۲)، ص ۱۱۸۲.

⑦..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۶، (۲۱۴۰)، ص ۱۱۸۲.

نام عاصیہ تھا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔⁽¹⁾

حدیث ۲۰ ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے

نام کو بدل دیتے تھے۔“⁽²⁾

حدیث ۲۱ صحیح بخاری میں سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں: میرے دادا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے پوچھا: تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا: حزن۔

فرمایا: ”تم سہل ہو۔ یعنی اپنا نام سہل رکھو کہ اس کے معنی ہیں نرم اور حزن سخت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نام میرے باپ نے

رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا۔“⁽³⁾ سعید ابن المسیب کہتے ہیں: اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔

تنبیہ: نام رکھنے کے متعلق بعض مسائل عقیدہ کے بیان میں ذکر کیے گئے ہیں وہاں سے معلوم کریں⁽⁴⁾، بعض باتیں

یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

مسئلہ ۱ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارے نام عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ان دونوں

میں زیادہ افضل عبد اللہ ہے کہ عبودیت کی اضافت⁽⁵⁾ علم ذات کی طرف ہے۔ انہیں کے حکم میں وہ اسماء ہیں جن میں عبودیت

کی اضافت دیگر اسماء صفاتیہ کی طرف ہو، مثلاً عبد الرحیم، عبد الملک، عبد الخالق وغیرہا۔

حدیث میں جو ان دونوں ناموں کو تمام ناموں میں خدا تعالیٰ کے نزدیک پیارا فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص

اپنا نام عبد کے ساتھ رکھنا چاہتا ہو تو سب سے بہتر عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں، وہ نام نہ رکھے جائیں جو جاہلیت میں رکھے جاتے تھے

کہ کسی کا نام عبد شمس اور کسی کا عبد الدار ہوتا۔

لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں نام محمد و احمد سے بھی افضل ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم پاک محمد

واحمد ہیں اور ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں نام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائے، اگر یہ دونوں

نام خدا کے نزدیک بہت پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پسند نہ فرمایا ہوتا۔ احادیث میں محمد نام رکھنے کے بہت فضائل

مذکور ہیں، ان میں سے بعض ذکر کی گئیں۔

مسئلہ ۲ جس کا نام محمد ہو وہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہے اور حدیث میں جو ممانعت آئی ہے، وہ حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ مخصوص تھی، کیونکہ اگر کسی کی یہ کنیت ہوتی اور اس کے ساتھ پکارا جاتا تو دھوکا لگتا

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الآداب، باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن... إلخ، الحدیث: ۱۵۔ (۲۱۳۹)، ص ۱۱۸۱۔

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب الأدب، باب ماجاء فی تغییر الأسماء، الحدیث: ۲۸۴۸، ج ۴، ص ۳۸۲۔

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الأدب، باب تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه، الحدیث: ۶۱۹۳، ج ۴، ص ۱۵۳۔

④..... دیکھئے: اسی جلد میں حصہ ۱۵، ص ۳۵۶۔ ⑤..... یعنی عبد کی نسبت۔

کہ شاید حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو پکارا، چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ کسی نے دوسرے کو ابو القاسم کہہ کر آواز دی، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو اس نے کہا، میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو نہیں ارادہ کیا یعنی نہیں پکارا اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ اپنی کنیت نہ کرو۔“ (1)

اگر یہ شبہ کیا جائے کہ نام رکھنے میں بھی اس قسم کا دھوکا ہو سکتا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام پاک کے ساتھ پکارنا قرآن پاک نے منع فرمادیا تھا:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (2)

لہذا صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) جو حاضر خدمت اقدس ہوا کرتے تھے، وہ کبھی نام کے ساتھ پکارتے نہ تھے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ القاب سے ندا کرتے۔

وہ احتمال ہی یہاں پیدا نہ ہوتا کہ محمد کہہ کر کوئی پکارے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) مراد ہوں۔ اعراب وغیرہ ناواقف لوگوں نے اس طرح پکارا تو یہ دوسری بات ہے کیونکہ وہ ناواقفی میں ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ محمد بن الحنفیہ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوا، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔

مسئلہ ۳ بعض اسماء الہیہ جن کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے ان کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے، جیسے علی، رشید، کبیر، بدیع، کیونکہ بندوں کے ناموں میں وہ معنی مراد نہیں ہیں جن کا ارادہ اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنے میں ہوتا ہے اور ان ناموں میں الف و لام ملا کر بھی نام رکھنا جائز ہے، مثلاً العلی، الرشید۔

ہاں اس زمانہ میں چونکہ عوام میں ناموں کی تصغیر کرنے کا بکثرت رواج ہو گیا ہے، لہذا جہاں ایسا گمان ہو ایسے نام سے بچنا ہی مناسب ہے۔ خصوصاً جب کہ اسماء الہیہ کے ساتھ عبد کا لفظ ملا کر نام رکھا گیا، مثلاً عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد العزیز کہ یہاں مضاف الیہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور ایسی صورت میں تصغیر اگر قصد ہوتی تو معاذ اللہ کفر ہوتی، کیونکہ یہ اس شخص کی تصغیر نہیں بلکہ معبود برحق کی تصغیر ہے مگر عوام اور ناواقفوں کا یہ مقصد یقیناً نہیں ہے، اسی لیے وہ حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ اون کو سمجھایا اور بتایا جائے اور ایسے موقع پر ایسے نام ہی نہ رکھے جائیں جہاں یہ احتمال ہو۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

①..... انظر: "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، الحديث: ۲۱۲۰، ج ۲، ص ۲۴.

②..... پ ۱۸، النور: ۶۳.

ترجمہ کنز الایمان: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا وجیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

③..... "الدر المختار" و "رد المختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۸۸.

مسئلہ ۳ ایسا نام رکھنا جس کا ذکر نہ قرآن مجید میں آیا ہو نہ حدیثوں میں ہو نہ مسلمانوں میں ایسا نام مستعمل ہو، اس میں علما کو اختلاف ہے بہتر یہ ہے کہ نہ رکھے۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ مراہوا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھنے کی حاجت نہیں بغیر نام رکھے دفن کر دیں۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ بچہ پیدا ہو کر مر گیا تو دفن سے پہلے اس کا نام رکھا جائے لڑکا ہو تو لڑکوں کا سا اور لڑکی ہو تو لڑکیوں کا سا نام رکھا جائے اور معلوم نہ ہو سکا کہ لڑکی ہے یا لڑکا تو ایسا نام رکھا جائے جو مرد و عورت دونوں کے لیے ہو سکتا ہو۔^(۳) (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ بچہ کی کنیت ہو سکتی ہے یا نہیں صحیح یہ ہے کہ ہو سکتی ہے، حدیث ابی عمیر اس کی دلیل ہے۔^(۴)

مسئلہ ۸ بچہ کی کنیت ابوبکر، ابوتراب، ابوالحسن، وغیرہ رکھنا جائز ہے ان کنیتوں سے تبرک مقصود ہوتا ہے کہ ان حضرات کی برکت بچہ کے شامل حال ہو۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۹ جو نام برے ہوں ان کو بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، کہ ”قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے نام اچھے رکھو۔“^(۶) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برے ناموں کو بدل دیا۔ ایک شخص کا نام اصرم تھا اس کو بدل کر زرعد رکھا۔^(۷) اور عاصیہ نام کو بدل کر جمیلہ رکھا۔^(۸) یسار، رباح، ارجح، برکت نام رکھنے سے بھی منع فرمایا۔^(۹)

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی والعشرون فی تسمیۃ الاولاد، ج ۵، ص ۳۶۲.

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی والعشرون فی تسمیۃ الاولاد، ج ۵، ص ۳۶۲.

یہ ظاہر الروایۃ ہے مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ بہر حال اس کی تکریم کے لیے اس کا نام رکھا جائے۔ ملتقی البحر میں ہے کہ اس پر فتویٰ ہے اور نہر سے مستفاد ہے کہ یہی مختار ہے ایسا ہی در مختار باب صلاۃ الجنازۃ جلد ۳، صفحہ ۱۵۳ میں ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ ۴، صفحہ ۸۳۱، نماز جنازہ کا بیان میں بھی اسی کو اختیار کیا اور اس حصے پر اعلیٰ حضرت کی یہ تصدیق بھی ہے کہ اسے مسائل صحیحہ، رجیحہ، محققہ، مستحقہ پر مشتمل پایا، لہذا مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنا چاہئے۔

③..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۹.

④..... انظر: "صحیح مسلم" کتاب الآداب، باب إستحباب تحنیک المولود... إلخ، الحدیث ۳۰- (۲۱۵۰)، ص ۱۱۸۵.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۹.

⑥..... "سنن أبی داود"، کتاب الأدب، باب فی تغییر الأسماء، الحدیث: ۴۹۴۸، ج ۴، ص ۳۷۴.

⑦..... المرجع السابق، باب فی تغییر الإسم القبیح، الحدیث: ۴۹۵۴، ج ۴، ص ۳۷۵.

⑧..... انظر: "صحیح مسلم"، کتاب الآداب، باب إستحباب تغییر الإسم القبیح... إلخ، الحدیث: ۱۴- (۲۱۳۹)، ص ۱۱۸۱.

⑨..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۹.

مسئلہ ۱۰ عبدالمصطفیٰ، عبدالنبی، عبدالرسول نام رکھنا جائز ہے کہ اس نسبت کی شرافت مقصود ہے اور عبودیت کے حقیقی معنی یہاں مقصود نہیں ہیں۔ رہی عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

مسئلہ ۱۱ ایسے نام جن میں تزکیہ نفس اور خود ستائی (۱) نکلتی ہے، ان کو بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدل ڈالا برہ کا نام زینب رکھا اور فرمایا کہ ”اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو۔“ (۲) شمس الدین، زین الدین، محی الدین، فخر الدین، نصیر الدین، سراج الدین، نظام الدین، قطب الدین وغیرہ اسما جن کے اندر خود ستائی اور بڑی زبردست تعریف پائی جاتی ہے نہیں رکھنے چاہیے۔ رہا یہ کہ بزرگان دین و ائمہ سابقین کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ جاننا چاہیے کہ ان حضرات کے نام یہ نہ تھے بلکہ یہ ان کے القاب ہیں کہ جب وہ حضرات مراتب عالیہ اور مناصب جلیلہ (۳) پر فائز ہوئے تو مسلمانوں نے ان کو اس طرح کہا اور یہاں ایک جاہل اور ان پڑھ جو ابھی پیدا ہوا اور اس نے دین کی ابھی کوئی خدمت نہیں کی اتنے بڑے بڑے الفاظ فخیمہ (۴) سے یاد کیا جانے لگا۔ امام محی الدین نووی رحمہ اللہ تعالیٰ باوجود اس جلالت شان کے ان کو اگر محی الدین کہا جاتا تو انکار فرماتے اور کہتے کہ جو مجھے محی الدین نام سے بلائے اس کو میری طرف سے اجازت نہیں۔ (۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۱۲ غلام محمد، غلام صدیق، غلام فاروق، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین وغیرہ اسما جن میں انبیاء و صحابہ و اولیا کے ناموں کی طرف غلام کو اضافت کر کے نام رکھا جائے یہ جائز ہے اس کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔ بعض وہابیہ کا ان ناموں کو ناجائز بلکہ شرک بتانا ان کی بدباطنی کی دلیل ہے۔ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ بعض وہابیوں نے غلام علی نام کو بدل کر غلام اللہ نام رکھا، یہ ان کی جہالت ہے کہ جائز نام کو بدل کر ناجائز نام رکھا، غلام کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اور کسی کو غلام اللہ کہنا ناجائز ہے کیونکہ غلام کے حقیقی معنی پسر اور لڑکا ہیں، اللہ (عزوجل) اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی لڑکا ہو۔ علامہ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ نے حدیقہ ندیہ میں فرمایا: یقال عبد اللہ و امة اللہ ولا یقال غلام اللہ و جاریة اللہ۔ (۶)

مسئلہ ۱۳ محمد بخش، احمد بخش، نبی بخش، پیر بخش، علی بخش، حسین بخش اور اسی قسم کے دوسرے نام جن میں کسی نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملا کر نام رکھا گیا ہو جائز ہے۔

① یعنی اپنی بڑائی اور تعریف۔

② ”صحیح مسلم“، کتاب الآداب، باب استحباب تغیر الاسم القبیح إلى حسن... إلخ، الحدیث: ۱۹۔ (۲۱۴۲)، ص ۱۱۸۲۔

③ یعنی بڑے بڑے رتبوں اور عہدوں۔

④ یعنی بزرگی والے الفاظ۔

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الحظر و الإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۸۹۔ ۶۹۰۔

⑥ ”الحدیقہ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ“، النوع الثالث والعشرون... إلخ، ج ۲، ص ۲۷۹۔

ترجمہ: یعنی یوں کہا جاتا ہے، اللہ عزوجل کا بندہ، اللہ عزوجل کی بندی اور یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ عزوجل کا غلام یا اللہ عزوجل کی لونڈی۔

مسئلہ ۱۴ غفور الدین، غفور اللہ نام رکھنا ناجائز ہے۔ کیونکہ غفور کے معنی ہیں مٹانے والا، اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ وہ بندوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، لہذا غفور الدین کے معنی ہوئے دین کا مٹانے والا۔

مسئلہ ۱۵ طلہ، یس نام بھی نہ رکھے جائیں کہ یہ مقطعات قرآنیہ سے ہیں جن کے معنی معلوم نہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ اسمائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں اور بعض علما نے اسمائے الہیہ سے کہا۔ بہر حال جب معنی معلوم نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ایسے معنی ہوں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوں اور ان ناموں کے ساتھ محمد ملا کر محمد طلہ، محمد یس کہنا بھی ممانعت کو دفع نہ کرے گا۔

مسئلہ ۱۶ محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، احمد رسول، نبی الزمان نام رکھنا بھی ناجائز ہے، بلکہ بعض کا نام نبی اللہ بھی سنا گیا ہے، غیر نبی کو نبی کہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ: اگر کوئی یہ کہے کہ ناموں میں اصلی معنی کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو یہ شخص مراد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شیطان ابلیس وغیرہ اس قسم کے ناموں سے لوگ گریز نہ کرتے اور ناموں میں اچھے اور برے ناموں کی دو قسمیں نہ ہوتیں اور حدیث میں نہ فرمایا جاتا کہ اچھے نام رکھو، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برے ناموں کو بدلانا نہ ہوتا کہ جب اس اصلی معنی کا بالکل لحاظ نہیں تو بدلنے کی کیا وجہ۔

مسابقت کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کچھ لوگ پیدل تیر اندازی کر رہے تھے یعنی مسابقت کے طور پر، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے بنی اسمعیل (یعنی اہل عرب کیونکہ عرب والے حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں)! تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ یعنی اسمعیل علیہ السلام تیر انداز تھے اور دونوں فریقوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں۔

دوسرے فریق نے ہاتھ روک لیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ”کیوں تم لوگوں نے ہاتھ روکا۔“ انھوں نے کہا، جب حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) بنی فلاں یعنی ہمارے فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کیوں کر تیر چلائیں یعنی اب ہمارے جیتنے کی صورت باقی نہیں رہی۔ ارشاد فرمایا: ”تم تیر چلاؤ، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔“ (۱)

①..... ”صحیح البخاری“، کتاب المناقب، باب نسبة الیمن... إلخ، الحدیث: ۳۵۰۷، ج ۲، ص ۴۷۶.

حدیث ۲ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مضمر (۱) گھوڑوں میں ہنیا (۲) سے دوڑ کرائی اور اس کی انتہائی مسافت ثنیۃ الوداع تھی اور دونوں کے مابین چھ میل مسافت تھی اور جو گھوڑے مضمر نہ تھے ان کی دوڑ ثنیۃ سے مسجد بنی زریق تک ہوئی ان دونوں میں ایک میل کا فاصلہ تھا۔ (۳)

حدیث ۳ ترمذی و ابوداؤد نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسابقت نہیں مگر تیر اور اونٹ اور گھوڑے میں۔“ (۴)

حدیث ۴ شرح سنہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو گھوڑوں میں ایک اور گھوڑا شامل کر لیا اور معلوم ہے کہ یہ پیچھے رہ جائے گا تو اس میں خیر نہیں اور اگر اندیشہ ہے کہ یہ آگے جاسکتا ہے تو مضایقہ نہیں۔“ (۵) یعنی پہلی صورت میں ناجائز ہے اور دوسری صورت میں جائز۔

حدیث ۵ ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو گھوڑوں میں ایک اور گھوڑا شامل کیا اور اس کے پیچھے ہو جانے کا علم نہیں ہے تو قمار (جوا) نہیں اور معلوم ہے کہ پیچھے رہ جائے گا تو جوا ہے۔“ (۶)

حدیث ۶ ابوداؤد نسائی نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جلب و جنب نہیں ہیں (۷) یعنی گھوڑ دوڑ میں یہ جائز نہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کے گھوڑے کو ڈانٹے اور مارے کہ یہ تیز دوڑنے لگے اور نہ یہ کہ سوار اپنے ساتھ کوئل گھوڑا (۸) رکھے کہ جب پہلا گھوڑا تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جائے۔“

حدیث ۷ ابوداؤد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ سفر میں تھیں۔ کہتی ہیں: میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے پیدل مسابقت کی اور میں آگے ہو گئی پھر جب میرے جسم

۱..... مضمر گھوڑے وہ کہلاتے ہیں جن کو خوب کھلا کر فرہ کر لیا جائے، اس کے بعد خوراک کم کریں اور ایک مکان میں بند کر دیں اور ان کو جھول اڑھادیں کہ خوب پسینہ آئے اور بادی گوشت چھنٹ کر دبے ہو جائیں، ایسے گھوڑے بہت تیز رفتار ہوتے ہیں۔ ۱۲ منہ

۲..... یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے چند میل فاصلہ پر ہے۔ ۱۲ منہ

۳..... ”صحیح البخاری“، کتاب الجہاد والسیر، باب غایۃ السبق للخیل المضمرة... إلخ، الحدیث: ۲۸۷۰، ج ۲، ص ۲۷۳.

۴..... ”سنن الترمذی“، کتاب الجہاد، باب ماجاء فی الرهان والسبق، الحدیث: ۱۷۰۶، ج ۳، ص ۲۶۷.

۵..... ”شرح السنۃ“، کتاب السیر والجہاد، باب أخذ المال علی المسابقت... إلخ، الحدیث: ۲۶۴۸، ج ۵، ص ۵۳۷.

۶..... ”سنن أبی داؤد“، کتاب الجہاد، باب فی المحلل، الحدیث: ۲۵۷۹، ج ۳، ص ۴۲.

۷..... المرجع السابق، باب فی الحلب علی الخیل فی السباق، الحدیث: ۲۵۸۱، ج ۳، ص ۴۳.

۸..... یعنی خالی گھوڑا۔

میں گوشت زیادہ ہو گیا یعنی پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی، میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کے ساتھ دوڑ کی۔ اس مرتبہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) آگے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔⁽¹⁾

مسائل فقہیہ

مسابقت کا مطلب یہ ہے کہ چند شخص آپس میں یہ طے کریں کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے جو سبقت لے جائے اس کو یہ دیا جائے گا یہ مسابقت صرف تیر اندازی میں ہو سکتی ہے یا گھوڑے، گدھے، خچر میں، جس طرح گھوڑ دوڑ میں ہوا کرتا ہے کہ چند گھوڑے ایک ساتھ بھگائے جاتے ہیں جو آگے نکل جاتا ہے، اس کو ایک رقم یا کوئی چیز دی جاتی ہے۔ اونٹ اور آدمیوں کی دوڑ بھی جائز ہے کیونکہ اونٹ بھی اسباب جہاد میں ہے یعنی یہ جہاد کے لیے کارآمد چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دوڑوں سے مقصود جہاد کی طیاری ہے لہذا مقصود نہیں اگر محض کھیل کے لیے ایسا کرتا ہے تو مکروہ ہے اسی طرح اگر فخر اور اپنی بڑائی مقصود ہو یا اپنی شجاعت و بہادری کا اظہار مقصود ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱ سبقت لے جانے والے کے لیے کوئی چیز مشروط نہ ہو تو ان مذکورہ اشیا کے ساتھ اس کا جواز خاص نہیں، بلکہ ہر چیز میں مسابقت ہو سکتی ہے۔⁽³⁾ (درمختار)

مسئلہ ۲ سابق کے لیے جو کچھ ملنا طے پایا ہے وہ اس کے لیے حلال و طیب ہے مگر وہ اس کا مستحق نہیں یعنی اگر دوسرا اس کو نہ دے تو قاضی کے یہاں دعوے کر کے جبراً وصول نہیں کر سکتا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ مسابقت جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف ایک جانب سے مال شرط ہو، یعنی دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ اگر تم آگے نکل گئے تو تم کو مثلاً سو روپے دوں گا اور میں آگے نکل گیا تو تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ دوسری صورت جواز کی یہ ہے کہ شخص ثالث نے ان دونوں سے یہ کہا کہ تم میں جو آگے نکل جائے گا اس کو اتنا دوں گا جیسا کہ اکثر حکومت کی جانب سے دوڑ ہوتی ہے اور اس میں آگے نکل جانے والے کے لیے انعام مقرر ہوتا ہے ان لوگوں میں باہم کچھ لینا دینا طے نہیں ہوتا ہے۔⁽⁵⁾ (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۴ اگر دونوں جانب سے مال کی شرط ہو مثلاً تم آگے ہو گئے تو میں اتنا دوں گا اور میں آگے ہو گیا تو میں

①..... "سنن أبي داود"، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، الحديث: ٢٥٧٨، ج ٣، ص ٤٢.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ٩، ص ٦٦٣.

③..... "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ٩، ص ٦٦٦.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب السادس في المسابقة، ج ٥، ص ٣٢٤.

⑤..... "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ٩، ص ٦٦٥، وغیره.

اتنا لوں گا یہ صورت جو اور حرام ہے، ہاں اگر دونوں نے اپنے ساتھ ایک تیسرے شخص کو شامل کر لیا جس کو محلل کہتے ہیں اور ٹھہرا یہ کہ اگر یہ آگے نکل گیا تو رقم مذکور یہ لے گا اور پیچھے رہ گیا تو یہ دے گا کچھ نہیں، اس صورت میں دونوں جانب سے مال کی شرط جائز ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۵ محلل کے لیے یہ ضرور ہے کہ اس کا گھوڑا بھی انھیں دونوں جیسا ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا گھوڑا آگے نکل جائے یا پیچھے رہ جائے دونوں باتوں میں سے ایک کا یقین نہ ہو اور اگر اس کا گھوڑا ان جیسا نہ ہو معلوم ہو کہ وہ پیچھے ہی رہ جائے گا یا معلوم ہو کہ یقیناً آگے نکل جائے گا تو اس کے شامل کرنے سے شرط جائز نہ ہوگی۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ محلل یعنی شخص ثالث کا گھوڑا اگر دونوں سے آگے نکل گیا تو دونوں نے جو کچھ دینے کو کہا تھا، یہ محلل دونوں سے لے لے گا اور اگر دونوں سے پیچھے رہ گیا تو یہ ان دونوں کو کچھ نہیں دے گا، بلکہ ان دونوں میں جو آگے ہو گیا وہ دوسرے سے لے لے گا جس کا دینا شرط ٹھہرا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دو شخصوں نے پان پانسو کی بازی لگائی اور محلل کو شامل کر لیا کہ اگر محلل آگے ہو گیا تو دونوں سے پان پانسو یعنی ایک ہزار لے لے گا اور اگر محلل آگے نہ ہو تو ان دونوں کو وہ کچھ نہ دے گا بلکہ ان دونوں میں جو آگے ہو گا وہ دوسرے سے پان سو لے گا اور اگر دونوں کے گھوڑے ایک ساتھ پہنچے تو ان دونوں میں کوئی بھی دوسرے کو کچھ نہ دے گا، نہ محلل سے کچھ لے گا اور اگر ان دونوں میں ایک کا گھوڑا اور محلل کا گھوڑا دونوں ایک ساتھ پہنچے تو محلل اس سے کچھ نہیں لے سکتا بلکہ اس سے لے گا جس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اور دوسرا بھی اسی پیچھے رہ جانے والے سے لے گا۔⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۷ مسابقت میں شرط یہ ہے کہ مسافت اتنی ہو جس کو گھوڑے طے کر سکتے ہوں اور جتنے گھوڑے لیے جائیں، وہ سب ایسے ہوں جن میں یہ احتمال ہو کہ آگے نکل جائیں گے۔ اسی طرح تیر اندازی اور آدمیوں کی دوڑ میں بھی یہی شرطیں ہیں۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۸ اونٹوں کی دوڑ میں آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شانہ آگے ہو جائے گردن کا اعتبار نہیں اور گھوڑوں کی دوڑ میں جس کی گردن آگے ہو جائے وہ آگے ہونے والا مانا جائے گا۔⁽⁵⁾ (ردالمحتار) مگر اس زمانہ کا رواج یہ ہے کہ

①....."الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السادس فی المسابقت، ج ۵، ص ۳۲۴.

و"الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۵.

②....."الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۵.

③....."الدرالمختار" و"ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۵.

④....."ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۶۵.

⑤.....المرجع السابق.

گھوڑوں میں کنوتی (1) کا اعتبار کیا جاتا ہے اور کنوتی بھی جب ہی آگے ہوگی کہ گردن آگے ہو جائے۔

مسئلہ ۹ طلبہ نے کسی مسئلہ کے متعلق شرط لگائی کہ جس کی بات صحیح ہوگی اس کو یہ دیا جائے گا، اس میں بھی وہ ساری تفصیل ہے جو مسابقت میں مذکور ہوئی یعنی اگر ایک طرف سے شرط ہو تو جائز ہے دونوں طرف سے ہو تو ناجائز، مثلاً ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا چلو استاذ سے چل کر پوچھیں اگر تمہاری بات صحیح ہو تو میں تم کو یہ دوں گا اور میری صحیح ہوئی تو تم سے کچھ نہیں لوں گا کہ یہ ایک جانب سے شرط ہوئی یا ایک نے دوسرے سے کہا آؤ میں اور تم مسائل میں گفتگو کریں اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو یہ دوں گا اور میری صحیح ہوئی تو کچھ نہ لوں گا، یہ جائز ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۰ طلبہ میں یہ ٹھہرا کہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا اس صورت میں جو درس گاہ میں پہلے آیا اس کا حق مقدم ہے اور اگر ہر ایک پہلے آنے کا مدعی (3) ہے تو جو گواہوں سے پہلے آنا ثابت کر دے وہ مقدم ہے اور اگر گواہ نہ ہوں تو قرعہ ڈالا جائے جس کا نام پہلے نکلے وہ مقدم ہے۔ (4) (خانہ)

کسب کا بیان (5)

اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کے نفقہ کے لیے اور ادائے دین کے لیے کفایت کر سکے اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے یا اپنے اور اہل و عیال کے لیے کچھ پس ماندہ رکھنے (6) کی بھی سعی و کوشش کرے۔ ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ ۱ قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہے تو منع ہے۔ (8) (عالمگیری)

① یعنی گھوڑے کے کان۔

② "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السادس فی المسابقتہ، ج ۵، ص ۳۲۴۔

③ یعنی دعویٰ کرنے والا۔

④ "الفتاویٰ الخانیہ"، کتاب الحظر و الإباحۃ، فصل فی التسییح... إلخ، ج ۲، ص ۳۸۰۔

⑤ کسب حلال کی خوبیاں حصہ یازدہم میں احادیث سے مذکور ہو چکی ہیں۔ ۱۲۔ امنہ ⑥ یعنی بچا کر رکھنے۔

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس عشر فی الکسب، ج ۵، ص ۳۴۸، ۳۴۹۔

⑧ المرجع السابق، ص ۳۴۹۔

مسئلہ ۲ جو لوگ مساجد اور خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس اوقات کے لیے کچھ کام نہیں کرتے اور اپنے کو متوکل بتاتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہیں اس کی منتظر رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے جائے وہ متوکل نہیں، اس سے اچھا یہ تھا کہ کچھ کام کرتے اس سے بس اوقات کرتے۔^(۱) (عالمگیری)

اسی طرح آج کل بہت سے لوگوں نے پیری مریدی کو پیشہ بنا لیا ہے، سالانہ مریدوں میں دورہ کرتے ہیں اور مریدوں سے طرح طرح سے رقمیں کھسوتے ہیں جس کو نذرانہ وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جھوٹ اور فریب سے بھی کام لیتے ہیں یہ ناجائز ہے۔

مسئلہ ۳ سب سے افضل کسب جہاد ہے یعنی جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوا مگر یہ ضرور ہے کہ اس نے مال کے لیے جہاد نہ کیا ہو بلکہ اعلائے کلمۃ اللہ^(۲) مقصود اصلی ہو جہاد کے بعد تجارت پھر زراعت پھر صنعت و حرفت کا مرتبہ ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ چرخہ کا تنا^(۴) عورتوں کا کام ہے، مرد کو چرخہ کا تنا مکروہ ہے۔^(۵) (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ جس کے پاس اس دن کے کھانے کے لیے موجود ہوا سے سوال کرنا حرام ہے۔ سائلوں اور گداگروں نے اس طرح پر جو مال حاصل کیا اور جمع کیا وہ خبیث مال ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۶ جو شخص علم دین و قرآن پڑھ کر کسب چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو کھاتا ہے۔^(۷) (عالمگیری) یعنی عالم یا قاری ہو کر بیٹھ گیا اور کمانا چھوڑ دیا یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ لوگ مجھے عالم یا قاری سمجھ کر خود ہی کھانے کو دیں گے کمانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ناجائز ہے۔ رہا یہ امر کہ قرآن مجید و علم دین کی تعلیم پر اجرت لینا اور اس کے پڑھانے کی نوکری کرنا، اس کو فقہائے متاخرین نے جائز بتایا ہے جس کو ہم اجارہ کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں^(۸) یہ دین فروشی میں داخل نہیں۔

مسئلہ ۷ جس شخص نے حرام طریقہ سے مال جمع کیا اور مر گیا ورثہ کو اگر معلوم ہو کہ فلاں فلاں کے یہ اموال ہیں تو ان

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس عشر فی الکسب، ج ۵، ص ۳۴۹.

②..... یعنی اللہ عزوجل کا نام اور دین اسلام کا سر بلند ہونا۔

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس عشر فی الکسب، ج ۵، ص ۳۴۹.

④..... یعنی چرخہ چلانے کا کام کرنا۔

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۱.

⑥..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس عشر فی الکسب، ج ۵، ص ۳۴۹.

⑦..... المرجع السابق.

⑧..... دیکھئے: اسی جلد سوم کا حصہ ۱۴، اجارہ کا بیان۔

کو واپس کر دیں اور معلوم نہ ہو تو صدقہ کر دیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۸ اگر مال میں شبہ ہو تو ایسے مال کو اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کر سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے باپ یا بیٹے کو دے سکتا ہے، اس صورت میں یہی ضرور نہیں کہ اجنبی ہی کو دے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾⁽³⁾

”اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“
اور فرماتا ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾⁽⁴⁾

”تم بہتر ہوان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ (عزوجل) پر ایمان رکھتے ہو۔“
اور قرآن میں ہے:

﴿يَبْنَئُ أَقْبَحُ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْدِقُ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾⁽⁵⁾

”(لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا) اے میرے بیٹے! نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر اور جو افاقتھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔“

حدیث ۱ تم میں جو شخص بری بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے

①..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس عشر فی الکسب، ج ۵، ص ۳۴۹.

②..... المرجع السابق.

③..... پ ۴، آلِ عمرن: ۱۰۴. ④..... پ ۴، آلِ عمرن: ۱۱۰. ⑤..... پ ۲۱، لقمن: ۱۷.

بدلے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے یعنی اسے دل سے برا جانے اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔⁽¹⁾ (مسلم)

حدیث ۲ → حدود اللہ میں مدہانت کرنے والا (یعنی خلاف شرع چیز دیکھے اور باوجود قدرت منع نہ کرے اس کی) اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصہ میں رہے بعض نیچے کے حصہ میں، نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے ان کو تکلیف ہوتی (انہوں نے اس کی شکایت کی) نیچے والے نے کلبھاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کیا۔

اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا مجھے ضروری ہے۔ (لہذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں گا) پس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھودنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور اپنے کو بھی اور اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے کو بھی۔⁽²⁾ (بخاری)

حدیث ۳ → ”قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میری جان ہے! یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔“⁽³⁾ (ترمذی)

حدیث ۴ → جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔⁽⁴⁾ (ابوداؤد)

حدیث ۵ → حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! تم اس آیت کو پڑھتے ہو:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَصُدُّكُمْ مَنْ صَلَّى إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾⁽⁵⁾

”اے ایمان والو! اپنے نفس کو لازم پکڑ لو، مگر تم کو ضرر نہ پہنچائے گا، جب کہ تم خود ہدایت پر ہو۔“

(یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہو گے کہ جب ہم خود ہدایت پر ہیں تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے مضر نہیں ہم کو منع کرنے کی ضرورت نہیں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر بری بات دیکھیں اور اس کو نہ

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان... إلخ، الحدیث: ۷۸- (۳۹)، ص ۴۴.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الشهادات، باب القرعة فی المشکلات... إلخ، الحدیث: ۲۶۸۶، ج ۲، ص ۲۰۸.

③..... ”سنن الترمذی“، کتاب الفتن، باب ماجاء فی الأمر بالمعروف... إلخ، الحدیث: ۲۱۷۶، ج ۴، ص ۶۹.

④..... ”سنن أبي داود“، کتاب الملاحم، باب الأمر والنہی، الحدیث: ۴۳۴۵، ۴۳۴۶، ج ۴، ص ۱۶۶.

⑤..... پ ۷، المائدة: ۱۰۵.

بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا۔⁽¹⁾ (ابن ماجہ، ترمذی)

حدیث ۶ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہ لوگ بدلنے پر قادر ہوں پھر نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب

پر عذاب بھیجے۔⁽²⁾ (ابوداؤد)

حدیث ۷ اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے منع کرو یہاں تک کہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی

ہے اور خواہش نفسانی کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ کرتا ہے اور ایسا

امر دیکھو کہ تمہیں اس سے چارہ نہ ہو تو اپنے نفس کو لازم کر لو یعنی خود کو بری چیزوں سے بچاؤ اور عوام کے معاملہ کو چھوڑو

(یعنی ایسے وقت میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر ضروری نہیں)۔ تمہارے آگے صبر کے دن آئیں گے جن میں صبر کرنا ایسا

ہے جیسے مٹھی میں انگار لینا، عمل کرنے والے کے لیے اس زمانہ میں پچاس شخص عمل کرنے والوں کا اجر ہے۔ لوگوں نے

عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ان میں سے پچاس کا اجر اس ایک کو ملے گا۔ فرمایا کہ ”تم میں سے پچاس کی

برابراجر ملے گا۔“⁽³⁾ (ترمذی، ابن ماجہ) پانچویں حدیث میں جو آیت ذکر کی گئی وہ اسی موقع اور وقت کے لیے ہے۔

حدیث ۸ لوگوں کی ہیبت حق بولنے سے نہ روکے جب معلوم ہو تو کہہ دے۔⁽⁴⁾ (ترمذی)

حدیث ۹ چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا مگر جبکہ وہاں بری بات

کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہوں اور منع نہ کریں تو اب عام و خاص سب کو عذاب ہوگا۔⁽⁵⁾ (شرح سنہ)

حدیث ۱۰ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے ان کے علمائے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے پھر علما ان کی مجلسوں میں

بیٹھنے لگے اور انکے ساتھ کھانے پینے لگے، خدا نے علما کے دل بھی انھیں جیسے کر دیے اور داؤد عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی زبان

سے ان سب پر لعنت کی۔ یہ اس وجہ سے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور (صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”خدا کی قسم! تم یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے روکو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے اور

ان کو حق پر روکو گے اور حق پر ٹھہراؤ گے یا اللہ تعالیٰ تم سب کے دل ایک طرح کے کر دے گا پھر تم سب پر لعنت کر دے گا،

①.....”سنن ابن ماجہ“، کتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، الحدیث: ۴۰۰۵، ج ۴، ص ۳۵۹۔

②.....”سنن أبي داود“، کتاب الملاحم، باب الأمر والنہی، الحدیث: ۴۳۳۸، ج ۴، ص ۱۶۳۔

③.....المرجع السابق، الحدیث: ۴۳۴۱، ج ۴، ص ۱۶۴۔

④.....”سنن الترمذی“، کتاب الفتن، باب ما أخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم أصحابہ بما هو کائن إلى یوم القیامة، الحدیث: ۲۱۹۸، ج ۴، ص ۸۱۔

⑤.....”شرح السنۃ“، کتاب الرقاق، باب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، الحدیث: ۴۰۵۰، ج ۷، ص ۳۵۸۔

جس طرح ان سب پر لعنت کی۔“ (1) (ابوداؤد)

حدیث ۱۱ میں نے شب معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں، جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے تھے اور اپنے کو بھولے ہوئے تھے۔ (2) (شرح سنہ)

حدیث ۱۲ بادشاہ ظالم کے پاس حق بات بولنا، افضل جہاد ہے۔ (3) (ابن ماجہ)

حدیث ۱۳ میرے بعد میں امرا ہوں گے جن کی بعض باتیں اچھی ہوں گی اور بعض بری، جس نے بری بات سے کراہت کی وہ بری ہے اور جس نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جو راضی ہو اور پیروی کی وہ ہلاک ہوا۔ (4) (مسلم، ابوداؤد)

حدیث ۱۴ مجھ سے پہلے جس نبی کو خدا نے کسی امت میں مبعوث کیا، اس کے لیے امت سے حواریین اور اصحاب ہوئے جو نبی کی سنت لیتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے پھر ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ کہتے وہ جو کرتے نہیں اور کرتے وہ جس کا دوسروں کو حکم نہ دیتے، جس نے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر ایمان نہیں۔ (5) (مسلم)

مسائل فقہیہ

امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا مثلاً کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (6)

احادیث میں ان کی بہت تاکید آئی اور اس کے خلاف کرنے کی مذمت فرمائی۔

مسئلہ ۱ معصیت کا ارادہ کیا مگر اس کو کیا نہیں تو گناہ نہیں بلکہ اس میں بھی ایک قسم کا ثواب ہے، جبکہ یہ سمجھ کر باز رہا

1..... "سنن الترمذی"، کتاب تفسیر القرآن، [باب] و من سورة المائدة، الحدیث: ۳۰۵۹، ج ۴، ص ۳۶.

و "سنن أبي داود"، کتاب الملاحم، باب الأمر والنهی، الحدیث: ۴۳۳۶، ۴۳۳۷، ج ۴، ص ۱۶۳.

2..... "شرح السنة"، کتاب الرقاق، باب وعید من یامر بالمعروف ولا یأتیہ، الحدیث: ۴۰۵۴، ج ۷، ص ۳۶۲.

3..... "سنن ابن ماجہ"، کتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، الحدیث: ۴۰۱۱، ج ۴، ص ۳۶۳.

4..... "صحیح مسلم"، کتاب الامارة، باب وجوب الانکار علی الامراء... إلخ، الحدیث: ۶۴، ۶۳، (۱۸۵۴)، ص ۱۰۳۱.

5..... "صحیح مسلم"، کتاب الإیمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الإیمان... إلخ، الحدیث: ۸۰، (۵۰)، ص ۴۴.

6..... پ ۴، مالِ عمرن: ۱۱۰.

ترجمہ کنز الإیمان: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے منع کرتے ہو۔

کہ یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث سے ایسا ہی ثابت ہے اور اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے اگرچہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۲ - کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے پھر اگر اس طریقہ سے کام نہ چلا وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئے، اس کو سخت الفاظ کہے، مگر گالی نہ دے، نہ نحس لفظ زبان سے نکالے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے کرے، مثلاً وہ شراب پیتا ہے تو شراب بہا دے، برتن توڑ پھوڑ ڈالے، گاتا بجاتا ہے تو باجے توڑ ڈالے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ - امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں:

- ① اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے، تو امر بالمعروف واجب ہے اس کو باز رہنا جائز نہیں اور
- ② اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے اور گالیاں دیں گے تو ترک کرنا افضل ہے اور
- ③ اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی جب بھی چھوڑنا افضل ہے اور
- ④ اگر معلوم ہو کہ وہ اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے اور یہ شخص مجاہد ہے اور
- ⑤ اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے اور نہ گالیاں دیں گے تو اسے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ امر کرے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۴ - اگر اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کو امر بالمعروف کرے گا تو قتل کر ڈالیں گے اور یہ جانتے ہوئے اس نے کیا اور ان لوگوں نے ماریں ڈالا تو یہ شہید ہوا۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ - امر کے ذمہ امر بالمعروف ہاتھ سے ہے کہ اپنی قوت و سطوت⁽⁵⁾ سے اس کام کو روک دیں اور علما کے ذمہ زبان سے ہے کہ اچھی بات کرنے کو اور بری بات سے باز رہنے کو زبان سے کہہ دیں اور عوام الناس کے ذمہ دل سے برا جاننا

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... إلخ، ج ۵، ص ۳۵۲، وغیرہ .

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... إلخ، ج ۵، ص ۳۵۲ .

③..... المرجع السابق، ص ۳۵۲ - ۳۵۳ .

④..... المرجع السابق، ص ۳۵۳ .

⑤..... یعنی طاقت و دہد بہ۔

ہے۔ (1) (عالمگیری) اس کا مقصد وہی ہے جو حدیث میں فرمایا کہ ”جو بری بات دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر ہاتھ سے بدلنے پر قادر نہ ہو تو زبان سے بدل دے یعنی زبان سے اس کا برا ہونا ظاہر کر دے اور منع کر دے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور مرتبہ ہے۔“ (2) یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں کہ ان میں نہ ہاتھ سے روکنے کی ہمت ہے اور نہ زبان سے منع کرنے کی جرأت۔ قوم کے چودھری اور زمیندار وغیرہ بہت سے عوام ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ روکیں ایسوں کے لیے فقط دل سے برا جاننا کافی نہیں۔

مسئلہ ۶ - امر بالمعروف کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے:

اول: علم (3) کہ جسے علم نہ ہو اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔

دوم: اس سے مقصود رضائے الہی اور اعلیٰ کلمۃ اللہ ہو۔

سوم: جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے نرمی کے ساتھ کہے۔

چہارم: امر کرنے والا صابر اور بردبار ہو۔

پنجم: یہ شخص (4) خود اس بات پر عامل ہو ورنہ قرآن کے اس حکم کا مصداق بن جائے گا، کیوں کہتے ہو وہ جس کو تم خود

نہیں کرتے۔ اللہ (عزوجل) کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہو، جس کو خود نہ کرو۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ ”کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے کو بھولے ہوئے ہو۔“ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - عامی شخص کو یہ نہ چاہیے کہ قاضی یا مفتی یا مشہور و معروف عالم کو امر بالمعروف کرے کہ یہ بے ادبی ہے۔

مثل مشہور ہے، خطائے بزرگان گرفتار خطاست۔ (6) اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی مصلحت خاص سے ایک فعل کرتے ہیں، جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچتی اور یہ شخص سمجھتا ہے، کہ جیسے ہم نے کیا انہوں نے بھی کیا، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہوتا

1..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... الخ، ج ۵، ص ۳۵۳.

2..... انظر: ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ۱۱۴۶۰، ج ۴، ص ۹۸.

3..... علم سے یہ مراد نہیں کہ وہ پورا عالم ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اتنا جانتا ہو کہ یہ چیز گناہ ہے اور دوسرے کو بری بھلی بات سمجھانے کا طریقہ معلوم ہو، کہ موثر پیرایہ سے اس کو کہہ سکے۔ ۱۲ منہ

4..... اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص خود عامل نہ ہو، وہ دوسروں کو اچھی بات کا حکم ہی نہ دے بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرنے کو کہے۔ ۱۲ منہ

5..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... الخ، ج ۵، ص ۳۵۳.

6..... یعنی بزرگوں پر اعتراض کرنا بڑی نادانی و خطا ہے۔

ہے۔ (1) (عالمگیری) یہ حکم ان علما کے متعلق ہے، جو احکام شرع کے پابند ہیں اور اتفاقاً کبھی ایسی چیز ظاہر ہوئی جو نظر عوام میں بری معلوم ہوتی ہے وہ لوگ مراد نہیں جو حلال و حرام کی پروا نہیں کرتے اور نام علم کو بدنام کرتے ہیں۔

مسئلہ ۸ جس نے کسی کو برا کام کرتے دیکھا اور خود یہ بھی اس برے کام کو کرتا ہے تو اس برے کام سے منع کر دے کیونکہ اس کے ذمہ دو چیزیں واجب ہیں برے کام کو چھوڑنا اور دوسرے کو برے کام سے منع کرنا اگر ایک واجب کا تارک ہے تو دوسرے کا کیوں تارک بنے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۹ ایک شخص برا کام کرتا ہے اس کے باپ کے پاس شکایت لکھ کر بھیجی جائے یا نہیں اگر معلوم ہے کہ اس کا باپ منع کرنے پر قادر ہے اور وہ منع بھی کر دے گا تو لکھ کر بھیج دے ورنہ کیا فائدہ۔ اسی طرح زوجین اور بادشاہ و رعیت یا آقا و ملازمین کے بارے میں اگر لکھنا مفید ہو تو لکھے۔ (3) (خانہ)

مسئلہ ۱۰ باپ کو اندیشہ ہے کہ اگر لڑکے سے کہے گا تو اس کا حکم نہ مانے گا اور اس کا جی بھی کہنے کو چاہتا ہے تو یوں کہے اگر یہ کرتے تو خوب ہوتا اسے حکم نہ دے کہ اس صورت میں اگر اس نے نہ کیا تو عاق ہوگا جو ایک سخت کبیرہ گناہ ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ کسی نے گناہ کیا پھر سچے دل سے تائب ہو گیا، تو اسے یہ نہ چاہیے کہ قاضی یا حاکم کے پاس اپنے جرم کو اس لیے پیش کرے کہ حد شرع قائم کی جائے کیونکہ پردہ پوشی بہتر ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ ایک شخص کو دوسرے کا مال چراتے دیکھا ہے مگر مالک کو خبر دیتا ہے تو چور اس پر ظلم کرے گا تو خاموش ہو جائے اور یہ اندیشہ نہ ہو تو خبر کر دے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ مشرکین پر تہا حملہ کرنے میں غالب گمان یہ ہے کہ قتل ہو جائے گا، مگر یہ بھی غالب گمان ہے کہ یہ بھی ان کے آدمی کو قتل کرے گا یا زخمی کر دے گا یا شکست دے دے گا تو تہا حملہ کرنے میں حرج نہیں اور غالب گمان یہ ہو کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اور یہ مارا جائے گا تو حملہ نہ کرے اور اگر فساق مسلمین کو گناہ سے روکے گا تو یہ خود قتل ہو جائے گا اور ان کا کچھ نہیں

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... إلخ، ج ۵، ص ۳۵۳.

②..... المرجع السابق.

③..... "الفتاویٰ الخانیۃ"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی التسمیح... إلخ، ج ۲، ص ۳۸۲.

④..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... إلخ، ج ۵، ص ۳۵۳.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... المرجع السابق.

بگڑے گا، جب بھی ان کو منع کرے عزیمت یہی ہے اگرچہ منع نہ کرنے کی بھی رخصت ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری) کیونکہ اس صورت میں قتل ہو جانا فائدہ سے خالی نہیں اس وقت اگرچہ بظاہر فائدہ نہیں معلوم ہوتا مگر آئندہ اس کے نتائج بہتر نکلیں گے۔

علم و تعلیم کا بیان

علم ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے اس کا حاصل کرنا طغرائے امتیاز⁽²⁾ ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے اور اسی سے دنیا و آخرت سدھرتی ہے مگر ہماری مراد اس علم سے وہ علم نہیں جو فلاسفہ سے حاصل ہوا ہو اور جس کو انسانی دماغ نے اختراع⁽³⁾ کیا ہو یا جس علم سے دنیا کی تحصیل مقصود ہو ایسے علم کی قرآن مجید نے مذمت کی بلکہ وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہو کہ یہی علم وہ ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہیں اور یہی علم ذریعہ نجات ہے اور اسی کی قرآن و حدیث میں تعریفیں آئی ہیں اور اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی خوبیاں صراحتاً یا اشارۃً بیان فرمائی گئیں۔

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾⁽⁴⁾

”اللہ (عزوجل) سے اوس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں، جو علم والے ہیں۔“

اور فرماتا ہے:

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾⁽⁵⁾

”اللہ (عزوجل) تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے، درجے بلند فرمائے گا۔“

اور فرماتا ہے:

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يَحْذَرُونَ ﴾⁽⁶⁾

”کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع عشر فی الغناء... الخ، ج ۵، ص ۳۵۳ - ۳۵۴.

②..... یعنی بڑائی کی علامت۔ ③..... ایجاد۔

④..... پ ۲۲، غاطر: ۲۸. ⑤..... پ ۲۸، المحادلة: ۱۱. ⑥..... پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲.

سنائے، اس امید پر کہ وہ بچیں۔“

اور فرماتا ہے:

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ ﴾ (1)

”تم فرماؤ! کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔“

احادیث علم کے فضائل میں بہت آئیں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

حدیث ۱ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ (عزوجل) دیتا ہے۔ (2) (بخاری، مسلم)

حدیث ۲ سونے چاندی کی طرح آدمیوں کی کانیں ہیں، جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے، اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ علم حاصل کریں۔ (3) (مسلم)

حدیث ۳ انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں (کہ مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں) ① صدقہ جاریہ اور ② علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو اور ③ اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ (4) (مسلم)

حدیث ۴ جو شخص کسی راستہ پر علم کی طلب میں چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور جب کوئی قوم خانہ خدا میں مجتمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھے پڑھائے تو اس پر سیکنہ اترتا ہے اور رحمت ڈھانک لیتی ہے اور ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے مقرب ہیں اور جس کے عمل نے سستی کی تو اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں کرے گا۔ (5) (مسلم)

حدیث ۵ مسجد دمشق میں ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کو آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں کسی اور کام کے لیے نہیں

①..... پ ۲۳، الزمر: ۹.

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب العلم، باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، الحدیث: ج ۱، ص ۴۲.

③..... ”صحیح مسلم“ کتاب البر والصلۃ... إلخ، باب الأرواح جنود مجنونة، الحدیث: ۱۶۰- (۲۶۳۸)، ص ۱۴۱۸.

④..... ”صحیح مسلم“، کتاب الوصیۃ، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، الحدیث: ۱۴- (۱۶۳۱)، ص ۸۸۶.

و ”سنن أبی داود“، کتاب الوصایا، باب ما جاء فی الصدقة عن الميت، الحدیث: ۲۸۸۰، ج ۳، ص ۱۶۱.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الذکر... إلخ، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن... إلخ، الحدیث: ۳۸- (۲۶۹۹)، ص ۱۴۴۷.

آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے اور طاب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر اور بے شک علما و ارث انبیاء ہیں، انبیاء نے اشرفی اور روپیہ کا وارث نہیں کیا، انہوں نے علم کا وارث کیا، پس جس نے علم کو لیا اس نے پورا حصہ لیا۔“ (1) (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)

حدیث ۶ → عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنیٰ پر اس کے بعد پھر فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی اس کی بھلائی کے خواہاں ہیں، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔“ (2) (ترمذی)

حدیث ۷ → ایک فقیہ ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ (3) (ترمذی، ابن ماجہ)

حدیث ۸ → علم کی طلب ہر مسلم پر فرض ہے اور علم کو نااہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہے، جیسے سوئے کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والا۔ (4) (ابن ماجہ)

حدیث ۹ → جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو، اللہ (عزوجل) کی راہ میں ہے۔ (5) (ترمذی، دارمی)

حدیث ۱۰ → مومن کبھی خیر (یعنی علم) سے آسودہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا منتہیٰ جنت ہوتا ہے۔ (6) (ترمذی)

حدیث ۱۱ → اللہ تعالیٰ اس بندہ کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی اور یاد کر لی اور محفوظ رکھی اور دوسرے کو پہنچا دی، کیونکہ بہت سے علم کے حامل فقیہ نہیں اور بہت سے علم کے حامل اس تک پہنچاتے ہیں، جو ان سے زیادہ فقیہ ہے۔ (7) (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)

①.....”سنن الترمذی“، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ، الحدیث: ۲۶۹۱، ج ۴، ص ۳۱۲.

②.....المرجع السابق، الحدیث: ۲۶۹۴، ج ۴، ص ۳۱۳.

③.....”سنن الترمذی“، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ، الحدیث: ۲۶۹۰، ج ۴، ص ۳۱۱.

و”سنن ابن ماجہ“، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحدیث: ۲۲۲، ج ۱، ص ۱۴۵.

④.....”سنن ابن ماجہ“، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحدیث: ۲۲۴، ج ۱، ص ۱۴۶.

⑤.....”سنن الترمذی“، کتاب العلم، باب فضل طلب العلم، الحدیث: ۲۶۵۶، ج ۴، ص ۲۹۴.

⑥.....المرجع السابق، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ، الحدیث: ۲۶۹۵، ج ۴، ص ۳۱۴.

⑦.....”سنن الترمذی“، کتاب العلم، باب ماجاء فی الحث... إلخ، الحدیث: ۲۶۶۵، ج ۴، ص ۲۹۸.

و”مشکاۃ المصابیح“، کتاب العلم، باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السماع، الحدیث: ۲۲۸، ج ۱، ص ۱۱۱.

حدیث ۱۲ مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی اور اولاد صالح جسے چھوڑا ہے یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا یا مسجد بنائی یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا نہر جاری کر دی یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔^(۱) (ابن ماجہ)

حدیث ۱۳ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک گھڑی رات میں پڑھنا پڑھانا، ساری رات عبادت سے افضل ہے۔^(۲) (دارمی)

حدیث ۱۴ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں تھیں۔ فرمایا کہ ”دونوں مجلسیں اچھی ہیں اور ایک دوسری سے افضل ہے، یہ لوگ اللہ (عزوجل) سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، وہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو منع کر دے اور یہ دوسری مجلس والے علم سیکھتے ہیں اور جاہل کو سکھاتے ہیں یہ افضل ہیں، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔“ اور اسی مجلس میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) بیٹھ گئے۔^(۳) (دارمی)

حدیث ۱۵ جس نے میری امت کے دین کے متعلق چالیس حدیثیں حفظ کیں، اس کو اللہ تعالیٰ فقیہ اٹھائے گا اور میں اس کا شافع و شہید ہوں گا۔^(۴) (بیہقی)

حدیث ۱۶ دو حریص آسودہ نہیں ہوتے ایک علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور ایک دنیا کا لالچی کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔^(۵) (بیہقی)

حدیث ۱۷ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، ایک صاحب علم، دوسرا صاحب دنیا، مگر یہ دونوں برابر نہیں۔ صاحب علم اللہ (عزوجل) کی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے اور صاحب دنیا سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد اللہ نے یہ آیت پڑھی:

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦﴾ أَنْ تَرَاهُ كَاسْتَفْعَىٰ ﴿٥﴾ ﴾^(۶)

اور دوسرے کے لیے فرمایا:

①.....”سنن ابن ماجہ“، کتاب السنۃ، باب ثواب معلم الناس الخیر، الحدیث: ۲۴۲، ج ۱، ص ۱۵۷.

②.....”سنن الدارمی“، باب مذاکرۃ العلم، الحدیث: ۶۱۴، ج ۱، ص ۱۵۷.

③.....”سنن الدارمی“، باب فی فضل العلم و العالم، الحدیث: ۳۴۹، ج ۱، ص ۱۱۱ - ۱۱۲.

④.....”شعب الایمان“، باب فی طلب العلم، فصل فی فضل العلم و شرفہ، الحدیث: ۱۷۲۶، ج ۲، ص ۲۷۰.

⑤.....”شعب الایمان“، باب فی الزہد و قصر الامل، الحدیث: ۱۰۲۷۹، ج ۷، ص ۲۷۱.

⑥.....پ ۳۰، العلق: ۶-۷.

ترجمہ کنز الایمان: ہاں ہاں، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾^(۱) (دارمی)

حدیث ۱۸ جس علم سے نفع حاصل نہ کیا جائے وہ اس خزانہ کی مثل ہے جس میں سے راہِ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔^(۲) (احمد)

حدیث ۱۹ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں طلبِ علم کا موقع ملا، مگر اس نے طلب نہیں کی اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا خود اس نے نفع نہیں اٹھایا۔^(۳) (ابن عساکر)

حدیث ۲۰ علما کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی۔^(۴) (خطیب)

حدیث ۲۱ علما کی مثال یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ کا پتا چلتا ہے اور اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے۔^(۵) (احمد)

حدیث ۲۲ علم تین ہیں، آیتِ محکمہ یا سنتِ قائمہ یا فریضہِ عادلہ اور ان کے سوا جو کچھ ہے، وہ زائد ہے۔^(۶) (ابن ماجہ، ابوداؤد)

حدیث ۲۳ حضرت حسن بصری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے فرمایا علم دو ہیں ایک وہ کہ قلب میں ہو یہ علم نافع ہے دوسرا وہ کہ زبان پر ہو یہ ابنِ آدم پر اللہ (عزوجل) کی حجت ہے۔^(۷) (دارمی)

حدیث ۲۴ جس نے علم طلب کیا اور حاصل کر لیا اس کے لیے دو چند اجر ہے اور حاصل نہ ہو تو ایک اجر۔^(۸) (دارمی)

حدیث ۲۵ جس کو موت آگئی اور وہ علم کو اس لیے طلب کر رہا تھا کہ اسلام کا احیا کرے، اس کے اور انبیاء کے

①....."سنن الدارمی"، باب فی فضل العلم والعالم، الحدیث: ۳۳۲، ج ۱، ص ۱۰۸.

پ ۲۲، فاطر: ۲۸.

ترجمہ کنز الایمان: اللہ (عزوجل) سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

②....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحدیث: ۱۰۴۸۱، ج ۳، ص ۵۶۳.

③....."تاریخ دمشق" لابن عساکر، الرقم: ۵۹۷۸، محمد بن احمد بن محمد، ج ۵۱، ص ۱۳۷، ۱۳۸.

④....."تاریخ بغداد"، الرقم: ۶۱۸، محمد بن الحسن بن ازهر، ج ۲، ص ۱۹۰.

⑤....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند انس بن مالك، الحدیث: ۱۲۶۰۰، ج ۴، ص ۳۱۴.

⑥....."سنن أبي داود"، كتاب الفرائض، باب ماجاء في تعليم الفرائض، الحدیث: ۲۸۸۵، ج ۳، ص ۱۶۴.

⑦....."سنن الدارمی"، المقدمة باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، الحدیث: ۳۶۴، ج ۱، ص ۱۱۴.

⑧....."سنن الدارمی"، المقدمة باب فی فضل العلم والعالم، الحدیث: ۳۳۵، ج ۱، ص ۱۰۸.

درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔⁽¹⁾ (دارمی)

حدیث ۲۶ — اچھا شخص وہ عالم دین ہے کہ اگر اس کی طرف احتیاج لائی جائے تو نفع پہنچاتا ہے اور اس سے بے پروائی کی جائے تو وہ اپنے کو بے پروا رکھتا ہے۔⁽²⁾ (رزین)

حدیث ۲۷ — حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس کو کوئی بات معلوم ہے وہ کہے اور نہ معلوم ہو تو یہ کہہ دے کہ اللہ اعلم، کیونکہ علم کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق یہ کہہ دے اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (علیہ السلام) سے فرمایا:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾⁽³⁾

”میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں سے ہوں۔“

یعنی جو بات معلوم نہ ہو اس کے متعلق بولنا تکلف ہے۔⁽⁴⁾ (بخاری، مسلم)

حدیث ۲۸ — قیامت کے دن اللہ (عزوجل) کے نزدیک سب سے بُرا مرتبہ اس عالم کا ہے، جو علم سے مُنْتَفِع نہ ہو۔⁽⁵⁾ (دارمی)

حدیث ۲۹ — زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگی جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) علم کیونکر جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”زیاد! تجھے تیری ماں روئے، میں خیال کرتا تھا کہ تو مدینہ میں فقیہ شخص ہے، کیا یہ یہود و نصاریٰ تورات و انجیل نہیں پڑھتے، مگر ہے یہ کہ جو کچھ ان میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔“⁽⁶⁾ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

حدیث ۳۰ — حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے پوچھا، ارباب علم کون ہیں؟ کہا، وہ

①..... ”سنن الدارمی“، باب فی فضل العلم و العالم، الحدیث: ۳۵۴، ج ۱، ص ۱۱۲.

②..... ”مشکاۃ المصابیح“، کتاب العلم، الحدیث: ۲۵۱، ج ۱، ص ۱۱۵.

③..... پ ۲۳، ص: ۸۶.

④..... ”صحیح البخاری“، کتاب التفسیر، باب قولہ ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، الحدیث: ۴۸۰۹، ج ۳، ص ۳۱۳.

⑤..... ”سنن الدارمی“، باب العمل بالعلم و حسن النیۃ فیہ، الحدیث: ۲۶۲، ج ۱، ص ۹۳.

⑥..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الفتن، باب ذهاب القرآن و العلم، الحدیث: ۴۰۴۸، ج ۴، ص ۳۸۳.

جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا: کس چیز نے علما کے قلوب سے علم کو نکال دیا؟ کہا، طمع نے۔⁽¹⁾ (دارمی)

حدیث ۳۱ میری اُمت میں کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم امرا کے پاس جا کر وہاں سے دنیا حاصل کر لیں اور اپنے دین کو ان سے بچائے رکھیں گے مگر ایسا نہیں ہوگا، جس طرح قتاد (ایک کانٹے والا درخت ہے) سے نہیں لیا جاتا مگر کانٹا، اسی طرح امرا کے قرب سے سوا خطا کے کچھ حاصل نہیں۔⁽²⁾ (ابن ماجہ)

حدیث ۳۲ خدا کے نزدیک بہت مبغوض قراء (علما) وہ ہیں جو امراء کی ملاقات کو جاتے ہیں۔⁽³⁾ (ابن ماجہ)

حدیث ۳۳ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اہل علم، علم کی حفاظت کریں اور اس کو اہل کے پاس رکھیں تو اس کی وجہ سے اہل زمانہ کے سردار ہو جائیں، مگر انھوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا تا کہ ان سے دنیا حاصل کریں، لہذا ان کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: ”جس نے تمام فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر کر دیا، اللہ تعالیٰ فکر دنیا سے اس کی کفایت فرمائے گا اور جس کے لیے احوال دنیا کی فکریں متفرق رہیں، اللہ (عزوجل) کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔“⁽⁴⁾ (ابن ماجہ)

حدیث ۳۴ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی، اس کے مونہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔⁽⁵⁾ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

حدیث ۳۵ جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ علما سے مقابلہ کرے گا یا جاہلوں سے جھگڑا کرے گا یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔⁽⁶⁾ (ترمذی، ابن ماجہ)

حدیث ۳۶ جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے (یعنی علم دین) اس کو جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ متاع دنیا مل جائے، اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔⁽⁷⁾ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

حدیث ۳۷ وعظ نہیں کہتا، مگر امیر یا مامور یا متکبر۔ یعنی وعظ کہنا امیر کا کام ہے یا وہ کسی کو حکم کر دے کہ وہ کہے اور ان

①..... "سنن الدارمی"، باب صیانة العلم، الحدیث: ۵۸۴، ج ۱، ص ۱۵۲.

②..... "سنن ابن ماجہ"، باب الإلتفاع بالعلم والعمل بہ، الحدیث: ۲۵۵، ج ۱، ص ۱۶۶.

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۵۶، ج ۱، ص ۱۶۷.

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۵۷، ج ۱، ص ۱۶۷.

⑤..... "سنن الترمذی"، کتاب العلم، باب ماجاء فی کتمان العلم، الحدیث: ۲۶۵۸، ج ۴، ص ۲۹۵.

⑥..... المرجع السابق، باب فیمن یطلب بعلمه دنیا، الحدیث: ۲۶۶۳، ج ۴، ص ۲۹۷.

⑦..... "سنن أبي داود"، کتاب العلم، باب فی طلب العلم لغير الله، الحدیث: ۳۶۶۴، ج ۳، ص ۴۵۱.

کے سوا جو کوئی کہتا ہے، وہ طلب جاہ و طلب دنیا کے لیے ہے۔⁽¹⁾ (ابوداؤد)

حدیث ۳۸ جس کو بغیر علم فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے اور جس نے اپنے بھائی کو مشورہ

دیا اور یہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے غیر میں ہے اس نے خیانت کی۔⁽²⁾ (ابوداؤد)

حدیث ۳۹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی پھر یہ فرمایا کہ ”یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں

سے علم جدا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ علم کی کسی بات پر قادر نہیں ہوں گے۔“⁽³⁾ (ترمذی)

حدیث ۴۰ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں قبض کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے جدا کر لے، بلکہ علم کا قبض کرنا علما

کے قبض کرنے سے ہوگا، جب عالم باقی نہ رہیں گے جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں

گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔⁽⁴⁾ (بخاری، مسلم)

حدیث ۴۱ بدتر سے بدتر برے علما ہیں اور بہتر سے بہتر اچھے علما ہیں۔⁽⁵⁾ (دارمی)

حدیث ۴۲ علم کی آفت نسیان ہے اور نا اہل سے علم کی بات کہنا علم کو ضائع کرنا ہے۔⁽⁶⁾ (دارمی)

حدیث ۴۳ ابن سیرین نے فرمایا: یہ علم دین ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس سے اپنا دین لیتے ہو۔⁽⁷⁾

مسئلہ ۱ اپنے بچہ کو قرآن و علم پڑھنے پر مجبور کر سکتا ہے، یتیم بچہ کو اس چیز پر مار سکتا ہے جس پر اپنے بچہ کو مارتا ہے۔⁽⁸⁾

(ردالمحتار) کیونکہ اگر یتیم بچہ کو مطلق العنان⁽⁹⁾ چھوڑ دیا جائے تو علم و ادب سے بالکل کورارہ جائے گا اور عموماً بچے بغیر تنبیہ قابو

میں نہیں آتے اور جب تک انھیں خوف نہ ہو کہنا نہیں مانتے، مگر مارنے کا مقصد صحیح ہونا ضرور ہے ایسے ہی موقع پر فرمایا گیا:

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۝ ﴾⁽¹⁰⁾

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب العلم، باب في القصص، الحديث: ۳۶۶۵، ج ۳، ص ۴۵۱.

②..... المرجع السابق، باب التوقي في الفتيا، الحديث: ۳۶۵۷، ج ۳، ص ۴۴۹.

③..... ”سنن الترمذی“، كتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم، الحديث: ۲۶۶۲، ج ۴، ص ۲۹۷.

④..... ”صحيح البخاري“، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، الحديث: ۱۰۰، ج ۱، ص ۵۴.

⑤..... ”سنن الدارمی“، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، الحديث: ۳۷۰، ج ۱، ص ۱۱۶.

⑥..... ”سنن الدارمی“، باب مذاكرة العلم، الحديث: ۶۲۴، ج ۱، ص ۱۵۸.

⑦..... مقدمة الكتاب للإمام مسلم، باب بيان أن الإسناد من الدين... إلخ، ص ۱۱.

⑧..... ”الدر المختار“ و ”رد المختار“، كتاب الحدود، مطلب: في تعزير المتهم، ج ۶، ص ۱۲۵.

⑨..... یعنی بالکل آزاد۔

⑩..... پ ۲، البقرة: ۲۲۰.

”اللہ (عزوجل) کو معلوم ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح۔“

اسی طرح اساتذہ بھی بچوں کو نہ پڑھنے یا شرارت کرنے پر سزائیں دے سکتے ہیں، مگر وہ کلیہ ان کے پیش نظر بھی ہونا چاہیے کہ اپنا بچہ ہوتا تو اسے بھی اتنی ہی سزا دیتے، بلکہ ظاہر تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے بچہ کی تربیت و تعلیم کا جتنا خیال ہوتا ہے دوسرے کا اتنا خیال نہیں ہوتا تو اگر اس کام پر اپنے بچہ کو نہ مارا یا کم مارا اور دوسرے بچہ کو زیادہ مارا تو معلوم ہوا کہ یہ مارنا محض غصہ اتارنے کے لیے ہے سدھارنا مقصود نہیں، ورنہ اپنے بچہ کے سدھارنے کا زیادہ خیال ہوتا۔

مسئلہ ۲ عالم اگر چہ جوان ہو بوڑھے جاہل پر فضیلت رکھتا ہے، لہذا چلنے اور بیٹھنے میں گفتگو کرنے میں بوڑھے جاہل کو عالم پر تقدم کرنا نہ چاہیے یعنی بات کرنے کا موقع ہو تو اس سے پہلے کلام یہ نہ شروع کرے، نہ عالم سے آگے آگے چلے، نہ ممتاز جگہ پر بیٹھے، عالم غیر قرشی قرشی غیر عالم پر فضیلت رکھتا ہے۔ عالم کا حق غیر عالم پر ویسا ہی ہے جیسا استاذ کا حق شاگرد پر ہے، عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہیے۔ شوہر کا حق عورت پر اس سے بھی زیادہ ہے کہ عورت کو شوہر کی ہر ایسی چیز میں جو مباح ہو اطاعت کرنی پڑے گی۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳ دین حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے بلکہ عبادت ہے اور اگر اس لیے مناظرہ کرتا ہے کہ کسی مسلم کو مغلوب کر دے یا اس لیے کہ اس کا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر ہو جائے یا دنیا حاصل کرنا مقصود ہے، مال ملے گا یا لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوگی، یہ ناجائز ہے۔⁽²⁾ (درمختار)

مسئلہ ۴ مناظرہ میں اگر مناظر طلب حق کے لیے مناظرہ کرتا ہے یا اس کا یہ مقصود نہیں مگر بے جا ضد اور ہٹ نہیں کرتا انصاف پسندی سے کام لیتا ہے جب تو اس کے ساتھ حیلہ کرنا جائز نہیں اور اگر محض اس کا مقصود ہی یہ ہے کہ اپنے مقابل کو مغلوب کر دے اور ہر ادے جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر بد مذہب اسی قسم کا مناظرہ کرتے ہیں تو اس کے مکر اور داؤں سے اپنے کو بچانا ہی چاہیے ایسے موقع پر اس کے کید سے بچنے کی ترکیبیں کر سکتے ہیں۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۵ منبر پر چڑھ کر وعظ و نصیحت کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور اگر تذکیر و وعظ سے مال و جاہ مقصود ہو تو یہ یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے۔⁽⁴⁾ (درمختار)

مسئلہ ۶ وعظ کہنے میں بے اصل باتیں بیان کر دینا، مثلاً احادیث میں اپنی طرف سے کچھ جملے ملا دینا یا ان میں کچھ

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۳.

②..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۵.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۸.

④..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۵.

ایسی کمی کر دینا جس سے حدیث کے معنی بگڑ جائیں، جیسا کہ اس زمانہ کے اکثر مقررین کی تقریروں میں ایسی باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ مجمع پر اثر ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کر ڈالتے ہیں ایسی وعظ گوئی ممنوع ہے۔

اسی طرح یہ بھی ممنوع ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور خود انہیں باتوں میں آلودہ ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی ذات کو نصیحت کرنی چاہیے اور اگر وعظ غلط باتیں بیان نہیں کرتا اور نہ اس قسم کی کمی بیشی کرتا ہے بلکہ الفاظ و تقریر میں لطافت اور شگفتگی کا خیال رکھتا ہے تاکہ اثر اچھا پڑے لوگوں پر رقت طاری ہو اور قرآن و حدیث کے فوائد اور نکات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے۔⁽¹⁾ (درمختار)

مسئلہ ۷ معلم نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں سے چٹائی کے لیے پیسے لاؤ۔ پیسے اکٹھے ہوئے، کچھ پیسوں کی چٹائیاں لایا اور کچھ خود رکھ لیے، جو اپنے کام میں صرف کرے گا ایسا کر سکتا ہے کیونکہ بچوں کے باپ وغیرہ اس قسم کے پیسے اس غرض سے دیتے ہیں کہ بچے رہے گا تو وہ میاں جی کا ہوگا، وہ ہرگز اس کے امیدوار نہیں رہتے کہ جو کچھ بچے گا واپس ملے گا اور جان بوجھ کر اس سے زیادہ دیا کرتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصود اس رقم زائد کی تملیک ہے۔⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۸ عالم اگر اپنا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر کرے تو اس میں حرج نہیں مگر یہ ضرور ہے کہ تفاخر کے طور پر یہ اظہار نہ ہو کہ تفاخر حرام ہے، بلکہ محض تحدیثِ نعمتِ الہی کے لیے یہ اظہار ہو اور یہ مقصد ہو کہ جب لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا تو استفادہ کریں گے کوئی دین کی بات پوچھے گا اور کوئی پڑھے گا۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۹ طلب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا نفع سب سے زیادہ ہے مگر یہ ضرور ہے کہ فرائض کی انجام دہی میں خلل و نقصان نہ ہو۔ اچھی نیت کا یہ مطلب ہے کہ رضائے الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے۔ طلب دنیا و طلب جاہ نہ ہو اور طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کو نفع پہنچاؤں یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیا ہے، مثلاً لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے میں بھی نہ پڑھوں تو علم مٹ جائے گا، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں اور اگر تصحیح نیت پر قادر نہ ہو جب بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا چھوڑے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

①..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۷.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۷.

③..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۷.

④..... المرجع السابق، ص ۳۷۸.

مسئلہ ۱۰ - عالم و مُتَعَلِّم^(۱) کو علم میں بخل نہ کرنا چاہیے، مثلاً اس سے عاریت کے طور پر کوئی کتاب مانگے یا اس سے کوئی مسئلہ سمجھنا چاہے، تو انکار نہ کرے کتاب دے دے مسئلہ سمجھا دے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص علم میں بخل کرے گا، تین باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہوگا یا وہ مرجائے گا اور اس کا علم جاتا رہے گا یا بادشاہ کی طرف سے کسی بلا میں مبتلا ہوگا یا علم بھول جائے گا۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱ - عالم و مُتَعَلِّم کو علم کی توقیر کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ زمین پر کتابیں رکھے، پانچا نہ پیشاب کے بعد کتابیں چھونا چاہے تو وضو کر لینا مستحب ہے، وضو نہ کرے تو ہاتھ نہ دھو لے اب کتابیں چھوئے اور یہ بھی چاہیے کہ عیش پسندی میں نہ پڑے، کھانے پینے، رہنے سہنے میں معمولی حالت اختیار کرے، عورتوں کی طرف زیادہ توجہ نہ رکھے، مگر یہ بھی نہ ہو کہ اتنی کمی کر دے کہ تقلیل غذا اور کم خوابی میں اپنی جسمانی حالت خراب کر دے اور اپنے کو کمزور کر دے کہ خود اپنے نفس کا بھی حق ہے اور بی بی بچوں کا بھی حق ہے، سب کا حق پورا کرنا چاہیے۔

عالم و مُتَعَلِّم کو یہ بھی چاہیے کہ لوگوں سے میل جول کم رکھیں اور فضول باتوں میں نہ پڑیں اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برابر جاری رکھیں، دینی مسائل میں مذاکرہ کرتے رہیں، کتب بینی کرتے رہیں، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو نرمی اور انصاف سے کام لیں جاہل اور اس میں اس وقت بھی فرق ہونا چاہیے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ - استاذ کا ادب کرے اس کے حقوق کی محافظت کرے اور مال سے اس کی خدمت کرے اور استاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں پیروی نہ کرے۔ استاذ کا حق ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ جانے اس کے ساتھ تو وضع سے پیش آئے، جب استاذ کے مکان پر جائے تو دروازہ پر دستک نہ دے بلکہ اس کے برآمد ہونے کا انتظار کرے۔^(۴) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ - نااہلوں کو علم نہ پڑھائے اور جو اس کے اہل ہوں ان کی تعلیم سے انکار نہ کرے کہ نااہلوں کو پڑھانا علم کو ضائع کرنا ہے اور اہل کو نہ پڑھانا ظلم و جور ہے۔^(۵) (عالمگیری) نااہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسبت معلوم ہے کہ علم کے حقوق کو محفوظ نہ رکھ سکیں گے، پڑھ کر چھوڑ دیں گے، جاہلوں کے سے افعال کریں گے یا لوگوں کو گمراہ کریں گے یا علما کو بدنام کریں گے۔

①.....عالم و طالب علم۔

②....."الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۸۔

③.....المرجع السابق۔

④.....المرجع السابق، ص ۳۷۸ - ۳۷۹۔

⑤.....المرجع السابق، ص ۳۷۹۔

مسئلہ ۱۳

معلم اگر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پانچ باتیں اس پر لازم ہیں۔

① تعلیم پر اجرت لینا شرط نہ کرے، اگر کوئی خود کچھ دیدے تو لے لے، ورنہ کچھ نہ کہے۔

② با وضو ہے۔

③ خیر خواہانہ تعلیم دے، توجہ کے ساتھ پڑھائے۔

④ لڑکوں میں جھگڑا ہو تو عدل و انصاف سے کام لے، یہ نہ ہو کہ مال داروں کے بچوں کی طرف زیادہ توجہ کرے

اور غریبوں کے بچوں کی طرف کم۔

⑤ بچوں کو زیادہ نہ مارے، مارنے میں حد سے تجاوز کرے گا تو قیامت کے روز محاسبہ (۱) دینا پڑے گا۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۵

ایک شخص نے نماز وغیرہ کے مسائل اس لیے سیکھے کہ دوسرے لوگوں کو سکھائے بتائے گا اور دوسرے نے

اس لیے سیکھے کہ ان پر خود عمل کرے گا، پہلا شخص اس دوسرے سے افضل ہے۔ (۳) (درمختار) یعنی جبکہ پہلے کا یہ مقصد ہو کہ عمل بھی

کرے گا اور تعلیم بھی دے گا یا یہ کہ محض تحصیل علم میں اول کو دوسرے پر فضیلت ہے، کیونکہ پہلے کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور

دوسرے کا مقصد صرف اپنے کو فائدہ پہنچانا ہے۔

مسئلہ ۱۶

گھڑی بھر علم دین کے مسائل میں مذاکرہ اور گفتگو کرنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔

(۴) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۷

کچھ قرآن مجید یاد کر چکا ہے اور اسے فرصت ہے تو افضل یہ ہے کہ علم فقہ سیکھے، کہ قرآن مجید حفظ کرنا فرض

کفایہ ہے اور فقہ کی ضروری باتوں کا جاننا فرض عین ہے۔ (۵) (ردالمحتار)

ریا و سمعہ کا بیان

ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا اور سمعہ یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے یہ دونوں چیزیں

بہت بری ہیں ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

①..... یعنی حساب۔

②..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۹.

③..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۲.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۲.

⑤..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۷۲.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا أَصْدَاقِيكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُوَفِّقُ مَالَهُ بَيْنَ عَائِدِ النَّاسِ﴾ (1)

”اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسانِ جفا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو، اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے

مال خرچ کرتا ہے۔“

اور ارشاد ہوا:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا﴾ (2)

”جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ریا نہ کرے کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے۔

اور فرماتا ہے:

﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُدْأَوْنَ وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (3)

”قویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ أَلِلَّهُ الدِّينَ الْخَالِصُ﴾ (4)

”اللہ (عزوجل) کی عبادت اس طرح کر کہ دین کو اس کے لیے خالص کر، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص اللہ (عزوجل)

کے لیے ہے۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُتَّفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ

قَرِينًا قَسَاةً قَبِيحًا﴾ (5)

”اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ (عزوجل) پر ایمان لاتے ہیں اور نہ پچھلے دن

پر اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو برا ساتھی ہوا۔“

احادیث اس کی مذمت میں بہت ہیں، بعض ذکر کی جاتی ہیں:

②..... پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰.

①..... پ ۳، البقرة: ۲۶۴.

④..... پ ۲۳، الزمر: ۲ - ۳.

③..... پ ۳۰، الماعون: ۴ - ۷.

⑤..... پ ۵، النساء: ۳۸.

حدیث ۱ ابن ماجہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے؟ ہم نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)، ارشاد فرمایا: ”وہ شرک خفی ہے، آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔“ (1)

حدیث ۲ امام احمد نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے، وہ شرک اصغر ہے۔“ لوگوں نے عرض کی، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ”ریا ہے۔“ (2) بیہقی نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ریا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”ان کے پاس جاؤ جن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، جا کر دیکھو کہ وہاں تمہیں کوئی بدلا اور خیر ملتا ہے۔“ (3)

حدیث ۳ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابوسعید ابن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے کوئی کام اللہ (عزوجل) کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔“ (4)

حدیث ۴ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میں تمام شرکاء میں شرکت سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، میں اس کو شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔“ (5) یعنی اس کا کچھ ثواب نہ دوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتا ہے: ”میں اس سے بری ہوں، وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے عمل کیا۔“ (6)

①..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الزہد، باب الریاء والسمعة، الحدیث: ۴۲۰۴، ج ۴، ص ۳۷۰.

و ”مشکاۃ المصابیح“، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة، الحدیث: ۵۳۳۳، ج ۳، ص ۱۴۰.

②..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث محمود بن لبید، الحدیث: ۳۶۹۲، ج ۲، ص ۱۶۰.

③..... ”شعب الإیمان“، باب فی إخلاص العمل... إلخ، الحدیث: ۶۸۳۱، ج ۵، ص ۳۳۳.

④..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبی سعید بن أبی فضالہ، الحدیث: ۱۵۸۳۸، ج ۵، ص ۳۶۹.

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الزہد، باب من أشرك فی عمله، الحدیث: ۴۶- (۲۹۸۵)، ص ۱۵۹۴.

⑥..... ”شعب الإیمان“، باب فی إخلاص العمل للہ... إلخ، الحدیث: ۶۸۱۵، ج ۵، ص ۳۲۹.

حدیث ۵ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ

تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔“ (1)

حدیث ۶ صحیح بخاری و مسلم میں جناب یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”جو سنانے کے لیے کام کرے گا، اللہ (عزوجل) اس کو سنائے گا یعنی اس کی سزا دے گا اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ریا کی سزا دے گا۔“ (2)

حدیث ۷ طبرانی و حاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”ریا کا ادنیٰ مرتبہ بھی شرک ہے اور تمام بندوں میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہیں، جو پرہیزگار ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں، وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے

چراغ ہیں۔“ (3)

حدیث ۸ ابن ماجہ نے روایت کی، کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، معاذ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا پایا۔ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟

حضرت معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کہا، ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ مجھے رلاتی ہے۔ میں

نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو یہ فرماتے سنا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے اور جو شخص اللہ (عزوجل) کے ولی سے دشمنی کرے،

وہ اللہ (عزوجل) سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوؤں کو دوست رکھتا ہے وہ کہ غائب ہوں تو ڈھونڈیں نہ

جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر غبار آلود تاریک سے

نکل جاتے ہیں۔ (4) یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہوتے ہیں۔

حدیث ۹ امام بخاری نے ابو تمیمہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ صفوان اور ان کے ساتھیوں کے پاس میں حاضر

تھا، جناب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو تو بیان

کرو۔ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: جو سنانے کے لیے عمل کرے گا،

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر... إلخ، باب تحریم ظلم المسلم... إلخ، الحدیث: ۳۴۔ (۲۰۴۶)، ص ۱۳۸۷۔

②..... ”صحیح البخاری“، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة، الحدیث: ۶۴۹۹، ج ۴، ص ۲۴۷۔

③..... ”المستدرک“، کتاب معرفة الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم، الحدیث: ۵۲۳۱، ج ۴، ص ۳۰۶۔

④..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب الفتن، باب من ترجی لہ... إلخ، الحدیث: ۳۹۸۹، ج ۴، ص ۳۵۱۔

و”مشکاة المصابیح“، کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة، الحدیث: ۵۳۲۸، ج ۳، ص ۱۳۹۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سنائے گا یعنی سزا دے گا اور جو مشقت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا۔ انہوں نے کہا: ہمیں وصیت کیجیے۔ فرمایا: ”سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا، لہذا جس سے ہو سکے کہ پاکیزہ مال کے سوا کچھ نہ کھائے، وہ یہی کرے اور جس سے ہو سکے کہ اس کے اور جنت کے درمیان چلو بھر خون حائل نہ ہو وہ یہ کرے یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔“ (1)

حدیث ۱۰ امام احمد نے شداد بن اوس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”جس نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی، اس نے شرک کیا اور جس نے ریا کے ساتھ روزہ رکھا، اس نے شرک کیا اور جس نے ریا کے ساتھ صدقہ دیا، اس نے شرک کیا۔“ (2)

حدیث ۱۱ امام احمد نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ یہ روئے، کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یاد آگئی اس نے مجھے رلا دیا، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ ”میں اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا: ہاں مگر وہ لوگ آفتاب و ماہتاب اور پتھر اور بت کو نہیں پوجیں گے، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے اور شہوت خفیہ یہ کہ صبح کو روزہ رکھے گا پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دے گا۔“ (3)

حدیث ۱۲ امام احمد و مسلم و نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے وہ حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دریافت کرے گا وہ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی اقرار کرے گا، ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو کہہ لیا گیا، حکم ہوگا اس کو مومنہ کے بل گھیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“

اور ایک وہ شخص جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا، وہ حاضر کیا جائے گا اس سے نعمتوں کو دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا: ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کہے گا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا، فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا

①.....”صحیح البخاری“، کتاب الأحکام، باب من شاق شق اللہ علیہ، الحدیث: ۷۱۵۲، ج ۴، ص ۴۵۶.

②.....”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث شداد بن اوس، الحدیث: ۱۷۱۴۰، ج ۶، ص ۸۱-۸۲.

③.....المرجع السابق، الحدیث: ۱۷۱۲۰، ج ۶، ص ۷۷.

جائے سو تجھے کہہ لیا گیا، حکم ہوگا مونہہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

پھر ایک تیسرا شخص لایا جائے گا، جس کو خدا نے وسعت دی ہے اور ہر قسم کا مال دیا ہے، اس سے اپنی نعمتیں دریافت فرمائے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا: تو نے ان کے مقابل کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے، مگر میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے سو کہہ لیا گیا، اس کے متعلق بھی حکم ہوگا مونہہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“ (1)

حدیث ۱۳ بخاری نے تاریخ میں اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ (عزوجل) کی پناہ مانگو جب الحزن“ سے یہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز چار سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اس میں قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں اور خدا کے بہت زیادہ مبغوض وہ قاری ہیں، جو امرا کی ملاقات کو جاتے ہیں۔“ (2)

حدیث ۱۴ طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص آخرت کے عمل سے آراستہ ہو اور وہ نہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، نہ آخرت کا طالب ہے، اس پر آسمان وزمین میں لعنت ہے۔“ (3)

حدیث ۱۵ حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت میں شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، جو چکنے پتھر پر چلتی ہے۔“ (4)

حدیث ۱۶ امام احمد و طبرانی نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے لوگو! شرک سے بچو کیونکہ وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کس طرح شرک سے بچیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔“

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ. (5)

الہی! ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں اور ہم اس سے استغفار کرتے

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، الحدیث: ۱۵۲- (۱۹۰۵)، ص ۱۰۵۵.

②..... ”کنز العمال“، کتاب الأخلاق، رقم: ۷۴۷۷، ج ۳، ص ۱۹۰.

و”سنن الترمذی“، کتاب الزهد، باب ماجاء في الرياء والسمعة، الحدیث: ۲۳۹۰، ج ۴، ص ۱۷۰.

③..... ”المعجم الأوسط“، باب العين، الحدیث: ۴۷۷۶، ج ۳، ص ۳۳۸.

و”الترغیب والترہیب“، للمنذري، الترہیب من الرياء... إلخ، الحدیث: ۱۲، ج ۱، ص ۳۲.

④..... ”نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول“، الأصل الرابع والسبعون والمئتان... إلخ، الحدیث: ۱۹۰۱، ص ۶۷۲.

⑤..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبي موسى الأشعري، الحدیث: ۱۹۶۲۵، ج ۷، ص ۱۴۶.

ہیں جس کو نہیں جانتے۔“

حدیث ۱۷ طبرانی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان طیار کر رکھا ہے، دیکھیں گے۔ پکارا جائے گا کہ انھیں واپس کرو جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی اور یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب! اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا، ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیا کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو یہ ہم پر آسان ہوتا۔ ارشاد فرمائے گا: ”ہمارا مقصد ہی یہ تھا اے بد بختو! جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں کی، لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے، لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا۔“ (1)

حدیث ۱۸ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کی نیت طلبِ آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا اور اس کی حاجتیں جمع کر دے گا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی اور طلبِ دنیا جس کی نیت ہو اللہ تعالیٰ فقر و محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو متفرق کر دے گا اور ملے گا وہی جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔“ (2)

حدیث ۱۹ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ فرمائیے کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں (یہ ریا ہے یا نہیں)؟ فرمایا: ”یہ مومن کے لیے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے۔“ (3)

حدیث ۲۰ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ

①..... ”المعجم الكبير“ للطبرانی، الحديث: ۱۹۹، ج ۱۵، ص ۸۵.

و ”مجمع الزوائد“، کتاب الزهد، باب ماجاء في الرياء، الحديث: ۱۷۶۴۹، ج ۱۰، ص ۳۷۷.

②..... ”سنن الترمذی“، کتاب صفة القيامة، باب: ۹۵، الحديث: ۲۴۷۳، ج ۴، ص ۲۱۱.

و ”مشكاة المصابيح“، کتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، الحديث: ۵۳۲۰، ج ۳، ص ۱۳۸.

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب البر والصلة... إلخ، باب إذا أثنی علی الصالح... إلخ، الحديث: ۱۶۶- (۲۶۴۲)، ص ۱۴۲۰.

تعالیٰ علیہ والہ وسلم) میں اپنے مکان کے اندر نماز کی جگہ میں تھا، ایک شخص آ گیا اور یہ بات مجھے پسند آئی کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا (یہ ریا تو نہ ہوا)۔ ارشاد فرمایا: ”ابو ہریرہ! تمہارے لیے دو ثواب ہیں، پوشیدہ عبادت کرنے کا اور علانیہ کا بھی۔“ (1)

یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کی کہ لوگوں پر ظاہر ہو اور لوگ عابد سمجھیں، عبادت خالصاً اللہ (عزوجل) کے لیے ہے، عبادت کے بعد اگر لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور طبعاً یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے نے اچھی حالت پر پایا، اس طبعی مسرت سے ریا نہیں۔

حدیث ۲۱ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ دین و دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔“ (2) یعنی جسے لوگ اچھا سمجھتے ہوں، اس کو ریا و عجب سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کی خاص مہربانی جس پر ہو وہی بچتا ہے۔

مسئلہ ۱ روزہ دار سے پوچھا، کیا تمہارا روزہ ہے؟ اسے کہہ دینا چاہیے کہ ہاں ہے، کہ روزہ میں ریا کو دخل نہیں، یہ نہ کہے کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے الفاظ نہ کہے جن سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ اپنے روزہ کو چھپاتا ہے کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ چھپاتا ہے مگر اس طرح جس سے اظہار ہو جاتا ہے یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے۔ (3) (در مختار، رد المحتار)

مسئلہ ۲ عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے یعنی محض رضائے الہی کے لیے عمل کرنا ضرور ہے۔ دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع حرام ہے، بلکہ حدیث میں ریا کو شرک اصغر فرمایا اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہو مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس پر ثواب مرتب ہو مثلاً لاعلمی میں کسی نے نجس پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی اگرچہ یہ نماز صحیح نہ ہوئی کہ صحت کی شرط طہارت تھی وہ نہیں پائی گی مگر اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو ثواب کا ترتب ہے یعنی اس نماز پر ثواب پائے گا مگر جبکہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو وہ مطالبہ جو اس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا، وہ بدستور قائم رہے گا اس کو ادا کرنا ہوگا۔

اور کبھی شرائط صحت پائے جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا مثلاً نماز پڑھی تمام ارکان ادا کیے اور شرائط بھی پائے گئے، مگر ریا

1..... ”سنن الترمذی“، کتاب الزہد، باب عمل السر، الحدیث: ۲۳۹۱، ج ۴، ص ۱۷۱.

و ”شرح السنۃ“، کتاب الرقاق، باب من عمل لله فحمد علیہ، الحدیث: ۴۰۳۶، ج ۷، ص ۳۴۶.

2..... ”شعب الایمان“، باب فی اخلاص العمل... إلخ، الحدیث: ۶۹۷۸، ج ۵، ص ۳۶۷.

3..... ”الدر المختار“ و ”رد المختار“، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۰.

کے ساتھ پڑھی تو اگرچہ اس نماز کی صحت کا حکم دیا جائے مگر چونکہ اخلاص نہیں ہے ثواب نہیں۔

ریا کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلاً لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں یہ ریا کے کامل ہے کہ ایسی عبادت کا بالکل ثواب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہر حال نماز پڑھتا مگر وصف میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا مگر اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا۔ یہ دوسری قسم پہلی سے کم درجہ کی ہے اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں کہ یہ ریا سے ہے اخلاص سے نہیں۔⁽¹⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۳ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ شروع کیا مگر اثناء عمل میں ریا کی مداخلت ہو گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریا سے عبادت کی بلکہ یہ عبادت اخلاص سے ہوئی، ہاں اس کے بعد جو کچھ عبادت میں حسن و خوبی پیدا ہو گئی وہ ریا سے ہوگی اور یہ ریا کی قسم دوم میں شمار ہوگی۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۴ روزہ کے متعلق بعض علما کا یہ قول ہے کہ اس میں ریا نہیں ہوتا اس کا غالباً یہ مطلب ہوگا کہ روزہ چند چیزوں سے باز رہنے کا نام ہے اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا جس کی نسبت کہا جائے کہ ریا سے کیا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جتانے کے لیے یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں یا لوگوں کے سامنے منہ بنائے رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا بھی روزہ ہے اس طور پر روزہ میں بھی ریا کی مداخلت ہو سکتی ہے۔⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۵ ریا کی طرح اجرت لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ کسی میت کے لیے بغرض ایصالِ ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے کہ یہاں اخلاص کہاں بلکہ تلاوت سے مقصود وہ پیسے ہیں کہ وہ نہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں، اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں پھر میت کے لیے ایصالِ ثواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب ثواب ہی نہ ملا تو پہنچائے گا کیا۔ اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب، نہ میت کو بلکہ اجرت دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار۔⁽⁴⁾ (ردالمحتار) ہاں اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے تلاوت کی تو اس پر ثواب بھی ہے اور اس کا ایصال بھی ہو سکتا ہے اور میت کو اس سے نفع بھی پہنچے گا۔

بعض مرتبہ پڑھنے والوں کو پیسے نہیں دیے جاتے مگر ختم کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر اس مٹھائی کی خاطر تلاوت کی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی اجرت ہی ہے کہ جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو اسے بھی مشروط ہی کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا بھی وہی حکم

①..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۱.

②..... المرجع السابق.

③..... المرجع السابق، ص ۷۰۲.

④..... المرجع السابق.

ہے جو مذکور ہو چکا، ہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مٹھائی نہیں ملتی جب بھی میں پڑھتا وہ اس حکم سے متشکی ہے اور اس بات کا خود وہ اپنے ہی دل سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا پڑھنا مٹھائی کے لیے ہے یا اللہ عزوجل کے لیے۔

بیچ آیت ⁽¹⁾ پڑھنے والا اپنا دوہرا حصہ لیتا ہے یعنی ایک حصہ خاص بیچ آیت پڑھنے کا ہوتا ہے اور نہ ملے تو جھگڑتا ہے گویا یہ زائد حصہ بیچ آیت کا معاوضہ ہے اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ جس طرح اجر کو اجرت نہ ملے تو جھگڑ ⁽²⁾ کر لیتا ہے، اسی طرح یہ بھی لیتا ہے، لہذا بظاہر اخلاص نظر نہیں آتا، واللہ اعلم بالصواب۔

میلا دخوان اور واعظ بھی دو حصے لیتے ہیں جب کہ وعظ میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک حصہ اپنے پڑھنے اور تقریر کرنے کا لیتے ہیں، اگر وہی حصہ یہ بھی لیتے جو عام طور پر تقسیم ہوتا ہے تو بہت خوب ہوتا کہ ذرا سی مٹھائی کے بدلے اجر عظیم کے ضائع ہونے کا شبہ نہ ہوتا۔

بعض جگہ خصوصیت کے ساتھ ان کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کو اسی حیثیت سے کھانا کھلایا جاتا ہے کہ یہ پڑھیں گے بیان کریں گے یہ مخصوص دعوت بھی اسی اجرت ہی کی حد میں آتی ہے، ہاں اگر اور لوگوں کی دعوت بھی ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وعظ و تقریر کا معاوضہ ہے۔

اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں جن کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں، یہ مختصر بیان دین دار توجع شریعت کے لیے کافی و دانی ہے وہ خود اپنے دل میں انصاف کر سکتا ہے کہ کہاں عمل خیر کی اجرت ہے اور کہاں نہیں۔

مسئلہ ۶ جو شخص حج کو گیا اور ساتھ میں اموال تجارت بھی لے گیا، اگر تجارت کا خیال غالب ہے یعنی تجارت کرنا مقصود ہے اور وہاں پہنچ جاؤں گا حج بھی کر لوں گا یا دونوں پہلو برابر ہیں یعنی سفر ہی دونوں مقصد سے کیا تو ان دونوں صورتوں میں ثواب نہیں یعنی جانے کا ثواب نہیں اور اگر مقصود حج کرنا ہے اور یہ کہ موقع مل جائے گا تو مال بھی بیچ لوں گا تو حج کا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر جمعہ پڑھنے گیا اور بازار میں دوسرے کام کرنے کا بھی خیال ہے، اگر اصلی مقصود جمعہ ہی کو جانا ہے تو اس جانے کا ثواب ہے اور اگر کام کا خیال غالب ہے یا دونوں برابر تو جانے کا ثواب نہیں۔ ⁽³⁾ (ردالمحتار)

مسئلہ ۷ فرائض میں ریا کو دخل نہیں۔ ⁽⁴⁾ (درمختار) اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض میں ریا پایا ہی نہیں جاتا اس لیے کہ جس طرح نوافل کو ریا کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ فرائض کو بھی ریا کے طور پر ادا کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فرض اگر

① یعنی سورہ فاتحہ اور چاروں قُل، جو فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ ② یعنی جھگڑا۔

③ "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۲۔

④ "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۳۔

ریا کے طور پر ادا کیا جب بھی اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو فرض ادا کرنے میں ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہو تو اس مداخلت کو اعتبار کر کے فرض کو ترک نہ کرے (1) بلکہ فرض ادا کرے اور ریا کو دور کرنے کی اور اخلاص حاصل ہونے کی کوشش کرے۔

زیارت (2) قبور کا بیان

حدیث ۱ صحیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو اور میں نے تم کو قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی تھی اب جب تک تمہاری سمجھ میں آئے رکھ سکتے ہو۔“ (3)

حدیث ۲ ابن ماجہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو، کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے۔“ (4)

حدیث ۳ صحیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں کے پاس جائیں یہ کہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا
وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. (5)

حدیث ۴ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں قبور کے پاس گزرے تو او دھر کو مونہ کر لیا اور یہ فرمایا:

①..... یعنی فرائض کو نہ چھوڑے۔

②..... زیارت کے متعلق مسائل حصہ چہارم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وہاں سے معلوم کریں۔ ۱۴ منہ

③..... ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب استغذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ عزوجل... إلخ، الحدیث: ۱۰۶- (۹۷۷)، ص ۴۸۶۔

④..... ”سنن ابن ماجہ“، کتاب ماجاء فی الجنائز، باب ماجاء فی زیارة القبور، الحدیث: ۱۰۷۱، ج ۲، ص ۲۵۲۔

⑤..... ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور... إلخ، الحدیث: ۱۰۴- (۹۷۵)، ص ۴۸۵۔

و ”سنن ابن ماجہ“، کتاب ماجاء فی الجنائز، باب ماجاء فیما یقال إذا دخل المقابر، الحدیث: ۱۰۴۷، ج ۲، ص ۲۴۰۔

ترجمہ: اے قبرستان والے مومنو اور مسلمانو! تم پر سلامتی ہو اور ان شاء اللہ عزوجل ہم تم سے آملیں گے، ہم اللہ عزوجل سے اپنے لئے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ. (1)

حدیث ۵ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، کہتی ہیں کہ جب میری باری کی رات ہوتی حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) آخر شب میں بقیع کو جاتے اور یہ فرماتے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوَعَدُونَ غَدًا مُوجِلُونَ وَإِنَّا أَنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَأَحِقُونَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْقَدِ. (2)

حدیث ۶ بیہقی نے شعب الایمان میں محمد بن نعمان سے مرسل روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو اپنے والدین کی دونوں یا ایک کی ہر جمعہ میں زیارت کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکو کار رکھا جائے گا۔“ (3)

حدیث ۷ خطیب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی شخص ایسے کی قبر پر گزرے جسے دنیا میں پہچانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔“ (4)

حدیث ۸ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں میں اپنے گھر میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں (یعنی روضہ اطہر میں) داخل ہوتی تو اپنے کپڑے اتار دیتی (یعنی زائد کپڑے جو غیروں کے سامنے ہونے میں ستر پوشی کے لیے ضروری ہیں) اور اپنے دل میں یہ کہتی کہ یہاں تو صرف میرے شوہر اور میرے والد ہیں پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہوئے تو حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی حیا کی وجہ سے خدا کی قسم! میں وہاں نہیں گئی مگر اچھی طرح اپنے اوپر کپڑوں کو لپیٹ کر۔ (5)

مسئلہ ۱ زیارت قبور جائز و مسنون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ (6)

①..... ”سنن الترمذی“، کتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، الحدیث: ۱۰۵۵، ج ۲، ص ۳۲۹۔

ترجمہ: اے قبرستان والو! تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

②..... ”صحیح مسلم“، کتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور... إلخ، الحدیث: ۱۰۲- (۹۷۴)، ص ۴۸۴۔

③..... ”شعب الایمان“، باب فی بر الوالدین، فصل فی حفظ حق الوالدین بعد موتہما، الحدیث: ۷۹۰۱، ج ۶، ص ۲۰۱۔

④..... ”تاریخ بغداد“، رقم: ۳۱۷۵، ج ۶، ص ۱۳۵۔

⑤..... ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضی اللہ عنہا، الحدیث: ۲۵۷۱۸، ج ۱۰، ص ۱۲۔

⑥..... انظر: ”الدر المنثور“ للسیوطی، سورة الرعد، تحت الآية: ۲۴، ج ۴، ص ۶۴۰-۶۴۱۔

اور یہ فرمایا بھی ہے کہ ”تم لوگ قبروں کی زیارت کرو۔“ (1)

مسئلہ ۲ جس کی قبر کی زیارت کو گیا ہے اس کی زندگی میں اگر اس کے پاس ملاقات کو آتا تو جتنا نزدیک یا دور ہوتا اب بھی قبر کی زیارت میں اسی کا لحاظ رکھے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۳ قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان میں دو رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں بعد فاتحہ آیۃ الکرسی ایک بار اور **قُلْ هُوَ اللَّهُ** تین بار پڑھے اور اس نماز کا ثواب میت کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ میت کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس شخص کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا، اب قبرستان کو جائے راستہ میں لایعنی باتوں میں مشغول نہ ہو جب قبرستان پہنچے جو تیاں اوتار دے اور قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ قبلہ کو پیٹھ ہو اور میت کے چہرہ کی طرف مونہہ اور اس کے بعد یہ کہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْآثَرِ.

اور سورۃ فاتحہ و آیۃ الکرسی و سورۃ **إِذَا زُلْزِلَتْ** و **أَلْهَمَكُمْ التَّكْوِيْنَ** پڑھے، سورہ ملک اور دوسری سورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئلہ ۴ چار دن زیارت کے لیے بہتر ہیں، دو شنبہ (4)، پنج شنبہ (5)، جمعہ، ہفتہ، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ افضل ہے اور ہفتہ کے دن طلوع آفتاب تک اور پنج شنبہ کو دن کے اول وقت میں اور بعض علما نے فرمایا کہ پچھلے وقت میں افضل ہے، متبرک راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، مثلاً شب براءت، شب قدر، اسی طرح عیدین کے دن اور عشرہ ذی الحجہ میں بھی بہتر ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۵ قبرستان کے درخت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ درخت قبرستان سے پہلے کا ہے یعنی زمین کو جب قبرستان بنایا گیا اس وقت وہ درخت وہاں موجود تھا، تو جس کی زمین ہے اسی کا درخت ہے وہ جو چاہے کرے اور اگر وہ زمین بخر تھی کسی کی ملک نہ تھی تو درخت اور زمین کا وہ حصہ جس میں درخت ہے اسی پہلی حالت پر ہے کہ کسی کی ملک نہیں اور اگر قبرستان ہونے کے بعد کا

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الحنائن، باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ عزوجل... إلخ، الحدیث: ۱۰۶- (۹۷۷)، ص ۴۸۶.

②..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب السادس عشر فی زیارۃ القبور، ج ۵، ص ۳۵۰.

③..... المرجع السابق.

④..... بحیر.

⑤..... جمعرات.

⑥..... ”الفتاویٰ الہندیۃ“، کتاب الکراہیۃ، الباب السادس عشر فی زیارۃ القبور، ج ۵، ص ۳۵۰.

درخت ہے اور معلوم ہے کہ فلاں شخص نے لگایا ہے تو جس نے لگایا ہے اس کا ہے مگر اسے یہ چاہیے کہ صدقہ کر دے اور معلوم نہ ہو کہ کس نے لگایا ہے بلکہ وہ خود ہی وہاں جم گیا ہے تو قاضی کو اس کے متعلق اختیار ہے اگر قاضی کی یہ رائے ہو کہ درخت کٹوا کر قبرستان پر خرچ کر دے تو کر سکتا ہے۔⁽¹⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۶ بزرگانِ دین اولیا و صالحین کے مزاراتِ طیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحبِ مزار کی وقعت نظرِ عوام میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں ان کے برکات حاصل کریں۔⁽²⁾ (ردالمحتار)

ایصالِ ثواب

مسئلہ ۱ ایصالِ ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ عبادتِ مالیہ یا بدنیہ فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، زندوں کے ایصالِ ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کتب فقہ و عقائد میں اس کی تصریح مذکور ہے، ہدایہ⁽³⁾ اور شرح عقائد نسفی⁽⁴⁾ میں اس کا بیان موجود ہے اس کو بدعت کہنا ہٹ دھرمی ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، انھوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: پانی۔ انھوں نے کو آں کھودا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔⁽⁵⁾ معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ اب رہیں تخصیصات مثلاً تیسرے دن یا چالیسویں دن یہ تخصیصات نہ شرعی تخصیصات ہیں نہ ان کو شرعی سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اسی دن میں ثواب پہنچے گا اگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچے گا۔ یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی سہولت کے لیے لوگوں نے کر رکھی ہے بلکہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اکثر لوگوں کے یہاں اسی دن سے بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے ہوتے ہوئے کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ مخصوص دن کے سوا دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانتے ہیں، یہ محض افتراء ہے جو مسلمانوں کے سر باندھا جاتا

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الوقف، الباب الثانی عشر فی الرباطات والمقابر، ج ۲، ص ۴۷۳-۴۷۴.

②..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۵۹۹.

③..... انظر: "الہدایۃ"، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۱، ص ۱۷۸.

④..... انظر: "شرح العقائد النسفیۃ"، مبحث دعاء الأحياء للاموات... إلخ، ص ۱۷۲.

⑤..... "سنن أبي داود"، کتاب الزکاة، باب فی فضل سقی الماء، الحدیث: ۱۶۸۱، ج ۲، ص ۱۸۰.

ہے اور زندوں مُردوں کو ثواب سے محروم کرنے کی بیکار کوشش ہے، پس جبکہ ہم اصل کلی بیان کر چکے تو جزئیات کے احکام خود اسی کلیہ سے معلوم ہو گئے۔

سوم یعنی تیجہ جو مرنے سے تیسرے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھوا کر یا کلمہ طیبہ پڑھوا کر ایصالِ ثواب کرتے ہیں اور بچوں اور اہل حاجت کو چنے، بتا سے یا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کھانا پکوا کر فقرا و مساکین کو کھلاتے ہیں یا ان کے گھروں پر بھیجتے ہیں جائز و بہتر ہے، پھر ہر پنج شنبہ کو حسبِ حیثیت کھانا پکا کر غربا کو دیتے یا کھلاتے ہیں، پھر چالیسویں دن کھانا کھلاتے ہیں، پھر چھ مہینے پر ایصال کرتے ہیں، اس کے بعد برسی ہوتی ہے۔ یہ سب اسی ایصالِ ثواب کی فروع ہیں اسی میں داخل ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ یہ سب کام اچھی نیت سے کیے جائیں نمائشی نہ ہوں، نمود مقصود نہ ہو، ورنہ نہ ثواب ہے نہ ایصالِ ثواب۔

بعض لوگ اس موقع پر عزیز و قریب اور رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، یہ موقع دعوت کا نہیں بلکہ محتاجوں فقیروں کو کھلانے کا ہے جس سے میت کو ثواب پہنچے۔ اسی طرح شبِ براءت میں حلوا پکتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، حلوا پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ بھی اسی ایصالِ ثواب میں داخل۔

ماہِ رجب میں بعض جگہ سورہ ملک چالیس مرتبہ پڑھ کر روٹیوں یا چھوہاروں پر دم کرتے ہیں اور ان کو تقسیم کرتے ہیں اور ثوابِ مردوں کو پہنچاتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ اسی ماہِ رجب میں حضرت جلال بخاری علیہ الرحمہ کے کونڈے ہوتے ہیں کہ چاول یا کھیر پکوا کر کونڈوں میں بھرتے ہیں اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ بھی جائز ہے، ہاں ایک بات مذموم ہے وہ یہ کہ جہاں کونڈے بھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے، یہ ایک لغو حرکت ہے مگر یہ جاہلوں کا طریق عمل ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ پابندی نہیں۔

اسی طرح ماہِ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصالِ ثواب کے لیے پوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں یہ بھی جائز مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے یہ بے جا پابندی ہے۔ اس کونڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں وہ نہ پڑھی جائے فاتحہ دلا کر ایصالِ ثواب کریں۔

ماہِ محرم میں دس دنوں تک خصوصاً دسویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر شہدائے کربلا کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیر برنج⁽¹⁾ پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ جائز ہے، ان کو جس طرح ایصالِ ثواب کرو مندوب ہے۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگا دیتے ہیں، جاڑوں⁽²⁾ میں چائے پلاتے

① چاولوں کی کھیر۔

② یعنی سردیوں۔

ہیں، کوئی کھچرا پکواتا ہے جو کار خیر کرو اور ثواب پہنچاؤ ہو سکتا ہے، ان سب کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے ان کا یہ خیال غلط ہے، جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔

ماہ ربیع الآخر کی گیارہویں تاریخ بلکہ ہرمہینہ کی گیارہویں کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہ بھی ایصالِ ثواب کی ایک صورت ہے بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کبھی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو، عوام اسے گیارہویں کی فاتحہ بولتے ہیں۔

ماہ رجب کی چھٹی تاریخ بلکہ ہرمہینہ کی چھٹی تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ بھی ایصالِ ثواب میں داخل ہے۔ اصحاب کہف کا توشہ یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا حضرت شیخ احمد عبدالحق زردلوی قدس سرہ العزیز کا توشہ⁽¹⁾ بھی جائز ہے اور ایصالِ ثواب میں داخل ہے۔

مسئلہ ۲ عرس بزرگانِ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہر سال ان کے وصال کے دن ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے، کہ اس تاریخ میں قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور ثواب اون بزرگ کو پہنچایا جاتا ہے یا میلاد شریف پڑھا جاتا ہے یا وعظ کہا جاتا ہے، بالجملة ایسے امور جو باعثِ ثواب و خیر و برکت ہیں جیسے دوسرے دنوں میں جائز ہیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کے اول یا آخر میں شہدائے احد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت کو تشریف لے جاتے۔⁽²⁾ ہاں یہ ضرور ہے کہ عرس کو لغو و خرافات چیزوں سے پاک رکھا جائے، جاہلوں کو نامشروع حرکات سے روکا جائے، اگر منع کرنے سے باز نہ آئیں تو ان افعال کا گناہ ان کے ذمہ۔

مجالسِ خیر

مسئلہ ۱ میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اقدس کا بیان جائز ہے۔ اسی کے ضمن میں اس مجلس پاک میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے فضائل و معجزات و سیر و حالات حیاة و رضاعت و بعثت کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر احادیث میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی۔ اگر مسلمان اپنی محفل میں بیان کریں بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کریں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس مجلس کے لیے لوگوں کو

① یعنی کسی ولی یا بزرگ کی فاتحہ کا کھانا، جو عرس کے دن تقسیم کیا جاتا ہے۔

② انظر: "الدر المنثور" للسيوطي، سورة الرعد، تحت الآية: ۲۴، ج ۴، ص ۶۴۰ - ۶۴۱.

بلانا اور شریک کرنا خیر کی طرف بلانا ہے، جس طرح وعظ اور جلسوں کے اعلان کیے جاتے ہیں، اشتہارات چھپوا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہو جاتے، اسی طرح ذکر پاک کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو ناجائز و بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

اسی طرح میلاد شریف میں شیرینی بانٹنا بھی جائز ہے، مٹھائی بانٹنا بروصلہ ہے، جب یہ محفل جائز ہے تو شیرینی تقسیم کرنا جو ایک جائز فعل تھا اس مجلس کو ناجائز نہیں کر دے گا، یہ کہنا کہ لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں اس وجہ سے ناجائز ہے یہ بھی غلط ہے کوئی بھی واجب یا فرض نہیں جانتا، بہت مرتبہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میلاد شریف ہوا اور مٹھائی نہیں تقسیم ہوئی۔ اور بالفرض اسے کوئی ضروری سمجھتا بھی ہو، تو عرفی ضروری کہتا ہو گا نہ کہ شرعاً اس کو ضروری جانتا ہو گا۔

اس مجلس میں بوقت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے یعنی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں علمائے کرام نے اس قیام کو مستحسن فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی جائز ہے۔

بعض اکابر کو اس مجلس پاک میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) اس موقع پر ضرور تشریف لاتے ہی ہیں، مگر کسی غلام پر اپنا کرم خاص فرمائیں اور تشریف لائیں تو مستبعد بھی نہیں۔

مسئلہ ۲ مجلس میلاد شریف میں یا دیگر مجالس میں وہی روایات بیان کی جائیں جو ثابت ہوں، موضوعات اور گڑھے ہوئے قصے ہرگز ہرگز بیان نہ کیے جائیں، کہ بجائے خیر و برکت ایسی باتوں کے بیان کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۳ معراج شریف کے بیان کے لیے مجلس منعقد کرنا، اس میں واقعہ معراج بیان کرنا جس کو رجبی شریف کہا جاتا ہے جائز ہے۔

مسئلہ ۴ یہ مشہور ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعلین مبارک پہنے ہوئے عرش پر گئے اور واعظین اس کے متعلق ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں اس کا ثبوت نہیں اور یہ بھی ثابت نہیں کہ برہنہ پاتھے، لہذا اس کے متعلق سکوت کرنا مناسب ہے۔

مسئلہ ۵ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کی تاریخوں میں مجلس منعقد کرنا اور ان کے حالات و فضائل و کمالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا بھی جائز ہے، کہ وہ حضرات مقتدایان اہل اسلام ہیں، ان کی زندگی کے کارنامے مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہیں اور ان کا ذکر باعث خیر و برکت اور سبب نزول رحمت ہے۔

مسئلہ ۶ رجب کی ۲۶ و ۲۷ کو روزے رکھتے ہیں، پہلے کو ہزاری اور دوسرے کو لکھی کہتے ہیں یعنی پہلے میں ہزار

روزے کا ثواب اور دوسرے میں ایک لاکھ کا ثواب بتاتے ہیں۔ ان روزوں کے رکھنے میں مضائقہ نہیں، مگر یہ جو ثواب کے متعلق مشہور ہے اس کا ثبوت نہیں۔

مسئلہ ۷ عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کر بلا بیان کرنا جائز ہے جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائیں، ان واقعات میں صبر و تحمل رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے اور پابندی احکام شریعت و اتباع سنت کا زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزہ و اقربا و رفقا اور خود اپنے کو راہِ خدا میں قربان کیا اور جزع و فزع کا نام بھی نہ آنے دیا، مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی ذکر خیر ہو جانا چاہیے تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و امتیاز رہے۔

مسئلہ ۸ تعزیہ داری کہ واقعات کر بلا کے سلسلہ میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے اور ان کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں، کہیں تخت بنائے جاتے ہیں، کہیں ضریح بنتی ہے (1) اور علم اور شدے (2) نکالے جاتے ہیں، ڈھول تاشے اور قسم قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں، تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچھے ہونے میں جاہلیت کے سے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی درخت کی شاخیں کاٹی جاتیں ہیں، کہیں چبوترے کھودوائے جاتے ہیں، تعزیوں سے منٹیں مانی جاتی ہیں، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں، ہار پھول ناریل چڑھاتے ہیں، وہاں جوتے پہن کر جانے کو گناہ جانتے ہیں بلکہ اس شدت سے منع کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایسی ممانعت نہیں کرتے چھتری لگانے کو بہت برا جانتے ہیں۔

تعزیوں کے اندر دو مصنوعی قبریں بناتے ہیں، ایک پر سبز غلاف اور دوسری پر سرخ غلاف ڈالتے ہیں، سبز غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور سرخ غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یا شبیہ قبر بتاتے ہیں اور وہاں شربت مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلواتے ہیں۔ یہ تصور کر کے کہ حضرت امام عالی مقام کے روضہ اور مواجہہ اقدس میں فاتحہ دلار ہے ہیں پھر یہ تعزیے دسویں تاریخ کو مصنوعی کر بلا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں گویا یہ جنازہ تھا جسے دفن کر آئے پھر تیجہ دسواں چالیسواں سب کچھ کیا جاتا ہے اور ہر ایک خرافات پر مشتمل ہوتا ہے۔

حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہدی نکالتے ہیں گویا ان کی شادی ہو رہی ہے اور منہدی رچائی جائے گی اور اسی تعزیہ داری کے سلسلہ میں کوئی پیک (3) بنتا ہے جس کے کمر سے گھنگر و بندھے ہوتے ہیں گویا یہ حضرت امام عالی مقام کا قاصد اور ہر کارہ ہے جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد یا یزید کے پاس جائے گا اور وہ ہر کاروں کی طرح بھاگا پھرتا ہے۔

کسی بچہ کو فقیر بنایا جاتا ہے اس کے گلے میں جھولی ڈالتے اور گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں، کوئی سقہ (4) بنایا جاتا

①..... یعنی ایک قسم کا تعزیہ جو گند نما ہوتا ہے۔

②..... یعنی جھنڈے یا نشان جو محرم میں شہدائے کر بلا کی یاد میں تعزیوں کے ساتھ۔

③..... یعنی قاصد، پیغام رساں۔

④..... یعنی پانی بھر کر لانے والا۔

ہے، چھوٹی سی مشک اس کے کندھے سے لٹکتی ہے گویا یہ دریائے فرات سے پانی بھر کر لائے گا، کسی علم پر مشک لٹکتی ہے اور اس میں تیر لگا ہوتا ہے، گویا یہ حضرت عباس علم دار ہیں کہ فرات سے پانی لار ہے ہیں اور یزید یوں نے مشک کو تیر سے چھید دیا ہے، اسی قسم کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں یہ سب لغو و خرافات ہیں ان سے ہرگز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں یہ تم خود غور کرو کہ انھوں نے احیائے دین و سنت کے لیے یہ زبردست قربانیاں کیں اور تم نے معاذ اللہ اس کو بدعات کا ذریعہ بنا لیا۔

بعض جگہ اسی تعزیہ داری کے سلسلہ میں براق بنایا جاتا ہے جو عجب قسم کا مجسمہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانور کا سا۔ شاید یہ حضرت امام عالی مقام کی سواری کے لیے ایک جانور ہوگا۔ کہیں دلدل بنتا ہے، کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں، بعض جگہ آدمی ریچھ، بندر، لنگور⁽¹⁾ بنتے ہیں اور کودتے پھرتے ہیں جن کو اسلام تو اسلام انسانی تہذیب بھی جائز نہیں رکھتی ایسی بری حرکت، اسلام ہرگز جائز نہیں رکھتا۔ افسوس کہ محبت اہل بیت کرام کا دعویٰ اور ایسی بے جا حرکتیں یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشہ بنا لیا۔

اسی سلسلے میں نوحہ و ماتم بھی ہوتا ہے اور سینہ کوبی ہوتی ہے، اتنے زور زور سے سینہ کوٹتے ہیں کہ ورم ہو جاتا ہے، سینہ سرخ ہو جاتا ہے بلکہ بعض جگہ زنجیروں اور چھریوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینے سے خون بہنے لگتا ہے۔ تعزیوں کے پاس مرثیہ⁽²⁾ پڑھا جاتا ہے اور تعزیہ جب گشت کو نکلتا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، مرثیہ میں غلط واقعات نظم کیے جاتے ہیں، اہل بیت کرام کی بے حرمتی اور بے صبری اور جزع فزع کا ذکر کیا جاتا ہے اور چونکہ اکثر مرثیہ رافضیوں ہی کے ہیں، بعض میں تبرا بھی ہوتا ہے مگر اس رو میں سنی بھی اسے بے تکلف پڑھ جاتے ہیں اور انھیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔

مسئلہ ۹ اظہارِ غم کے لیے سر کے بال بکھیرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے اور سر پر خاک ڈالتے اور بھوسا اڑاتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے، احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے پرہیز کریں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ (عزوجل) اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔

مسئلہ ۱۰ تعزیوں اور علم کے ساتھ بعض لوگ لنگر لٹاتے ہیں یعنی روٹیاں یا بسکٹ یا اور کوئی چیز اونچی جگہ سے پھینکتے ہیں یہ ناجائز ہے، کہ رزق کی سخت بے حرمتی ہوتی ہے، یہ چیزیں کبھی نالیوں میں بھی گرتی ہیں اور اکثر لوٹنے والوں کے پاؤں کے

①..... ایک قسم کا بندر جس کا منہ کالا اور دم لمبی ہوتی ہے، یہ عام بندر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔

②..... یعنی وہ نظم جس میں شہدائے کربلا کے مصائب اور شہادت کا ذکر ہو۔

نیچے بھی آتی ہیں اور بہت کچھ کچل کر ضائع ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں انسانیت کے طریق پر فقرا کو تقسیم کی جائیں تو بے حرمتی بھی نہ ہو اور جن کو دیا جائے انھیں فائدہ بھی پہنچے، مگر وہ لوگ اس طرح لٹانے ہی کو اپنی نیک نامی تصور کرتے ہیں۔

آدابِ سفر (۱) کا بیان

حدیث ۱ صحیح بخاری میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو پنجشنبہ کے روز (۲) روانہ ہوئے اور پنجشنبہ کے دن روانہ ہونا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو پسند تھا۔ (۳)

حدیث ۲ ترمذی و ابوداؤد نے صَخْرُوبِن وَ دَاعِه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ! تُوْمِرِيْ اُمَّتَ كَ لِيْ صَبْحٍ مِّمَّ بَرَكَةٍ دَعَاؤُكَ وَ اَبُو دَاوُدُ رَوَى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (جب سر یہ یا شکر بھیجتے تو صبح کے وقت میں بھیجتے اور صَخْرُوبِن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا مال صبح کو بھیجتے، یہ صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو گیا۔) (۴)

حدیث ۳ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تہائی کی خرابیوں کو جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر دوسرے لوگ جانتے تو کوئی سو ررات میں تنہا نہ جاتا۔“ (۵)

حدیث ۴ امام مالک و ترمذی و ابوداؤد بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک سوار شیطان ہے اور دو سوار دو شیطان ہیں اور تین جماعت ہے۔“ (۶)

حدیث ۵ ابوداؤد نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب سفر میں تین شخص ہوں تو ایک کو امیر یعنی اپنا سردار بنا لیں۔“ (۷)

حدیث ۶ بیہقی نے سَهْلُ بْنُ سَعْدِ بْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سفر میں قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے، جو شخص خدمت میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا کسی عمل سے دوسرے لوگ اس پر سبقت نہیں لے جاسکتے۔“ (۸)

- ① سفر کے متعلق بہت سی باتیں حصہ ششم میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں سے معلوم کریں۔ ۱۲ امنہ ②..... یعنی جمعرات کے دن۔
- ③ ”صحیح البخاری“، کتاب الجہاد، باب من اراد غزوة... إلخ، الحدیث: ۲۹۵۰، ج ۲، ص ۲۹۶۔
- ④ ”سنن ابی داؤد“، کتاب الجہاد، باب فی الابتکار فی السفر، الحدیث: ۲۶۰۶، ج ۳، ص ۵۱۔
- ⑤ ”صحیح البخاری“، کتاب الجہاد، باب السیر و حده، الحدیث: ۲۹۹۸، ج ۲، ص ۳۰۹۔
- ⑥ ”سنن الترمذی“، کتاب الجہاد، باب ماجاء فی کراہیة أن یسافر الرجل و حده، الحدیث: ۱۶۸۰، ج ۳، ص ۲۵۶۔
- ⑦ ”سنن ابی داؤد“، کتاب الجہاد، باب فی القوم یسافرون یومرون أحدہم، الحدیث: ۲۶۰۸، ج ۳، ص ۵۱۔
- ⑧ ”شعب الایمان“، باب فی حسن الخلق، فصل فی ترک الغضب، الحدیث: ۸۴۰۷، ج ۶، ص ۳۳۴۔

حدیث ۷ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سونا اور کھانا پینا سب کو روک دیتا ہے، لہذا جب کام پورا کر لے جلدی گھر کو واپس ہو۔“ (1)

حدیث ۸ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب رات میں منزل پر اترو تو راستہ سے بچ کر ٹھہرو، کہ وہ جانوروں کا راستہ ہے اور زہریلے جانوروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔“ (2)

حدیث ۹ ابوداؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جانوروں کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ یعنی جب سواری رکی ہوئی ہو تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ (عزوجل) نے ساریوں کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعہ سے ایسے شہروں کو پہنچو، جہاں بغیر مشقت نفس نہیں پہنچ سکتے تھے اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر اپنی حاجتیں پوری کرو یعنی باتیں کرنی ہوں تو زمین پر اتر کر کرو۔“ (3)

حدیث ۱۰ ابوداؤد نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ لوگ جب منزل میں اترتے تو متفرق ٹھہرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا متفرق ہو کر ٹھہرنا شیطان کی جانب سے ہے۔“ اس کے بعد صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) جب کسی منزل میں اترتے تو مل کر ٹھہرتے۔ (4)

حدیث ۱۱ ابوداؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رات میں چلنے کو لازم کر لو (یعنی فقط دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے کچھ حصہ میں بھی چلا کرو) کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔“ (5) یعنی رات میں چلنے سے راستہ جلد طے ہوتا ہے۔

حدیث ۱۲ ابوداؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب ہم منزل میں اترتے تو جب تک کجاوے کھول نہ لیتے نماز نہیں پڑھتے۔ (6)

①..... ”صحیح مسلم“، کتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب... إلخ، الحدیث: ۱۷۹- (۱۹۲۷)، ص ۱۰۶۳.

②..... المرجع السابق، باب مراعاة مصلحة الدواب... إلخ، الحدیث: ۱۷۸- (۱۹۲۶)، ص ۱۰۶۳.

③..... ”سنن أبي داود“، کتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابة، الحدیث: ۲۵۶۷، ج ۳، ص ۳۸.

④..... المرجع السابق، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، الحدیث: ۲۶۲۸، ج ۳، ص ۵۸.

⑤..... المرجع السابق، باب في الدلحة، الحدیث: ۲۵۷۱، ج ۳، ص ۴۰.

⑥..... المرجع السابق، باب في نزول المنازل، الحدیث: ۲۵۵۱، ج ۳، ص ۳۳.

حدیث ۱۳ — ترمذی و ابو داؤد نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شخص گدھے پر سوار آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سوار ہو جائیے اور خود پیچھے سرکا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یوں نہیں، جانور کی صدر جگہ بیٹھنے میں تمہارا حق ہے مگر جبکہ یہ حق تم مجھے دیدو۔“ انھوں نے کہا میں نے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کو دیا۔ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) سوار ہو گئے۔ (1)

حدیث ۱۴ — ابن عساکر نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ لائے، اگر چہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔“ (2)

حدیث ۱۵ — صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل کے پاس سفر سے رات میں نہیں تشریف لاتے، حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) صبح کو آتے یا شام کو۔ (3)

حدیث ۱۶ — صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی کے غائب ہونے کا زمانہ طویل ہو یعنی بہت دنوں کے بعد مکان پر آئے تو زوجہ کے پاس رات میں نہ آئے۔“ (4) دوسری روایت میں ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے ان سے فرمایا: ”اگر رات میں مدینہ میں داخل ہوئے تو بی بی کے پاس نہ جانا، جب تک وہ بناؤ سنگار کر کے آراستہ نہ ہو جائے۔“ (5)

حدیث ۱۷ — صحیح بخاری و مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے۔ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے پھر لوگوں کے لیے مسجد ہی میں بیٹھ جاتے۔ (6)

حدیث ۱۸ — صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ

①..... ”سنن أبي داود“، كتاب الجهاد، باب رب الدابة أحق بصدرها، الحديث: ۲۵۷۲، ج ۳، ص ۴۰.

②..... ”كنز العمال“، كتاب السفر، رقم: ۱۷۵۰۲، ج ۶، ص ۳۰۱.

③..... ”صحيح مسلم“، كتاب الإمارة، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا... إلخ، الحديث: ۱۸۰- (۱۹۲۸)، ص ۱۰۶۴.

و ”صحيح البخاري“، كتاب العمرة، باب الدخول بالعشي، الحديث: ۱۸۰۰، ج ۱، ص ۵۹۴.

④..... ”صحيح البخاري“، كتاب النكاح، باب لا يطرق أهله ليلا... إلخ، الحديث: ۵۲۴۴، ج ۳، ص ۴۷۵.

⑤..... المرجع السابق، باب طلب الولد، الحديث: ۵۲۴۶، ج ۳، ص ۴۷۶.

⑥..... ”صحيح مسلم“، كتاب صلاة المسافرين، باب إستحباب ركعتين في المسجد... إلخ، الحديث: ۷۴- (۷۱۶)، ص ۳۶۱.

و ”سنن الدارمي“، كتاب الصلاة، باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفره الحديث: ۱۵۲۰، ج ۱، ص ۴۲۸.

سفر میں تھا، جب ہم مدینہ میں آگئے تو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھ سے فرمایا: ”مسجد میں جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھو۔“ (1)

مسائل فقہیہ

عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے تین دن یا زیادہ کا سفر کرنا جائز ہے اور تین دن سے کم کا سفر اگر کسی مرد صالح یا بچہ کے ساتھ کرے تو جائز ہے۔ (2) باندی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱ جہاد کے سوا کسی کام کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے مثلاً تجارت یا حج یا عمرہ کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرے، اگر والدین اس سفر کو منع کریں اور اس کو اندیشہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ان کی کوئی خبر گیری نہ کرے گا اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ والدین کو بھی دے اور سفر کے مصارف (4) بھی پورے کرے، ایسی صورت میں بغیر اجازت والدین سفر کو نہ جائے اور اگر والدین محتاج نہ ہوں، ان کا نفقہ (5) اولاد کے ذمہ نہ ہو مگر وہ سفر خطرناک ہے ہلاکت کا اندیشہ ہے، جب بھی بغیر اجازت سفر نہ کرے اور ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو تو بغیر اجازت سفر کر سکتا ہے۔ (6) (عالمگیری)

مسئلہ ۲ بغیر اجازت والدین علم دین پڑھنے کے لیے سفر کیا اس میں حرج نہیں اور اس کو والدین کی نافرمانی نہیں کہا جائے گا۔ (7) (عالمگیری)

متفرقات

مسئلہ ۱ یادداشت کے لیے یعنی اس غرض سے کہ بات یاد رہے بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں یا کسی جگہ اونگلی وغیرہ پر ڈورا باندھ لیتے ہیں یہ جائز ہے اور بلا وجہ ڈورا باندھ لینا مکروہ ہے۔ (8) (درمختار، ردالمحتار)

1..... ”صحیح البخاری“، کتاب الجہاد، باب الصلاة إذا قدم من سفر، الحدیث: ۳۰۸۷، ج ۲، ص ۳۳۶.

2..... یہ ظاہر الروایۃ ہے۔ مگر علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: ”امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ سے عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے ایک دن کا سفر کرنے کی کراہیت بھی مروی ہے۔ فتنہ و فساد کے زمانے کی وجہ سے اسی قول (ایک دن) پر فتویٰ دینا چاہیے۔“ (انظر: ”ردالمحتار“، کتاب الحج، ج ۳، ص ۵۳۳) ”بہار شریعت“ جلد اول، حصہ 4، نماز مسافر کا بیان، صفحہ 752 پر ہے کہ ”عورت کو بغیر محرم کے تین دن یا زیادہ کی راہ جانا، ناجائز ہے بلکہ ایک دن کی راہ جانا بھی۔“ اور اسی حصہ 4 پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی یہ تصدیق بھی ہے کہ اسے مسائل صحیحہ، رجیحہ، محققہ، مستحقہ پر مشتمل پایا۔ لہذا مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنا چاہئے۔

3..... ”الدر المختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۴۲.

4..... یعنی سفر کے اخراجات۔ 5..... یعنی روٹی، کپڑے وغیرہ کا خرچ۔

6..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب السادس والعشرون، ج ۵، ص ۳۶۵.

7..... المرجع السابق، ص ۳۶۶.

8..... ”الدر المختار“ و ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۵۹۹.

مسئلہ ۲ - گلے میں تعویذ لگانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہو یعنی آیات قرآنیہ یا اسمائے الہیہ اور ادعیہ سے تعویذ کیا گیا ہو اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث و ادعیہ^(۱) رکابی میں لکھ کر مریض کو بہ نیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنسب^(۲) و حائض^(۳) و نفسا^(۴) بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ تعویذات غلاف میں ہوں۔^(۵) (ردالمحتار، ردالمحتار)

مسئلہ ۳ - بچھونے یا مصلے پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑھی گئی ہو یا روشنائی سے لکھی ہو اگرچہ حروف مفردہ لکھے ہوں کیونکہ حروف مفردہ^(۶) کا بھی احترام ہے۔^(۷) (ردالمحتار)

اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔

مسئلہ ۴ - وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت تھی اس وجہ سے پورا نہیں کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا اور وعدہ خلاف کرنے کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا، اگرچہ وعدہ کرنے کے وقت اس نے استثناء نہ کیا ہو کہ یہاں شریعت کی جانب سے استثناء موجود ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں مثلاً وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں جگہ آؤں گا اور وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا مگر جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہ ناچ رنگ اور شراب خواری وغیرہ میں لوگ مشغول ہیں وہاں سے یہ چلا آیا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے یا اس کے انتظار کرنے کا وعدہ کیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا یہ چلا آیا، وعدہ کے خلاف نہیں ہوا۔^(۸) (مشکل الآثار امام طحاوی)

مسئلہ ۵ - بعض کاشت کار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی اس کے بعد زراعت پر پڑے گی اور اس صورت میں زراعت کو نظر نہیں لگے گی ایسا کرنا ناجائز نہیں کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث میں ہے

① یعنی دعائیں۔ ② یعنی جس پر جماع یا احتلام یا فہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو۔

③ یعنی حیض والی۔ ④ یعنی نفاس والی۔

⑤ ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۰۰۔

⑥ یعنی جدا جدا لکھے ہوئے حروف۔

⑦ ”ردالمحتار“، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس، ج ۹، ص ۶۰۰۔

⑧ ”مشکل الآثار“، ج ۲، ص ۶۔

کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے یہ کہے:

تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ. (1)

یا اردو میں یہ کہدے کہ اللہ (عزوجل) برکت کرے اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ (ردالمحتار)

مسئلہ ۶ - مشرکین کے برتنوں میں بغیر دھوئے کھانا پینا مکروہ ہے، یہ اس وقت ہے کہ برتن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو اور

معلوم ہو تو اس میں کھانا پینا حرام ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ ۷ - عجیب و غریب قصے کہانی تفریح کے طور پر سننا جائز ہے، جبکہ ان کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو بلکہ جو یقیناً جھوٹ

ہوں ان کو بھی سنا جاسکتا ہے، جبکہ بطور ضرب مثل ہوں یا ان سے نصیحت مقصود ہو جیسا کہ مثنوی شریف وغیرہ میں بہت سے فرضی

قصے و عطف و پند کے لیے درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جانوروں اور کنکر پتھر وغیرہ کی باتیں فرضی طور پر بیان کرنا یا سننا بھی جائز ہے

مثلاً گلستان میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا۔

گلے خوشبوئے در حمام روزے انج۔ (3) (درمختار وغیرہ)

مسئلہ ۸ - تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے ہمارے آقا و مولے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی زبان

ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اہل جنت کی جنت میں عربی ہی زبان ہوگی، جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے

اسے ثواب ملے گا۔ (4) (درمختار) یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا ورنہ ایک مسلم کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ عربی

زبان کا جاننا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے، قرآن و حدیث اور دین کے تمام اصول و فروع اسی زبان میں ہیں اس زبان

سے ناواقفی کتنی کمی اور نقصان کی چیز ہے۔

مسئلہ ۹ - عورت رخصت ہو کر آئی اور عورتوں نے کہہ دیا، کہ یہ تمہاری عورت ہے اُس سے وطی جائز ہے، اگرچہ یہ خود

اُسے پہچانتا نہ ہو۔ (5) (درمختار) اسی طرح عورتوں نے شب زفاف میں اُس کے کمرہ میں جس عورت کو دلہن بنا کر بھیج دیا اگرچہ

یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری عورت ہے اوس سے وطی جائز ہے، کہ اس کو ہیأت مخصوصہ کے ساتھ یہاں پہنچانا ہی اس کی دلیل ہے،

کیونکہ دوسری عورت کو اس طرح ہرگز نہیں بھیجا جاتا۔

1..... "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ج ۹، ص ۶۰۱.

2..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع عشر في اهل الذمة والاحکام، ج ۵، ص ۳۴۷.

3..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۶۷، وغیرہ.

4..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۹۱.

5..... المرجع السابق، ص ۶۹۴.

مسئلہ ۱۰ جس کے ذمہ اپنا حق ہو اور وہ نہ دیتا ہو تو اگر اس کی ایسی چیز مل جائے جو اسی جنس کی ہے جس جنس کا حق ہے تو لے سکتا ہے۔^(۱) اس معاملہ میں روپیہ اور اشرفی ایک جنس کی چیزیں ہیں، یعنی اس کے ذمہ روپیہ تھا اور اشرفی مل گئی تو بقدر اپنے حق کے لے سکتا ہے۔^(۲) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۱ لوگوں کے ساتھ مدارات سے پیش آنا، نزم باتیں کرنا، کشادہ روئی سے کلام کرنا مستحب ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ مدائنت نہ پیدا ہو۔ بد مذہب سے گفتگو کرے تو اس طرح نہ کرے کہ وہ سمجھے میرے مذہب کو اچھا سمجھنے لگا برا نہیں جانتا ہے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲ مکان کرایہ پر دیا اور کرایہ دار اس میں رہنے لگا اگر مکان دیکھنے کو جانا چاہتا ہے، کہ دیکھیں کس حالت میں ہے اور مرمت کی ضرورت ہو تو مرمت کرا دی جائے تو کرایہ دار سے اجازت لے کر اندر جائے، یہ خیال نہ کرے کہ مکان میرا ہے مجھے اجازت کی کیا ضرورت، کہ مکان اگر چہ اس کا ہے مگر سکونت^(۴) دوسرے کی ہے اور اجازت لینے کا حکم اسی سکونت کی وجہ سے ہے۔^(۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳ حمام میں جائے تو تہبند باندھ کر نہائے لوگوں کے سامنے برہنہ ہونا ناجائز ہے۔ تنہائی میں جہاں کسی کی نظر پڑنے کا احتمال نہ ہو برہنہ ہو کر بھی غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح تالاب یا دریا میں جبکہ ناف سے اونچا پانی ہو برہنہ نہا سکتا ہے۔^(۶) (عالمگیری)

مگر جبکہ پانی صاف ہو اور دوسرا کوئی شخص نزدیک ہو کہ اس کی نظر مواضع ستر پر پڑے گی، تو ایسے موقع پر پانی میں بھی برہنہ ہونا، جائز نہیں۔

مسئلہ ۱۴ اہل محلہ نے امام مسجد کے لیے کچھ چندہ جمع کر کے دے دیا یا اسے کھانے پہننے کے لیے سامان کر دیا، یہ ان لوگوں کے نزدیک بھی جائز ہے جو اجرت پر امامت کو ناجائز فرماتے ہیں، کہ یہ اجرت نہیں بلکہ احسان ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا ہی چاہیے۔^(۷) (درمختار، ردالمحتار)

۱..... اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ میں علامہ شامی اور طحاوی رحمۃ اللہ علیہما کے حوالے سے امام انصہب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ: "خلاف جنس سے وصول کرنے کا عدم جواز مشائخ کے زمانے میں تھا کیوں کہ وہ لوگ باہم متفق تھے آج کل فتویٰ اس پر ہے کہ جب اپنے حق کی وصولی پر قادر ہو چاہے کسی بھی مال سے ہو تو وصول کرنا جائز ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱، ص ۵۶۲)۔..... علیہ

۲..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۷.

۳..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۹.

۴..... یعنی رہائش۔

۵..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۹.

۶..... المرجع السابق، الباب الرابع والعشرون فی دخول الحمام، ج ۵، ص ۳۶۳.

۷..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۹.

مسئلہ ۱۵ جو شخص مقتدی (۱) اور مذہبی پیشوا ہو اس کے لیے اہل باطل اور برے لوگوں سے میل جول رکھنا منع ہے

اور اگر اس وجہ سے مدارات کرتا ہے کہ ایسا نہ کرنے میں وہ ظلم کرے گا، تو مضایقہ نہیں جبکہ یہ غیر معروف شخص ہو۔ (۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۶ کسی نے کھلنا کتا (۳) پال رکھا ہے جو راہ گیروں کو کاٹ کھاتا ہے، تو بستی والے ایسے کتے کو قتل کر ڈالیں۔

بلی اگر ایذا (۴) پہنچاتی ہے تو اسے تیز چھری سے ذبح کر ڈالیں، اسے ایذا دے کر نہ ماریں۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۷ ٹڈی حلال جانور ہے اسے کھانے کے لیے مار سکتے ہیں اور ضرر سے بچنے کے لیے بھی اسے مار سکتے

ہیں۔ چیونٹی نے ایذا پہنچائی اور مار ڈالی تو حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے، جوں کو مار سکتے ہیں اگرچہ اس نے کاٹنا نہ ہو اور آگ میں

ڈالنا مکروہ ہے، جوں کو بدن یا کپڑوں سے نکال کر زندہ پھینک دینا طریق ادب کے خلاف ہے۔ (۶) (عالمگیری) کھنٹل کو مارنا

جائز ہے کہ یہ تکلیف دہ جانور ہے۔

مسئلہ ۱۸ جس کے پاس مال کی قلت ہے اور اولاد کی کثرت اسے وصیت نہ کرنا ہی افضل ہے اور اگر ورثہ اغنیا (۷)

ہوں یا مال کی دو تہائیاں بھی ان کے لیے بہت ہوں گی، تو تہائی کی وصیت کر جانا بہتر ہے۔ (۸) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۱۹ مرد کو اجنبیہ عورت کا جھوٹا اور عورت کو اجنبی مرد کا جھوٹا مکروہ ہے، زوجہ و محارم کے جھوٹے میں حرج

نہیں۔ (۹) (درمختار، ردالمحتار) کراہت اس صورت میں ہے جب کہ تلذذ (۱۰) کے طور پر ہو اور اگر تلذذ مقصود نہ ہو بلکہ تبرک کے

طور پر ہو جیسا کہ عالم باعمل اور باشرع پیر کا جھوٹا کہ اسے تبرک سمجھ کر لوگ کھاتے پیتے ہیں اس میں حرج نہیں۔

مسئلہ ۲۰ بی بی نماز نہ پڑھے تو شوہر اس کو مار سکتا ہے، اسی طرح ترک زینت پر بھی مار سکتا ہے اور گھر سے باہر نکل

جانے پر بھی مار سکتا ہے۔ (۱۱) (درمختار، ردالمحتار)

۱..... یعنی جس کی بیروی کی جائے۔

۲..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع عشر فی اہل الذمۃ، ج ۵، ص ۳۴۶۔

۳..... یعنی کاٹ کھانے والا کتا۔ ۴..... یعنی تکلیف۔

۵..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الحادی والعشرون فیما یسع من جراحات بنی آدم، ج ۵، ص ۳۶۰ - ۳۶۱۔

۶..... المرجع السابق، ص ۳۶۱۔

۷..... یعنی مالدار۔

۸..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۱۔

۹..... المرجع السابق، ص ۷۰۳۔

۱۰..... یعنی لذت۔

۱۱..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۴۔

مسئلہ ۲۱ - بی بی بے ہودہ بلکہ فاجرہ ہو تو شوہر پر یہ واجب نہیں کہ اسے طلاق ہی دے ڈالے۔ یوہیں اگر مرد فاجر ہو تو عورت پر یہ واجب نہیں کہ اس سے پیچھا چھڑائے، ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے، حکم شرع کی پابندی نہ کریں گے تو جدائی میں حرج نہیں۔^(۱) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲ - حاجت کے موقع پر قرض لینے میں حرج نہیں، جبکہ ادا کرنے کا ارادہ ہو اور اگر یہ ارادہ ہو کہ ادا نہ کرے گا تو حرام کھاتا ہے اور اگر بغیر ادا کیے مر گیا مگر نیت یہ تھی کہ ادا کر دے گا، تو امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذہ نہ ہو۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۳ - جس کا حق اس کے ذمہ تھا وہ غائب ہو گیا پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے نہ یہ معلوم کہ زندہ ہے یا مر گیا تو اس پر یہ واجب نہیں کہ شہروں شہروں اُسے تلاش کرتا پھرے۔^(۳) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۴ - جس کا دین تھا وہ مر گیا اور مدیون^(۴) دین سے انکار کرتا ہے ورثہ اس سے وصول نہ کر سکے، تو اس کا ثواب دائن^(۵) کو ملے گا اس کے ورثہ کو نہیں اور اگر مدیون نے اس کے ورثہ کو دین ادا کر دیا تو بری ہو گیا۔^(۶) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۵ - جس کے ذمہ دین تھا وہ مر گیا اور وارث کو معلوم نہ تھا کہ اس کے ذمہ دین ہے تاکہ ترکہ سے ادا کرے، اس نے ترکہ کو خرچ کر ڈالا تو وارث سے دین کا مواخذہ نہیں ہوگا اور اگر وارث کو معلوم ہے کہ میت کے ذمہ دین ہے تو اس پر ادا کرنا واجب ہے اور اگر وارث کو معلوم تھا مگر بھول گیا، اس وجہ سے ادا نہ کیا، جب بھی آخرت میں مواخذہ نہیں۔ ودیعت کا بھی یہی حکم ہے کہ بھول گیا اور جس کی چیز تھی اسے نہیں دی تو مواخذہ نہیں۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۶ - مدیون اور دائن جارہے تھے راستہ میں ڈاکوؤں نے گھیرا، مدیون یہ چاہتا ہے کہ اسی وقت میں دین ادا کر دوں تاکہ ڈاکو اس کا مال چھینیں اور میں بچ جاؤں، آیا اس حالت میں دائن لینے سے انکار کر سکتا ہے یا اس کو لینا ہی ہوگا؟ فقیہ ابواللیث رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دائن لینے سے انکار کر سکتا ہے۔^(۸) (عالمگیری)

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۷۰۴.

② "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع والعشرون فی القرض والدین، ج ۵، ص ۳۶۶.

③ المرجع السابق.

④ یعنی دین لینے والا۔ قرض دار۔

⑤ یعنی دین دینے والا۔ قرض دینے والا۔

⑥ "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع والعشرون فی القرض والدین، ج ۵، ص ۳۶۶ - ۳۶۷.

⑦ المرجع السابق، ص ۳۶۷.

⑧ المرجع السابق، ص ۳۶۷.

مسئلہ ۲۷ کسی نے کہا فلاں شخص کی کچھ چیزیں میں نے کھالی ہیں، اسے پانچ روپے دے دینا وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو دینا وارث نہ ہو تو خیرات کر دینا، اس شخص کی صرف بی بی ہے کوئی دوسرا وارث نہیں ہے اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میرا ذین مہر اس کے ذمہ ہے جب تو روپے اسی کو دیے جائیں، ورنہ صرف اسے چہارم دیا جائے یعنی سواروپہ جبکہ عورت یہ کہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔^(۱) (عالمگیری)

مسئلہ ۲۸ اگر جان مال آبرو^(۲) کا اندیشہ^(۳) ہے ان کے بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے یا کسی کے ذمہ اپنا حق ہے جو بغیر رشوت دیے وصول نہیں ہوگا اور یہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میرا حق وصول ہو جائے یہ دینا جائز ہے یعنی دینے والا گنہگار نہیں مگر لینے والا ضرور گنہگار ہے اس کو لینا جائز نہیں۔

اسی طرح جن لوگوں سے زبان درازی کا اندیشہ ہو جیسے بعض لپے شہدے^(۴) ایسے ہوتے ہیں کہ سربازار کسی کو گالی دے دینا یا بے آبرو کر دینا^(۵) ان کے نزدیک معمولی بات ہے، ایسوں کو اس لیے کچھ دے دینا تاکہ ایسی حرکتیں نہ کریں یا بعض شعرا ایسے ہوتے ہیں کہ انھیں اگر نہ دیا جائے، تو مذمت میں قصیدے کہہ ڈالتے ہیں ان کو اپنی آبرو بچانے اور زبان بندی کے لیے کچھ دے دینا جائز ہے۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلہ ۲۹ بھیڑ بکریوں کے چرواہے کو اس لیے کچھ دے دینا کہ وہ جانوروں کو رات میں اس کے کھیت میں رکھے گا کیونکہ اس سے کھیت درست ہو جاتا ہے، یہ ناجائز و رشوت ہے اگر چہ یہ جانور خود چرواہے کے ہوں اور اگر کچھ دینا نہیں ٹھہرا ہے جب بھی ناجائز ہے کیونکہ اس موقع پر عرفا دیا ہی کرتے ہیں، تو اگر چہ دینا شرط نہیں مگر مشروط ہی کے حکم میں ہے۔

اس کے جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مالک سے ان جانوروں کو عاریت لے لے اور مالک چرواہے سے یہ کہدے کہ تو اس کے کھیت میں جانوروں کو رات میں ٹھہرانا۔ اب اگر چرواہے کو احسان کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے ناجائز نہیں اور اگر مالک کے کہنے کے بعد بھی چرواہا مانگتا ہے اور جب تک اسے کچھ نہ دیا جائے ٹھہرانے پر راضی نہ ہو، تو یہ پھر ناجائز و رشوت ہے۔^(۷) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۰ باپ کو اس کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے، کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح عورت کو یہ مکروہ ہے، کہ

①..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع والعشرون فی القرض والدین، ج ۵، ص ۳۶۸.

②..... عزت۔ ③..... خوف، ڈر۔ ④..... یعنی شری، بد معاش۔ ⑤..... بے عزت کر دینا۔

⑥..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الحظر والإباحۃ، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۹.

⑦..... "الفتاویٰ الہندیۃ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۶.

شوہر کو نام لے کر پکارے۔⁽¹⁾ (درمختار) بعض جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے شاید اسے اس لیے گڑھا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہو جائے گی شوہر کا نام نہ لے گی۔

مسئلہ ۳۱ → مرنے کی آرزو کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروہ ہے، جبکہ کسی دنیوی تکلیف کی وجہ سے ہو، مثلاً تنگی سے بسر اوقات ہوتی ہے یا دشمن کا اندیشہ ہے مال جانے کا خوف ہے اور اگر یہ باتیں نہ ہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں معصیت میں مبتلا ہیں اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا تو آرزوئے موت مکروہ نہیں۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۲ → زلزلہ کے وقت مکان سے نکل کر باہر آ جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دیوار جھکی ہوئی ہے گرنا چاہتی ہے، اس کے پاس سے بھاگنا جائز ہے۔⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳ → طاعون جہاں ہو وہاں سے بھاگنا جائز نہیں اور دوسری جگہ سے وہاں جانا بھی نہ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کمزور اعتقاد کے ہوں اور ایسی جگہ گئے اور مبتلا ہو گئے، ان کے دل میں بات آئی کہ یہاں آنے سے ایسا ہوانہ آتے تو کاہے کو اس بلا میں پڑتے اور بھاگنے میں بچ گیا، تو یہ خیال کیا کہ وہاں ہوتا تو نہ بچتا بھاگنے کی وجہ سے بچا ایسی صورت میں بھاگنا اور جاننا دونوں ممنوع۔

طاعون کے زمانہ میں عوام سے اکثر اسی قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں اور اگر اس کا عقیدہ پکا ہے جانتا ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ وہاں جانے سے کچھ ہوتا ہے نہ بھاگنے میں فائدہ پہنچتا ہے تو ایسے کو وہاں جانا بھی جائز ہے، نکلنے میں بھی حرج نہیں کہ اس کو بھاگنا نہیں کہا جائے گا اور حدیث میں مطلقاً نکلنے کی ممانعت نہیں بلکہ بھاگنے کی ممانعت ہے۔

مسئلہ ۳۴ → کافر کے لیے مغفرت کی دعا ہرگز ہرگز نہ کرے، ہدایت کی دعا کر سکتا ہے۔⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۵ → ایک شخص مرا جس کا کافر ہونا معلوم تھا، مگر اب ایک مسلمان اس کے مسلمان ہونے کی شہادت دیتا ہے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اور مسلمان مرا اور ایک شخص اس کے مرتد ہونے کی شہادت دیتا ہے، تو محض اس کے کہنے سے اسے مرتد نہیں قرار دیا جائے گا اور جنازہ کی نماز ترک نہیں کی جائے گی۔⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۶ → مکان میں پرند نے گھونسل لگایا اور بچے بھی کیے، بچھونے اور کپڑوں پر بیٹ گرتی ہے، ایسی حالت میں

①..... "الدرالمختار"، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع، ج ۹، ص ۶۹۰.

②..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۹.

③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع عشر فی أهل الذمة، ج ۵، ص ۳۴۸.

⑤..... المرجع السابق.

گھونسلابگاڑنا اور پرند کو بھگا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے کہ بچے بڑے ہو کر اڑ جائیں۔⁽¹⁾ (عالمگیری)
مسئلہ ۳۷ → جماع کرتے وقت کلام کرنا مکروہ ہے اور طلوع فجر سے نماز فجر تک بلکہ طلوع آفتاب تک خیر کے سوا
 دوسری بات نہ کرے۔⁽²⁾ (عالمگیری)

مسئلہ ۳۸ → ماہ صفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم
 کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی
 جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔

حدیث میں فرمایا کہ ”صفر کوئی چیز نہیں۔“⁽³⁾ یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذیقعدہ کے مہینہ کو
 بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور ہر ماہ میں ۳، ۱۳، ۲۳، ۸، ۱۸، ۲۸ کو منحوس جانتے ہیں
 یہ بھی لغوبات ہے۔

مسئلہ ۳۹ → قمر در عقرب یعنی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس
 بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں۔ ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے، یہ
 باتیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔

مسئلہ ۴۰ → نجوم کی اس قسم کی باتیں جن میں ستاروں کی تاثیرات بتائی جاتی ہیں، کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں
 بات ہوگی، یہ بھی خلاف شرع ہے۔ اس طرح پختروں کا حساب کہ فلاں پختر سے بارش ہوگی یہ بھی غلط ہے، حدیث میں اس پر
 سختی سے انکار فرمایا۔⁽⁴⁾

مسئلہ ۴۱ → ماہ صفر کا آخر چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و
 شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں
 میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، وہ باتیں خلاف واقع ہیں۔

اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب بے ثبوت ہیں،

①..... ”الفتاویٰ الہندیہ“، کتاب الکراہیۃ، الباب الثلاثون فی المتفرقات، ج ۵، ص ۳۸۰.

②..... المرجع السابق.

③..... ”صحیح البخاری“، کتاب الطب، باب لا ہامۃ، الحدیث: ۵۷۵۷، ج ۴، ص ۳۶.

④..... ”المعجم الأوسط“، الحدیث: ۸۱۸۲، ج ۶، ص ۱۱۱.

بلکہ حدیث کا یہ ارشاد لا صفر۔^(۱) یعنی صفر کوئی چیز نہیں۔ ایسی تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔

مسئلہ ۳۲۔ ایک شخص نے کسی کو اذیت پہنچائی اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے مگر جانتا ہے کہ ابھی اسے غصہ ہے معاف نہیں کرے گا، لہذا معافی مانگنے میں تاخیر کی اس تاخیر میں یہ معذور نہیں۔ ظالم نے مظلوم کو بار بار سلام کیا اور وہ جواب بھی دیتا رہا اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا یہاں تک کہ ظالم نے سمجھ لیا کہ اب وہ مجھ سے راضی ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے بلکہ معافی مانگنی چاہیے۔^(۲) (عالمگیری)

مسئلہ ۳۳۔ عمامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے۔ جس نے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوائی نہیں۔^(۳)

مسئلہ ۳۴۔ کپڑا پہنے تو داہنے سے شروع کرے یعنی پہلے دہنی آستین یا داہنے پانچھ میں ڈالے پھر بائیں میں۔^(۴)

مسئلہ ۳۵۔ پاجامہ کا تکیہ نہ بنائے کہ یہ ادب کے خلاف ہے اور عمامہ کا بھی تکیہ نہ بنائے۔ (اعلیٰ حضرت)

مسئلہ ۳۶۔ بیل پر سوار ہونا اور اس پر بوجھ لادنا اور گدھے سے ہل جوتنا جائز ہے یعنی یہ ضرور نہیں کہ بیل سے صرف ہل جوتنے کا کام لیا جائے اس پر بوجھ نہ لاداجائے اور گدھے پر صرف بوجھ ہی لاداجائے ہل نہ جوتاجائے۔^(۵) (درمختار)

مسئلہ ۳۷۔ جانور سے کام لینے میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ اتنا نہ لیا جائے کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس پر لاداجائے یا جتنی دور جاسکے وہیں تک لے جایا جائے یا جتنی دیر تک کام کرنے کا متحمل ہو سکے اتنا ہی لیا جائے۔ بعض یکہ تانگہ والے اتنی زیادہ سواریاں بٹھالیتے ہیں کہ گھوڑا مصیبت میں پڑ جاتا ہے یہ ناجائز ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ بلا وجہ جانور کو نہ مارے اور سر یا چہرہ پر کسی حالت میں ہرگز نہ مارے کہ یہ بالا جماع ناجائز ہے۔ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ (عزوجل) کے سوا نہیں اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے۔^(۶) (درمختار، ردالمحتار)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

①..... "صحيح البخاري"، كتاب الطب، باب لاهامة، الحديث: ۵۷۵۷، ج ۴، ص ۳۶.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الثلاثون في المتفرقات، ج ۵، ص ۳۷۵-۳۷۶.

③..... انظر: "كشف الالتباس في استحباب اللباس" للشيخ المحقق عبدالحق، ذكر شمله، ص ۳۹.

④..... انظر: "المرجع السابق"، ذكر جيب، ص ۴۳.

⑤..... "الدرالمختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۶۲.

⑥..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ۹، ص ۶۶۲.